

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہلسنت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ارشادات کا مجموعہ



مع آقا، نبی، حسین

مجموعہ بحث و مباحثہ الملقوظ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

معروف بہ

# ملفوظات اعلیٰ حضرت

کامل 4 حصے



مؤلف: شہزادہ شمس الدین علی شاہ صاحب دہلی  
محرر: محمد مصطفیٰ رضا خان

مکتبۃ المدینہ  
(دعوتِ اسلامی)  
SC 1286

مکتبۃ المدینہ  
(دعوتِ اسلامی)

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہلسنت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ارشادات کا مجموعہ

مُسَمَّیٰ بِنَامِ تَارِیخِی

الْمَلْفُوظُ (مکمل 4 حصے)

۱۳۳۸ھ

معروف بہ

ملفوظات اعلیٰ حضرت  
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  
{ مع تخریج و تسہیل }

مؤلف:

شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہلسنت مفتی اعظم ہند

حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

پیش کش

مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

نام کتاب: **الملفوظ**

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة**

سن طباعت: 12 جمادی الآخری 1430ھ، بمطابق 5 جون 2009ء

قیمت:

ناشر: **مکتبۃ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ (کراچی)**

E.mail:ilmia26@dawateislami.net

E.mail.maktaba@dawateislami.net

www.dawateislami.net

Ph:4921389-90-91 Ext:1268

**مدنی التجاء: کسی اور کو یہ (تخریج شدہ) کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔**

## اعتذار

مجلس المدینة العلمیہ نے کتاب ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ مع تخریج و تسہیل 12 جمادی الآخری 1430ھ، مطابق 5 جون 2009ء کو شائع کی تھی۔ اس ایڈیشن میں چند عبارات شامل نہیں کیں، اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس ایڈیشن محرم الحرام 1434ھ، مطابق نومبر 2012ء میں ان عبارات کو شامل کر دیا گیا ہے۔

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
64	جن و پری کا مسلمان ہونا	23	کتاب پڑھنے کی نیتیں
64	مسلمان پری کی حکایت	24	المدینۃ العلمیۃ کا تعارف
64	پیر کے وصال کے بعد کسی اور سے بیعت ہونا کیسا؟	25	پہلے سے پڑھ لیجئے
65	مرید ہونا اس سے سیکھو	27	تذکرہ امام احمد رضا
65	گائے کی قربانی	36	منقبت بر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
66	اپنے فہم پر اعتماد کے نقصانات	37	تعارف مؤلف
66	ایک عجیب و غریب مسئلہ	39	ملفوظات کی اہمیت
67	ناستحیح بچے کے سامنے جماع کیوں ممنوع ہے؟	46	المملووظ اور المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)
67	تاریخ کی ابتداء و انتہاء کے 4 طریقے	52	<b>حصہ اول</b>
67	کیا گائے کا گوشت صحت کے لئے نقصان دہ ہے؟	52	خطبہ حصہ اول
68	مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا کی برکتیں	53	مقدمۃ الکتاب
69	مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا	57	سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟
72	طاعون کا سبب	57	باطنی علم کا ادنیٰ درجہ
72	بیل کے گوشت میں گندھک کی بو	58	غیر عالم کو دعوے کا ہرنا حرام ہے
73	ٹو آگ میں ہے	58	عالم کون؟
73	بچوں کے نام کیسے ہونے چاہئیں؟	58	کیا علم صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟
74	نام ”محمد“ کے فضائل	59	مجاہدے کے لئے کتنی مدت درکار ہے؟
74	چوتھا پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟	59	دینی خدمت بھی مجاہدہ ہے
74	تعظیم و توہین کا دار و مدار عرف پر ہے	60	دنیاوی فکروں کا قلب جاری پرائز
75	ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا؟	60	سفر کون سے دن کرنا چاہئے؟
75	ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ	60	سیدنا صدیق اکبر <small>رضی اللہ عنہ</small> نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟
76	نمازوں کا اعادہ	60	قبول اسلام سے پہلے سیدنا صدیق اکبر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا مذہب
76	کتنی نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں	61	سیدنا صدیق اکبر <small>رضی اللہ عنہ</small> کے فضائل
76	نماز میں مصیبتی ٹیڑھا ہونے کا حکم	62	دھوبی اور طوائف کے ہاں کھانا کھانا کیسا؟
77	باریک کپڑوں میں عورت کی نماز کا حکم	63	ناک میں چڑھنے والے دودھ سے رضاعت کا حکم
77	کیا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کو علم غیب تھا؟	63	رکوع و سجود میں ٹھہرنے کی مقدار
82	ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟	64	کیا ہر ممکن چیز پیدا ہو چکی ہے؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
98	نکاح سے پہلے ولیمہ کرنا کیسا؟	83	گرمیوں میں ظہر کا مستحب وقت کونسا ہے؟
98	رضاعی بھتیجی سے نکاح حرام ہے	83	دو مثل سے پہلے نماز عصر پڑھنے کا حکم
98	رضاعت کا ایک مسئلہ	84	اختلافی مسائل کا حکم
99	کیا کسی کو برائیا نہیں کہنا چاہئے؟ (ایک علمی مذاکرہ)	84	زوال کے وقت جمعہ ادا کرنا کیسا؟
107	تہمت کی جگہ سے بچئے	84	ایک اشکال اور اس کا جواب
108	سستا سودا	85	پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
109	وحدت الوجود کے معنی	86	مدینے کے پانی کی کیا بات ہے
109	ہر جاہو، تو ہی تُو	86	کھانے پینے کے لئے اعتکاف کرنا کیسا؟
110	دیدار الہی عَزَّوَجَلَّ کس طرح ہوگا؟	87	ایک شعر کی وضاحت اور اس کا شرعی حکم
112	مظہر حق	90	زنی سے سمجھانے کے فوائد
112	صلح کروانے کا معاوضہ لینا ناجائز ہے	91	زنا کی اجازت مانگنے والا شخص
113	رشوت کو اپنا حق قرار دینا کفر ہے	91	قرض دبا لینا
113	سلطنتِ بخارا کا تذکرہ	92	حافظ کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟
114	وہ بزرگ کون تھے؟	92	سرکارِ مدینہ ﷺ کا نام اقدس
114	قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا؟	93	کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حبیب ﷺ کا علم برابر ہے؟
115	سنتِ قبلیہ کا قضا ہونا	94	صدقے کا جانور زنج کئے بغیر کسی کو دینا کیسا؟
115	امام کی تقلید ضروری ہے	94	کیا نانانی وغیرہ عقیدے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟
115	زیارتِ سرکارِ ﷺ کا وظیفہ	95	محرم و صفر میں نکاح کرنا کیسا؟
116	سائل کا کتب کے حوالے طلب کرنا کیسا؟	95	ربیبہ کا نکاح
116	استغاثہ کس دن پیش کیا جائے؟	95	دورانِ عدت نکاح کرنا کیسا؟
117	نماز میں قرآن کا لفظ بدل جانے کا حکم	95	دورانِ عدت نکاح پڑھانے والے کا حکم
117	نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم	96	میکے میں رہنے والی عورت کا نان نفقہ
117	ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لے جانا کیسا؟	96	دورانِ عدت نکاح کا حکم
117	مسجد کا چندہ کھا جانے والا جہنم کا مستحق ہے	96	نکاح کی وکالت لیتے وقت گواہ قائم کرنا
118	اپنی زندگی میں ہی قبر تیار کروانے کا حکم	97	ایک غلطی کی نشاندہی
118	خطبے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا؟	97	دولہا کا سہرا
118	عمامے کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت	97	ولیمہ سنت ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
131	کیا عہد رسالت میں گواہی سے زنا کا ثبوت ہوا؟	118	بجائے شکرانے میں نوافل ادا کرنے والے بزرگ
132	رجم کی حکایت	119	خلفائے راشدین کے زمانہ میں بد مذہب موجود تھے؟
132	شرعی سزا سے پاک ہونا	120	وہابیہ کی علامتیں
132	قصاص میں قتل ہونے والے کی نماز جنازہ	121	گستاخ رسول
132	بد مذہب کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا حکم	122	سرکارِ مدینہ ﷺ کی سخاوت
133	منبر چھوڑ کر خطبہ پڑھنا خلاف سنت ہے	123	نمازی کا قتل
133	نمازی کے سامنے سے گزرنے کا طریقہ	123	تعظیم رسول ﷺ
133	اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے تو نمازی کیا کرے	124	قربانی کی کھال مدارس میں دینا کیسا؟
134	نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کرنا کیسا؟	124	حلیہ شرعی کا طریقہ
134	مذہب چھوڑنے کی شرط پر مباحثہ کرنا کیسا؟	124	دوران سفر قرائن پاک کہاں رکھے؟
134	تحریری بات چیت کے فوائد	125	عصر کا مکروہ وقت کونسا ہے؟
136	ملاقات سے واپسی پر مصافحہ کا حکم	125	نماز میں قراءت کا ایک مسئلہ
136	معانقہ کرنے کا طریقہ	125	قضا نمازیں کیسے ادا کرے
136	نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا؟	126	قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ
136	اذان میں روضہ انور کی طرف منہ کرنے کا حکم	126	نیت صاف منزل آسان
137	گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق	127	رسولوں اور ملائکہ کو ایصالِ ثواب کرنا
137	کونسی عورتیں غیر محرم کے ہاں جاسکتی ہیں؟	127	سونے کی بارش
137	غیر مسلم کو مسلمان کرنے کا طریقہ	127	غربت و افلاس کی شکایت کرنے والے پر انفرادی کوشش
138	وسوسوں کا علاج	128	پریشانی دور کرنے کا وظیفہ
138	ریا کے لئے نماز و روزہ کا حکم	128	رزق میں برکت کا وظیفہ
138	تبارک شریف کا مقصد	128	اہرام مصر کس نے بنائے؟
138	سورہ مملک کی فضیلت	129	آدم ثانی کون؟
139	خواب میں کسی کو بعد وفات پیرا دیکھنا	130	حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر کتنی تھی؟
139	ایصالِ ثواب کی برکتیں	130	کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر حج فرض تھا؟
140	عذاب روح پر ہوتا ہے یا جسم پر؟	130	کعبہ کی فریاد
140	لنگڑے اور اندھے کی حکایت	130	عز و راور عز و ر میں کیا فرق ہے؟
140	ہر ایک کے ساتھ کتنی روحمیں ہوتی ہیں؟	130	زنا کا ثبوت

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
154	زامدکفن واپس دے دیا	140	قبر کھودنے پر مرنے والوں کی ہڈیاں ملیں تو.....
154	بڑا پڑوسی	141	داڑھی منڈوانا اور کتر وانا گناہِ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟
155	رب تعالیٰ کے لئے مومن کا صیغہ بولنے کا حکم	141	قنوی نویسی کیسے سیکھیں؟
155	دعا کرتے وقت ہاتھ ڈھانپ کر رکھنا کیسا؟	142	خالی پیالہ
155	دعا کی قبولیت	143	خدمتِ علم سے محروم ہونگے
156	صفِ اوّل میں نماز پڑھنے کا ثواب	143	شاگرد کی عاجزی
156	نصرانی طیب مسلمان ہو گیا	144	اہل بیت کا ادب
156	مومن کی فراست	144	اُستاز کے قدم دھلانے والا شاگرد
157	مجاہدے کا مطلب	145	علم کی عزت
157	سرکارِ ﷺ کھلاتے ہیں	145	علمائے کرام کا احترام
158	نفسانی اور شیطانی خواہش میں فرق	145	عیسائیہ کا بیٹا
158	مجھے شرم آتی ہے	146	سجدے میں قرب الہی
158	ٹھنڈا پانی	146	سجدہ شکر مسنون ہے یا مستحب؟
159	دودھ کا پیالہ	146	گستاخ رسول کا انجام
159	بیماری بھی نعمت ہے	148	مسجد میں کپڑے سینا کیسا؟
159	دعا قبول ہونے میں تاخیر کا ایک سبب	148	سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ
159	سرکارِ ﷺ ہمارے حاجت روا ہیں	148	فاتحہ کا ثواب
159	امامتِ کبریٰ کا مستحق کون؟	149	قرآن پاک کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟
160	خلافتِ راشدہ کسے کہتے ہیں؟	149	آنزب و اعشار کا آغاز کب ہوا؟
160	قیامت کب آئے گی؟	149	گانے والوں پر لعنت
163	ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا؟	150	کاکی کے معنی
164	نماز میں بلغم آجائے تو کیا کرے؟	150	جلی ہوئی روٹی اور کپڑے والا چھو بارا
164	کافر سائل پر ترس کھانا	151	خوفزدہ بادشاہ
164	محبتِ رسول ﷺ باعثِ نجات ہے	152	علمِ چھتر
165	دشمنانِ رسول سے نفرت کیجئے	153	مزارِ مرثد پر حاضری کے آداب
165	دریا کے پار اترنے والا	153	صاحبِ مزار کی تاکید
166	اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کیا	154	نیا کفن

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
176	عجم اور عرب کے معنی	167	وہابیہ کی نماز؟
176	اولیاء اللہ کا ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہونا	167	وہابیہ کی مسجد؟
177	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	167	وہابی مؤذّن کی اذان کا اعادہ
177	ہندوستان میں اسلام کب پھیلا؟	167	کیا کفار سے نرمی کرنی چاہئے؟
177	ایک شعر کا مطلب	168	سامنے سے کھانا اٹھو دیا
178	کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟	168	وہابی واعظ کا پردہ چاک ہو گیا
178	غوث کا کشف	169	اعلیٰ حضرت اور ایک نجدی کی ملاقات
178	آفراد کون ہیں؟	169	اعلیٰ حضرت اور ایک رافضی
179	حُضورِ غوثِ پاک کی شان	170	دشمن احمد پھدّت کیجئے
179	غوث کا جانشین	171	کیا سبزو کیخنے سے وضو جاتا رہتا ہے؟
180	پانی کے مسام	171	جان بوجھ کر ستر کھولنے سے نماز جاتی رہتی ہے
181	قطعة تاریخ عطیہ عظیمہ حضرت مدظلہ الاقدس	172	وحدة الوجود کسے کہتے ہیں؟
181	<b>حصہ دوم</b>	172	اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہئے؟
181	دعاؤں پر بھروسہ	173	کیا ہر کافر ملعون ہے؟
181	سمندری طوفان سے نجات مل گئی	173	اللہ و رسول کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟
182	اعلیٰ حضرت کا دوسرا سفر حج	173	پوسٹ کارڈ پر ام جلالت "اللہ" کھنا کیسا؟
182	والدہ سے اجازت کیسے لی؟	173	لفظ "شہر" کس کے ساتھ بولیں؟
183	بریلی شریف سے بمبئی تک کا سفر	173	اللہ میاں کہنا کیسا؟
184	بمبئی سے سوئے عرب روانگی	174	بجشنِ ولادت کا چراغاں
185	سمتِ قبلہ نکالنے میں مہارت	174	ایک ہزار شمعیں
185	مزار شریف کی حاضری	174	تحیۃ الوضو کی فضیلت
186	جہاز میں بیانات	175	رکوع کے بعد پانچ اوپر چڑھانے کا حکم
186	استغاثہ کی برکت	175	ایک خواب اور اس کی تعبیر
187	غیب سے مدد	175	رکوع کا طریقہ
187	المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	176	ایک نمازی کی اصلاح
188	لابریرین کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت	176	عورت کا تہاجج کو جانا کیسا؟
189	مسئلہ علم غیب پر دو گھنٹے تک دلائل دیئے	176	سرکارِ ﷺ کو خداوند عرب کہنا کیسا؟



صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
208	وحشی کبوتر بھی ادب کرتے	190	”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ کی 2 دن میں تصنیف فرمائی
209	بارش میں طواف کعبہ	191	شیخ الخطباء کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت
209	حجر اسود کے بوسے	191	جلیل القدر محمد ث کا اجازت حدیث لینا
210	غلاف کعبہ تھام کر دُعا مانگی	192	مکتہ المکرمہ میں ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ کی پذیرائی
210	سند عالی کی تلاش	192	لوہے ٹھنڈے ہو گئے
210	علم جفر میں اعلیٰ حضرت کی مہارت	193	”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ پر علمائے حرم کی تقاریظ
211	اعلیٰ حضرت نے علم جفر کیوں ترک کیا	193	تقاریظ ضائع کرنے کیلئے بد مذہبوں کی سازش
211	موت کب اور کہاں ہوگی	194	ثُرک فوجی افسر کے ہاتھوں وہابیہ کی ذلت و رسوائی
212	اعلیٰ حضرت نے علم جفر کہاں سے سیکھا	195	حسام الحرمین پر علمائے حرم کی تقریظیں
213	علم جفر کے ذریعے ملنے والے جواب کی حیثیت	195	خلیل انبٹھی کا راہ فرار اختیار کرنا
214	علم جفر سیکھنے کے لئے آنے والے عالم دین	197	علمائے حرم کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی دعوتیں
214	مدنی عالم دین کی ہند آمد	197	علمائے حرم کی تشریف آوری
215	گُر دے کا درد	198	مولانا عبدالحق الہ آبادی سے ملاقات
215	درد جاتا رہا	199	مفتی حنفیہ سے ملاقات
216	سفر مدینہ کا آغاز	200	آپ زرم سے علاج
216	ملاحوں کا اولیائے کرام کو نداء کرنا	201	علمائے حرم کا عیادت کے لئے آنا
216	شیخ کون؟	201	سفر مدینہ کی تیاری
217	رایغ میں ایک مقدمے کا فیصلہ	202	حضرت مولانا شیخ صالح کمال کا اجازتیں لینا
217	سامان سفر کا پیچھے رہ جانا	202	خطیب کی اصلاح
217	نماز فجر کی ادائیگی	204	سید جلیل کی عقیدت
218	عربی لباس میں روضہ اقدس پر حاضری	204	حضرت شیخ صالح کمال کی محبت
218	سامان سفر مل گیا	204	والد محترم کی بشارت
219	بارھویں شریف مدینے میں	206	روزہ نہ چھوڑنا
219	ہندی عالم کا خلوص	206	پڑھنے کی خواہش
219	مدنی علماء کا اجازت و اسناد لینا	206	شادی کی پیش کش
220	مدنی علماء کی تقریظیں	206	وہ بزرگ کون تھے؟
220	اہل مدینہ کا اشتیاق	207	نماز عصر کی حنفی مذہب کے مطابق ادائیگی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
236	کبھی پاؤں نہ پھیلائے	221	مدینے شریف میں معمولات
236	لکھائی والا دسترخوان	221	مدینے شریف سے رخصتی
236	اگر برتن میں آیات لکھی ہوں تو؟	221	جدہ کو سفر
236	مسجد کے اندر وضو کرنا	222	اعلیٰ حضرت کی باب المدینہ کراچی آمد
237	لجاف پر وضو کر لیا	223	احمد آباد میں تشریف آوری
237	مکہ مکرمہ میں افضل ہے یا مدینہ طیبہ	223	وہابیہ کی ذلت و رسوائی
238	ثواب میں فرق کیوں	223	اعزاز مدینہ
238	محدث سورتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ذکر خیر	224	مدینہ طیبہ میں مقیم ایک ہندی کی توبہ
238	امام بخاری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کا مبارک خواب	225	نعتیہ شاعری
238	احادیث میں خلط کس نے کیا؟	226	فضائل مصطفیٰ ﷺ
239	راویوں کا مذاق اڑانے والا	226	ایک مدنی پھول
239	جھوٹے شخص کی پشیمانی	227	نعت شریف لکھنے کی احتیاطیں
239	بد مذہبوں کی زبان درازیاں	227	نعت گو شاعروں کی خواب میں زیارت
240	حق گوئی کی ایک پہچان	228	طلب اور بیعت میں فرق
241	حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا	228	بیعت کی 4 شرائط
241	تختی کے الزام کا جواب	228	بیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے چکا ہوں
242	شعر کا علم	229	زمانہ رسالت میں تجدید بیعت
244	فلاسفہ کا رد	229	400 کفار کا تنہا مقابلہ کرنے والے
244	علم الہی	231	وَجَدَ كَا شَرَعِي حَكْم
244	کیا رُوح اور جَسْم ایک ہی چیز ہیں؟	231	تنہائی میں بھی ریا کاری ممکن ہے؟
244	عالم امر اور عالم خلق میں فرق ہے	232	تم سب ٹھیک راستے پر ہو
248	مسئلہ حُجْر لَا يَتَجَرَّوْ	233	اور زیادہ بنا کر پڑھتا
249	مقتول فلسفی	234	پنج آیت کا جواز
249	ایک ناپاک علم	234	تصور شیخ
249	ایک مغالطے کا ازالہ	235	بچوں کی بیعت
250	ایک ایمان افروز خواب	235	”تار“ کے ذریعے چاند کا ثبوت
250	ابن سینا کی توبہ کی روایت	236	قُطْب (ستارے) کی طرف پاؤں کرنا کیسا؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
269	نازک لمحات	251	واسطہ کی حاجت
269	مردے سُنتے ہیں	251	اہلِ فترت کا ایک مبلغ
270	مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو	251	شفاعتِ مصطفیٰ
270	گلاب کے پھول یا.....	254	ایک افترا
270	عذابِ قبر اٹھ گیا	254	ایک شعر کا مطلب
271	ندویوں کو کیسا سمجھنا چاہئے؟	255	تین دینا رہا باقی ہیں
273	جنت کی بھرتی کا معنی	256	نماز کی حالت میں خدمت
274	حدیثِ نجات کا مطلب	256	تنگ دستی دُور کرنے کا وظیفہ
275	بد مذہبوں کے عالم سے ملنا کیسا؟	256	وابالی کا جھوٹ
276	اللہ عزوجل کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانئے	256	ایک بہروپے کی حکایت
276	کافروں سے کیسی عداوت رکھنی چاہئے؟	257	کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟
277	بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا کیسا؟	257	امام مہدی کی نماز
277	مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا	258	ایک غلط فہمی کا ازالہ اور مذہبِ حنفی کی کاملیت
278	اگر بد مذہب ہوتو؟	258	اذان کہنے کے بعد مسجد سے باہر جانا کیسا؟
278	سچے مجذوب کی پہچان	259	رافضیوں کی اذان
278	مجذوب کی دُعا کا اثر	259	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گستاخی کرنے کا انجام
279	مجذوب کی نماز	260	نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا چاہئے؟
279	سچے وجد کی پہچان	260	بیعت کے معنی
279	حالتِ وجد میں بھی نماز قضا نہ ہوئی	260	ایک مُرید کی اپنے پیر سے عقیدت
279	احکامِ شریعت	261	دُکان اُلٹ دوں گا
280	قدیم مبارک سُوچ جاتے	261	قیامت تک آنے والے مریدین
280	عقل جاتی رہی	261	ایک اشکال اور اُس کا جواب
281	مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟	262	حیرت انگیز مقدمہ قتل
281	وَلَا تُحْرَمُوا كَمَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ	263	مُرید ہوتے ہوئے دوسرے سے بیعت کرنا
281	تیری رحمت کے طفیل	263	مسجد کی گھڑی
283	شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ	264	منگل کے دن سینے کے لئے کپڑے کاٹنا کیسا؟
283	ابہر کریم	268	قبرستان میں جوتا پہن کر جانا کیسا؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
295	یہ تمہارے دکھانے کو ہے	283	رضائے مصطفیٰ ﷺ
296	سیاہ خضاب	284	دونوں کو جنت میں لے جاؤ
297	جاہل کا مُرید بننا	284	کیا عالم کی صحبت میں آدمی بگڑ جاتا ہے؟
297	مرد کا بال بڑھانا	285	طلاق مُعْلَقَظ کے بعد بغیر حلالہ رجوع کرنا کیسا؟
298	کندھے پر کمان لٹکانے والی	285	حلالہ کے لئے ہمبستری شرط ہے
298	مردانہ جوتے پہننے والی	285	بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اسے کندھا نہیں دے سکتا؟
298	دراز گیسو رکھنے کا راز	286	مرحوم شوہر کے روپے سے مسجد بنوانا کیسا؟
299	پیشانی کے بال محفوظ رکھے	286	پیر بھائی کی شیخ سے زیادہ رسائی پر رنج کرنا
299	کم اصل سے وفا نہیں	286	تعزیر داری میں تماشا دیکھنے کے لئے جانا کیسا؟
300	روض میں شادی کرنا ناجائز ہے	286	بھلائی سے محرومی پر افسوس کا انعام
301	شکار کرنے چلے تھے شکار ہو بیٹھے	287	بزرگان دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا؟
301	تہذیب یا تخریب	287	نماز فجر میں دُعاے قنوت پڑھنا
302	بد مذہبی کی بُو	287	قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ
302	اجتماعی توبہ	287	وضو کرنے کا مسنون طریقہ
307	فہرست تاسین	290	وضو میں بے احتیاطی
309	سونے کی انگوٹھی	291	نماز میں کی جانے والے لغظیوں کا بیان
309	داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟	291	اطمینان سے نماز پڑھ
310	سُود خوری کا عذاب	291	99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو؟
311	ادویات پی کر بال سیاہ ہو جائیں تو؟	292	غیب کی خبر
311	ایمان کی حفاظت کے اُراد	292	اصل مسئلہ
312	جبل پور کا سفر	292	مرثیہ خوانی میں شریک ہونا کیسا؟
312	بتوں کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا	293	ان مجالس میں رقت آنا کیسا؟
313	خُلوصِ نیت کا اثر	293	شب معراج میں نُعَلِّینِ پاک اُتارنے کی روایت
313	پہاڑوں کو کلمہ پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟	294	براق کے متعلق ایک بے اصل روایت
314	مٹی کے ڈھیلوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنانے کا انعام	294	کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا
314	وجہ فضیلت	295	بد گمانی حرام ہے
314	دونوں خطبوں کے درمیان سنتیں پڑھنا	295	بعض گمان گناہ ہیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
327	انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء جانا	315	وہا سے بھاگنے اور ضرورت کے لئے آنے جانے میں فرق
327	گنہگار پر کلمہ پاک لکھوانا	315	مزا میر کے ساتھ گانا سننے والا
327	”اللہ صاحب“ کہنا کیسا؟	315	مزارات پر عورتوں کا جانا
328	مردوں کو ٹھٹھل کپڑا پہننا کیسا؟	317	مسجد کا لیسپ
328	ریشم کا حکم	317	احکام مسجد
328	تانبے پیتل کے تعویذات کا حکم	318	ڈکارو روکنا چاہئے
328	چاندی اور سونے کی گھڑی	318	جماہی کو روکنے
329	ناپاک پانی سے اُگے ہوئے درخت کا پھل کھانے کا حکم	319	چھینک اچھی چیز ہے
329	گائے کو چوری کا چارا کھلانا	319	چھینک آنے پر حمد الہی مسنون ہے
329	تمہارے لئے جائز نہیں	320	ذبح میں ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرنا
329	مقروض کی دیوار کا سایہ	321	رحمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
330	میں نے دس ہزار معاف کئے	321	بیش قیمت مینڈھا قربان کرنا
330	عرس میں ناجائز کام ہوتے ہوں تو!	322	بد مذہب کی چھینک کا جواب
330	بڑائی میں الگ رہو، بھلائی میں شریک ہو جاؤ	322	کان، دانت اور پیٹ کے درد سے محفوظ رہنے کا نسخہ
330	سجادہ نشین بد مذہب ہوتو؟	322	نمازیں آنے والی چھینک
331	واقعہ پہلے کا ہے یا بعد کا؟	322	اتفاقی چھینک اور زکام کی چھینک میں فرق
331	ایک اشکال اور اس کا جواب	323	پاؤں سمیٹ لئے
332	شانِ محبوبیت	324	نعت
332	خسر واحد پر اعتماد	325	<b>حصہ سوم</b>
333	آئمہ سے مُراد کون ہیں	325	بخار کو گوسنا کیسا؟
333	آئمہ تفسیر کون ہیں؟	325	بخار کا روحانی علاج
334	غیب کی تعریف کیا ہے؟	325	عمامے پر زری کا کام کروانا کیسا؟
334	معانی کا الفاظ سے تعلق	325	تانبے یا لوہے کی انگوٹھی کا حکم
336	ایک علمی سوال	325	تانبے کی انگوٹھی مکروہ کیوں؟
337	سمدھن سے نکاح	326	دوزخیوں کا زیور
337	قرآن پاک کہاں رکھے؟	326	ٹوپی یا کپڑے پر سونے چاندی کا کام کروانا کیسا؟
337	سنت فجر میں تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی نیت کرنا	326	انگوٹھی کوئی انگلی میں پہنی جائے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
348	مسجد کی زمین بیچنا جائز نہیں	337	ایک روحانی علاج
348	نماز جنازہ میں جلدی کرنا	339	بڑا چراغ روشن کرنے کی ترکیب
348	قبرستان میں چیونٹیوں کو مٹھائی ڈالنا	341	دماغی علاج کا وظیفہ
349	ساس کو بشعوت ہاتھ لگانا	341	قرآنی وظیفے سے طبیعت خراب ہونا
349	ٹورنی کی تمنا میں انتقال کرنے والیاں	341	کمبل اوڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟
349	اسقاط کا کفارہ	342	نبی کریم ﷺ کا لباس مبارک
349	عُمن کا اعتبار ہوگا یا قیمت کا؟	342	پاجامہ پہننے والیوں کے لئے دعا
350	خُطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں لینا	342	چربی والی موم بتی مسجد میں جلانا
350	سُنّت و مکروہ میں تعارض ہو تو؟	342	جرمنی موم بتی کا حکم
350	دیہات میں جمعہ پڑھنے کا حکم	343	مسافر امام کے پیچھے ایک رکعت ملی تو؟
350	حُضور کی قسم کھانا جائز نہیں	344	جماعتِ ثانیہ قائم ہونے کے وقت سنتیں پڑھنا کیسا
351	گلے میں تانبے یا پیتل کا خلال لگانا	344	جماعتِ اُولیٰ کی اہمیت
351	انہیبہ جوان عورت کے سلام کا جواب	344	نماز جنازہ میں تین صفیں بنانے کا طریقہ
351	نامحرم کو سلام بھیجنا	345	ایام و بائیں کمر اذبح کرنا
351	اَوّل وقت میں سنّت فجر پڑھنا	345	خطبہ نکاح میں رُخ کدھر کرے؟
352	سنّت پڑھے بغیر نماز ظہر کی امامت کروانا	345	استاذ کا بچوں سے کام لینا کیسا
352	جمعہ کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب پڑھے؟	345	اُمّ رکاب کے اُٹھنا کیسا؟
352	کبوتروں کو دانہ دینے کے لئے پیسے کاٹنا	345	دولہا کے اُٹھنا ملنا
352	دستِ غیب و کیمیا کیا ہے	346	وطنِ اصلی یا اقامت
353	دُعا کی برکت	346	وہابی سے نکاح پڑھوانے کا حکم
353	خلافِ شریعت بات کی تاویل	346	ولیمہ کب کرے؟
354	ثبوتِ ولایت کا طریقہ	347	نکاح کے بعد چھو ہارے لٹانا
354	سُورتوں کو اُلٹا پڑھنا	347	وَسْمَہ سے تیار کیا ہوا سیاہ خضاب
354	غیر مستند و طائف پڑھنا جائز نہیں	347	سیاہ خضاب کب جائز ہے؟
355	بغیر فقہ کے عابد بننے والا	347	شادی کرنے کے لئے سیاہ خضاب لگانا
355	دیدارِ الہی کا دعویٰ کرنے والا	347	کیا امامِ حسینؑ سیاہ خضاب لگاتے تھے؟
356	شیطانِ لگام	347	مُتَّقِم کا قَصْر پڑھنا

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	کیا سیدنا ابو ہریرہ کی بی بی اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائیں گے؟	356	شیطان کا تخت
366	نبی کے لئے بد دعا کرنے والے کا انجام	357	عورتوں کی مسواک
367	استن حنانه کی تدفین	357	بیعائے ضبط کرنا
367	امام سری رکعتوں میں تعوذ پڑھے یا نہیں	358	مرنے کے بعد مصنوعی دانت نکالنا
368	کیا بعض مرض متعدی ہوتے ہیں؟	358	فرضوں کی جماعت میں نفل پڑھنے والے کا کھڑا ہونا
368	طاعون سے بھاگنے کی ممانعت	358	دو آدمیوں کا جماعت کروانا
368	کیا مردے سنتے ہیں؟	359	دو عورتوں کے بیچ میں سے نکلنا
369	حضرت سیدتنا عائشہ کا تین باتوں میں اختلاف	359	جماعت میں عورت کا شامل ہونا
370	آیت قرآنی پر ایک نحوی سوال	359	عورتوں کے لئے نماز کی بہتر جگہ
371	خلوت نشینی کا حکم	360	مرد کہاں کھڑے ہوں؟
373	نسبت کی بہاریں	360	امام کوئی آیت بھول جائے تو!
373	ریاضت کی حقیقت	360	طوائف کا روپیہ مسجد میں لگانا
373	حق گوئی کرنے والوں کو بُرا بھلا بھی کہا جاتا ہے	360	صفوں کے درمیان اونچی دیوار ہو تو؟
374	صبر اور شکر	360	قرض وصول کرنے کے آخر اجابات لینا
374	داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟	361	اولیائے کرام کی شان
375	بینائی تیز کرنے کا نسخہ	362	حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق
375	بچا ہوا پانی پھینکنا	362	قبر والا آنے والے کو پہچانتا ہے
376	ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی	363	بچے کی زبان پر شیطان کا بولنا
376	سبز رنگ کا جو تاپہ بنانا جائز ہے	363	فرشتوں کا ایصالِ ثواب کرنا
376	کیا غوث پاک کا چہرہ مبارک سرکار کے رخ آنور کے مشابہ تھا؟	364	اچھی باتوں کا فائدہ اور بری باتوں کا نقصان
376	ایک شعر کا مطلب	364	اونچی جگہ پر قرآن پاک رکھا ہو تو کیا اس طرف پاؤں کر سکتے ہیں؟
377	حضرت امیر معاویہ کا انداز ادب	364	شراب پیچنے والے کو چیز فروخت کرنا
377	جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی	365	طوائف کو مکان کرایہ پر دینا
377	جمعہ پڑھانا کس کا حق ہے؟	365	کیا علاج کرنا سنت ہے؟
378	قعدے میں بھول کر الحمد شریف پڑھ لی تو؟	365	انگریزی دوائیوں کا حکم
378		366	تیرے سے ہلاک ہونے والے جانور کا گوشت کھانا

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
386	قیامت کی تین قسمیں	378	مخص زبان سے کلمہ کفر گینے والے کا حکم
386	قیامت سے پہلے یہود و نصاریٰ کی باہمی عداوت	379	نماز کے سجدے میں سجدہ شکر کی نیت کرنا
387	ایک آیت کی تفسیر	379	سجدہ شکر کے متعلق امام اعظم کا فتویٰ
388	کافر کی توبہ یا س مقبول نہیں	379	مرنے کے لئے خوشی سے تیار رہیے
388	حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف فرما ہیں	379	توبہ کرنے والے سے اللہ عزوجل خوش ہوتا ہے
389	ہزار برس کا ایک دن	380	زنا کی توبہ
390	سیدنا صدیق اکبر کی طرف منسوب ایک مناجات کا حکم	380	زنا کی معافی کس کس سے مانگے
390	تفسیر کا ایک سوال	380	معافی مانگنے کا عجیب واقعہ
391	متولی کی اجازت کے بغیر مسجد میں وعظ کہنا	381	مکان رہن رکھنا
391	اپنی زندگی میں اپنے لئے ایصالِ ثواب کرنا	381	خلال کرنا سنت ہے
391	صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے	381	جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے
	زندگی میں صدقہ کرنا موت کے بعد صدقہ کرنے سے	381	دوا میں ایفون شامل ہو تو
392	افضل ہے	382	ایک اشکال اور اس کا جواب
392	قبرستان میں کس طرف سے جائے؟	382	شراب اگر نشہ نہ لائے تو کیا جائز ہے؟
392	قبرستان میں ننگے پاؤں جانا	382	امام ضامن کا پیسہ
393	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ	382	امام ضامن کس کا لقب ہے؟
394	ایک آیت کی تاویل	382	گردوغبار کی وجہ سے اگر آنکھ سے پانی بہہ نکلے تو؟
395	تاویل کا جواز	383	نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے
395	لکڑی کا جوتا		ولی کی ولایت نبی کی ولایت کے کروڑوں حصے کو بھی نہیں
395	خطبے میں خلفاء راشدین کا ذکر خیر	383	پہنچتی
396	خطبے میں سیدنا غوث اعظم کا ذکر خیر	383	عرس کا دن خاص کرنے میں حکمت
396	خطبے میں عالم دین کے لئے دُعا کرنا	383	عرس میں نا جائز کام ہوں تو صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے
396	سید زادے کو سزا دینا کیسا؟	383	مزار شریف پر پابندی کی طرف سے حاضر ہونا
396	شعبان میں نکاح کرنا کیسا؟	384	سرکار ﷺ گے پیچھے یکساں دیکھتے تھے
396	سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ	384	ہندو کے پھوڑوں کا علاج
400	سیدنا ابوذر غفاری کس نبی کے زیر قدم تھے	384	پانچ روپے، ایک گھنٹے میں، ایک ہی شخص سے
400	کیا حضرت علی، حضور ﷺ کی نظیر ہیں؟	385	قرب قیامت کی علامات



صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
411	جد امجد کی برکات	400	حضرت سیدنا احمد زروق کا فرمان
412	جد امجد کی اعلیٰ حضرت سے محبت	401	حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضری
412	شرف بیعت	401	مجھے میرا پیر کافی ہے
412	مقدمہ حیت گئے	402	کاہل مُرید
413	روزہ نہ چھوڑنا	402	ایک حدیث کے معنی
413	زمین کی خریداری	403	پورے مسلمان ہو جاؤ
413	باون برس مدینے میں	403	مُرشد کے سامنے خاموش رہنا افضل ہے
414	اصرار کر کے کھانا کھلایا	403	ایک روایت کے بارے میں سوال
414	گیارہ درجے تک پہنچا دیا	404	غم تازہ کرنا
414	خواب میں مدد	404	عزیز کی موت پر صبر
414	مُرغی پانی میں چوچ ڈال دے تو؟	404	اَوّل صدمے پر صبر
415	سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟	405	نفس بچنے کی طرح ہے
415	ناپاک پانی اُبالنے سے پاک ہو جائے گا؟	405	کیا نفس اور رُوح میں فرق ہے؟
415	کیا کتے کے بال ناپاک ہیں؟	405	قلب کسے کہتے ہیں؟
415	خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟	406	مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا
417	علیگڑھی کو سپہ صاحب کہنا	406	کافر کے جنازے پر شیطان کا رقص
417	عالم کی زیارت کا ثواب	406	وَ سَطِّ كَا مَعْنٰی
417	دل میں طلاق دینا	407	سب سے پچھلی امت
417	شادی شدہ کافرہ کا اسلام لانے کے بعد نکاح	407	دامن رحمت کی وسعت
417	مرگی کی بیماری	407	امت کا حساب اور بخشش
418	در بار رسالت میں مرگی کا علاج	407	سرکار ﷺ کا صدقہ
418	غوث اعظم نے مرگی کا علاج فرمایا	408	پہلی منزل
418	بچوں کو مرگی کے مرض سے بچانے کا اُستہ	408	اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلا جا
418	گراموفون سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت کا حکم	409	حقوق العباد کی معافی
419	جانوروں کو کھلانے پلانے کا ثواب	409	چاند دیکھنے کا سیدھا حساب
419	تھانوی کو سپہ کہنا کیسا؟	410	اعلیٰ حضرت کا سن ولادت
419	ایام بیض میں روزہ رکھنے کا ثواب	411	اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
428	اسکول بیچ لگا کر نماز پڑھنا	420	نام پاک حضور اقدس ﷺ کو چومنے والے کی بخشش
428	کشتی پر نماز پڑھنا	420	رب عز وجل کے کرم کی کوئی انتہا نہیں
428	ایک علمی اشکال اور اس کا جواب	420	حق مغفرت
429	فضا میں نماز پڑھنے کا حکم	420	صبر کہاں سے کرتا؟
429	دکان سے مال چوری ہونا	421	کیا آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟
429	چوری کا ایک مسئلہ	421	اول الرسل کون؟
430	<b>حصہ چہارم</b>	421	کلب علی کے معنی
430	حدیث کے متواتر ہونے کی شرط	421	کیا کسی نے ”کلب“ نام رکھا
430	ستون جنازہ اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ	421	خاندان سلاریہ سے بیعت
431	آیت قرآنی سے فلاسفہ کا رد	422	سمندر کے پاس ہوتے ہوئے نہر کی تمنا
431	ایک سھو کی نشاندھی	422	کیا مجدد الف ثانی نے خود کو غوث اعظم سے افضل کہا ہے؟
431	معجزہ شق القمر کا ثبوت	423	غوث اعظم وقت کے بادشاہ ہیں
431	کس کا کلام خطا سے محفوظ ہے؟	424	نیلامی میں لاوارث جانور خریدنا
432	فلاسفہ کے نزدیک شق القمر محال کیوں؟	424	نکاح کرتے وقت دل میں مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہونا
432	عقائد کے بارے میں کیسا اعتقاد ہونا چاہیے؟	424	کفار کے سامنے بد مذہبوں کا رد
433	ان پڑھ شخص کا اپنے مذہب پر یقین	425	کیا اسلام میں اختلاف ہے؟
433	بد مذہبوں کی کتب پڑھنا جائز نہیں؟	425	وحی سے مراد
433	بد مذہبوں کے رد میں پہلی تصنیف	425	کیا غیر انبیاء پر بھی وحی آتی ہے؟
433	موجودہ زمانے میں رد کی ضرورت	426	معجزات کی روایات کا متواتر ہونا
434	حضرت سعید بن جبیر کا بد مذہبوں سے اعراض	426	ستون حناتہ کی روایت
434	رد کون کرے؟	426	متواتر ہونے کے لئے کتنی تعداد درکار ہے؟
434	آب زم زم کے فوائد و برکات	427	ایک حدیث کی مراد
435	اعلیٰ حضرت کی پسندیدہ چیز	427	فاسق سے مصافحہ
435	زم زم شریف کا مزہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے	427	بدعتی سے مصافحہ
435	زم زم شریف غذا کی جگہ غذا اور دوا کی جگہ دوا	427	پوشیدہ گناہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا
436	حضرت ابو ذر غفاری کی حکایت	428	اُوچی قبریں
436	مومن اور منافق کی جانچ	428	جب میں لکھا ہوا کاغذ ہوتے ہوئے استیحا خانے جانا

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
444	بودار پسینے سے وضو کا حکم	436	زمزم شریف بھی تین سانسوں میں پیئیں
444	کیا مجازیب کے سلسلے ہوتے ہیں	436	کونسا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں
444	کرامت کسبی نہیں ہوتی	437	بہار مدینہ
445	”رجال الغیب“ کہلانے کی وجہ؟	437	بعد از تدا دعوت پر عدت
445	سلاسل اربعہ کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟	437	شہ نکاح کی عدت
445	ڈاکو کی توبہ	438	مرتد کا بعد اسلام سابقہ بیوی سے نکاح
446	عرب کیساتھ محبت	438	حلالہ طلاق ہی کے ساتھ خاص ہے
446	منکر نکیر کے سوال کس زبان میں ہوں گے؟	438	ایک غلط فہمی کا ازالہ
447	انجیل اور تورات کوئی زبان میں نازل ہوئی؟	438	نابالغ عالم مکلف نہیں
447	زمان و مکان کا وجود خارج میں نہیں	438	نوشیرواں کو عادل کہنا جائز نہیں
448	جُزءِ لائتجزی اور خلا کے ممکن کا بیان	439	قرض کی ادائیگی کا وظیفہ
448	جزء لائتجزی کا ثبوت	439	”نور“ ”تار“ اور ”روح باصرہ“ کی رفتار
448	کھانا کھاتے وقت خاموشی اختیار کرنا کیسا؟	439	فلک ثوابت کے فاصلہ کی وسعت
449	نوکر کے ترک نماز پر کیا آقا سے مؤاخذہ ہوگا؟	439	زمین سے سدرۃ المنتہی کا فاصلہ
449	مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر وعظ کہنا کیسا؟	440	فرشتوں کی بے شمار تعداد
449	ہاتھی زندہ ہو گیا	440	تمام رسل، ملائکہ اور کتب پر ایمان
449	نابالغ لڑکی کا ولی کون؟	441	کشتی پر نماز کا حکم
449	طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے	441	کلمہ کفر پر عورت کے نکاح کا مسئلہ
450	”تجھے خدا سمجھے“ کہنا کیسا؟	441	مسلمان کو کافر کہنے کا حکم
450	کسی کو زانی کہنا کا حکم	442	روح کی قوتیں
450	آج کل کے معروف غلط جملوں پر حکم	442	ایک اُلوکی روح کی کارستانی
450	حرام زادہ، حرام زادی، کہنا کیسا؟	443	ایک عجیب و غریب درخت
451	توبہ کا طریقہ	442	عجیب و غریب حوض
451	ایک حدیث کا مطلب	443	کشف و کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ
451	”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ سے کون لوگ مراد ہیں؟	443	حضرت خواجہ شہنشاہ الحق کی عاجزی
451	ایک عبارت کا مطلب	44	وضو کیلئے مسجد سے گرم پانی لے جانا کیسا؟
452	مباح کا واجب ہونا	444	رجال الغیب کون

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
460	گُر دے کھانے کا حکم	452	فتاویٰ عالمگیری کے مصنف کون ہیں؟
461	اوجھڑی مکروہ کیوں؟	452	عالمگیری کہنے کی وجہ
461	آیت قرآنی کے معنی کی وضاحت	452	مناظرہ کی ایک ناجائز شرط
461	چڑیہ کا بیان	452	کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے
462	آیت قرآنی کا مطلب	452	محال بالذات کی وضاحت و تعریف
463	انبیاء شہید ہوئے یا رسل	453	کذب الہی ممکن نہیں
463	جیسی رعایا ویسا حاکم	453	کلام لفظی و کلام نفسی کی بحث
463	اسلام کبھی مغلوب نہ ہوگا	454	کلام باری میں لفظی و نفسی کا تفرقہ نہیں
464	دنیا کی حیثیت	454	کیا پکاستی بد مذہب کی کتب دیکھ سکتا ہے؟
465	سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں	454	مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا
465	دنیا محبوبان خدا سے دور رکھی جاتی ہے	455	عالم کی تعداد کے بارے میں بیان
465	پچکاری لگانے سے متعلق ایک مسئلہ	455	برزخ سے مراد قبر ہے یا زمانہ
466	اعلیٰ حضرت کی حدت مزاج کا تذکرہ	456	قیامت اور حشر کا فرق
466	کشتی لڑنا کیسا؟	456	برزخ کے درجات
466	دلدار سے نجات دلائی	456	درجات فطر
467	حضرت داؤد طائی کا توکل و نفس کشی	456	انبیاء کرام کے فضائل شریفہ پاک ہیں
467	قبر میں جنت و دوزخ کی ہوا کا اثر	457	قضاے حاجت کی جگہ سے مشک کی خوشبو آنا
468	بد مذہبوں کی صحبت سے توبہ کا انعام	457	انبیاء سے علاقہ رکھنے والی ہر شئی طاہر ہے
469	زندہ رہنے کے لئے تین چیزیں درکار ہیں	457	اعلیٰ حضرت کی امام عینی سے محبت
469	روح کی طاقت کا راز	458	انبیاء علیہم السلام کے موئے مبارک وغیرہ کھانا کیسا
469	ایک شعر کی وضاحت	458	حلال و طیب میں فرق
469	پیر کامل کی تلاش	459	طاہر و طیب کے معنی
470	سچی طلب کبھی خالی نہیں جاتی	459	قید خانہ اور پاگل خانہ کی بنی ہوئی اشیاء کا حکم
470	طلب صادق کی مثال	459	اوجھڑی کھانا کیسا؟
471	اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتی ہے	459	جھولا جھولنا کیسا؟
471	گناہ صغیرہ کو ہلکا جاننا گناہ کبیرہ ہے	460	گنہگار کے جنازے کیساتھ جانا کیسا؟
472	ایک دعا کا معنی	460	ہندوؤں کے ”رام لیلہ“ وغیرہ دیکھنے جانا کیسا؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
482	حضرت محبوب الہی کا لقب ”زربخش“ کیسے ہوا؟	473	زہریلے جانوروں سے بچنے کی دعا
482	امام ابو یوسف کا مقام تشریح	473	کھیلوں کے بارے میں حکم
483	یوم الشک کا روزہ اور امام ابو یوسف کی حکایت	473	قد موسیٰ سے اعلیٰ حضرت کی ناراضگی
483	حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں	474	تعظیم اطاعت میں ہے
484	انبیاء کرام زندہ ہیں	474	فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کس کیلئے تھا؟
484	ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے	475	سودا قرض دیتے وقت قیمت زیادہ لینا کیسا؟
485	ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ	475	پوروں پر ذکر الہی کا شمار
486	حضور اقدس ﷺ حضرت حضر سے ملاقات	475	کیا جا دو میں قلب حقیقت ہو جاتا ہے؟
487	تکبیر تحریریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا	475	ایک بازیگر کے مختلف کرتب
487	بد بودار دوائی لگا کر مسجد میں جانا کیسا؟	476	مداری کا تماشا
487	استفتاء کے متعلق مسائل کے دھوکے	477	کیا معجزہ میں ماہیت بدلتی ہے؟
488	بیع بلا بدل کا حکم	477	بندر کے دل میں عظمت قرآن
488	حضور اقدس ﷺ ہر باطن پر حکم فرمانے کے مختار ہیں	478	بندر کا محفل میلاد سننا
488	چوری کرنے والے شخص پر قتل کا حکم	478	خدمت گزار شیر
489	اعلیٰ حضرت نے تنہا مخالفین کا مقابلہ کیا	479	بارگاہ ولی میں دل سنبھال کر حاضر ہونا چاہیے
489	دلدار میں پھنسی بیل گاڑی کیسے نکالی	480	مندر میں نماز پڑھنا کیسا؟
489	اعلیٰ حضرت کا ایک ولی کے پاس دعائے مغفرت کیلئے جانا	480	اعلیٰ حضرت کا یقین کامل
490	اعلیٰ حضرت کا ایک مجذوب کے پاس ملاقات کیلئے جانا	480	”بخارا اور دوسر“ مبارک امراض ہیں
491	بے وضو نماز پڑھادینے کا حکم	481	دوسر ہونے کے شکر میں رات بھر نوافل پڑھنا
491	صاحب نصاب نابالغ پر زکوٰۃ نہیں	481	لقوہ کا موثر عمل
492	نابالغ کا خرید و فروخت کرنے کا حکم	481	بچے کی ”تقریب بسم اللہ“ کب ہونی چاہئے؟
492	ایصال کرنے سے ثواب بڑھتا ہے	481	خواجہ بختیار کا کی کی تقریب بسم اللہ
492	علم منطوق سے علم بیان افضل ہے	482	کا کی کہلانے کی وجہ
493	شریعت کی منطوق علم بیان سے افضل ہے	482	حضرت شیخ فرید الحق والدین ”گنج شکر“ کیسے ہوئے؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
503	مؤذن کا بلا اجرت اذان دینے کا اجر	493	شریعت کی منطق کی تعریف
503	قادیانی کا احادیث گھڑنا	493	علوم ظاہری
504	حیات انبیاء علیہم السلام کے ثبوت میں احادیث مبارکہ	493	امام رازی اور شیطان کا مناظرہ
504	حیات انبیاء کا منکر گمراہ ہے	494	آسمان کہاں ہے؟
505	چار انبیاء کرام کو ابھی تک وعدہ الہیہ نہیں پہنچا	495	”خوف اور امید“ دونوں کا پایا جانا ضروری ہے
505	روزہ کے لئے نیت ضروری ہے	495	سلبِ ایمان کا خوف
505	آیام تشریق میں روزہ رکھنے کا حکم	495	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوفِ خدا: وجہ
505	روزہ کے لئے افطار ضروری نہیں	496	موت کا جھٹکا تلوار سے سخت ہے
506	افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے	496	ایمان اور شہود میں فرق
506	اولیاء اللہ کی پہچان	496	غفلت کی مختلف اقسام اور ان کے احکام
507	دائرہ دنیا کہاں تک ہے؟	497	اللہ تعالیٰ کے لئے محبت
507	مفاتیح و مقالید میں فرق	497	بیوی بچوں کے سبب گناہ میں پڑنے اور اس کا علاج
507	مفاتیح اور مقالید سے نام اقدس کا استخراج	498	کا مدار جوتے پہننے کا حکم
508	عرش و کرسی کی وسعت و حقیقت	498	اعلیٰ حضرت کی باریک بینی
509	آسمان کی وسعت کا بیان	498	خلاف سنت بات دیکھ کر شیخ سے پھرنا کیسا؟
509	قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	499	کیا رکوع میں دونوں ٹخنوں کو ملانا چاہیے؟
510	اولیائے کرام کی شان	499	گلا پھولنے کا روحانی علاج
510	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان	499	خطبہ جمعہ عربی، ہی میں پڑھیں
510	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کشف	500	قرآنی آیات کی تفاسیر
511	اولیائے کرام کی نظر میں ماضی و مستقبل دونوں ہوتے ہیں	501	ایک حدیث کے متعلق سوال
511	زمانہ کا وجود وہی ہے یا حقیقی	501	قبر کھولنے کا حکم
511	محکم و متشابہ میں فرق کا بیان	502	قبر کھولنے کی عبرت ناک حکایت
515	تشبیہ و تمزیہ کا بیان	502	قبر کھولنے والے شخص کا دردناک انجام
515	تمزیہ مع تشبیہ بلا تشبیہ کا مطلب	503	کس کس کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
528	کعبہ معظمہ اور تمام مساجد جنت میں.....	516	ملائکہ و ملائکہ کا رد
528	انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور جنت میں	516	اللہ عزوجل زمان و جہت سے منزہ ہے
528	حضور ﷺ کے نام کی قسم کھانا کیسا؟	517	حرمیت تصاویر کی وضاحت اور اعلیٰ حضرت کی کرامت
528	جنات کو علم غیب نہیں	518	لفظ اللہ مفرد ہے یا مرکب
529	کیا تمام حیوانات ناطق ہیں	519	ماہتاب نبوت کا نور
529	فلاسفہ کا رد	520	اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضور اقدس باٹھتے ہیں
530	قرآن و حدیث میں بلا ضرورت تاویل باطل	520	سرکار ﷺ کی شان
530	جمادات و نباتات کی نماز	521	موت و حیات و وجودی ہیں
531	ہر خشک و تر تسبیح میں مشغول ہے	521	موت و حیات کی شکل
531	شمالی ہوا سے بارش نہ ہونے کی وجہ	521	ہر ایک کو موت آئے گی
532	ہر چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رسالت جانتی ہے	523	قیامت قائم ہوگی
532	انسان اور دیگر حیوانات میں فرق	523	موت کا مینڈھا
532	ہر شے سننے اور سمجھنے کی قوت رکھتی ہے	524	شیطان مایوس ہو گیا
533	جسم نہیں روح سمجھتی ہے	524	ترتیب قرأت کا بیان
533	پہاڑوں کا حضور ﷺ کو گفتگو کرنا	524	سورہ اخلاص کا تراویح میں تین بار پڑھنا
534	پہاڑوں کے آنسو	525	سورہ اخلاص کا ثواب
534	حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کر دیا گیا	525	سورہ کافرون کا ثواب
534	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	525	سبع مثنائی سے کیا مراد ہے
535	مرنے کے بعد تمام حیوانات مٹی ہو جائیں گے؟	525	قبرستان میں باؤ قرآن عظیم پڑھنا کیسا؟
535	اصحاب کہف کا کتا اور بلعم باعور	526	وقتِ دفن اذان کہنا کیسا؟
536	کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے	526	موت کے وقت شیطان کا دخل
		526	بروز قیامت زمین و آسمان بدل دیئے جائیں گے
		527	جنت میں زمین چاندی کی کردی جائے گی
		527	میدان محشر میں زمین مثل روٹی کے ہوگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
**”اعلیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ 25 صفر المظفر“** کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی **”25 نیتیں“**

(از: شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ)

**فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم:** **فِيَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ** 0 مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٥٩٤٢، ج ٦، ص ١٨٥)

**دومدنی پھول:** ﴿١﴾ **نیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔**

﴿٢﴾ **جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔**

{ 1 } ہر بار حمد و { 2 } صلوٰۃ اور { 3 } تَعُوذُ و { 4 } تَسْمِيَةِ سے آغاز کروں گا (اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا) { 5 } رِضَايَ الْهٰی عَزَّوَجَلَّ کیلئے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا { 6 } هٰتِي الْوَسْخِ اس کا باؤ ضو اور { 7 } قبلہ رومطالعہ کروں گا { 8 } قرآنی آیات اور { 9 } احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا { 10 } جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ اور { 11 } جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پڑھوں گا { 12 } شرعی مسائل سیکھوں گا۔ { 13 } اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علماء سے پوچھ لوں گا { 14 } حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول **”عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ“** یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔“ (جلید الاولیاء، رقم ١٥٥٠، ج ٢، ص ٣٣٥) پر عمل کرتے ہوئے ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا { 15 } (اپنے ذاتی نسخے پر) **عِنْدَ الضَّرْوَرَتِ** خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا { 16 } (اپنے ذاتی نسخے پر) ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا { 17 } کتاب مکمل پڑھنے کیلئے بہ نیت حصول علم دین روزانہ چند صفحات پڑھ کر علم دین حاصل کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا { 18 } دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا { 19 } اس حدیث پاک **”تَهَادُوا تَحَابُّوا“** یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔“ { موطا امام مالک، ج ٢، ص ٣١١، رقم ١٤٠٠ } پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسب توفیق تعداد میں) یہ کتابیں خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا { 20 } جن کو دوں گا حتی الامکان انہیں یہ ہدف بھی دوں گا کہ آپ اتنے دن (مثلاً 25) دن کے اندر اندر مکمل پڑھ لیجئے { 21 } اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری امت کو ایصال کروں گا۔ { 22 } کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا ناشرین و مصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا) { 23 } ہر سال ایک بار یہ کتاب پوری پڑھا کروں گا { 24 } جو نہیں جانتے انہیں سکھاؤں گا { 25 } مشائخ کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## المدینة العلمیة

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالفضل محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ

الحمد لله على احسانه وفضل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم

تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مصمم رکھتی ہے، ان تمام امور کو بحسن خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس ”المدینة العلمیة“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علماء و مفتیانِ کرام کثرتاً ہم اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور شاعری کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کتب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲) شعبہ درسی کتب (۳) شعبہ اصلاحی کتب  
(۴) شعبہ تفتیش کتب (۵) شعبہ تراجم کتب (۶) شعبہ تخریج

”المدینة العلمیة“ کی اولین ترجیح سرکار اعلیٰ حضرت امام اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت پروانہ

شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حائِ سنت، مائی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت باعٹ خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی رگراں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتمی الوسع سہل اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور شاعری مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ عزوجل ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”المدینة العلمیة“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی

عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ خلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیر گنبد خضر اء شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم



رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

## پہلے سے پڑھ لیجئے

الحمد لله عزوجل تبليغ قران وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبہ ”المدینة العلمية“ کی تادم تحریر 163 سے زائد کتب (بشمول مختصر رسائل) مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو کر علماء و عوام سے دادِ تحسین پا چکی ہیں۔ ان میں اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شہادہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی مایہ ناز تالیف ”جَدُّ الْمُتَمَتَّارِ عَلٰی رَدِّ الْمُحْتَارِ“ کی 4 جلدیں اور خلیفہ اعلیٰ حضرت، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ انہی کی شاندار تصنیف بہار شریعت کے 12 حصے بھی شامل ہیں جن میں سے پہلے 6 حصوں کو ایک جلد کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے۔

اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے ارشادات پر مشتمل تالیف ”الملفوظات“ معروف بہ ”ملفوظات اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت“ تسہیل و تخریج اور حواشی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب پر کام شروع کرنے کا سبب شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاء قادری دامت برکاتہم العالیہ کا (بذریعہ ای میل (E.mail) بھیجا گیا) ایک مکتوب بنا جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے عقیدت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ڈوبی ہوئی خواہش کا اظہار اس طرح فرمایا: ”دل میں ایک خواہش یہ بھی چٹکیاں لے رہی ہے کہ کاش ملفوظات (اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت) کے اس خزانہ کلا جواب کی تخریج و تسہیل کی بھی ترکیب ہو جائے۔“

اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے

دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

اس کتاب سے امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی قلبی وابستگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے

بیرون ملک سے خصوصی طور پر ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ کا نسخہ المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی) کی لائبریری کے لئے اس تحریر کے ساتھ وقف فرمایا؛

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
یہ کتاب المدینۃ العلمیۃ  
سینکے قارئین سے  
بجائے کرم و سخاوت و سخاوت عطا کر کے بیچنا یا باہر  
اپنی خدمتوں و ایسٹنٹوں اور پرستی مسلمانوں کو  
پہنچا۔ اس کے بعد واپس الایمین علیہ السلام و انہم  
الذہاب  
۱۲ جمادی الآخرہ ۱۴۳۸ھ  
مکتبہ دارالعلوم عربیہ  
المکہ

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے عطا کردہ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلہ سے میں سجائیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مطالعہ کی ترغیب دے کر اپنے اطراف کو بھی مہکائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ”اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کرنے کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں کا مسافر بننے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینۃ العلمیۃ کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے۔

امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

12 جمادی الآخری 1430ھ، بمطابق 5 جون 2009ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تذکرہ امام احمد رضا  
علیہ رحمۃ ربّ الوری

(از: شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ)

## شفا عت کی بشارت

رحمتِ عالم، نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم، شفیعِ اُمم، رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ شفا عت نشان ہے: ”جو مجھ

پر دُرُودِ پاک پڑھے گا میں اُس کی شفا عت فرماؤں گا۔“ (القول البدیع، ص ۱۱۷، دارالکتب العلمیہ بیروت)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## وَدَدت باسعادت

میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ

شمع رسالت، مُجَدِّدِ دینِ وملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعثِ

خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی

ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ۱۰ شوال المکرم ۱۲۷۲ھ بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق ۱۴ جون

۱۸۵۲ء کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المُنْتَخَر (۱۲۷۲ھ) ہے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱، ص ۵۸،

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی) آپ کا نام مبارک محمد ہے، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## بچپن کی ایک حکایت

حضرت جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گھر پر ایک

مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ڈگر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ

آپ کو بتاتے تھے۔ مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ ”زَبْر“ بتاتے تھے آپ ”زیر“ پڑھتے تھے یہ کیفیت آپ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی حضور کو اپنے پاس بلا یا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زری کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اس قسم کے واقعات مولوی صاحب کو بارہا پیش آئے تو ایک مرتبہ تنہائی میں مولوی صاحب نے پوچھا، صاحبزادے! سچ بتا دو میں کسی سے کہوں گا نہیں، تم انسان ہو یا جن؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱، ص ۶۸، مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی) بچپن ہی سے نہایت نیک طبیعت واقع ہوئے تھے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

### پہلا فتویٰ

میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس الممتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمۃ العنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱، ص ۲۷۹، مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

### اعلیٰ حضرت کی ریاضی دانی

اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بے اندازہ علوم جلیلیہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کم وبیش پچاس علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت، (علم توئی۔ ت) میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے۔ وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوا۔ علم ریاضی میں آپ یگانہ روزگار تھے۔ چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور نمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ریاضی کا

ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ ارشاد ہوا، فرمائیے! انہوں نے کہا، وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلہ کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سپید سلیمان اشرف صاحب نے میری راہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلہ کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بصد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلوة کے پابند ہو گئے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱، ص ۲۳۳، ۲۳۸، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی) علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم تکسیر، علم ہیئت، علم جفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّد

### حیرت انگیز قوت حافظہ

حضرت ابو حامد سپید محمد محدثؒ کچھ چھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تکمیل جواب کے لیے جو بیانات فقہ کی تلاشی میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے اور حوالہ جات طلب کرتے تو اُسی وقت آپ فرمادیتے کہ ”رَدُّ الْمُحْتَار“ جلد فلاں کے فلاں صفحہ پر فلاں۔ مر میں ان الفاظ کے ساتھ جو بیہ موجود ہے۔ ”دُرِّ مُخْتَار“ کے فلاں صفحہ پر فلاں۔ مر میں عبارت یہ ہے۔ ”عالمگیری“ میں بقید جلد و صفحہ و۔۔۔ مر یہ الفاظ موجود ہیں چونکہ یہ میں خیر یہ میں ”متمموط“ میں ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت مع صفحہ و۔۔۔ مر بتادیتے اور جب کتابوں میں دیکھا جاتا تو وہی صفحہ و۔۔۔ مر عبارت پاتے جو زبان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خُدا داد قوت حافظہ سے چودہ سو سال کی کتابیں حفظ تھیں۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱، ص ۲۱۰، مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّد

### صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن

حضرت جناب سپید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سپید ایوب علی

صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی روز سے دَور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا و وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ یاد فرمایا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا اور یہ اس لیے کہ ان بندگانِ خدا کا (جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں) کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱ ص ۲۰۸، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

### عشقِ رسول

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراپا عشقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نمونہ تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ کلام (حدائقِ بخشش شریف) اس امر کا شاہد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نوکِ قلم بلکہ گہرائیِ قلب سے نکلا ہوا ہر مصرعہ آپ کی سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے بے پایاں عقیدت و مَحَبَّت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی دنیوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اس طرح فرمایا۔

انہیں جانا نہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام

لِلَّهِ الْحَمْدُ مِیْن دُنِیَا سَیِّئَاتِ الْمَسْلَمَانِ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

### حُکَام کی خوشامد سے اجتناب

ایک مرتبہ ریاست نانپارہ (ضلع بہرائچ یوپی) کے نواب کی مدح میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع (غزل یا قصیدہ کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوں وہ مطلع کہلاتا ہے۔) یہ ہے۔

وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص، جہاں نہیں

یہی پھولِ خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

اور مَقْطَع (غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ مَقْطَع کہلاتا ہے۔) میں ”نانپارہ“ کی بندش کتنے لطیف اشارہ میں ادا کرتے ہیں۔

کروں مدحِ اہلِ دُؤَلِ رضا پڑے اس بلا میں مری بلا

میں گدا ہوں اپنے کریم کا مرادین ”پارہ ناں“ نہیں

فرماتے ہیں کہ میں اہلِ ثروت کی مدح سرائی کیوں کروں۔ میں تو اپنے کریم اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ مرادین ”پارہ ناں“ نہیں۔ ”نان“ کا معنی روٹی اور ”پارہ“ یعنی ٹکڑا۔ مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے مالداروں کی خوشامدیں کرتا پھروں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ میں دنیا کے تاجداروں کے ہاتھ بکنے والا نہیں ہوں۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

**بیداری میں دیدارِ مصطفیٰ** صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو زیارتِ نبوی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی آرزو

لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلوٰۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامنِ رحمت سے وابستگی کی اُمید دکھائی ہے۔

وہ سُوئے لالہ زار پھرتے ہیں

تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

لیکن مَقْطَع میں مذکورہ واقعہ کی یاس انگیز کیفیت کے پیش نظر اپنی بے مائیگی کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

کوئی کیوں پوچھے تیری باتِ رضا

تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں

(اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصرعِ ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے ”گئے“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے مگر سب مدینہ عُنَیْ عُنَیْ نے اَدْبَابِہَا ”شیدا“



لکھ دیا ہے)

یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مُوَدَّب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور چشمانِ سر سے بیداری میں زیارتِ حُضُو رِ اَقْدَسِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱، ص ۹۲، مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی)

**سَبْحَنَ اللّٰہَ** عزوجل! قربان جائیے ان آنکھوں پر کہ جنہوں نے عالمِ بیداری میں محبوبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا دیدار کیا۔ کیوں نہ ہو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر عشقِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”فَنَا فِي الرَّسُولِ“ کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے۔

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

## سیرت کی جھلکیاں

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ (سوانح امام احمد رضا، ص ۹۶، مکتبۃ نور یہ رضویہ سکھر)

تاجدارِ اہلسنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضورِ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ ”سامانِ بخشش“ میں فرماتے ہیں۔

خدا ایک پر ہو تو اک پر محمد  
اگر قلب اپنا دو پارہ کروں میں

مہانح زمانہ کی نظروں میں آپ واقعی فَنَافِي الرَّسُولِ تھے۔ اکثر فراقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرتے رہتے۔ جب پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جھنجھلا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بُرا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ اکثر اس پر فخر کیا کرتے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریق استعمال یہ ہے کہ بدگویوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں۔ کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں۔ اس وقت تک کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان میں گستاخی

کرنے سے بچ رہیں گے۔ حدائق بخشش شریف میں فرماتے ہیں۔

کروں تیرے نام پہ جاں فدائے بس ایک جاں دو جہاں فدا

دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

عز بقاء کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے۔ بلکہ آخری وقت بھی عزیز واقارب کو وصیت کی کہ عز بقاء کا خاص خیال رکھنا۔ ان کو خاطر داری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر تصنیف و تالیف میں لگے رہتے۔ نماز ساری عمر باجماعت ادا کی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوراک بہت کم تھی، اور روزانہ ڈیڑھ دو گھنٹہ سے زیادہ نہ سوتے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱ ص ۹۶، مکتبہ المدینہ کراچی)

## سونے کا منفرد انداز

سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ ”اللہ“ بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ داہنی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے۔ اس طرح جسم سے لفظ ”محمد“ بن جاتا۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۱ ص ۹۹، مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی)

یہ ہیں اللہ کے چاہنے والوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کی ادائیں۔

نامِ خدا ہے ہاتھ میں نامِ نبی ہے ذات میں

مہرِ غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نامِ دو

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## ٹرین رُکی رہی!

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار پہلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر ایک دو منٹ کے لیے ریل رُکی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے پلیٹ فارم پر اترے۔ ساتھی پریشان تھے کہ ریل چلی جائے گی تو کیا ہوگا لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اطمینان سے اذان دلو کر جماعت سے نماز شروع کر دی۔ ادھر ڈرائیور انجن چلاتا ہے لیکن ریل نہیں چلتی، انجن اُچھلتا اور پھر پٹری پر گرتا ہے۔

ٹی ٹی، اسٹیشن ماسٹر وغیرہ سب لوگ جمع ہو گئے، ڈرائیور نے بتایا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچانک ایک پنڈت چیخ اٹھا کہ وہ دیکھو کوئی درویش نماز پڑھ رہا ہے، شاید ریل اسی وجہ سے نہیں چلتی؟ پھر کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اطمینان سے نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی رُفقا کے ساتھ ریل میں سوار ہوئے تو ریل چل پڑی۔ سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

### تصانیف

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ۱۲۸۶ھ سے ۱۳۴۷ھ تک لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس! کہ سب کو نقل نہ کیا جاسکا، جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام ”العطا یا النبویة فی الفتاوی الرضویة“ رکھا گیا۔ فتاویٰ رضویہ (جدید) کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات: 21656، کل سوالات و جوابات: 6847 اور کل رسائل: 206 ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۳۰، ص ۱۰، رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور)

ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وسعتِ نظری کا اندازہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند دیگر کتب کے نام درج ذیل ہیں:

”سبحن السُّبُوحِ عَنْ عیبِ کِذْبِ مَقْبُوحِ“ سچے خدا پر جھوٹ کا بہتان باندھنے والوں کے رد میں یہ رسالہ تحریر فرمایا، جس نے مخالفین کے دم توڑ دیئے اور قلم نچوڑ دیئے۔ ”نُزُولِ آيَاتِ فُرْقَانِ بَسْکُونِ زَمِیْنِ وَ آسْمَانِ“ اس کتاب میں آپ نے قرآنی آیات سے زمین کو ساکن ثابت کیا ہے۔ سائنسدانوں کے اس نظریے کا کہ زمین گردش کرتی ہے رد فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کتابیں تحریر فرمائیں: الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَدُ، تَحْلِيُّ الْبُقِیْنِ، الْكُوْكَبَةُ الشَّهَابِيَّةُ، سِلَّ السُّيُوفِ الْهِنْدِيَّةِ، حَيَاةُ الْمَوَاتِ وَغَيْرِهِ۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## ترجمہ قرآن شریف

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کا نام ”کنز الایمان“ ہے۔ جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے۔

## وفات حسرت آیات

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات سے چار ماہ بائیس دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر ایک آیت قرآنی سے سال وفات کا استخراج فرمایا تھا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے:

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْبِيَاءٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ وَأَكْوَابٍ

ترجمہ کنز الایمان: اور ان پر چاندی کے برتنوں

اور گوزوں کا دور ہوگا۔ (پ ۲۹، الدھر: ۱۵)

(سوانح امام احمد رضا، ص ۳۸۲، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

۲۵ صَفَرِ الْمُظْفَرِ ۱۳۴۰ھ مطابق ۱۹۲۱ء کو جُمُعَةُ الْمُبَارَكِ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2 بج

کر 38 منٹ پر، عین اذان کے وقت ادھر مُؤذِّن نے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہا اور ادھر امام اہلَسُنَّتْ وَلِي نِعْمَتٍ ، عَظِيمِ الْبَرَكَتِ ، عَظِيمِ الْمُرْتَبَتِ ، بِرِوَانَةِ شَمْعِ رِسَالَتِ ، مُجَدِّدِ دِينِ وَمِلَّتِ ، حَامِي سُنَّتِ ، مَاحِي بَدْعَتِ ، عَالِمِ شَرِيْعَتِ ، پیرِ طریقتِ ، باعِثِ خَيْرِ وَبَرَكَتِ ، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

## دربار رسالت میں انتظار

۲۵ صَفَرِ الْمُظْفَرِ کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں پایا۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء عظام رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالٰی دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سگوت طاری

تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں عرض

کی، حضور! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کی، حضور! احمد رضا کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز (یعنی ۲۵ صفر المظفر ۱۲۴۲ھ) کو وصال ہو چکا ہے جس روز انہوں نے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ”ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔“

(سوانح امام احمد رضا، ص ۳۹۱، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

یا الٰہی جب رضا خوابِ گراں سے سراٹھائے

دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو



## منقبت بر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت

(از: شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ)

تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا	دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا
دورِ باطل اور ضلالتِ ہند میں تھا جس گھڑی	تُو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا
تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیانِ مصطفیٰ	قہر بن کے اُن پہ چھایا اے امام احمد رضا
علم کا دریا ہوا ہے موجزنِ تحریر میں	جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام احمد رضا
خَلق کو وہ فیضِ بخشا علم سے بس کیا کہوں	علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا
اے امامِ اہلسنت! نایبِ شاہِ ہدیٰ!	کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا
فیضِ جاری ہی رہے گا حشر تک تیرا شہا	کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا
قبر پر ہو بارشِ انوارِ حق تیری سدا	ہو نبی کا تجھ پہ سایہ اے امام احمد رضا
ہے بدرگاہِ خدا عطارِ عاجز کی دُعا	تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا

## تَعَارُفُ مُؤَلَّفِ

{یعنی شہزادہ اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند، علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ}

**ولادت:** شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنے والد محترم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی دعاؤں کا مظہر بن کر 22 ذوالحجہ 1310ھ 7 جولائی 1893ء بروز جمعہ المبارک اس دنیا میں تشریف لائے۔

**مُرشد کی مُبارک باد:** جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اُس وقت اپنے مُرشد خانے میں تھے۔ حضرت ابوالحسین نوری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے آپ کو پیدائش فرزند کی مبارک بادی اور فرمایا: ”آپ بریلی تشریف لے جائیں۔“ کچھ دن بعد حضرت نوری علیہ رحمۃ اللہ الباری بریلی تشریف لائے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت کو آغوش نوری میں ڈال دیا گیا۔ حضرت نوری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا: ”یہ بچہ بڑا ہو کر دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بڑا فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے، یہ فیض کا دریا ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی انگشت مبارک (یعنی انگلی) مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کے منہ میں رکھ کر قادری و برکاتی برکات سے ایسا مالامال کر دیا کہ یہی شہزادے بڑے ہو کر مفتی اعظم ہند بنے۔

**نام و عقیقہ اور تعلیم و تربیت:** حضرت مخدوم سید شاہ ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”ابوالبرکات محی الدین جیلانی“ نام تجویز فرمایا۔ ”محمد“ نام پر عقیقہ ہوا اور ”مصطفیٰ رضا“ عرف عام قرار پایا۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کا زمانہ اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے زیر سایہ علمی ماحول میں گزرا اور انہی کی سرپرستی میں تمام مروجہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔

**پہلا فتویٰ:** حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے بھی اپنے والد ماجد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلہ پر لکھا۔ اصلاح کیلئے جب یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو صحیح جواب لکھنے پر

آپ بہت خوش ہوئے اور ”صَحَّ الْحَوَابُّ بِعَوْنِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ“ لکھ کر دستخط ثبت فرمادیئے اور ”ابوالبرکات محی الدین جیلانی محمد مصطفیٰ رضا خان“ لکھ کر مہربنوا کر عطا فرمائی اور باقاعدہ فتوے کی اجازت دے دی۔ دنیائے اسلام میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتووں کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حق گوئی میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند فتاویٰ کا مجموعہ ”فتاویٰ مصطفویہ“ کے نام سے پاک و ہند میں شائع ہو چکا ہے۔

**خدمتِ دین:** حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چل کر تحریری و تقریری طور پر عظیم علمی و دینی خدمات سرانجام دیں۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ درس و تدریس، رُشد و ہدایت اور راہِ خدا عَزَّوَجَلَّ میں سفر میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے طول و عرض میں دینِ متین کی تبلیغ کیلئے تشریف لے گئے۔

**نعتیہ دیوان:** آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہرہ آفاق نعتیہ کلام ”حدائقِ بخشش“ کی طرح آپ کا نعتیہ دیوان ”سامانِ بخشش“ بھی پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

**وصال شریف:** آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت مقدس پاکیزہ اور بھرپور و مصروف زندگی مبارک گزار کر 14 محرم الحرام 1402ھ بمطابق 12 نومبر 1981ء داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی نماز جنازہ اسلامیہ انٹر کالج بریلی شریف میں ہوئی جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پُر انوار خانقاہ رضویہ محلہ سوداگران بریلی شریف میں اپنے والد ماجد امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بائیں پہلو میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاء رقا دروی امت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں۔

مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے

(تفصیلی حالات و خدمات جاننے کے لئے جہانِ مفتی اعظم مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی ملاحظہ کیجئے۔)

## ملفوظات کی اہمیت

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بلاشبہ بزرگان دین علیہم رَحْمَةُ اللهِ الْمُبِينِ کی کتاب حیات کے ہر صفحہ میں ہمارے لئے رہنمائی کے مدنی پھول اپنی خوشبوئیں لٹا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان نفوسِ فُذْرِيَّةِ کے شام و سحر اللہ و رسول عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رضا پانے کی کوشش میں گزرتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں، عقبیٰ کی مسرتیں بالخصوص خالقِ حقیقی عَزَّوَجَلَّ کے دیدار کی لذتیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، لہذا یہ دنیا میں ایک مسافر کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے جہانِ آخرت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں اور اُس کی آباد کاری و شادمانی کے لئے اس طرح کوشاں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی دنیا دار اپنی دنیا بنانے کے لئے ہر لمحہ بے قرار دکھائی دیتا ہے۔ انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر وہ دُنیاوی لذات اور آسائشوں میں کھو گئے تو اخروی زندگی ویران ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فکرِ آخرت ان کے دل میں ایسا گھر کر لیتی ہے کہ انہیں نہ تو یہاں کے عالیشان محلات بھاتے ہیں اور نہ دُنیا داروں کی دولت کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ یہی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتے ہوئے انہیں قرآن پاک میں اپنے ”انعام یافتہ بندے“ قرار دیا۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت 69 میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی

(پ ۵، سورۃ النساء: ۶۹) ہیں۔

ان کے ذکر سے دلوں کو فرحت، رُوحوں کو مسرت اور فکر و نظر کو جو و دت (یعنی تیزی) ملتی ہے اور ذکر کرنے والے پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت سفیان بن عُیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”عِنْدَ ذِكْرِ الصَّٰلِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ ۗ“ یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء، رقم ۱۰۷۵۰، ج ۷، ص ۳۳۵، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان پیاروں کے نقشِ قدم پر چل کر ہم بھی دُنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پاسکتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لئے کامل طور پر ان کے نقشِ قدم پر چلنا ناممکن نہیں تو بے حد دُشوار ضرور ہے



لیکن اس دُشواری کو آڑ بنا کر اپنی اصلاح کی کوشش ترک کر دینا بہت بڑی نادانی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اگرچہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں جیسا نہیں بن سکتے مگر ان کے حالات و ملفوظات کی روشنی میں اپنی نیتوں اور معاملات کی دنیا تو سنوار سکتے ہیں، اپنے نفس کی خُو شُئُو دی (خُش۔ ئُو۔ دی) کے سودوں سے تو باز رہ سکتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز، آخرت کے نفع و نقصان اور اپنے رب قدرِ عَزَّوَجَلَّ کے غضب و رِضا کا خیال تو رکھ سکتے ہیں۔ غالباً اسی مقدس جذبے کے تحت جہاں مؤلفین و مؤرخین نے ان بزرگوں کے حالاتِ زندگی قلمبند کئے وہیں ہر دور میں کسی نہ کسی برگزیدہ ہستی کے ارشادات و ملفوظات کو ان کے مُعْتَقِدِین (یعنی عقیدت مندوں) نے آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ بیٹھے بیٹھے مَدَنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فرامین کو ہم اس سلسلے کی بنیاد کہہ سکتے ہیں لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم شریعت کی دلیل اور بُرگانِ دینِ علیہم رحمۃ اللہ علیہم کے ملفوظات عموماً ان فرامین کی (گویا) تشریح ہوتے ہیں۔

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

زبانِ ولی سے ادا ہونے والے الفاظِ تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے دل میں پیوست (پے۔ وِست) ہو جاتے ہیں اور اس کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، ایسی ہی ایک ایمانِ افروز حکایت ملاحظہ کیجئے۔

## زبانِ ولی کی تاثیر

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا: ”میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں مددگار ہو۔“ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”اگر تم پانچ باتوں کو اپنالو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دیں گے اور ان کی لذت ختم ہو جائے گی۔“ اس نے آمادگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق مت کھاؤ۔“ وہ نوجوان بولا: ”پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟“ اس نوجوان نے کہا، ”نہیں!“ اور کہا: ”دوسری بات بیان فرمائیے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ملک سے

باہر نکل جاؤ۔“ وہ کہنے لگا: ”یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی مملکت ہے۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تو کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ یا جس کے ملک میں رہو، اس کی نافرمانی بھی کرو؟“ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، ”تیسری بات بیان فرمائیں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ”تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔“ اس نے کہا، ”حضور! یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ تو ہر بات کا جاننے والا ہے کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی مملکت میں بھی رہو اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی بھی کرو؟“ نوجوان نے کہا، ”نہیں، چوتھی بات بیان فرمائیں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائیں تو ان سے کہنا: ”کچھ دیر کے لئے بٹھہر جائیں تاکہ میں توبہ کر کے چند اچھے اعمال کر لوں۔“ اس نے کہا: ”یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مطالبے کو مان لیں۔“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں تو چھٹا کارے کی تُوَقُّع (تُوَقُّع) کیسے کر سکتے ہو؟“ اس نے عرض کی: ”پانچویں بات ارشاد فرمائیں۔“ آپ نے فرمایا: ”پانچویں بات یہ ہے کہ جب رَبَّانِیہ آئے (یعنی عذاب کے فرشتے آئیں) اور تجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے تو مت جانا۔“ اس نے عرض کی: ”وہ نہیں مانیں گے اور نہ مجھے چھوڑیں گے۔“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”تو پھر تم نجات کی اُمید کیسے رکھ سکتے ہو؟“

حضرت سپیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے حکمت بھرے ملفوظات سن کر وہ نوجوان پکار اٹھا: ”مجھے یہ نصیحت کافی ہے، اب میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔“ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔ (کتاب التوابع، توبۃ شاب مسرف علی نفسه، ص ۲۸۵)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بُو رگان دین علیہم رحمۃ اللہ المبین کے ملفوظات ان کی مدنی سوچ کے ترجمان ہوتے ہیں جن سے سننے والوں کو شریعت و طریقت کے آداب معلوم ہوتے ہیں، نیکیوں کی رغبت بڑھتی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ملفوظات کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ بہت قدیم ہے، عربی زبان میں اس کا ذخیرہ اُمالی لے کے نام سے موجود**

۱۔ وہ کتاب جس میں شیخ کے املاء کرائے ہوئے فوائد حدیث ہوں۔

ہے، چند مشہور امالی یہ ہیں:

- (1) اَمَالِي ابْنِ حَجْرٍ (احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ)
- (2) اَمَالِي ابْنِ عَسَاكِرٍ فِي حَدِيثِ (ابوالقاسم علی بن الحسن الدمشقی متوفی ۵۷۱ھ)
- (3) اَمَالِي الْمَطْلَقَةِ (امام عبدالرحمن جلال الدین السیوطی الشافعی متوفی ۹۱۱ھ)
- (4) اَمَالِي أَبِي الْفَرَجِ (السرخی الشافعی عبدالرحمن بن احمد متوفی ۹۹۴ھ)
- (5) اَمَالِي فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانِ (حسن بن منصور الاوزجندی متوفی ۵۹۲ھ)
- (6) اَمَالِي الْقَيْرَاطِي (عثمان سعد بن محمد القیراطی متوفی ۳۳۰ھ)
- (7) اَلْمَبْسُوطُ (شمس آئمہ محمد بن احمد السرخسی الحنفی متوفی ۸۳۳ھ)
- (8) اَمَالِي (امام ابو یوسف قاضی یعقوب بن ابراہیم الانصاری الحنفی متوفی ۱۸۲ھ)
- (9) اَمَالِي الْخَمْسُمَائَةِ (ابو سعد عبدالکریم بن محمد الشافعی متوفی ۵۶۲ھ)

برصغیر پاک و ہند میں بھی ملفوظات جمع کرنے کا سلسلہ رہا ہے۔ مثلاً

- (۱) ”دلیل العرفان“ ملفوظات حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ القوی
  - (۲) ”فَوَائِدُ السَّالِكِينَ“ ملفوظات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الہادی
  - (۳) ”رَاحَةُ الْقُلُوبِ“ ملفوظات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
  - (۴) ”فَوَائِدُ الْفُؤَادِ“ ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
  - (۵) ”اَنيسُ الرّواحِ“ ملفوظات حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی
- صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت، مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے

ملفوظات نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ علم و معرفت کے ان خوشبودار مدنی پھولوں کو آپ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ المنان نے ایک ”ہار“ میں پرو کر آنے والی نسلوں کے لئے ”المملفوظ“ کے نام سے بطور تحفہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقائد، کلام، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، سلوک، ادب،

۱۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تفصیلی تعارف اسی کتاب کے صفحہ 27 پر ملاحظہ کیجئے۔

لغت، تاریخ، مناظرہ، تکسیر، توقیت، ہیئت جیسے 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے لہجہ عالم دین، مفتی، فقیہ اور محدث تھے۔ درجنوں علوم و فنون پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ ہر تصنیف میں آپ کی علمی وجاہت، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، بالخصوص فتاویٰ رضویہ تو غواص بحر فقہ کے لئے آکسیجن کا کام دیتا ہے۔ فتاویٰ رضویہ (غیر مخرجہ) کی 12 اور تخریج شدہ کی 30 جلدیں ہیں۔ یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کے ضخیم ترین فتاویٰ ہیں جو کہ تقریباً بائیس ہزار (22000) صفحات، چھ ہزار آٹھ سو سینتالیس (6847) سوالات کے جوابات اور دو سو چھ (206) رسائل پر مشتمل ہیں۔ جبکہ ہزار ہا مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چودھویں صدی کے مجدد ہیں لہذا الفاظ آپ کے قلم سے صفحہ قرطاس پر منتقل ہوئے ہوں یا زبان سے، دونوں صورتوں میں ہمارے لئے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ ”الملفوظ“ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے احکام بھی ہیں اور طریقت کے آداب بھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب بھی ہیں اور سلاطین اسلام کے تذکرے بھی، اصولی و فروعی مسائل کے دلائل بھی ہیں اور علوم و فنون سے اشتغال رکھنے والوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکالات کے جوابات بھی، حرام و حلال کے مسائل بھی ہیں اور خوابوں کی تعبیریں بھی، بزرگوں کی ایمان افروز حکایات بھی ہیں اور ذاتی تجربات بھی، علمی مذاکرے بھی ہیں اور اشعار کی تشریح بھی، ریاضیاتی اور سائنسی نظریات بھی ہیں اور تاریخ کے حقائق بھی، الغرض ”الملفوظ“ عوام و خواص کے لئے معلومات کا انمول خزانہ ہے۔

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ المآنان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے علم و حکمت کے ان موتیوں کو رشہ تحریر میں جوڑ کر ”الملفوظ“ کے نام سے پیش کر دیا۔ اگر مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بارگراں اپنے کندھوں پر نہ اٹھایا ہوتا تو شاید ہم علم و حکمت کے اس عظیم ذخیرے سے محروم رہ جاتے۔ اس عظیم الشان تالیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

۱: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ دَعْوَتِ اِسْلَامِي كِ مَلَكْتِبَةُ الْمَدِيْنَةِ فِي فَتَاوٰى رَضْوِيَّةِ كِي سَاْفَتْ وَبِيْرَسِي ڈِي بِي شَالَع كَرْدِي هِي، جَسِي مَلَكْتِبَةُ الْمَدِيْنَةِ كِي كَسِي بِي شَاخ سِي هَدِيَّةِ طَلَب كِيَا جَا سَلَكْتَا هِي نِي ز دَعْوَتِ اِسْلَامِي كِي وَبِي سَاْفَتْ WWW.DAWATEISLAMI.NET سِي ڈَاؤْن لُوڈ (download) بِي كِيَا جَا سَلَكْتَا هِي، اِس كِي لِي عِلَاوَه بِي سِي نَكْرُوں كِتَب وَرَسَاْل اُور مَفِيْد وِلْجَسَب سِلْسَلِي اِس وَبِي سَاْفَتْ پَر مَوْجُوْد هِي۔

کی صحبت سے حاصل ہونے والی برکتوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی لائق دید ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

”میری جان ان پاک قدموں (یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں) پر قربان! جب سے یہ قدم پکڑے آ نکھیں گھلیں، اچھے برے کی تمیز ہوئی، اپنا نفع و زیان (یعنی فائدہ اور نقصان) سوچھا۔ منہیات (یعنی ممنوعہ کاموں) سے تائبمقدور (یعنی امکان بھر) اختر از کیا (یعنی بچا) اور اوامر (یعنی شرعی احکام) کی منجباوری میں مشغول ہوا، اور اب اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس کی بانیض صحبت میں زیادہ رہنا اختیار کیا۔ یہاں جو یہ دیکھا کہ شریعت و طریقت کے وہ باریک مسائل جن میں مدتوں غور و خوضِ کامل کے بعد بھی ہماری کیا بساط (یعنی طاقت)! بڑے بڑے، سرٹیک کر رہ جائیں، فکر کرتے کرتے تھکیں اور ہرگز نہ سمجھیں اور صاف ”اَنَا لَا اَدْرِی“ (یعنی میں نہیں جانتا۔) کا دم بھریں، وہ یہاں ایک فقرے میں ایسے صاف فرمادیئے جائیں کہ ہر شخص سمجھ لے گویا ایشکال (یعنی دشوار) ہی نہ تھا اور وہ دقائِق و نکاتِ مذہب و ملت جو ایک چھیستان (یعنی پہیلی) اور ایک مَعْتَمًا ہوں جن کا حل دشوار سے زیادہ دُشوار ہو، یہاں منٹوں میں حل فرمادیئے جائیں۔ تو خیال ہوا کہ یہ جواہرِ عالیہ و زواہرِ عالیہ (یعنی چمکدار قیمتی موتی) یونہی مکھرے رہے تو اس قدر مفید نہیں جتنا انہیں سبک تحریر میں نظم کر لینے (یعنی تحریر کی لڑی میں پرونے) کے بعد ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ خود ہی مُتَمَتِّع ہونا (یعنی نفع اٹھانا) یا زیادہ سے زیادہ ان کا نفع حاضر باشانِ دربارِ عالی (یعنی موجودین) ہی کو پہنچنا، باقی اور مسلمانوں کو محروم رکھنا ٹھیک نہیں۔ ان (ملفوظات) کا نفع جس قدر عام ہوا اتنا ہی بھلا۔ لہذا جس طرح ہو یہ تفریق جمع ہو۔ مگر یہ کام مجھ سے بے بضاعت (یعنی بے مایہ) اور عَدِیْمُ الْفَرْصَت (یعنی مصروف ترین) کی بساط سے کہیں سوا (یعنی بڑھ کر) تھا اور گویا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا نا تھا، اس لئے بار بار ہمت کرتا اور بیٹھ جاتا۔ میری حالت اس وقت اس شخص کی سی تھی جو کہیں جانے کے ارادے سے کھڑا ہو مگر مُدْبَدَب (یعنی شش و پنج کا شکار) ہو ایک قدم آگے ڈالتا، اور دوسرا پیچھے ہٹا لیتا ہو مگر دل جو بے چین تھا کسی طرح قرار نہ لیتا تھا آخر ”اَلَسَّعَىٰ مِیْنِیْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ اللّٰهِ“ (یعنی کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔) کہتا، کمر ہمت چُھست کرتا اور ”حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ“ (یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔) پڑھتا اٹھا اور ان جواہرِ نفیسیہ (یعنی عمدہ موتیوں) کا ایک خوشنما ہار تیار کرنا شروع کیا اور میں اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس ہار ہی کو میری

حیث کا باعث بنائے ع این دعا اَز مَنْ وَاَزْ جُمْلَه جہاں آمین باد

(یعنی یہ دعائیں میری طرف سے اور آمین تمام جہان کی طرف سے۔ ت)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یہ عظیم الشان مجموعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کے آخری چند سال کے

ملفوظات پر مشتمل ہے اگر طویل مدّت کے ملفوظات جمع کئے جاتے تو آج ہمارے پاس معلومات کا بہت بڑا خزانہ

ہوتا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان ارشادات کو جمع کرنے کا سلسلہ مسلسل نہیں تھا۔ خود مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام اس

کی صراحت فرماتے ہیں: ”میں نے چاہا تو یہ تھا کہ روزانہ کے ملفوظات (یعنی ارشادات) جمع کروں مگر میری بے فرصتی

آڑے آئی اور میں اپنے اس عالی (یعنی بلند) مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ غرض جتنا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، آگے

قبول و اجر کا اپنے مولیٰ تعالیٰ سے سائل ہوں ”وَهُوَ حَسْبِي وَ رَبِّي“ (یعنی وہی میرا رب ہے اور مجھے کافی ہے۔ ت)“

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے یہ ”ملفوظات“ بنام ”الْمَلْفُوظُ“ ۱۳۳۸ھ/ 1919ء میں تالیف

ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے خود اس کا نام ”الملفوظ“ رکھا جو اس کی تاریخ تالیف (۱۳۳۸ھ) پر مشتمل ہے اور

یہ شعر عنایت فرمایا۔

میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملحوظ

نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں زبردینہ میں الملفوظ

اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان ملفوظات کو پڑھنے، یاد رکھنے اور حتی المقدور ان پر عمل کرنے

کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوت اسلامی)

## الْمَلْفُوظُ أَوْرَ الْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ (دَعْوَتِ اِسْلَامِي)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! روایت کا اعتبار راوی (یعنی روایت کرنے والے) کی ثقاہت (یعنی قابل اعتبار ہونے) پر ہوتا ہے۔ اگر راوی ثقہ (یعنی قابل اعتبار) ہو تو اس کی روایت بھی مستند سمجھی جاتی ہے اور اگر راوی کی ثقاہت میں شک ہو تو اس کی روایت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راوی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایسے ثقہ ہیں جن کے زہد و تقویٰ، دیانت داری، علمی و جاہت، وسعت مطالعہ، قوت حافظہ کی وجہ سے ثقاہت بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ لہذا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تالیف کردہ ”الملفوظ“ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فی زمانہ ملفوظات کے نسخوں میں باہم فرق، عبارتوں میں کمی بیشی، بعض مقامات کا بعض سے متضاد ہونا اور کتابت کی غلطیاں وغیرہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ”ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ“ کو مرتب ہوئے تادم تحریر (یعنی ۱۳۴۳ھ میں) تقریباً 92 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں نقل و نقل کی وجہ سے کتابت کی غلطیاں بڑھتی چلی گئیں۔ لہذا ملفوظات میں پائی جانے والی غلطیاں بعد والوں کا حصہ ہیں، صاحب ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا مولف کتاب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دامن ان سے پاک ہے۔ خود حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بعد والے نسخوں میں نقل و کتابت کی غلطیوں پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”نہ جانے کیسے چھپوا دیا ہے۔“

آج مسلمانوں کی اکثریت بزرگان دین علیہ رحمۃ اللہ السین کے علمی ذخائر سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھاپاتی جن میں ”الملفوظ“ بھی شامل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس مبارک زمانے میں ان ملفوظات کی تالیف ہوئی، اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے۔ اُس وقت علم دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ آج کی نسبت کہیں زیادہ تھا۔ صحبت علماء میں رہنا پھر دینی کتب کا مطالعہ کرنا مسلمانوں کے معمولات کا حصہ تھا۔ آہ! آج مسلمانوں کی اکثریت شوقِ علم دین سے محروم ہے حتیٰ کہ فرضِ علوم سیکھنے کی طرف بھی توجہ نہیں، اگر اس بات کا یقین نہ آئے تو کبھی بھرے مجمع میں عوام سے پوچھ لیجئے کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ وضو و غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ وغیرہا، چلئے یہی پوچھ لیجئے کہ عید الفطر کونسے اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے تو ایسے بھی ملیں گے جو لا علمی کا اظہار کریں گے۔ پھر علمی استعداد (یعنی صلاحیت) کا کیا کہئے کہ اُن دنوں جو باتیں عوام بھی جانتے تھے، آج درسِ نظامی (یعنی عالم کورس) کا طالب علم بھی

ٹھیک سے نہیں بتاتا۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ملفوظات کے اس علمی ذخیرے سے استفادہ یوں بھی مشکل ہو گیا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ زبان بھی بدلتی چلی گئی، الفاظ کا صحیح تلفظ اور ان کے معنی پر نظر رکھنا عوام کے لئے دشوار ترین ہوتا چلا گیا اور یوں یہ بھی خواص کی ہی عادت قرار پائی۔ پھر صاحبان علم و فن جانتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت (یعنی کلام کی عمدگی) اپنے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنے کے لئے دوسری بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ مخاطب (یعنی جس سے کلام کیا جائے) اور وقت متخاطب (یعنی کلام کرنے کے وقت) کی محتاج ہوتی ہے۔

ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو صاف ظاہر ہے آج عوام کا اپنے مُسن، اعلیٰ حضرت، مجددین و ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان ارشادات سے مستفید ہونا بے حد دشوار ہے۔ وہ عقیدت میں الملفوظ یا کوئی اور کتاب پڑھنے کے لئے کھولتے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد مکمل سمجھ نہ آنے کی وجہ سے تھک کر بند کر دیتے ہیں اور ایک طرف رکھ چھوڑتے ہیں پھر نفس و شیطان انہیں دوبارہ کتاب کھولنے ہی نہیں دیتے کہ پڑھ کر کیا کرو گے سمجھ تو آتی نہیں! پھر علماء کی دلچسپی روایات و حکایات کے حوالہ جات میں بھی ہوتی ہے جس سے سابقہ نسخے خالی تھے۔ لہذا ”الملفوظ“ کے ایسے نسخے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جس میں مشکل الفاظ کے معنی درج ہوں، مشکل جملوں کی تسہیل کی گئی ہو، حوالہ جات ہوں، کتابت کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں، پیچیدہ مقامات پر حواشی ہوں، علامات ترقیم کا اہتمام ہو، الغرض ہر وہ چیز ہو جو کتاب کے حسن اور افادے میں اضافہ کرے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے کی مجلس المدینۃ العلمیۃ نے عاشقِ اعلیٰ حضرت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کے احترام میں اس کتاب پر کام کا آغاز کیا۔ یہ کام جتنا عظیم تھا اتنا ہی مشکل ترین بھی تھا مگر ”مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں“ کے مصداق الملفوظ کے چاروں حصے اللہ عز و جل کی رحمت سے بحسن و خوبی مکمل ہوئے۔ اس عظیم تالیف پر ہم نے جس انداز سے کام کیا اس کی تفصیل ملاحظہ کیجئے:

**کام کرنے والوں کا انتخاب:** اس نسخے کی تیاری کے لئے جامعۃ المدینۃ (دعوتِ اسلامی) کے فارغ التحصیل 5 ذہین مدنی علماء دامت فیہم کو منتخب کیا گیا جو حوالہ جات کی تخریج، مقابلہ، پروف ریڈنگ اور کمپوزنگ میں قابلِ قدر



مہارت و تجربہ رکھتے ہیں۔ پھر ان کا ذمہ دار اُس مَدَنی عالم دین دام ظلہ العین کو بنایا گیا جو تقریباً 8 سال کے عرصے میں نئی و پرانی 100 سے زائد کتابوں پر کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کام کے تمام مراحل کے لئے متعدد مَدَنی مشورے کئے گئے، مفتیانِ کرام دامت فیوضہم سے بھی رہنمائی لی گئی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی بارگاہوں سے استمداد (یعنی مدد طلب) کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیا گیا۔

**کتابت:** اس نسخے کی کتابت (کمپوزنگ) حامد اینڈ کمپنی (مرکز الاولیاء لاہور) کے مطبوعہ نسخے سے کی گئی ہے۔

**مقابلہ:** مقابلے کے لئے نسخے حاصل کرنے کے لئے پاکستان اور ہندوستان کے متعدد علماء اور اداروں سے

بار بار رابطہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 4 نسخے {حامد اینڈ کمپنی (مرکز الاولیاء لاہور)، قادری کتاب گھر بریلی شریف (ہند)، مظہر العلوم یوپی (ہند) مشتاق بک کارنر (مرکز الاولیاء لاہور)} حاصل ہو گئے مگر افسوس کہ وہ نسخہ جسے خود مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب فرمایا تھا، حاصل نہ ہو سکا جس پر سوائے حسرت بھری آہ بھرنے کے کچھ نہ کر سکے۔ حال ہی میں الملفوظ کا انگریزی ترجمہ بھی ڈربن، ساؤتھ افریقہ سے شائع ہوا ہے، ایک اسلامی بھائی سے عاریتاً لے کر اس کا انداز بھی دیکھا گیا مگر کوئی خاص مدد نہ مل سکی۔ پھر 3 نسخوں (حامد اینڈ کمپنی (مرکز الاولیاء لاہور)، قادری کتاب گھر بریلی شریف (ہند)، مظہر العلوم یوپی (ہند)) کا انتخاب کر کے بیک وقت تین مَدَنی علماء سے مقابلہ کروایا گیا۔ پھر جہاں جہاں فرق نظر آیا اس کی نوعیت کے مطابق ترکیب بنائی گئی ہے۔ مثلاً اگر کتابت کی غلطی ہے تو درست کر دیا گیا، اگر محض الفاظ میں فرق ہے مگر معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کتاب کے اُسلوب کی رہنمائی میں الفاظ یا تو باقی رکھے گئے یا کہیں کہیں تبدیل کر دیئے گئے ہیں، وغیرہا۔

**ترجمہ:** جن عربی و فارسی عبارتوں کا ترجمہ موجود نہیں تھا، وہاں بریکٹ ( ) میں ترجمہ لکھنے کے بعد آخر میں

نشاندہی کے لئے ”ت“ لکھ دیا گیا ہے۔ جن آیات کا ترجمہ پہلے سے درج نہیں تھا وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ سے ترجمہ لکھا گیا ہے۔

**عنوانات و موضوعات:** سوالات کے عنوانات اور حکایات کے موضوعات دیئے گئے ہیں تاکہ مطالعہ

کرنے والوں کی دلچسپی بڑھے۔

**مشکل الفاظ کے معانی و اعراب :** پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے عربی عبارتوں اور مشکل الفاظ پر اعراب لگانے کے بعد بریکٹ ”{}“ میں مُرادِ معانی بھی لکھ دیئے گئے ہیں جبکہ مؤلف کی طرف سے دیئے گئے مفہیم کو پھول دار بریکٹ ”{}“ میں دیا گیا ہے۔ پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں ضرور بہت مواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہل علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی، اس لئے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو علماء کرام امت فیوضہم سے رابطہ کیجئے۔

**حواشی:** متعدد مقامات پر توضیح و تطبیق اور تسہیل کی غرض سے المدینۃ العلمیۃ کی طرف سے تقریباً 217 حواشی بھی دیئے گئے ہیں۔ ان حواشی کی تیاری میں مختلف کتب اور رسائل و جرائد سے بھی مدد لی گئی ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقریباً 30 حواشی ان کے علاوہ ہیں جن کے آخر میں ’۱۲‘ یا ’۱۳‘ منہ‘ یا ’۱۲‘ مؤلف غفرلہ“ لکھا ہوا ہے۔

**علامات ترقیم:** کامہ، فل اسٹاپ، استعجابیہ وغیرہ کی علامات جہاں پڑھنے والوں کو آسانی فراہم کرتی ہیں وہیں بعض اوقات معنی کو تبدیل ہونے سے بھی بچاتی ہیں، مثلاً ”روکومت جانے دو“ کو بغیر علامات کے لکھا جائے تو معنی مُرادِ سمجھنا مشکل ہے لیکن اگر ”روکو! مت جانے دو“ یا ”روکومت! جانے دو“ لکھا جائے تو لکھنے والے کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اس نسخے میں اس کا بھی التزام کیا گیا ہے، ایک مثال ملاحظہ ہو: ملفوظ حصہ اول میں ہے؛

**ارشاد:** میں نے اس میں کافر لکھا ہے۔

یہ جملہ کافر لکھنے کے دعویٰ پر دلالت کرتا ہے لیکن دراصل یہ جملہ استفہام ہے، لہذا! اگر آخر میں سوالیہ نشان ”؟“، لگا دیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

**تخریج:** ملفوظات کے اکثر نسخوں میں حوالہ جات درج نہیں تھے، ایک آدھ نسخے میں تھے بھی تو بہت کم اور اتنے مختصر کہ کہیں جلد نمبر نہیں ہے تو کہیں صفحہ نمبر غائب اور کہیں مطبوعہ مفقود! جس کی وجہ سے ملفوظات میں درج آیات، احادیث اور فقہی مسائل کے اصل ماخذ تک پہنچنے کے لئے علماء کرام و مفتیان عظام دامت فیوضہم کا کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آیات قرآنی، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل اور حکایات کے حوالہ جات، کتاب، جلد، باب، فصل اور صفحہ نمبر کی قید کے ساتھ

حتی المقدور تلاش کئے گئے اور انہیں شامل کتاب کیا گیا۔ جس کی وجہ سے اب درسِ نظامی کے ابتدائی درجات کا طالب علم بھی ان مسائل کو اصل ماخذ میں باسانی تلاش کر سکتا ہے۔ چونکہ کتابوں کے نام بار بار استعمال ہوتے تھے لہذا ہر کتاب کا مطبوعہ حوالے میں درج کرنے کے بجائے آخر میں **ماخذ و مراجع** کی فہرست مصنفین و مؤلفین کے ناموں، ان کی سن وفات اور مطابع کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے۔ حوالہ جات کے لئے فرد واحد پر تکیہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی صحت یقینی بنانے کے لئے یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ ایک مدنی اسلامی بھائی نے تخریج کی، پھر کمپیوٹر فائل میں ان حوالہ جات کو درج کرنے کے بعد پرنٹ آؤٹ کر کے دوسرے مدنی اسلامی بھائی سے اس کے لکھے ہوئے حوالہ جات کی تفتیش کروائی گئی، اگرچہ اس طریقہ کار کی وجہ سے کافی وقت صرف ہوا لیکن غلطی کا امکان کم سے کم رہ گیا۔

”فتاویٰ رضویہ“ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث و آثار کو روایت بالمعنی کرنے میں ”مُلَخَّصًا“ اور ”مُلْتَقَطًا“ کی اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں۔ چنانچہ ہم نے بھی تخریج میں اس کی صراحت کر دی ہے۔ مُلَخَّصًا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث یا روایت کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس کا مطلب تبدیل نہ ہو اور مُلْتَقَطًا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث یا روایت کے الفاظ تو بالکل وہی رہیں اور اس میں سے کچھ الفاظ کو ذکر کر دینا اور کچھ الفاظ کو حذف کر دینا اس طرح کہ اس کا مطلب تبدیل نہ ہو۔

**فہرست:** سوائے ایک کے فہرست سے تمام نسخے خالی تھے، چنانچہ کتاب کے شروع میں ہم نے اپنے انداز کے مطابق نئی فہرست بھی بنا دی ہے۔

**ضمنی فہرست:** جامعِ ملفوظات مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اندازِ تالیف یہ ہے کہ وہ سائل کے سوال کو عرض اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عطا کردہ ملفوظ کو ارشاد کے نام سے تعبیر فرماتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب کی ترتیب سائلوں کے سوالات کی ترتیب کے مطابق رکھی گئی لہذا کوئی فنی ترتیب قائم نہ ہو سکی مثلاً عقائد، عبادات، معاملات وغیرہ۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات رنگارنگ پھولوں کی پتھڑیوں کی طرح سینکڑوں صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے ہم نے کتاب کے آخر میں موضوعات کے مطابق ضمنی فہرست بھی شامل کر دی ہے تاکہ مسئلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔

**شمار یاتی جائزہ :** ملفوظات اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے اس علمی خزانے میں تقریباً 610 سوالات اور ان کے جوابات ہیں، جن میں تقریباً 194 آیات قرآنی، 306 احادیث مبارکہ اور 157 حکایات شامل ہیں۔ چاروں حصوں کی جداگانہ تفصیل ملاحظہ ہو:

حصہ اول میں 219 سوالات اور ان کے جوابات ہیں، جن میں 63 آیات قرآنی، 75 احادیث مبارکہ اور 29 حکایات شامل ہیں۔  
 حصہ دوم میں 94 سوالات اور ان کے جوابات ہیں، جن میں 43 آیات قرآنی، 99 احادیث مبارکہ اور 81 حکایات شامل ہیں۔  
 حصہ سوم میں 221 سوالات اور ان کے جوابات ہیں، جن میں 44 آیات قرآنی، 60 احادیث مبارکہ اور 27 حکایات شامل ہیں۔  
 حصہ چہارم میں 176 سوالات اور ان کے جوابات ہیں، جن میں 44 آیات قرآنی، 72 احادیث مبارکہ اور 20 حکایات شامل ہیں۔  
 الحمد للہ عَزَّوَجَلَّ! 15 ماہ کے قلیل عرصے میں بڑے سائز کے 550 سے زائد صفحات پر مشتمل ملفوظات اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے چاروں حصوں پر کام مکمل ہو گیا، اس دوران دیگر کتب پر بھی کام جاری رہا۔

## عرضِ حال

ملفوظات پر اس طرز سے کام کرنے میں جہاں مدنی علماء دامت برکاتہم العالیہ کی توانائیاں خرچ ہوئیں وہیں کُتب، کمپیوٹرز اور تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مدد میں دعوتِ اسلامی کا زرخیز بھی خرچ ہوا۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں دعویٰ کمال نہیں لہذا اس نسخے میں جو خوبی نظر آئے وہ ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے کلام کا جلوہ ہے، شہادۃ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عاشقِ اعلیٰ حضرت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے اور جہاں خامی ہو وہاں ہماری غیر ارادی کوتاہی کو دخل ہے۔ اسلامی بھائیوں بالخصوص علمائے کرام دامت فیوضہم سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں ضرورت محسوس کریں بذریعہ مکتوب یا ای میل ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کے تحقیقی و اشاعتی شعبے ”المدینۃ العلمیۃ“ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔

امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

**مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)**

12 جمادی الآخری 1430ھ، بمطابق 5 جون 2009ء

## حصہ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

(خطبہ از: شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ 0 اَحْسَنُ الْمَكْتُوْبَاتِ وَعَمْدَةُ الْمَلْفُوْطَاتِ حَمْدٌ مُّبْدِعٌ اَنْطَقَ الْمَوْجُوْدَاتِ بِاَنْ  
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا مَوْجُوْدٌ اِلَّا اللّٰهُ وَاَخْرَجَ الْمَعْدُوْمَاتِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ فَشَهِدْنَ اَنْ لَا مَشْهُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي  
خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَاَنْطَقَهُ بِفَصِيْحِ اللِّسَانِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ الْاَتَمَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰی سَيِّدِ الْاِنْسِ وَالْجَنِّ عَمِيْمِ  
الْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ شَفِيْعَيْنَا يَوْمَ الْجَزَعِ وَالْفَزَعِ عِنْدَ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ الَّذِي عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَحْضِ كَرَمِهِ حَنَّانٍ وَقَهَّارٍ عَلٰی اَجْبَالِ  
الْبَغْيِ وَالْعِنَادِ وَالْفَسَادِ وَالْكُفْرَانِ جَبَّارٍ عَلٰی الْمُرْتَدِّيْنَ وَعَلٰی مَنْ كَفَرَ بِهِ وَبِرَسُوْلِهِ دَيَّانٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ذِي الْكَرَمِ وَالْفُجْرَانِ حَامِي  
الْاِيْمَانِ مَاحِي الطُّغْيَانِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَالْفُسُوْقِ وَالْعَصِيَّانِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا نَاصِرِنَا وَمَاوِنَا حَامِيْنَا وَمَلْجَأَنَا السُّلْطَانِ اَبِي الْقَاسِمِ  
مُحَمَّدٍ رَسُوْلٍ رَيْنَا الرَّحْمٰنِ وَعَلٰی اِلٰهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ صَدَّقُوْهُ بِالْاَدْعَانِ وَاَمَنُوْا بِمَوْلَاهُمْ بِالْتَّصْدِيْقِ وَالْاِيْقَانِ وَسَعَدُوْا فِيْ  
مَنَاهَجِ الصِّدْقِ وَصَعَدُوْا مَعَارِجَ الْحَقِّ بِالثَّبَاتِ وَالْاِيْقَانِ هُمْ لِلدِّيْنِ اَسَاسٌ وَبُنْيَانٌ وَاَزَكَانَ اللّٰهُمَّ اِحْسُرْنَا مَعَهُمْ بِكَرَمِكَ  
وَاَدْخَلْنَا بِهِمْ دَارَ الْجَنَانِ بِرَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا غَفَّارُ يَا سُبْحَانَ اَمِيْنِ اَمِيْنِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا

ترجمہ:

ہم اللہ عزوجل کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رُود بھیجتے ہیں، سب سے اچھی تحریر اور عمدہ کلام، اس موجود (حقیقی) کی تعریف ہے جس نے موجودات کو قوت گویائی عطا فرمائی یاں طور کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ اس نے معدومات (یعنی غیر موجود) کو عدم سے وجود کی طرف نکالا تو انہوں نے گواہی دی کہ کوئی لائق ذکر نہیں سوائے اللہ عزوجل کے، لہذا تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا اور اسے فصیح زبان کے ساتھ قوت گویائی عطا فرمائی اور کامل و اکمل دُرد و سلام ہو تمام جن و انس کے سردار، سخاوت و احسان کے منبع پر جو کہ گھبراہٹ (یعنی قیامت) کے دن اُس احسان کرنے والے بادشاہ (اللہ تعالیٰ) کے حضور ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں جو محض اپنے کرم سے مومنوں پر احسان فرمانے والا، باغیوں، سرکشوں، فساد یوں، کافروں کی نسلوں پر قہر فرمانے والا، مرتدین پر غضب فرمانے والا اور اپنے رسول کے جھٹلانے والے کو بدلہ دینے والا ہے۔ یہ رحمت اور کرم و بخشش والے نبی، ایمان کی حمایت کرنے والے، سرکشی مٹانے والے، گناہ، نافرمانی اور معصیت بخشوانیوالے ہمارے سردار، ہمارے مولیٰ، ہمارے مددگار، ہماری جائے پناہ اور ہمارے حامی و مجاہد شہنشاہ ابوالقاسم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) جو ہمارے مہربان رب عزوجل کے رسول ہیں اور دُرد و سلام نازل ہوا کئی ال و اصحاب پر جنہوں نے سچے دل سے انکی تصدیق کی، اپنے مولیٰ پر صدق و یقین کے ساتھ ایمان لائے، راہِ صدق میں سعادت مند ہوئے اور حق کی بلندیوں میں ثابت قدمی و یقین کے ساتھ ترقی کی۔ وہ دین کی بنیاد، عمارت اور ستون ہیں۔ اے اللہ عزوجل تجھے اپنی رحمت و مغفرت کا واسطہ! اپنے کرم سے ہمارا حشرانکے ساتھ فرما اور انکے صدقے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے کریم! اے رحیم! اے غفار! اے سبحان! عزوجل قبول فرما، قبول فرما اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ { ترجمہ از المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی) }

## مُقَدِّمَہ کتاب

(از: شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن)

اللہ اللہ اہل اللہ کی زندگی اللہ تعالیٰ و تَبَارَكَ كِيَاك اعلیٰ نعمت ہے۔ ان کی ذات پاک سے ہر مصیبت ٹلتی ہے اور ہر اڑی مشکل باسانی بدلتی ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰہ انہی نفوسِ طیبہ طاہرہ (یعنی پاکیزہ ہستیوں) کے قُدوم (یعنی تشریف آوری) کی بَرَکت سے وہ وہ عُقْدَہ لَا یَنْحَلُّ (یعنی وہ مشکل مسئلہ جو حل نہ ہو سکیں) چٹکی بجاتے ہوئے حل ہوتے ہیں، جنہیں قیامت تک کبھی بھی ناخن تدبیر نہ کھول سکے، جس سے کیسا ہی کوئی عقیل و مُسَدِّبِر (یعنی دانشمند) ہو حیران رہ جائے، کچھ نہ بول سکے، جسے میزانِ عقل میں کوئی نہ تول سکے۔ اللہ اکبر! ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی رفتار، ان کی گفتار (یعنی گفتگو)، ان کی ہر رُوْش (یعنی انداز)، ان کی ہر اداء، ان کا ہر کردار، اسرار پر زور و ذکر عَزَّوَجَلَّ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بھیدوں) کا ایک بہترین مُرْتَقِع (یعنی مجموعہ) اور بولتی تصویر ہے کہ یہ اَنفَاسِ نَفِیْسَہ (یعنی پاک ہستیاں) مُظہَّر ذَاتِ عَلَیَا وَصِفَاتِ قُدْسِیَہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے انوار کی جلوہ گاہ) ہوتے ہیں مگر بَفَحْوَاۓ (یعنی برطابق فرمان الہی)

کُلُّ شَیْءٍ ۤہَا لَکَ اِلَّا وَجْہَہٗ ط (پ ۲۰، القصص: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔

اور

کُلُّ مَنْ عَلَیْہَا فَا نٌ ۙ وَ یَبِیْئُ وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلِیْلِ ۙ وَالْاِکْرَامِ ۙ (پ ۲۷، الرحمن: ۲۶، ۲۷) باقی ہے تمہارے رب کی ذاتِ عظمت اور بزرگی والا۔

دوام (یعنی ہمیشگی) کسی کے لئے نہیں، ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ رہے۔ ہمیشگی ربِّ عَزَّوَجَلَّ کو ہے، باقی جو موجود ہے معدوم (یعنی مٹ جانے والا، نہ رہنے والا ہے) اور ایک دن سب کو فنا ہے۔ اسی لئے اَسْلَافِ کَرَامِ رَحْمَۃِ اللّٰہِ عَلَیْہِم نے ایسے پاک اَنفَاسِ قُدْسِیَہ کے حالاتِ مبارکہ و مکاتیبِ طیبہ (یعنی خطوط مبارک) و ملفوظاتِ طاہرہ (یعنی پاکیزہ ارشادات) جمع فرمائے یا اس کا اڈن دیا (یعنی اجازت دی) کہ ان کا نفع قیامت تک عام ہو جائے اور ہمیں (یعنی ہم ہی) مُسْتَفِیْد (یعنی فائدہ اٹھانے والے) و مَحْظُوْظ (یعنی لطف آندوز) نہ ہوں بلکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں اور پھر وہ بھی یوں ہی اپنے اَخْلَافِ (یعنی بعد میں آنے والوں کے لئے) کیلئے پند و نصائح و وصایا ہنسیہات و اخلاص کے ذخیرے، اذکارِ عشق و محبت، مسائلِ شریعت و طریقت کے مجموعہ، معرفت

وحقیقت کے گنجینہ (یعنی خزانہ) کو اپنے پچھلوں کے لئے چھوڑ جائیں اور یہ سلسلہ یونہی قیامت تک جاری رہے سچ ہے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد      بسا کیس دولت از گفتار خیزد

{ یعنی: نہیں عشق محتاج زیارت، کہ یہ دولت حاصل گفتار سے بھی ہے } (کلیات جامی)

فقیر جب تک سن شعور (یعنی ہوش سنبھالنے کی عمر) کو نہ پہنچا تھا اور اچھے بُرے کی تمیز نہ تھی، بھلائی برائی کا ہوش نہیں تھا، اس وقت میں ایسے خیال ہونا کیا معنی؟ پھر جب سن شعور کو پہنچا تو اور زیادہ بے شعور ہوا، جوانی دیوانی مشہور ہے مگر ”الصُّحْبَةُ مُؤَثَّرَةٌ“ صحبت بغیر رنگ لائے نہیں رہتی اور پھر اچھوں کی صحبت! اور وہ بھی کون؟ (یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) جنہیں سید العلماء (یعنی علماء کا سردار) کہیں تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جنہیں تابع العرفاء (یعنی عارفین کا پیشوا) کہیں بجا (یعنی درست)، جنہیں مجیدِ دوقت اور اصمٰم الاولیاء (یعنی ولیوں کا امام) سے تعبیر کریں تو صحیح، جنہیں حرَمَیْنِ طَیْبَیْنِ کے علمائے کرام نے مدائحِ جلیلہ (یعنی خوب تعریفوں) سے سراہا، ”اِنَّهُ السَّيِّدُ الْفَرْدُ الْاِمَامُ“ (یعنی یہ یکتا و یگانہ سردار و امام ہیں۔ ت) کہا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے انہیں اپنا شیخِ طریقت بنایا، ان سے سندیں لیں، اجازتیں لیں، انہیں اپنا اُستاز مانا۔ پھر ایسے اچھے کی صحبت کیسی بابرکت صحبت ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس صحبت کی برکت نے انسان کر دیا۔ اُس زمانے میں کہ آزادی کی توند تیز ہو چلا رہی تھی کیا عجب تھا کہ میں غریب بھی اس بادِ صرصر (یعنی آندھی) کے تیز جھونکوں سے جہاں صد ہا بئس المصیر (بہت بُرے ٹھکانے میں) پہنچے وہیں جا رہتا مگر اپنے مولا کے قربان جس کی زمر عنایت نے پکا مسلمان بنا دیا وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔ اب نہ وہ خُودِی ہے جو بے خود (یعنی اپنے آپ سے بے خبر) بنائے تھی۔ نہ وہ مد ہوشی جو بیہوش کئے تھی۔ نہ وہ جوانی کی اُمنگ نہ کسی قسم کی کوئی اور ترنگ (یعنی جوش و جذبہ)۔ مولانا معنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ ع

صُحْبِتِ صَالِحٍ تُرَا صَالِحٍ كُنْدُ

(یعنی نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ ت)

مولانا کے اس فرمان کی مجھے آنکھوں دیکھی تصدیق ہوئی۔ اس معنی میں حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور کتنا اچھا فرمایا۔ میں بار بار اُن کے اشعار پڑھتا ہوں اور حظ (یعنی لطف) اٹھاتا ہوں، جب پڑھتا ہوں ایک نیا لطف پاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں:

## قَطْعہ

گلے خوشبوئے دَرِ حَمَامِ رُوزِے      رسید از دست محبوبِے بَدَسْتَمِ  
 بَدُو گُفْتَمِ کہ مَشْکِی یا عِیْرِی      کہ از بُوئے دَلَاوِیْزِ تو مَسْتَمِ  
 بَگُفْتَا مَن گَلِے نَاچِیْزِ بُودَمِ      ولیکن مُدَّتِے با گُلِ نَشَسْتَمِ  
 جَمَالِ هَم نَشِیْسِ دَر مَن اَثَرِ کَرْدِ      وگرنہ مَن هُمَاں خَاکَمِ کہ هَسْتَمِ

(یعنی: ایک دن حمام میں خوشبودار مٹی میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، میں نے اس سے پوچھا کہ تُو مشک ہے یا عِزیر کہ میں دل کو چھو لینے والی خوشبو سے دیوانہ ہوا جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا کہ میں ایک ناپسندیدہ چیز ہوں، مگر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک مجھے پھول کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، چنانچہ میرے ہم نشین کے حسن و جمال کی تاثیر مجھ میں اتر گئی ورنہ میں تو وہی ایک بے قیمت مٹی تھی۔ ت)

غرض میری جان ان پاک قدموں (یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں) پر قربان! جب سے یہ قدم پکڑے آ نکھیں گھلیں، اچھے برے کی تمیز ہوئی، اپنا نفع و زیان (یعنی فائدہ اور نقصان) سوچا۔ مَنہیات (یعنی ممنوعہ کاموں) سے تَابَمَقْدُور (یعنی امکان بھر) اجتناب کیا (یعنی بچا) اور اوامر (یعنی شرعی احکام) کی بجا آوری میں مشغول ہوا، اور اب اعلیٰ حضرت مَدَّةُ اَلْقُدْسِ کی بافیض صحبت میں زیادہ رہنا اختیار کیا۔ یہاں جو یہ دیکھا کہ شریعت و طریقت کے وہ باریک مسائل جن میں مَدَّةُ تُوں غور و خوضِ کامل کے بعد بھی ہماری کیا بساط (یعنی طاقت) بڑے بڑے سرٹیک کر رہ جائیں، فکر کرتے کرتے تھکیں اور ہرگز نہ سمجھیں اور صاف ”اَنَا لَا اَدْرِی“ (یعنی میں نہیں جانتا۔ ت) کا دم بھریں، وہ یہاں ایک فقرے میں ایسے صاف فرمادیئے جائیں کہ ہر شخص سمجھ لے گویا اشکال (یعنی دشوار) ہی نہ تھا اور وہ دَقَائِقِ وَ نِکَاتِ مَذْهَبِ وَ مِلَّتِ (یعنی مذہب و ملت کے باریک پہلو) جو ایک چیستان (یعنی پہیلی) اور ایک مَعْتَمَا ہوں جن کا حل دُشْوَار سے زیادہ دُشْوَار ہو، یہاں منٹوں میں حل فرمادیئے جائیں۔ تو خیال ہوا کہ یہ جو اہر عالیہ و زواہر عالیہ (یعنی چمکدار قیمتی موتی) یونہی بکھرے رہے تو اس قدر مُفِیْد نہیں جتنا انہیں سِلْکِ تحریر میں نَظْمِ کر لینے (یعنی تحریر کی لڑی میں پرونے) کے بعد ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ خود ہی مُتَمَتِّعِ ہونا (یعنی نفع اٹھانا) یا زیادہ سے زیادہ ان کا نفع حاضر باشان دربار عالی (یعنی دربار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت میں حاضر ہونے والوں) ہی کو پہنچنا باقی اور مسلمانوں کو محروم رکھنا ٹھیک نہیں۔ ان کا نفع جس قدر عام ہوا اتنا ہی بھلا۔ لہذا جس طرح ہو یہ تفریق (یعنی بکھرے ہوئے موتی) جمع ہو، مگر یہ کام مجھ سے بے بضاعت (یعنی بے مایہ) اور عَدِیْمُ الْفَرْصَتِ (یعنی مصروف ترین) کی بساط (یعنی طاقت) سے کہیں سوا (یعنی بڑھ کر)



تھا اور گویا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا نا تھا، اس لئے بار بار ہمت کرتا اور بیٹھ جاتا۔ میری حالت اُس وقت اس شخص کی سی تھی جو کہیں جانے کے ارادے سے کھڑا ہو مگر مُذْبَدَب (یعنی شش و پنج کا شکار) ہو ایک قدم آگے ڈالتا، اور دوسرا پیچھے ہٹا لیتا ہو مگر دل جو بے چین تھا کسی طرح قرار نہ لیتا تھا آخر ”الَسَّعَىٰ مِنِّي وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللَّهِ“ (یعنی کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ت) کہتا، کمر ہمت چُست کرتا اور ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ (یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ت) پڑھتا اٹھا اور ان جواہرِ نَفِيسَه (یعنی عمدہ موتیوں) کا ایک خوشنما ہار تیار کرنا شروع کیا اور میں اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس ہار ہی کو میری حیات کا باعث بنائے ع

### ایں دعا اَزْ مَنْ وَ اَزْ جُمْلَه جہاں آمین باد

(یعنی یہ دعا میری طرف سے اور آمین تمام جہان کی طرف سے۔ ت)

وَاللّٰهُ تَعَالٰی وَ لِيّ التَّوْفِیْقِ وَهُوَ حَسْبِیْ وَهُوَ خَيْرُ رَفِیْقٍ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

(ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ تو فیق دینے والا ہے۔ وہ مجھے کافی ہے اور بہترین رفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے اپنی مخلوق میں سے بہترین یعنی ہمارے آقا و مولیٰ محمد اور ان کی تمام آل و اصحاب پر۔ ت)

میں نے چاہا تو یہ تھا کہ روزانہ کے ملفوظات (یعنی ارشادات) جمع کروں مگر میری بے فرصتی آڑے آئی اور میں اپنے اس عالی (یعنی بلند) مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ غرض جتنا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، آگے قبول و اجر کا اپنے مولیٰ تعالیٰ سے سائل ہوں ”وَهُوَ حَسْبِیْ وَ رَبِّی“ (یعنی وہی میرا رب ہے اور مجھے کافی ہے۔ ت) وہ اگر قبول فرمائے تو یہی میری بگڑی بنانے کو بس ہے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے امید وار کہ وہ مجھ بے بضاعت و مسافر بے توشہ آخرت کیلئے دعا فرمائیں کہ رَبُّ الْعِزَّتِ تَبَارَكَ وَتَقَدَّسَ اِسْمُهُ مِیْرٰی فَلَاحٍ وَنَجَاتٍ كَاذِرٍ عِنْدَ رَبِّهِ۔

آمین آمین بِحُرْمَةِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ الْمَكِیْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَعَلٰی كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوْبٌ مَّرْضِیٌّ لَدَیْهِ

(یعنی اے اللہ) تمام رسولوں کے سردار عظیم و امین نبی کی عظمت کے صدقے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے حضور پر اور ہر اس آدمی پر جو حضور کا پسندیدہ اور پیارا ہے۔ ت)

## سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟

مولانا عبد العظیم صاحب صدیقی میرٹھی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) حاضر خدمت تھے انہوں نے **عرض** کی: حضور سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی گئی؟

**ارشاد:** حدیث میں ارشاد فرمایا:

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورًا  
سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔  
نَبِيَّكَ مِنْ نُورِهِ  
(كشف الخفاء، ج ۱، تحت الحديث ۸۲۶، ص ۲۳۷)

**عرض:** حضور میری مراد دنیا کی ہر چیز سے پہلے سے ہے۔

**ارشاد:** رَبُّ الْعِزَّتِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نے چار روز میں زمین اور دو دن میں آسمان (بنایا)۔ (پ ۲: ۴ السجدة ۹، تفسیر ابن عباس، سورہ یونس، تحت الایة ۳، ص ۲۱۸) ایک شنبہ تا چہار شنبہ (یعنی اتوار تا بدھ) زمین، و پنج شنبہ (یعنی جمعرات) تا جمعہ آسمان نیز اس جمعہ میں **بین العصر والمغرب** (یعنی عصر و مغرب کے درمیان) آدم علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو پیدا فرمایا۔  
(المستدرک للحاکم، الحدیث ۴۰۵۰، ج ۳، ص ۴۰۹ ملخصاً)

## باطنی علم کا ادنیٰ درجہ

**عرض:** ادنیٰ درجہ علم باطن کا کیا ہے؟

**ارشاد:** حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار سفر کیا اور وہ علم لایا جسے خواص و عوام سب نے قبول کیا۔ دوبارہ سفر کیا اور وہ علم لایا جسے خواص نے قبول کیا، عوام نے نہ مانا۔ سہ بارہ (یعنی تیسری بار) سفر کیا اور وہ علم لایا جو خواص و عوام کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔

یہاں سفر سے سیر اقدام (یعنی قدموں سے چلنا) مراد نہیں بلکہ سیر قلب (یعنی روحانی سفر) ہے۔ ان کے علوم کی حالت تو یہ ہے اور ادنیٰ درجہ ان سے اعتقاد، ان پر اعتماد و تسلیم۔ ارشاد جو سمجھ میں آیا فیہما (یعنی ٹھیک) ورنہ

كُلُّ مَنْ عِنْدَ سَائِبَانَ وَمَا يَدَّ كَسْرُ إِلَّا أَوْلُوا  
ترجمہ کنز الایمان: سب ہمارے رب (عَزَّوَجَلَّ)

کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔

○ (پ ۳، ال عمران: ۷)

حضرت شیخ اکبر و اکابر فن (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) نے فرمایا ہے کہ ادنیٰ درجہ علم باطن کا یہ ہے کہ اس کے عالموں کی تصدیق کرے کہ اگر نہ جانتا تو اُن کی تصدیق نہ کرتا۔

نیز حدیث میں فرمایا ہے:

أَعْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجِبًّا صَاحِبًا كَرَامًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجِبًّا  
وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ  
عالم کی باتیں سنتا ہے یا ادنیٰ درجہ یہ کہ عالم سے محبت رکھتا

(کشف الخفاء، الحدیث ۴۳۷، ج ۱، ص ۱۳۴) ہے اور پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔

## غیر عالم کو وعظ کہنا حرام ہے

**عرض:** کیا وعظ (یعنی مذہبی بیان کرنے والے) کا عالم ہونا ضروری ہے؟

**ارشاد:** غیر عالم کو وعظ کہنا (یعنی مذہبی باتوں کا بیان کرنا) حرام ہے۔ ۱۔

## عالم کون؟

**عرض:** عالم کی کیا تعریف ہے؟

**ارشاد:** عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مُسْتَقْبِل ہو اور اپنی ضُرُوریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔

## کیا علم صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟

**عرض:** کُتُبِیْنِ (یعنی کتابیں پڑھنے) ہی سے علم ہوتا ہے؟

**ارشاد:** یہی نہیں بلکہ علم ”أَفْوَاهِ رِجَالٍ“ (یعنی علم والوں سے گفتگو) سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ۲۔

۱: آقائے نعمت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، ”جاہل اَرْدُو خِوَالِ اِکْرَابِیْنِ طَرَفٍ سَے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں تخریج نہیں کہ اس وقت وہ جاہل سفیرِ مَحْضِ (یعنی محض پہنچانے والا) ہے اور حَقِیْقَةُ وَعْظِ اَوْسِ عَالِمٍ کَاہِے حَسَّ کِی کِتَابِ پڑھی جائے۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۴۰۹)

۲: اعلیٰ حضرت علیہ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ فَتَاوٰی رَضَوِیَہ جلد 23 صفحہ 683 پر فرماتے ہیں، سند کوئی چیز نہیں مہیترے سَندِ یَا فِتْرَہِ مَحْضِ بے بہرہ (یعنی علم دین سے خالی) ہوتے ہیں اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی اُن سَندِ یَا فِتْرَہِ میں نہیں ہوتی، علم ہونا چاہئے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۶۸۳)



## دُنیاوی فکروں کا قلبِ جاری پر اثر

**عرض :** کیا دُنیاوی تَفکُّرات کا قلبِ جاری لے پر اثر ہوتا ہے؟

**ارشاد :** ہاں! دُنیا کی فکریں جاری قلب کی حالت میں ضرور فرق ڈالتی ہیں۔

## سفر کون سے دن کرنا چاہئے؟

**عرض :** سفر کے لئے کون کون سے دن مخصوص ہیں؟

**ارشاد :** پنجشنبہ شنبہ دوشنبہ (یعنی جمعرات، ہفتہ اور پیر)، حدیث شریف میں ہے بروز شنبہ (یعنی ہفتہ) قبل طلوع آفتاب (یعنی سورج نکلنے سے پہلے) جو کسی حاجت کی طلب میں نکلے اس کا ضامن میں ہوں۔

(کنز العمال، الفصل الثالث..... الخ، الحدیث ۱۶۸۰۸، ج ۶، ص ۲۲۱)

(اسی سلسلہ تقریر میں فرمایا) بِحَمْدِ اللّٰهِ دوسرے بار کی حاضری حرمینِ طیبین میں یہاں سے جانے اور وہاں سے واپس آنے میں انہیں تین دن میں سے ایک دن میں روانگی ہوئی تھی اور بِفَضْلِہِ تَعَالٰی فقیر کا یومِ ولادت بھی شنبہ (یعنی ہفتہ) ہے۔

## سَيِّدُنَا صَدِيقِ اَكْبَرَ نَع كَس عُمر مِیں اِسْلَامِ قَبول كِیا؟

**عرض :** عمر شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولِ اسلام کے وقت کیا تھی؟

**ارشاد :** ۳۸ (اڑتیس) سال اور سوائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کہ حضور کی عمر شریف ۸۲ سال ہوئی ہر سہ (یعنی تینوں) خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین (میں سے ہر ایک) کی عمر مبارک نیز عمر شریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے برابر ہوئیں یعنی ۶۳ سال۔ اگرچہ اسمیں کچھ روز و ماہ کم و بیش ضرور تھی لیکن سالِ وفات یہی تھا۔

## قبولِ اسلام سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب

**عرض :** حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلِ قبولِ اسلام کیا مذہب رکھتے تھے؟

**ارشاد :** صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بُت کو سجدہ نہ کیا۔ 4 برس کی عمر میں آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے باپ بُت خانے میں لے گئے اور کہا:

۱: قلبِ جاری وہ قلب ہے جو خدا اور رسول (جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ذکر شریف میں مگن رہے۔ ۱۲ منہ

هُوَ لِآءِ إِلَهَتِكَ الشَّمُّ الْعُلَى فَاسْجُدْ لَهُمْ  
یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔

جب آپ بُت کے سامنے تشریف لے گئے، فرمایا: ”میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں تنگ ہوں مجھے کپڑا دے، میں پتھر مارتا ہوں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔“ وہ بُت بھلا کیا جواب دیتا۔ آپ نے ایک پتھر اس کے مارا جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا اور قوتِ خدا داد کی تاب نہ لاسکا۔ باپ نے یہ حالت دیکھی انہیں غصہ آیا، انہوں نے ایک تھپڑ خسار مبارک پر مارا، اور وہاں سے آپ کی ماں کے پاس لائے۔ سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا: ”اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ

يَا أُمَّةَ اللَّهِ عَلَى التَّحْقِيقِ أَبَشْرِي بِالْوَالِدِ  
اے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی سچی لونڈی تجھے مژدہ ہو اس  
الْعَتِيقِ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ الصِّدِّيقُ لِمُحَمَّدٍ  
آزاد بچے کا، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد  
صَاحِبٌ وَ رَفِيقٌ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

میں نہیں جانتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟“ اُس وقت سے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کسی نے شرک کی طرف نہ بلایا۔ یہ روایت صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خود مجلس اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں بیان کی جب یہ بیان کر چکے، جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے {علیہ الصلوٰۃ والسلام} اور عرض کی

صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ  
ابو بکر نے سچ کہا۔

یہ حدیث ”مَعَالِي الْفُرُشِ إِلَى عَوَالِي الْعَرْشِ“ میں ہے اور اس سے امام احمد قسطلانی (علیہ رحمۃ اللہ انہی) نے شرح صحیح بخاری میں ذکر کی۔ (ملخصاً، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، ج ۸، ص ۳۷۰)

## حَضْرَتِ صَدِّيقِ اَكْبَرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْ فَضَائِلِ

جب سے خدمتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں حاضر ہوئے کسی وقت جدا نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بعدِ وفات بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے دستِ اقدس میں حضرت صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہاتھ لیا اور بائیں دستِ مبارک میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہاتھ لیا اور فرمایا: هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے روز یوں اٹھائے جائیں گے۔

(جامع ترمذی، کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر، الحدیث ۳۶۸۹، ج ۵، ص ۳۷۸)

امام اہلسنت سیدنا امام ابوالحسن اشعری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

لَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ بَعِيْنِ الرِّضَا مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ هَيْشَةَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كِي: مَرِّ رِضَا سَعِيْ مَنظُور رِهِيْ-

(ملخصاً، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، ج ۸، ص ۳۷۰)

ابن عساکر امام زہری تلمیذ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی

مِنْ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَشْكُ فِي اللّٰهِ صَدِيق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے فضائل سے ایک یہ

سَاعَةً (معرفة الصحابة، ج ۱، ص ۵۲) ہے کہ انہیں کبھی اللہ (عَزَّوَجَلَّ) میں شک نہ ہوا۔

امام عبدالوہاب شمرانی "الْيَوْمَ الْقِيَامِ وَالْجَوَاهِرِ" میں فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا "أَتَذْكُرُ يَوْمَ يَوْمٍ" کیا تمہیں اُس دن والا دن یاد ہے۔ عرض کی: "ہاں یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ اُس دن سب سے پہلے حضور نے "بَلَىٰ" فرمایا تھا۔ بالجملہ (الغرض) صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزِ اکسٹ<sup>۱</sup> سے روزِ ولادت اور روزِ ولادت سے روزِ وفات اور روزِ وفات سے اَبَدُ الْآبَادِ (یعنی ہمیشہ ہمیشہ) تک سردارِ مسلمین ہیں۔"

### حضرت مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل رسالہ

یوں ہی سیدنا مولانا علی کَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ اس بارے میں میرا ایک خاص رسالہ ہے: "تَنْزِيْهُ الْمَكَانَةِ

الْحَيْدَرِيَّةِ عَنِ وَصْمَةِ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ" ۲

### دھوبی اور طوائف کے ہاں کھانا کھانا کیسا؟

**اِسْتَفْتَا:** دھوبی کے یہاں گیارہویں شریف کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور فاحشہ (یعنی طوائف) کے یہاں کھانے اور اس سے قرآنِ عظیم کی تلاوت کرنے کی تنخواہ لینے کا کیا حکم ہے؟

**الجواب:** دھوبی کے یہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ دھوبی کے یہاں کھانا ناپاک

۱: وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا کہ "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" (ترجمہ کنز الایمان: کیا میں تمہارا رب نہیں؟

(پ ۹، الاعراف ۱۷۱) اور روحوں نے جواب میں کہا تھا "بَلَىٰ" (ترجمہ کنز الایمان: کیوں نہیں!) (پ ۹، الاعراف ۱۷۱)۔

۲: یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ جلد ۲۸، صفحہ ۳۳۳ پر موجود ہے۔





لَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ الْفِتْرَةِ (ہم اندیشہ کرتے ہیں کہ) اگر تو اسی حال پر مرا  
الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهَا تو دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ مرے گا۔

(ملفوظاً، صحیح البخاری کتاب الاذان باب اذا لم يتم الركوع، الحدیث ۷۹۱، ج ۱، ص ۲۷۸)

## کیا ہر ممکن چیز پیدا ہو چکی ہے؟

**عرض:** کیا جس قدر ممکنات ہیں وہ تحت قدرت باری معنی (یعنی اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں) داخل ہیں کہ ان کو پیدا فرما چکا ہے؟

**ارشاد:** نہیں بلکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ممکن ہیں اور پیدا نہ فرمائیں مثلاً کوئی شخص ایسا پیدا کر سکتا ہے کہ سر آسمان سے لگ جائے مگر پیدا نہ فرمایا۔

## جن و پری کا مسلمان ہونا

**عرض:** حضور کیا جن و پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟

**ارشاد:** ہاں۔ (تفسیر القرآن العظیم، پ ۲۹، الجن تحت الاية ۱۱، ج ۸، ص ۲۵۴)

## مسلمان پری کی حکایت

{اور اسی تذکرہ میں فرمایا { ایک پری مشرف باسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی۔ جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا۔ عرض کی حضور! میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا وہاں گئی تھی۔ راہ میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے میں نے اس کی یہی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید رب العزت تعالیٰ میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔

## پیر کے وصال کے بعد کسی اور سے بیعت ہونا کیسا؟

**عرض:** زید، محمد شیرمیاں صاحب پیلہ بھتی (علیہ رحمۃ اللہ الہادی) سے بیعت ہوا۔ تھوڑا عرصہ ہوا کہ اُنکا وصال ہو گیا اب کسی اور کا مرید ہو سکتا ہے؟

**ارشاد:** تبدیل بیعت بلا وجہ شرعی ممنوع ہے اور تجدید جائز بلکہ مستحب ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں (مرید) نہ ہوا ہو اور

اپنے شیخ سے بغیر انحراف کئے (یعنی بیعت توڑے بغیر) اس سلسلہ عالیہ میں بیعت کرے، یہ تبدیل بیعت نہیں بلکہ تجدید ہے کہ جمیع سلاسل اس سلسلہ اعلیٰ (یعنی سلسلہ قادریہ) کی طرف راجع (یعنی متوجہ) ہیں۔

## مُرید ہونا اس سے سیکھو

(اسی سلسلے میں ارشاد ہوا) تین قلندر نظام الحق والدین محبوب الہی قَدَسَ سِرُّهُ الْعَزِيزِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا مانگا۔ خدام کو لانے کا حکم فرمایا۔ خادم نے جو کچھ اُس وقت موجود تھا، اُن کے سامنے رکھا۔ اُن میں سے ایک نے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور کہا: ”اچھا کھانا لاؤ۔“ حضرت نے اس ناشائستہ حرکت کا کچھ خیال نہ فرمایا۔ خدام کو اس سے اچھا لانے کا حکم فرمایا۔ خادم پہلے سے اچھا کھانا لایا، انہوں نے پھر پھینک دیا اور اس سے بھی اچھا مانگا۔ حضرت نے اور اچھے کا حکم دیا۔ غرض انہوں نے اس بار بھی پھینک دیا، اور اس سے بھی اچھا مانگا۔ اس پر اُس قلندر کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ارشاد فرمایا: کہ یہ کھانا اس مُردارِ بیل سے تو اچھا تھا جو تم نے راستہ میں کھایا۔ یہ سنتے ہی قلندر کا حال متغیر (یعنی تبدیل) ہوا۔ راہ میں تین فاقوں کے بعد ایک مرا ہوا بیل جس میں کیڑے پڑ گئے تھے ملا تھا، اُس کا گوشت کھا کر آئے تھے۔ قلندر حضور کے قدموں پر گرا۔ حضور نے اس کا سراٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور جو کچھ عطا فرمانا تھا عطا فرما دیا۔ اس وقت وہ وجد میں رقص کرتا اور یہ کہتا تھا کہ میرے مرشد نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین نے کہا: بیوقوف جو کچھ تجھے ملا وہ حضرت کا عطا کیا ہوا ہے، یہاں تک تو ٹوٹو بالکل خالی آیا تھا۔ کہا: بے وقوف تم ہو اگر میرے مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور کیوں نظر فرماتے، یہ اُسی نظر کا ذریعہ ہے۔ اس پر حضرت نے کہا: یہ سچ کہتا ہے اور فرمایا: ”بھائیو! مرید ہونا اس سے سیکھو۔“

## گائے کی قربانی

ایک روز (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بعد نمازِ عصر مسجد سے تشریف لائے۔ اس وقت حاضرین میں مولانا امجد علی صاحب اعظمی (علیہ رحمۃ اللہ الخفی) بھی تھے، رسالہ ”اَنْفَسُ الْفِکْرِ فِي قُرْبَانِ الْبَقَرِ“ لے اُن دنوں طبع ہو رہا تھا۔ اس میں مولوی عبداللہ صاحب کے دو فتوے کہ قربانی گاؤ سے متعلق تھے، اس رسالہ میں نقل کئے گئے تھے اسی رسالہ کی نسبت تذکرہ ہو رہا

- ۱: مسئلہ: اضطرار کی حالت میں یعنی جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے اور ان چیزوں کے کھالینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۶، ص ۱۶ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی)
- ۲: یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ تخریج شدہ جلد ۱۴، ص ۲۴۵ پر موجود ہے۔



سامنے جماع مکروہ ہے ورنہ حرج نہیں۔“ (الفتاویٰ الہندیۃ کتاب النکاح، مطلب عدد الغیاب المتعۃ، ج ۱، ص ۳۰۴) تو جب نا سمجھ بچے کے سامنے جائز ہے حالانکہ آدمی ہے۔ جانور کے سامنے کیوں ممانعت؟

## ناسمجہ بچے کے سامنے جماع کیوں ممنوع ہے؟

**مؤلف:** فقہائے کرام نے یہ شرط کیوں زائد کی کہ غیر سے بیان کر سکتا ہو! محض سمجھنا کافی تھا، اور اس پر یہ بھی الزام آتا ہے کہ گونگے اپانچ کے سامنے جائز ہو اور اسے کسی طرح عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

**ارشاد:** سمجھنے کے دو معنی ہیں ایک نفس حرکات کو سمجھنا، یہ بچے میں قوت بیان (یعنی بولنے کی طاقت) آنے سے پہلے ہوتا ہے اور (دوسرا) یہ سمجھنا کہ یہ حرکات شرم و حیا ہیں، ان کا انخفا (یعنی چھپانا) ضرور ہے۔ یہ قوت بیان آنے کے بہت بعد ہوتا ہے۔ بیان کے لئے پہلا سمجھنا لازم ہے اور اسی قدر ممانعت کے لئے کافی کہ خود اگر چہ اسے کوئی امر شرم و حیا نہ سمجھا مگر دوسروں سے کہہ تو سکے گا بخلاف دوسرے معنی فہم کے کہ وہ مانع مستقل (یعنی مستقل رکاوٹ) ہے، اس میں دوسرے سے بیان کی حاجت نہیں تو جس میں دوسرے معنی کا سمجھنا ہو، اس کے سامنے بدرجہ اولیٰ مطلقاً ممانعت ہے اگر چہ بیان نہ کر سکے۔

## تاریخ کی ابتدا و انتہا کے 4 طریقے

**عرض:** حضور آج کیا پہلی تاریخ ہے؟

**ارشاد:** پہلی تاریخ تھی۔ کل چاند ہوا، آج دوسری شب ہے۔ تاریخ کی ابتدا و انتہا میں چار طریقے ہیں: ایک طریقہ نصاریٰ (یعنی عیسائیوں) کا کہ ان کے یہاں نصف شب سے نصف شب تک تاریخ کا شمار ہے۔ دوسرا ہنود (یعنی ہندوؤں) کا کہ طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب تک، تیسرا طریقہ فلاسفہ یونان کا ہے کہ نصف النہار سے نصف النہار تک، علمِ بینات میں یہی ماخوذ ہے۔ چوتھا طریقہ مسلمانوں کا کہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک اور یہی عقلِ سلیم پسند کرتی ہے کہ ظلمت (یعنی اندھیرا) نور سے پہلے ہے۔

## کیا گائے کا گوشت صحت کے لئے نقصان دہ ہے؟

**مؤلف:** حاضرین میں گائے کا گوشت کھانے کا اور اس کے مُضِر (یعنی نقصان دہ) ہونے کا ذکر آیا۔ اس پر فرمایا:

**ارشاد:** وہ قطعاً حلال اور نہایت غریب پرور گوشت اور بعض اُمزجہ (یعنی طبیعتوں) میں گوشتِ بُز (یعنی بکری کا گوشت) سے نافع تر (یعنی زیادہ مفید) ہے۔ بہتیرے گوشت کے شوقین اسے پسند کرتے اور بکری کے گوشت کو بیمار کی خوراک کہتے ہیں اور اس کی قربانی کا

تو خاص قرآن عظیم میں ارشاد ہے (پ ۱، البقرہ: ۷۱) اور خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس (یعنی گائے) کی قربانی ازواج

مطہرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) کی طرف سے فرمائی۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج باب بیان وجوہ الاحرام الخ، الحدیث ۱۲۱۱، ص ۶۲۸)

ہندوستان میں بالخصوص شعائرِ اسلام (یعنی اسلام کی نشانیوں) سے ہے اور اس کا باقی رکھنا واجب، بعض لیڈر بننے والے کہ ہنود سے اتحاد منانے کے لئے اس کا انسداد (یعنی روک تھام) چاہتے ہیں، بدخواہ مسلمانان (یعنی مسلمانوں کا بُرا چاہنے والے) ہیں مگر عجب ہے کہ کوئی ہندو اتحاد بگھارنے کو مساجد کے قریب بھی گھٹنایا سنگھ بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ اتحاد کی یک طرفہ تالی ان لیڈروں ہی کو نصیب ہے۔ ہاں! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا گوشت تناول فرمانا ثابت نہیں! اور مجھے تو سخت ضرر کرتا ہے۔

## مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا کی برکتیں

ایک صاحب نے میری دعوت کی، باصرار لے گئے۔ ان دنوں جناب سید حبیب اللہ دمشقی جیلانی (علیہ رحمۃ اللہ الغنی) فقیر کے یہاں مقیم تھے، ان کی بھی دعوت تھی میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنا رہے تھے اور حلوائی پوریاں، یہ ہی کھانا تھا۔ سید صاحب نے مجھ سے فرمایا: ”ٹو گائے کے گوشت کا عادی نہیں اور یہاں کوئی اور چیز موجود نہیں، بہتر کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے۔“ میں نے کہا کہ ”یہ میری عادت نہیں۔“ وہی پوریاں

۱: اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فتاویٰ رضویہ جلد 20 صفحہ 321 پر لکھتے ہیں: ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی فرمائی اور اس کے کھانے کھلانے کا حکم فرمایا خود بھی ملاحظہ فرمایا یا نہیں؟ اس کا ثبوت نہیں۔“ شہزادہ اعلیٰ حضرت، حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ ان نے اس پر حاشیہ لکھا کہ ”حدیث مسلم کتاب الزکوٰۃ کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے لئے گوشت گاؤ (یعنی گائے کا گوشت) صدقہ میں آیا، وہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس لایا گیا اور حضور سے عرض کیا گیا کہ یہ صدقہ ہے کہ بریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو آیا فرمایا: ”اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ۔“ اس سے بظاہر تناول فرمانا معلوم ہوتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۰، ص ۳۲۱)

۲: امام اہلسنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ جلد 21 صفحہ 652 پر لکھتے ہیں: ”کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے، مکروہ و خلاف سنت ہے۔ (سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی) عادت کریمہ یہ تھی کہ پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ نہیں اور پرانے گھر عیب نکالنا تو (اس میں) مسلمانوں کی دل نشینی ہے اور کمال حرص و بے مروتی پر دلیل ہے۔“ گھی کم ہے یا مزہ کا نہیں، عیب نکالنا ہے اور اگر کوئی شے اسے مضر (نقصان دیتی) ہے، اسے نہ کھانے کے عذر کے لئے اس کا اظہار کیا نہ (کہ) بطور طعن و عیب مثلاً اس میں مرچ زائد ہے میں مرچ کا عادی نہیں تو یہ عیب نکالنا نہیں اور اتنا بھی (اس وقت ہے کہ جب) بے تکلفی خاص کی جگہ ہو اور اس کے سبب دعوت کنندہ (یعنی میزبان) کو اور تکلیف نہ کرنی پڑے مثلاً دو قسم کا سالن ہے، ایک میں مرچ زائد ہے اور یہ عادی نہیں تو اسے نہ کھائے اور وجہ پوچھی جائے بتادے۔ اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے، اب اگر (یہ) نہیں کھاتا تو دعوت کنندہ (یعنی میزبان) کو اس کے لئے کچھ اور منگوانا پڑے گا، اُسے ندامت ہوگی اور تنگ دست ہے تو تکلیف ہوگی ایسی حالت میں مروت یہ ہے کہ صبر کرے اور کھائے اور اپنی اذیت ظاہر نہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۱، ص ۶۵۲)

کباب کھائے۔ اسی دن مسوڑھوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اُتاتا، اور اسی پر اکتفا کرتا، بات بالکل نہ کر سکتا تھا یہاں تک کہ قراءتِ سرّیہ (یعنی آہستہ قراءت) بھی میسر نہ تھی۔ سنتیں بھی کسی کی اقتدا کر کے ادا کرتا۔ اس وقت مذہبِ حنفی میں عدمِ جوازِ قراءتِ خَلْفَ الْإِمَامِ (یعنی امام کے پیچھے قراءتِ جائز نہ ہونے) کا یہ نفیس فائدہ مشاہدہ ہوا۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا لکھ دیتا، بخار بہت شدید تھا اور کان کے پیچھے گلٹیں۔ میرے منجھلے (یعنی مجھ سے چھوٹے) بھائی (مولانا حسن رضا خان) مرحوم ایک طبیب کولائے۔ اُن دنوں بریلی میں مرضِ طاعون<sup>۱</sup> بشدت تھا۔ اُن صاحب نے بغور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا: ”یہ وہی ہے! وہی ہے! وہی ہے! وہی ہے!“ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا اس لئے انہیں جواب نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں نہ مجھے طاعون ہے، نہ ان شاء اللہ العزیز کبھی ہوگا، اس لئے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا وہ دُعا پڑھ لی ہے جسے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دُعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ رہیگا۔

## مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا

وہ دُعا یہ ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ  
وَفَضَّلَنِي عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ط  
یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے اس سے بچایا جس  
میں تُو مبتلا ہے اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ت

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات باب ما یقول اذا رای مبتلی، الحدیث ۳۴۴۲، ج ۵، ص ۲۷۲)

(دورانِ کلام اس دُعا کی برکتیں بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا بِحَمْدِهِ تعالیٰ آج تک اُن سب سے محفوظ ہوں اور بَعُوْنَهُ تعالیٰ (یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے) ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔ البتہ ایک بار اسے پڑھنے کا مجھے افسوس ہے۔ مجھے نوعمری میں آشوبِ چشم<sup>۲</sup> اکثر ہو جاتا اور بوجہِ حدّتِ مزاج (یعنی مزاج کی گرمی کی بنا پر) بہت تکلیف دیتا تھا۔ ۱۹ سال کی عمر ہوگی کہ رامپور جاتے ہوئے ایک شخص کو رمہ چشم (یعنی آنکھوں کی بیماری) میں مبتلا دیکھ کر یہ دُعا پڑھی۔ جب سے اب تک آشوبِ چشم پھر نہ ہوا۔ اُسی

۱: ایک ہلاکت خیز بیماری جس میں جسم پر گلٹیاں نکلتی ہیں اور تیز بخار ہوتا ہے۔

۲: آنکھوں کی ایک بیماری جس میں آنکھوں میں شدید جلن ہوتی ہے اور مارے درد کے یہ سُرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے۔

زمانہ میں صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آنکھ کچھ دہتی معلوم ہوئی دو چار دن بعد وہ صاف ہو گئی۔ دوسری دہی پھر وہ بھی صاف ہو گئی مگر درد، کھٹک، سرخی کوئی تکلیف اصلاً کسی قسم کی نہیں۔ افسوس اس لئے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ تین بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو۔

(۱) زکام: کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

(۲) کھجلی: کہ اس سے امراضِ جلد یہ جذام (یعنی کوڑھ) وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے (یعنی راستہ زک جاتا ہے)۔

(۳) آشوبِ چشم: نابینائی (یعنی اندھے پن) کو دفع کرتا ہے۔

اُس دعا کی برکت سے یہ تو جاتا رہا، ایک اور مرض پیش آیا جمادی الاولیٰ ۱۳۰۰ھ میں بعض اہم تصانیف کے سبب ایک مہینہ کامل باریک خط کی کتابیں شبانہ روز عَلیّ الاتصال (یعنی مسلسل) دیکھنا ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، دن کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا، اٹھائیسواں سال تھا، آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدتِ گرمی کے باعث دو پہر کو لکھتے لکھتے نہ پایا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے وہی آنکھ میں اتر آئی۔ بائیں آنکھ بند کر کے وہی سے دیکھا تو وسطِ شے مَرئی (یعنی نظر آنے والی چیز کے درمیان) میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔ اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہو اوہ ناصاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔ یہاں اس زمانہ میں ایک ڈاکٹر علاجِ چشم میں بہت سربر آوردہ تھا۔ سینڈرسن یا انڈرسن کچھ ایسا ہی نام تھا۔ میرے استاذ<sup>۱</sup> جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصرار فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے۔ علاج

۱: حضرت مرزا صاحب مرحوم مغفور اعلیٰ حضرت قبلہ کے استاد بھی تھے کہ حضرت قدس سرہ نے ابتدائی تعلیم مرزا صاحب سے کچھ دن حاصل کی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی تھے کہ بعض کتب درسیہ غالباً ہدایہ وغیرہ انہوں نے حضور پر نور مرحوم مغفور سے پڑھیں۔ ۱۲۔ ۲: یہاں مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرزا قادیانی کا بھائی مراد نہیں، کیونکہ وہ 1883ء ۱۳۰۱ھ میں فوت ہو گیا تھا جبکہ اعلیٰ حضرت کے استاذ محترم مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش یکم محرم ۱۲۳۳ھ / 25 جولائی 1827ء کی ہے اور سن وفات یکم محرم ۱۳۳۶ھ / 18 اکتوبر 1917ء ہے۔ مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے پاس ایک اشتفتا بھیجا، جس کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے ۱۳۰۵ھ میں تاریخی نام سے ایک رسالہ لکھا جسلی البقیین بان نبینا سید المرسلین (۱۳۰۵ھ)۔ پھر یہی مولانا مرزا غلام قادر بیگ 1310ھ میں کلکتہ سے استفسار کرتے ہیں، پھر 1311ھ اور 1312ھ میں کلکتہ ہی سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ پھر کلکتہ ہی سے 1314ھ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت سے سوال کرتے ہیں۔ یہ فتوے، فتاویٰ رضویہ، جلد 22، ص 152، فتاویٰ رضویہ (قدیم)، جلد 3 ص 32۔ فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص 45 (رضا فاؤنڈیشن لاہور) پر موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص 1301ھ میں فوت ہو اور پھر دوبارہ 1305ھ میں زندہ ہو جائے اور کئی سال تک فتوے طلب کرے؟ (ماخوذ از معارف رضا)

کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں صرف آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک بغور دیکھا اور کہا: ”کثرت کتاب بنی سے کچھ یَبُوسَت (یعنی خشکی) آگئی ہے۔ پندرہ دن کتاب نہ دیکھو۔“ مجھ سے پندرہ گھڑی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی۔ مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم سہ سوانی ڈپٹی کلکٹر طبابت بھی کرتے تھے اور فقیر کے مہربان تھے، فرمایا: ”مقدمہ نزولِ آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) بیس برس بعد {خدا ناکردہ} پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی)۔“ میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزولِ آب (یعنی موتیے کی بیماری) والے کو دیکھ کر وہی دُعا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادِ پاک پر مطمئن ہو گیا۔ ۱۶۳۱ھ میں ایک اور حاذق (یعنی ماہر) طبیب کے سامنے ذکر ہوا، بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئیگا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے بیس برس کہے تھے، انہوں نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے مَعَاذَ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہ بیس درکنار بیس برس سے زائد گزر چکے ہیں، اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا۔ نہ بَعُوْنِہ تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتاب بنی میں کبھی کمی کی، نہ اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ کمی کروں۔ یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائم و باقی معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں دیکھے جارہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے، میں اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو ارشادات کے منافع میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کئے تو ایک دفتر ہو۔

(پھر فرمایا) مجھے ارشادِ حدیث پر اطمینان تھا کہ مجھے طاعون کبھی نہ ہوگا۔ آخر شب میں کرب (یعنی درد) بڑھا، میرے دل نے درگاہِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میں عرض کی: ”اَللّٰهُمَّ صَدِّقِ الْحَبِیْبِ وَ كَذِّبِ الطَّیِّبِ“ (یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے حبیب کا سچا اور طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر فرما دے۔ ت) کسی نے میرے دانے کان پر مونہ رکھ کر کہا کہ مسواک اور سیاہ مرچیں۔ لوگ باری باری سے میرے لئے جاگتے۔ اسوقت جو شخص جاگ رہا تھا میں نے اشارے سے اسے بلایا اور اسے مسواک اور سیاہ مرچ کا اشارہ کیا۔ وہ مسواک تو سمجھ گئے، گول مرچ کس طرح سمجھیں غرض بمشکل سمجھے۔ جب یہ دونوں چیزیں آئیں بِرَدِّقَت (یعنی بمشکل) میں نے مسواک کے سہارے پر تھوڑا تھوڑا امنہ کھولا اور دانتوں میں مسواک رکھ کر چھوڑ دی کہ دانتوں نے بند ہو کر دبا لی۔ پسی ہوئی مرچیں اسی راہ سے داڑھوں تک پہنچائیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کلی خالص خون کی آئی مگر کوئی تکلیف و



اذیت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کلی خون کی اور آئی بِحَمْدِ اللّٰهِ تعالیٰ وہ گلٹیں جاتی رہیں منہ کھل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور طبیب صاحب سے کہلا بھیجا کہ آپ کا وہ طاعون بِفَضْلِهِ تعالیٰ دفع (یعنی دور) ہو گیا، دو تین روز میں بَعُوْنِهِ تعالیٰ بخار بھی جاتا رہا۔

## طاعون کا سبب

**مؤلف:** چونکہ اثنائے گفتگو میں طاعون کا ذکر تھا لہذا مولانا مولوی حکیم امجد علی صاحب نے یوں عرض کیا۔

**عرض:** غالباً یہ بلائیں کفار جن ہوں۔

**ارشاد:** ہاں کفار ہیں۔ حدیث میں ہے: ”الطَّاعُونَ وَخَزْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ“ طاعون تمہارے دشمن جنوں کا گونچا (یعنی نیزہ کا زخم) ہے۔ (کنز العمال، الحدیث ۱۱۶۹، ج ۴، ص ۱۷۸) ولہذا طاعون زدہ خاص شہداء میں شامل کیا جائے گا۔

## بیل کے گوشت میں گندھک کی بو

{ اسی سلسلے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ { شیخ محقق عولقی مدنی (علیہ رحمۃ اللہ الخ) مجھ سے کہتے تھے کہ حضرت سید محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز فجر کے لئے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ منبر پر ایک بچہ بیٹھا ہے سو حضرت کے کسی نے نہ دیکھا، آپ نے کچھ تعریض نہ فرمایا (یعنی کوئی پوچھ گچھ نہ کی)۔ نماز پڑھ کر تشریف لے آئے۔ پھر ظہر کے لئے آئے تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہے۔ نماز پڑھ کر چلے آئے اور اس سے کچھ نہ کہا۔ پھر عصر کے لئے گئے تو وہیں منبر پر ایک بوڑھے کو پایا۔ اب بھی کچھ نہ پوچھا اور نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ پھر مغرب کے لئے گئے تو ایک بیل کو وہاں دیکھا۔ اب فرمایا تو کیا ہے کہ اتنی مختلف حالتوں میں میں نے تجھے دیکھا ہے! اس نے کہا: میں وبا ہوں، اگر آپ اس وقت مجھ سے کلام کرتے جب میں بچہ تھا تو یمن میں کوئی بچہ باقی نہ رہتا، اور اگر اس وقت دریافت فرماتے جب جوان تھا تو یہاں کوئی جوان نہ رہتا، یونہی اگر اس وقت بات کرتے جب میں بڑھا تھا تو اس شہر میں کوئی بوڑھا نہ رہتا۔ اب آپ نے اس حال میں کہ مجھے بیل دیکھا (اور) کلام فرمایا، یمن میں کوئی بیل نہ رہے گا۔ یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تھی کہ آپ نے پہلی تین حالتوں میں اس سے سوال نہ فرمایا۔ بیلوں میں مرگ (یعنی موت) عام ہو گئی اگر اس وقت کوئی بیل اچھا بھی ذبح کیا جاتا تو اس کا گوشت ایسا خراب ہوتا کہ کوئی کھانا سکتا اس میں گندھک کی بو آتی۔

## تُو آگ میں ہے

انہیں سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے مادر زاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھی۔ ایک شخص سے کہا لکھ: ”فُلَانٌ فِی الْجَنَّةِ“ یعنی فلاں شخص جنت میں ہے۔ یونہی نام بنام بہت سے اشخاص کو لکھوایا۔ پھر فرمایا لکھ: ”فُلَانٌ فِی النَّارِ“ یعنی فلاں شخص دوزخ میں ہے۔ انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا، آپ نے پھر فرمایا، انہوں نے نہ لکھا آپ نے سہ بارہ (یعنی تیسری بار) ارشاد کیا۔ انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: ”أَنْتَ فِی النَّارِ“ تو آگ میں ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے ان کے والد ماجد (علیہ رحمۃ اللہ الواجد) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا: ”أَنْتَ فِی النَّارِ“ کہا یا ”أَنْتَ فِی جَهَنَّمَ“؟ عرض کی، ”أَنْتَ فِی النَّارِ“ فرمایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: ”میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، اب تجھے اختیار ہے دنیا کی آگ پسند کر یا آخرت کی؟“ عرض کی: ”دنیا کی آگ پسند ہے۔“ انکا جل کر انتقال ہوا۔

حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا ہے۔

(مجمع الزوائد، کتاب الجنائز، باب جامع فیمن ہو شہید، حدیث ۳۸۷۸، ج ۳، ص ۵۵)

## بچوں کے نام کیسے ہونے چاہئیں؟

**عرض:** حضور میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرمادیں۔

**ارشاد:** تاریخی نام سے کیا فائدہ، نام وہ ہوں جن کے احادیث میں فضائل آئے ہیں۔ میرے اور بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے میں نے سب کا نام محمد رکھا، یہ اور بات ہے کہ یہی نام تاریخی بھی ہو جائے۔ حامد رضا خاں کا نام محمد ہے اور ان کی ولادت ۱۲۹۲ھ میں ہوئی اور اس نام مبارک کے عدد بھی بانوے ہیں، ایک وقت (یعنی دشواری) تاریخی نام میں یہ ہے کہ اسماء حسنیٰ سے ایک یا دو جن کے اعداد موافق عدد نام قاری (یعنی پڑھنے والے کے نام کے اعداد کے مطابق) ہوں عدد نام دو چند (یعنی دُگنے) کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ قاری کو اسم اعظم کا فائدہ دیتے ہیں، تاریخی نام سے مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی مثلاً اگر کسی کی ولادت اس ۱۳۲۹ھ میں ہوئی تو اس کے مطابق عدد کے اسماء حسنیٰ ۲۶۵۸ بار پڑھے جائیں گے اور محمد نام

۱۔ یہ جناب دلاور حسین خاں صاحب مرحوم زمیندار موضع جواہر پور ضلع بریلی کی عرض ہے۔ ۱۲

ہوتا تو ایک سو چوراسی بار (184)، دونوں میں کس قدر فرق ہوا۔

## نام ”محمد“ کے فضائل

پھر اس نام اقدس کے فضائل میں یہ چند حدیثیں ذکر فرمائیں۔

ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔“ (کنز العمال، کتاب النکاح، قسم الاقوال، الحدیث ۴۵۲۱۵، ج ۱۶، ص ۱۷۵۔ لفظہ ”من ولد له مولود ذکر فسماه محمداً حباً لى وتبرکاً باسمى کان هو و مولودہ فی الجنة“)

ایک روایت میں ہے: ”قیامت کے دن ملائکہ کہیں گے کہ جن کا نام محمد یا احمد ہے جنت میں چلے جاؤ۔“

(فردوس الاخبار دیلمی، باب الباء، الحدیث ۸۵۱۵، ج ۲، ص ۵۰۳۔ ملقطاً)

ایک روایت میں ہے: ”ملائکہ (یعنی فرشتے) اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس میں کسی کا نام محمد یا احمد ہے۔“

ایک روایت میں ہے: ”جس مشورے میں اس نام (یعنی محمد نام) کا آدمی شریک ہو اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔“ (کنز العمال، کتاب النکاح، قسم الاقوال، الحدیث ۴۵۲۱۶، ج ۱۶، ص ۱۷۵)

ایک روایت میں ہے: ”تمہارا کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھروں میں دو یا تین محمد ہوں۔“

(الطبقات الكبرى لابن سعد، الحدیث ۶۲۲، ج ۵، ص ۴۰)

## جو تا پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟

**عرض:** جو تا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔ عالمگیری میں تصریح ہے کہ مسجد میں جو تا پہن کر جانا، بے ادبی ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی اداب المسجد..... الخ، ج ۵، ص ۳۲۱)

## تعظیم و توهین کا دار و مدار عرف پر ہے

**عرض:** غیر مقلدین پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔

**ارشاد:** بعض احکام میں عرف و مصالح (یعنی مصلحتوں) کے سبب تغیر و تبدل ہوتا ہے (یعنی تبدیلی ہوتی ہے)۔ میں نے

خاص اس بارے ایک رسالہ مستطی بنام تاریخی ”جمالُ الأجمال لتوفیق حکم الصلوٰۃ بالنعال“ لکھا ہے اور اس کی ایک

شرح کمال الاکمال کی ہے {پھر فرمایا} **تعظیم** و **توہین** عُرْف پر مبنی ہیں ایک چیز سے ایک زمانہ میں تعظیم یا توہین ہوتی ہے، دوسرے زمانہ میں نہیں، یا ایک قوم میں ہوتی ہے دوسری قوم میں نہیں مثلاً عرب میں بڑے چھوٹے سب کو صیغہ مفرد (یعنی واحد لفظ) سے خطاب ہے ”أَنْتَ قُلْتُ“ ٹو نے کہا۔ یہ وہاں کوئی توہین نہیں اور ہمارے یہاں توہین ہے یا یورپ کا ادب یہ ہے کہ ملاقاتِ معظّم کے وقت سرنگا کر لے اور جوتا پہنے ہو اور ہمارے یہاں توہین ہے، ادب اس میں ہے کہ پاؤں ننگے ہوں اور سر پر عمامہ ہو۔ جب ہمارے یہاں یہ دربار بادشاہانِ مجازی کی توہین ہے تو دربارِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کہ مَلِکُ الْمَلُوک (یعنی بادشاہوں کے بادشاہ) اور حقیقی شہنشاہ سچے بادشاہ کا دربار ہے اَحَقُّ بِالْتَعْظِیْم (یعنی تعظیم کا زیادہ حقدار) ہے۔

### ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا؟

**عرض:** ریل گاڑی میں بیچ پر بیٹھ کر پاؤں لٹکا کر فرض یا وتر پڑھے نماز ہوئی یا نہیں بعض ایسا کرتے ہیں؟

**ارشاد:** نہیں کہ قیام فرض ہے اور جب تک عجز نہ ہو ساقط (یعنی معاف) نہیں ہو سکتا، (حلبی کبیر، فرائض الصلوٰۃ، الثانی القیام، ص ۲۶۱) فرض اور وتر اور صبح کی سنتیں یوں نہ ہو سکیں گے۔


### ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ

**عرض:** ریل میں ایسا موقع کم ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے۔

**ارشاد:** مجھے بڑے بڑے سفر کرنے پڑے اور بَفَضِلِهِ تعالیٰ بیچ وقتہ جماعت سے نماز پڑھی۔ قیام اور رکوع تو ریل میں بھی بخوبی ہو سکتا ہے۔ ہاں بعض وقت سجدے میں وقت (یعنی مشکل) ہوتی ہے جبکہ قبلہ بیچ کی طرف ہو، وہ یوں ہو سکتا ہے کہ سر کو خم کر کے (یعنی تڑچھا کر کے) بیچ کے نیچے کرے۔ صرف تھوڑا سا تکلف کرنا ہوگا مگر اس قدر خم نہ کرے کہ ۴۵ درجے کسی جانب مائل ہو جائے ۴۵ درجے کے قریب تک اجازت ہے۔ ایک خط کے نصف پر دوسرا خط عمود (یعنی اوپر سے نیچے سیدھا) قائم کرو کہ دو زاویہ قائمے بنائے گا، ان دونوں قائموں کی دو خطوں سے تنصیف کرو، یہ ۴۵ × ۴۵ درجے کے زاویے ہوں گے، فرض کرو خط ج ۷ سمت قبلہ تو شمال کو ۵۷ یا جنوب کو ۷۷ تک جھکنا مُفْسِدِ نماز (یعنی نماز توڑنے والا عمل) نہیں کہ سمت قبلہ نہ بدلے گی زیادہ میں فساد ہے؛

(شکل دیکھئے)

مشرق



### غلط پڑھی گئی نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کا حکم

**عرض:** جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں، ان کے اعادہ (یعنی لوٹانے) کی ضرورت نہ ہوگی اس لئے کہ وہ نادانستگی (یعنی ناواقفی) میں پڑھی ہیں، ہاں آئندہ یونہی پڑھنا فرض ہے؟

**ارشاد:** جہل عدم اعادہ (یعنی دوبارہ نہ پڑھنے) کا سبب نہیں ہو سکتا۔ جہل خود گناہ ہے۔ ہمارے علمائے احکام شرعیہ شرق سے غرب تک روشن کر دیئے اور قرآن عظیم میں فرمایا:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ تمہیں نہ معلوم ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔

(پ ۱۴، النحل: ۴۳)

اب نہ جاننے والے کی غلطی ہے کہ اس نے کیوں نہ سیکھا؟ ان نمازوں کا اعادہ ضرور ہے۔

### کتنی نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں؟

**عرض:** پھر کس قدر کا اعادہ کیا جائے؟

**ارشاد:** اتنی کہ ظن غالب ہو جائے کہ اب باقی نہ رہی ہوں گی۔

### نماز میں مُصَلَّے ٹیڑھا ہونے کا حکم

**عرض:** ایک شخص نے نماز پڑھائی مُصَلَّے گج (یعنی ٹیڑھا) تھا، نہ انہوں نے استقبالِ قبلہ (یعنی قبلہ کو رخ نہ) کیا نہ مُصَلَّے ہی کو

ٹھیک کیا، نماز ہوئی یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر مصلے کا میلان (یعنی ٹھکاؤ) قبلہ سے ۴۵ درجے کے اندر تھا تو نماز ہوگئی، اور اگر زیادہ تھا تو باطل۔

(پھر فرمایا) بریلی میں اکثر مساجد قبلہ سے دو دو درجے جانبِ شمال ہٹی ہوئی ہیں اور بمبئی کی مساجد دس درجے جانبِ جنوب، اگر شرع مطہر اس کی اجازت نہ دیتی تو لاکھوں نمازیں باطل ہوتیں۔ (پھر فرمایا) انسان کی پیشانی کے قوسی شکل ہونے میں یہ بھی مصلحت ہے تاکہ یہ آسانی رہے کہ اگر قبلہ سے ۴۵ درجے تک انحراف (یعنی پھرنا) بھی ہوگا تو بھی پیشانی کے کسی جز (یعنی حصے) سے محاذات (یعنی برابری) ہو جائے گی اگر پیشانی مستوی (یعنی سیدھی) ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہوتی {انحرافِ مساجد کی وجہ بیان فرمائی} لوگوں نے یہ سمجھا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ قطب داپنہ شانے پر ہو تو جو جہت محاذی وجہ (یعنی چہرے کے سامنے) ہو وہی سمتِ قبلہ ہے۔ حالانکہ یہ تحقیق نہیں ہے البتہ ہندوستان میں تقریب کے لئے کافی ہے۔

### باریک کپڑوں میں عورت کی نماز کا حکم

**عرض:** عورتوں کی نماز باریک کپڑوں سے ہوتی ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** آزاد عورتوں کو سر سے پاؤں تک تمام بدن کا چھپانا فرض ہے مگر چہرہ یعنی پیشانی سے ٹھوڑی اور ایک کپٹی سے دوسری کپٹی تک (جس میں سر کے بالوں یا کان کا کوئی حصہ داخل نہیں نہ ٹھوڑی کے نیچے) یہ تو بالاتفاق نماز میں چھپانا فرض نہیں اور گٹوں تک دونوں ہاتھ، ٹخنوں تک دونوں پاؤں، ان میں اختلاف روایات ہے۔ ان کے سوا اگر کسی عضو کا چوتھائی حصہ نماز میں قصداً (یعنی جان بوجھ کر) کھولے اگرچہ ایک آن کو یا بلا قصد بقدر ادائے رکن یعنی تین بار سُبْحَانَ اللّٰہ کہنے کی دیر تک کھلا رہے تو نماز نہ ہوگی۔ (درمختار معہ رد المحتار، کتاب الصلاة مطلب فی النظر الی وجہ الامر، ج ۲، ص ۱۰۰) اور باریک کپڑے جن سے بدن نظر آئے یا رنگت دکھائی دے یا سر کے بالوں کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی۔

(ملخصاً، الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة، الفصل الاول، ج ۱، ص ۵۸)

### کیا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب تھا؟

**مؤلف:** ایک صاحب جن کا میلان قدرے وہابیت کی طرف تھا، انہوں نے علم غیبِ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت

سوال کیا تو فرمایا:

**ارشاد:** کیا آپ مطلق علم غیب کو پوچھتے ہیں یا علم مَّا كَانَ وَ مَّا يَكُونُ، (یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا ان سب کا علم)، جیسا سوال ہو اُس کے موافق جواب دیا جائے۔

**عرض:** میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ جانتا ہوں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو روشن ضمیر مانتا ہوں مگر یہ کہ وہ دلوں کی بات جانتے ہیں، یہ نہیں مانتا۔

**ارشاد:** روشن ضمیر ہونے کے تو یہی معنی ہیں کہ دلوں کی حالتیں جانیں (پھر اس کے ثبوت کی طرف توجہ فرمائی) قرآن عظیم فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي  
مَنْ يَرْتَضِيهِ مِنْ نَبِيٍّ آتٍ

اے عام لوگو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اس لئے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع

فرمادے۔ ہاں اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہے۔ (پ ۴، ال عمران: ۱۷۹)

اور فرماتا ہے:

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ  
أَمَرْتُنِي مِنْ رَسُولٍ

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں

فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو۔ (پ ۲۹، الجن: ۲۶)

صرف اظہار ہی نہیں بلکہ رسولوں کو علم غیب پر مسلط فرمادیا۔ (اس کے بعد ارشاد فرمایا) کہ علمائے اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ جو فضائل اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عنایت فرمائے گئے وہ سب باکمل وجوہ (یعنی اکمل طور پر)، ان سے بدرجہا (یعنی کئی درجے) زائد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت (یعنی عطا) ہوئے اور اہل باطن کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کچھ فضائل اور انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی سیدہم وعلیہم کو ملے وہ سب حضور کے دیئے سے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے طفیل میں۔

اصحاب صحیح بخاری و مسلم نے روایت کی:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا  
قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔

(صحیح البخاری کتاب العلم باب من يرد الله..... الخ، الحديث ۷۱، ج ۱، ص ۴۳)

(صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب النهی عن المسألة، الحديث ۱۰۳۷، ص ۱۰۱۷)

اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابت (کے بارے میں) فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ نُرِيّ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَعْنٰ اَيْسٰهٰنِ هَمِ اِبْرٰهِيْمَ كُوْا سَمٰنِ وَزَمِيْنِ كِي سَارِي سَلْطَنَتِ

(پ ۷، الانعام: ۷۵) دکھاتے ہیں۔

اور لفظ ”نُرِيّ“ استمرار و تجدد (یعنی ہمیشگی اور تکرار) پر دل (یعنی دلالت کرتا) ہے جس کا یہ مطلب کہ وہ دکھانا ایک بار کے لئے نہ تھا بلکہ مُسْتَمِر (یعنی ہمیشہ) ہے تو یہ صفت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اکمل طور پر ثابت، حضور کے دینے سے اور حضور کے طفیل میں حضور کے جد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ ابیہ وبارک وسلم کو یہ فضیلت ملی۔ اس کا انکار نہ کرے گا مگر کور باطن (یعنی کینہ رکھنے والا) اَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْ هٰذِهِ الْعَقِيْدَةِ الْبٰطِلَةِ (یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطل عقیدے سے بچائے۔ ت) اور لفظ ”كَذٰلِكَ“ تشبیہ کے واسطے ہے جسے ہر معمولی عربی داں جانتا ہے اور تشبیہ کے لئے مُشَبَّه (یعنی جسے تشبیہ دی گئی) اور مُشَبَّه بِه (یعنی جس سے تشبیہ دی گئی) ضرور (یعنی لازم) ہے۔ ”مُشَبَّه“ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ باقی رہا ”مُشَبَّه بِه“ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اے حبیب لیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جیسے ہم آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنتیں دکھا رہے ہیں یونہی آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے طفیل میں آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی ان کا معائنہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا هُوَ عَلٰی الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝

یعنی میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں۔

(پ ۳۰، النکویر: ۲۴)

جس میں استعداد (یعنی صلاحیت) پاتے ہیں اسے بتاتے بھی ہیں اور ظاہر کہ بخیل وہ جس کے پاس مال ہو اور صرف (یعنی خرچ) نہ کرے۔ وہ کہ جس کے پاس مال ہی نہیں کیا بخیل کہا جائے گا؟ اور یہاں بخیل کی نفی کی گئی تو جب تک کوئی چیز صرف (یعنی خرچ) کی نہ ہو (نفی کا) کیا مفاد (یعنی فائدہ) ہوا؟ لہذا معلوم ہوا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) غیب پر مطلع (یعنی خبردار) ہیں، اور اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بخشتے ہیں اور فرماتا ہے:

نَزَّلْنَا عَلٰیكَ الْكِتٰبَ تَبْيٰنًا لِّلْحٰلِّ شَيْءٍ ۝

ہم نے تم پر یہ کتاب ہر شے کا روشن بیان

کردینے کے لئے اُتاری۔ (پ ۱۴، النحل: ۸۹)



”تَبَيَّنَا“ ارشاد فرمایا، ”بَيَانًا“ نہ فرمایا کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں بیانِ اشیا اس طرح پر ہے کہ اصلاً خفا (یعنی پوشیدگی) نہیں اور حدیث میں ہے جسے امام ترمذی وغیرہ نے دس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم صبح نماز فجر کے لئے مسجد نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں حاضر ہوئے، اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی تشریف آوری میں دیر ہوئی۔ حَتَّىٰ كِدْنَا اَنْ نَّتْرَايَ عَيْنَ الشَّمْسِ يَعْنِي قَرِيبًا تَهَا كَهْ آفَاقِ طُلُوعِ كِرَاءِ۔ اتنے میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف فرما ہوئے، اور نماز پڑھائی۔ پھر صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کیوں دیر ہوئی؟ سب نے عرض کی ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ“ اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي  
مِيرَابِ (عَزَّوَجَلَّ) سَبَّ سَاطِئِي فِي  
أَحْسَنِ صُورَةٍ  
میرے پاس تشریف لایا۔

یعنی میں ایک دوسری نماز میں مشغول تھا۔ اس نماز میں عبد (یعنی بندہ) درگاہِ معبود میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں خود ہی معبود کی عبد پر تجلی ہوئی۔ ”قَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَائِئَةُ الْأَعْلَى“ اس نے فرمایا: ”اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرشتے کس بات میں تخاصم (یعنی تنازعہ) اور مباحثات (یعنی فخر) کرتے ہیں؟“ ”فَقُلْتُ لَا أَدْرِي“ میں نے عرض کی میں بے تیرے بتائے کیا جانوں، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ فَوَجَدْتُ بَرْدًا أَنَامِلِهِ بَيْنَ شَانُوں كَهْ دَرْمِيَانِ رَكْهًا وَرَاسِ كِهْ تَهْدُكْ مِيں نَهْ اِنِپَنَهْ سِيْنَهْ مِيں تَرْمِذِي، كِتَابِ التَّفْسِيرِ، الْحَدِيثِ ٣٢٤٦، ج ٥، ص ١٦٠) پائی اور میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔

صرف اسی پر اکتفا نہ فرمایا کہ کسی وہابی صاحب کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ کل شے سے مراد ہر شے متعلق بشرائع (یعنی شریعتوں کے متعلق ہر چیز) ہے بلکہ ایک روایت میں فرمایا:

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
مِيں نَهْ جَانِ لِيَا جُو كِهْ آسْمَانِ اُور زَمِيْنِ مِيں هَهْ۔

(جامع ترمذی، کتاب التفسیر، الحدیث ٣٢٤٤، ج ٥، ص ١٥٨)

اور دوسری روایت میں فرمایا:

فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
اور مِيں نَهْ جَانِ لِيَا جُو كِهْ مَشْرِقْ سَهْ مَغْرِبْ تَكْ هَهْ۔

(جامع ترمذی، کتاب التفسیر، الحدیث ٣٢٤٥، ج ٥، ص ١٥٩)

یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں تو تینوں لفظ ارشاد اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے ثابت ہیں۔ یعنی میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ مشرق سے مغرب تک ہے۔ ہر چیز مجھ پر روشن ہوگئی اور میں نے پہچان لی اور روشن ہونے کے ساتھ پہچان لینا اس لئے فرمایا کہ کبھی شے معروف (یعنی معلوم) ہوتی ہے پیش نظر نہیں اور کبھی شے پیش نظر ہوتی ہے اور معروف نہیں جیسے ہزار آدمیوں کی مجلس کو چھت پر سے دیکھو، وہ سب تمہارے پیش نظر ہوں گے مگر ان میں بہت کو پہچانتے نہ ہوں گے۔ اس لئے ارشاد فرمایا کہ تمام اشیائے عالم ہمارے پیش نظر بھی ہو گئیں، اور ہم نے پہچان بھی لیں کہ ان میں نہ کوئی ہماری نگاہ سے باہر رہی نہ علم سے خارج وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

مسلمان دیکھیں نصوص میں بلا ضرورت تاویل و تخصیص باطل و نامسموع ہے (یعنی ناقابل قبول ہے)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کو یہ کتاب ہم نے تم پر اتاری۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز مجھ پر روشن ہوگئی اور میں نے پہچان لی تو بلاشبہ یہ روایت و معرفت (یعنی دیکھنا اور پہچاننا)، جمع مکنونات قلم و کتوبات لوح (یعنی قلم اور لوح محفوظ کے تمام سر بستہ رازوں) کو شامل ہے جس میں سب ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ الْآخِرِ“ (یعنی روز اول سے روز آخر تک جو کچھ ہوا... یا... ہوگا) و جملہ ضمائر و خواطر (یعنی تمام پوشیدہ امور بشمول احوال دل) سب کچھ داخل و لہذا طبرانی و نعیم بن حماد اُستاذ امام بخاری وغیر ہمانے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ  
إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
بِشُكِّ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ) نِي مِرْءِ سَامْنِي دُنْيَا تُطَالِي  
هِيَ تُوِي مِي سِي أُوْرَاسِي مِي جُو كُحْ قِيَامَتِي تَكْ هُوْنِي وَآلَا  
هِي، سَبْ كُوَايَا دِكْهَرْ بَاهُوْنِي جِيْسِي أُوْنِي اِسْ تَهْتَلِي كُو۔  
كَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَيْ هَذِهِ

(مجمع الزوائد كتاب علامات النبوة باب ٣٣، الحديث ١٤٠٦٧، ج ٨، ص ٥١٠)

اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل تھیلی کے نہ دیکھے۔“ انہوں نے سچ فرمایا اپنے مرتبہ کا اظہار کیا۔ ان کے بعد حضرت شیخ بہاء الملہ والدین نقشبند قدس برہ نے فرمایا: ”میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے۔“ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے ایک اعلیٰ جاہ کفش بردار (یعنی بلند مرتبہ غلام) ہیں اَعْنِي (یعنی) حضور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ عوشیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں:

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَحَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

یعنی میں نے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا۔

اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہ تھا بلکہ عَلَیِ الْإِتِّصَالِ (یعنی لگا تار) یہی حکم ہے، اور فرماتے ہیں: ”إِنَّ

بُؤْبُؤَةَ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِثْرِي أَنْ تَكْهِيَ تَبْلِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ مِثْرِي لَكِي هِيَ“۔

لوح محفوظ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ ○ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔

(پ ۲۷، القمر: ۵۳)

اور فرماتا ہے:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ○ ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھانہ رکھی۔

(پ ۷، الانعام: ۳۸)

اور فرماتا ہے:

لَا تَرَاظِبٌ وَلَا يَابِسِينَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○ کوئی تر و خشک ایسا نہیں جو کتابِ مبین میں نہ ہو۔

(پ ۷، الانعام: ۵۹)

تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو، بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔

## ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟

**عرض:** ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟

**ارشاد:** مذہب امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں دو مثل تک رہتا ہے۔ (مختصر القدوری کتاب الصلاة باب صفة الصلاة، ص ۳۵) اور یہ ہی قولِ اصح ہے۔

**عرض:** اگر ایک مثل کے اندر ظہر پڑھی جائے اور بعد دو مثل عصر تو بہتر ہوگا کہ سب اقوالِ علما جمع ہو جائیں گے۔

۱: اس مسئلے کی تفصیل بہار شریعت حصہ سوم صفحہ ۱۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میں ملاحظہ کیجئے۔



**عرض :** کیا اعادہ (یعنی نماز دوبارہ پڑھنا) واجب نہ ہوگا؟

**ارشاد :** فرض نہ ہوگا کہ اس قول پر بھی فتویٰ دیا گیا ہے اگر صحیح و معتد قولِ امام ہے۔

### اختلافی مسائل کا حکم

**عرض :** تو کیا تمام مسائل اختلافیہ کا یہ ہی حکم ہے؟

**ارشاد :** نہیں بلکہ جس میں اختلافِ فتویٰ ہے اس کا یہ ہی حکم ہے کہ جس قول پر عمل کیا جائے گا اور چوںکہ اس میں علماء دونوں طرف گئے ہیں اور دونوں قولوں پر فتویٰ دیا ہے لہذا جس پر عمل کیا جائے گا ہو جائیگا مگر جو معتقد تریح قولِ امام (یعنی امام اعظم کے قول کو راجح مانتا) ہے اسے اختیار (یعنی چننا) چاہیے۔ حرمین طیبین میں اب کچھ برسوں سے حنفی مصلیٰ پر نمازِ عصر مثل ثانی میں ہونے لگی ہے۔ صبح کے سوا سب نمازیں پہلے مصلیٰ حنفی پر ہوتیں، شافعیہ نے شکایت کی کہ ہمارے لیے وقتِ عصر ہمارے مذہب کی رو سے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس پر تو یہ ہوا نہیں کہ نمازِ عصر مثل صبح مؤخر کر دی جائے، رکھی مقدم اور مثل دوم میں کر دی۔ اس بار کی حاضری میں یہ نئی بات دیکھی میں اور مکہ کے جلیل علمائے حنفیہ مثل مولانا شیخ صالح کمال مفتی حنفیہ و مولانا سید اسماعیل محافظ کتب حرم اس جماعت میں شریک ہوتے تو نفل کی نیت سے پھر حنفی وقت پر اپنی جماعت کرتے جس میں وہ اکابر اس فقیر کو امامت پر مجبور فرماتے۔

### زوال کے وقت جمعہ ادا کرنا کیسا؟

**عرض :** جمعہ اگر عین زوال کے وقت پڑھا جائے تو ہوگا یا نہیں؟

**ارشاد :** نہیں۔ کتب فقہ ”بجز“ وغیرہ میں تصریح فرمائی کہ جمعہ مثل ظہر ہے۔

(البحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ج ۲، ص ۲۵۶)

### ایک اشکال اور اس کا جواب

**عرض :** زوال کے وقت نماز کی کراہت اس بنا پر ہے کہ جہنم روشن کیا جاتا ہے۔ (الاشباه والنظائر، القول فی احکام يوم الجمعة،

ص ۳۲۱) اور یہ حدیث میں ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جہنم بھڑکایا نہیں جاتا۔ (کنز العمال، کتاب

الصلاة باب وقت الاستحباب، الحدیث ۱۹۵۹۲، ص ۱۷۱) لہذا چاہئے کہ زوال کے وقت مکروہ نہ ہو کہ مانع (یعنی رکاوٹ) موجود

نہیں۔

**ارشاد :** یہ اس وقت نوافل کی کراہت میں جاری ہو سکتا ہے فراغ کے تو اول و آخر وقت مقرر ہیں، اول سے پہلے باطل ہیں اور آخر کے بعد قضا مثلاً نماز صبح کا اول وقت طلوع فجر ہے اس سے پہلے شروع کی تو نماز قطعاً نہ ہوگی، نہ یہ کہ اسے جائز کہہ دیں کہ وہ وقت کراہت نماز کا نہیں، یوں ہی جمعہ کے دن جہنم نہ سلگائے جانے سے اگر ثابت ہوا تو اتنا کہ وہ اوقات کراہت سے نہ رہا نہ یہ کہ جمعہ جس کا آغاز وقت بعد زوال ہے پیش از وقت جائز ہو جائے، ہاں دربارہ نوافل اسی حدیث کی بنا پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روز جمعہ وقت زوال کراہت نہ مانی، اشباہ میں اسے صحیح و معتمد رکھا۔ (الاشباہ و النظائر، القول فی احکام یوم الجمعة، ص ۳۲۱) مگر یہ حاوی قدسی سے ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ صاحب حاوی یوسفی المذہب ہیں ہر جگہ قول امام ابو یوسف کو بہ نأخذ (یعنی ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں) کہتے ہیں۔ ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب جس پر تمام متون و شروح ہیں ”إطلاق منع“ ہے (یعنی مطلقاً منع ہے) اور یہ بھی صحیح و معتمد ہے۔

## پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے

**مؤلف :** آج حضرت مولانا مولوی وصی احمد مدظلہ العالی (جن کو اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس نے ”الآسَدُ الْاَسَدُ“ (یعنی فتنوں کی مکمل روک تھام کرنے والا قوی شیر) سے مخاطب فرمایا تھا اور جناب مولانا مولوی حمد اللہ صاحب پیشاوری بھی دولت کدہ اقدس پر مہمان ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، یہ حضرات اور حضرت قبلہ دامت برکاتہم کھانا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مولانا مولوی حکیم امجد علی صاحب بھی حاضر اور شریک طعام ہیں۔ بریلی کے پانی کی نفاست کا ذکر ہوا، اس پر:

**ارشاد :** ہوا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے قرآن عظیم میں جا بجا بندوں پر ممت رکھی (یعنی انہیں اپنا احسان یاد دلا یا) اور ایک جگہ خاص اس پر شکر کی ہدایت فرمائی:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ؕ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ  
 مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ  
 أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝  
 کیا تم نے دیکھا یہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں  
 سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے {بلکہ تو اے رب  
 (عَزَّوَجَلَّ) ہمارے {ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری کر دیں  
 پھر کیوں نہیں شکر کرتے {تیرے وجہ کریم کے لئے ہمیشہ حمد

{ پ ۲۷، الواقعة: ۶۸، ۶۹، ۷۰ } ہے اے رب (عَزَّوَجَلَّ) ہمارے {

حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پینے پینے کی کوئی چیز کسی سے طلب نہ فرمائی مگر ٹھنڈا پانی دو بار طلب

فرمایا۔ ایک بار فرمائش فرمائی: ”رات کا باسی لاؤ۔“ (ملخصاً، سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ باب الشرب بالاکف والقرع، الحدیث ۳۴۳۲، ج ۴، ص ۸۳)

## مدینے کے پانی کی کیا بات ہے!

میں نے مدینہ طیبہ سے بہتر پانی کہیں نہ پایا۔ خدام کرام حاضرین بارگاہ کے لئے زورتوں (یعنی پیالوں) میں پانی بھر کر رکھتے ہیں، گرمی کے موسم میں اس شہر کریم کی ٹھنڈی نسیمیں (یعنی صبح کی ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں) اتنا سرد کر دیتی ہیں کہ بالکل برف معلوم ہوتا ہے۔ عمدہ پانی کی تین صفتیں ہیں اور وہ تینوں اس میں اعلیٰ درجہ پر ہیں: ایک صفت یہ کہ ہلکا ہو اور وہ پانی اس قدر ہلکا ہے کہ پیتے وقت حلق میں اس کی ٹھنڈک تو محسوس ہوتی ہے اور کچھ نہیں اگر خنکی (یعنی ٹھنڈ) نہ ہو تو اس کا اترنا بالکل معلوم نہ ہو، دوسری صفت شیرینی (یعنی مٹھاس) وہ پانی اعلیٰ درجہ کا شیریں ہے۔ ایسا شیریں میں نے کہیں نہ پایا۔ تیسری خنکی، یہ بھی اس میں اعلیٰ درجہ پر ہے۔ میری عادت ہے کہ کھانا کھاتے میں پانی پیتا ہوں۔ کھانا مکان پر کھایا جائے اور وہ جانفز پانی مسجد کریم میں، لہذا کھانا کھاتے میں پانی نہ پیتا۔ کھانے کے بعد مسجد کریم میں بہ نیتِ اعتکاف حاضر ہوتا اور اس عطیہ سہرکاری سے دل و جان سیراب کرتا، اعتکاف تو ہر مسجد کی حاضری میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے۔ پانی کے لئے اعتکاف نہ ہوتا تھا بلکہ اس کی منفعت (یعنی فائدہ) یہ ہے کہ غیر معتکف کو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں۔

## کھانے پینے کے لئے اعتکاف کرنا کیسا؟

**عرض:** کھانے پینے کے لئے اعتکاف جائز ہے؟

**ارشاد:** اعتکاف صرف ذکرِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کے لئے کیا جائے، یا التَّج (یعنی ضمناً) اس کے منافع اور ہو سکتے ہیں مثلاً روزے کے بارے میں حدیث ہے:

صَوْمُوا تَصِحُّوا      روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔

(المعجم الاوسط، الحدیث ۸۳۱۲، ج ۶، ص ۱۴۶)

تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ تندرستی کی نیت سے رکھا جائے، بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور تندرستی کی منفعت بھی اس سے تبعاً حاصل ہوگی۔ پھر حدیث میں فرمایا:

حُجُّوا تَسْتَغْنُوا

حج کروغنی ہو جاؤ گے۔

(مصنّف عبد الرزاق باب فضل الحج، الحدیث ۲۳۵۹، ج ۵، ص ۸)

تو یہ نہیں کہ حج مال کی نیت سے کیا جائے بلکہ حج اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا، اور یہ نفع بھی ضمناً ملے گا تو جس طرح یہ دونوں اللہ ہی کے لئے ہیں اور صحت و غنا ان کے ضمنی منافع اسی طرح اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور کھانے پینے کا جواز نفع بالمتع۔ فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں ہے اگر مسجد میں سونا چاہے اعتکاف کی نیت کر لے کچھ دیر ذکر الہی (عَزَّوَجَلَّ) میں مشغول رہے پھر جو چاہے کرے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ باب اداب المسجد و القبلة..... الخ، ج ۵، ص ۳۲۱)

### ایک شعر کی وضاحت اور اس کا شرعی حکم

کھانے کے بعد ڈاک نکالنے کا حکم فرمایا۔ ڈاک نکالی گئی، مولوی حکیم محمد امجد علی صاحب نے خطوط سنانا شروع کئے۔ جواب فرماتے جاتے، مولانا لکھتے جاتے۔ ان میں ایک خط حضرت سید شاہ نور عالم میاں صاحب صاحبزادہ سرکار خورد (یعنی چھوٹے سرکار) مارہرہ مطہرہ کا تھا۔ انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ ایک مسئلہ حل طلب ہے۔ شرم اس بات کی ہے کہ کوئی دینی مسئلہ جس میں مجھے ثواب ملتا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہوتا میں دریافت کرتا۔ سو یہ دینی مسئلہ نہیں دوسرے کوئی سوال آپ کے شایان شان ہوتا تو بھی مجھ کو پس و پیش نہ تھا (یعنی جھج نہ تھی)۔ جو بات دریافت کرتا ہوں وہ بھی آپ کے مرتبہ علیا سے بہت دُون وادُون (یعنی بہت ہلکی) ہے، بہر حال آپ ہی ایسے ہیں کہ ہر فن کے اکمل و مکمل آپ سے فیضیاب ہو سکتے ہیں لہذا بوجود اعتقاد و امید و ثوق، سودا کا مطلع کہ اس وقت زیر بحث اعتراف (یعنی دوستوں کے درمیان زیر غور) ہے اور مجھ سے دریافت کیا گیا ہے پیش کرتا ہوں۔

ہوا جب کفر ثابت ہے یہ تمغائے مسلمانی

نہ ٹوٹے شیخ سے زُتار تسبیح سلیمانی

کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ہر چند اس ناچیز سوال میں آپ کے ہمایوں ساعات (یعنی آپ کے مبارک اوقات) کو تلف (یعنی ضائع) کرنا بہت گستاخی ہے مگر کیا کریں آپ ہی ایسے ہیں جو ان مشکلات کو بھی حل فرمائیں۔ میں تو آپ کو ہر فن میں امام اور اعلم الامام (یعنی سب ماہرین سے بڑھ کر ماہر) خیال کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ آپ کے وجود مسعود باجود (یعنی سخی اور مبارک وجود) کو زندہ سلامت باخیریت رکھے۔



إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيدٌ

(وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول فرمانا اس کی شان ہے۔)

اس شعر کی شرح مختصر اور تھوڑی ترکیب عبارت اور خلاصہ اور نتیجہ مطلب خیز بذریعہ کسی طالب علم صاحب کے افادہ فرمایا جائے۔ ہم سب لوگ آپ ہی کے ارشاد و حلِ مطلب پر نظر کر رہے ہیں۔ ایک علیٰ تجویز کا مطلع تو حید یہ جس کو بڑے بڑے ذہین و سخن سنج (یعنی شعر کہنے والے) نہ حل کر سکیں گے پہلے آپ نے آن کی آن میں حل فرمادیا تھا، یہ تو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال متوقع ہوں کہ جواب سے مُسْرُور و مُفَخَّر (یعنی خوش اور نازاں) فرمائیے فقط۔

**مولانا امجد علی صاحب:** حضور! اس کا کیا مطلب ہے؟

**ارشاد:** بہت آسان اور ظاہر ہے، اچھا! اس کا جواب لکھئے اور اسی ڈاک سے روانہ فرمادیتے۔

**مؤلف:** پھر حضرت قبلہ مدظلہ الاقدس نے یہ جواب لکھوا کر روانہ فرمایا:

بشرف ملاحظہ حضرت والادامت برکاتہم

ظاہر مطلب شعر جہاں تک شاعر نے مراد لیا ہوگا صرف اتنی مناسبت دیکھ لینا ہے کہ دانہ سلیمانی میں جس کی تسبیح عبادت و زُہاد (یعنی عبادت گزار اور پرہیزگار) رکھتے ہیں، شکل زُنَّارٌ موجود ہے اور اس کا رکھنا تمغائے نقر قرار پایا ہے۔ شاعر کہ مذہباً سنی نہ تھا اور بدگمانی تمغائے شعر ہے غالباً اس سے زائد کچھ نہ سمجھا ہوگا اور یہ ایک بے ہودہ معنی تھے مگر اتفاقاً اس کے قلم سے ایک لفظ ایسا نکل گیا جس نے اس شعر کو با معنی و پُر مغز کر دیا، وہ کیا یعنی لفظ ”ثابت“۔ زُنَّارٌ کہ کفار باندھتے ہیں زُنَّارِ زائل ہے کہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ سکتا ہے اور دانہ سلیمانی میں اس کی تصویر ثابت ہے کہ جب تک دانہ رہے گا، قائم رہے گی۔ یوں ہی کفر دو قسم ہے کہ ایک کفر زائل جو کفر کفار ہے اور جس کی سزا خُلُودٌ فِي النَّارِ (یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنا) ہے۔ ہر کافر موت کے بعد اس سے باز آتا ہے۔ قَالَ تَعَالَى

۱: وہ دھاگیا زنجیر جسے ہندو گلے اور نعل کے درمیان ڈالے رہتے ہیں جبکہ عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيُكُونُوا لَهُمْ  
عِزًّا ۗ كَلَّا ۗ سَيُكْفَرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ  
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۙ (پ ۱۶، مریم: ۸۱، ۸۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے سوا اور خدا بنائے کہ وہ انہیں زور  
دیں، ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں  
گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

دوسرا کفر ثابت جو ابد الابد (ہمیشہ ہمیشہ) تک قائم رہے گا جسے علمائے دین نے جزایمان فرمایا ہے وہ ہے جسے قرآن عظیم ارشاد  
فرماتا ہے:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَبِيحٌ  
عَلِيمٌ ۝ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۶)

ترجمہ کنز الایمان: تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ  
(عَزَّوَجَلَّ) پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے  
کبھی کھلنا نہیں اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ) سنتا جانتا ہے۔

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

إِنَّا بَرَاءٌ وَأَوْامِنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ  
(پ ۲۸، الممتحنہ: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان  
سے جنہیں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے سوا پوجتے ہو ہم  
تمہارے منکر ہوئے۔

صحیح حدیث میں ہے: ”جب میں برستا ہے اور مسلمان کہتا ہے ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و رحمت سے میں ملا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ  
اسے فرماتا ہے:

مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ  
ترجمہ: مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور پختہ (یعنی ستاروں) سے کفر و انکار۔

(صحیح بخاری، کتاب الأذان، باب يستقبل الامام الناس اذا سلم، الحديث ۸۴۵، ج ۱، ص ۲۹۵)

الْحَمْدُ لِلَّهِ طَاغُوتٍ وَشَيْطَانٍ وَبُتٍّ وَجَمَلَةٌ مَّعْبُودَاتٍ بَاطِلٍ كَمَا يَكْفُرُونَ كَمَا يَكْفُرُونَ كَمَا يَكْفُرُونَ كَمَا يَكْفُرُونَ  
بِخِلَافِ كُفْرٍ كَفَرْنَا بِكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولٌ (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) سَعَى أَنْ كَفَرَ قِيَامَتٍ بَلْ كَفَرَ بَرَزَخٍ (يعني موت اور قیامت کا  
درمیانی عرصہ) بلکہ سینے پر دم آتے ہی جس وقت ملائکہ عذاب (یعنی عذاب کے فرشتے) کو دیکھیں گے زائل ہو جائے گا مگر کیا

فائدہ

الَّذِينَ وَقَدَّ عَصَبَتْ قَبْلُ

ترجمہ کنز الایمان: کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا

(پ ۱۱، یونس: ۹۱)

اب معنی واضح ہو گئے کہ جو کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمان بلکہ جزو ایمان ہے بخلاف کھرزائل وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اسی وقت صحیفہ شریفہ ملا۔ فوری جواب حاضر ہے۔

### نرمی سے سمجھانے کے فوائد

**مؤلف:** اس وقت وہ حافظ صاحب حاضر ہیں جنہوں نے اس وہابی خیال شخص کو پیش کیا تھا جس نے علم غیب (جس کا سوال پیچھے گزرا) میں کچھ دریافت کیا تھا۔

**عرض:** حضور وہ شخص جب یہاں سے گیا تو راستے ہی میں کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت مدظلہ کی باتیں میرے دل نے قبول کیں اور اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا مرید ہوں گا۔

**ارشاد:** دیکھو نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے، اگر اُس شخص سے سختی برتی جاتی تو ہرگز یہ بات نہ ہوتی۔ جن لوگوں کے عقائد مذمذب (یعنی ڈانواں ڈول) ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، یہ جو وہابیہ میں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی ابتداء بہت نرمی کی گئی۔ مگر چونکہ ان کے دلوں میں وہابیتِ راسخ (یعنی پختہ) ہو گئی تھی اور مصداق تَمَّ لَا يَعُودُونَ (پھر وہ حق کی طرف رجوع کرنے والے نہیں) حق نہ مانا۔ اس وقت سختی کی گئی کہ ربَّ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

اے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جہاد فرماؤ کافروں اور

وَاعْتَصِمْ عَلَيْهِمْ ط (پ ۱۰، التوبہ: ۷۳)

منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔

اور مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے:

وَيُجِدُوا فِيكُمْ غَاطَّةً ط

لازم ہے کہ وہ تم میں درشتی (یعنی سختی) پائیں۔

(پ ۱۱، التوبہ: ۱۲۳)

## زنا کی اجازت مانگنے والا شخص

ایک شخص خدمتِ اقدس حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! (عَزَّوَجَلَّ) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میرے لئے زنا حلال فرما دیجئے۔“ صحابہ کرام (علیہم الرضوان) نے اسے قتل کرنا چاہا کہ خدمتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں حاضر ہو کر یہ گستاخی کے الفاظ کہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے منع فرمایا اور اس سے فرمایا: ”قریب آؤ، وہ قریب حاضر ہوا، اور قریب فرمایا یہاں تک کہ اسکے زانو زانوئے اقدس سے مل گئے۔“ اس وقت ارشاد فرمایا: ”کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے؟“ عرض کی نہ، فرمایا: ”تیری بیٹی سے؟“ عرض کی نہ، فرمایا: ”تیری بہن سے؟“ عرض کی نہ، فرمایا: ”تیری پھوپھی سے؟“ عرض کی نہ، فرمایا: ”تیری خالہ سے؟“ عرض کی نہ، فرمایا: ”کہ جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ ہوگی۔“ یعنی جو بات اپنے لئے نہیں پسند کرتا دوسرے کے لئے کیوں پسند کرتا ہے۔ دستِ اقدس ان کے سینے پر مار کر دعا فرمائی کہ ”اللہی (عَزَّوَجَلَّ) زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔“ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی اور اب اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے مبغوض (یعنی ناپسندیدہ) نہیں۔

اس کے بعد حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے فرمایا کہ میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی کا اونٹ بھاگ گیا۔ لوگ اسے پکڑنے کو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، جتنا دوڑتے ہیں وہ زیادہ بھاگتا ہے۔ اس کے مالک نے کہا تم لوگ ٹھہر جاؤ اس کی راہ میں جانتا ہوں۔ سبز گھاس کا ایک مٹھالے کر چمکا رتا ہوا اونٹ کے قریب گیا اور اسے پکڑ لیا اور بٹھا کر اس پر سوار ہوا۔ فرمایا اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو جہنم میں جاتا۔

## قرض دبا لینا

**عرض:** حضور میرے کچھ روپے ایک شخص پر ہیں وہ نہیں دیتے؟

**ارشاد:** اس زمانہ میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا، ایک مشکل خیال ہے۔ میرے پندرہ سو روپے لوگوں پر قرض ہیں۔ جب قرض دیا، یہ خیال کر لیا کہ دے دے تو خیر ورنہ طلب نہ کروں گا۔ جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا {پھر خود ہی فرمایا} جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبہ کیوں نہیں کر دیتا (یعنی تحفہ کیوں نہیں دے دیتا) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: جب کسی کا دوسرے پر دین (یعنی قرض) ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین (یعنی قرض) ہے۔ (شعب الایمان، الحدیث ۱۱۲۶۱، ج ۷، ص ۵۳۸) اس ثوابِ عظیم کے لئے میں نے قرض دیئے ہبہ نہ کئے کہ پندرہ سو روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا۔

## حافظ کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟

**عرض:** حضور حافظ کتنوں کی شفاعت کرے گا سنا گیا ہے کہ اپنے اعزّاء (یعنی رشتہ داروں میں) سے دس شخصوں کی؟

**ارشاد:** ہاں۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی فضل من تعلم القرآن و علمہ، الحدیث ۲۱۶، ج ۱، ص ۱۴۱) اور اُس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے اور شہید پچاس شخصوں کی، حاجی ستر کی، اور علمائے گنتی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ عالم کے ساتھ جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق ہوگا، اُس کی شفاعت کریں گے۔ کوئی کہے گا: میں نے وضو کے لئے پانی دیا تھا، کوئی کہے گا: میں نے فلاں کام کر دیا تھا۔ لوگوں کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جنت کو بھیجے جائیں گے، علما کا حساب کب کا ہو چکا ہوگا اور وہ روکے جائیں گے۔ عرض کریں گے: الہی (عَزَّوَجَلَّ) لوگ جارہے ہیں ہم کیوں روکے گئے ہیں؟ فرمایا جائے گا: تم آج میرے نزدیک فرشتوں کی مانند ہو شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت سے لوگ بخشے جائیں۔ ہر سنی عالم سے فرمایا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت کرا کر چہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔

## سرکارِ مدینہ ﷺ کا نام اقدس

**عرض:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اقدس کیا ہے؟

**ارشاد:** حضور کے علم ذات دو ہیں: کتب سابقہ میں احمد ہے اور قرآن کریم میں محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے اسماء صفات (یعنی صفاتی نام) بے گنتی ہیں۔ علامہ احمد خطیب قسطلانی (علیہ رحمۃ اللہ) نے پانچ سو جمع فرمائے۔ (ملخصاً، المواہب اللدنیہ، الفصل الاول فی ذکر اسمائہ الشریفۃ..... الخ، ج ۱، ص ۳۶۶) سیرت شامی میں تین سو اور اضافہ کئے اور میں نے چھ سو اور ملائے۔ کل چودہ سو ہوئے اور حضور کے اسماء ہر طبقے میں مختلف ہیں اور ہر جنس میں جدا گانہ ہیں، دریا میں اور نام ہیں پہاڑوں میں اور۔

**عرض:** یہ کثرتِ اسماء کثرتِ صفات پر دلالت کرتی ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔

**عرض:** ہر طبقہ اور ہر جنس میں جدا جدا نام ہونا اس لئے کہ ہر جگہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی ایک خاص تجلی ہے۔ جس جگہ جس صفت کا ظہور ہے اسی کے مناسب نام بھی ہے۔

**ارشاد:** یہ بھی ہے۔ (اس کے بعد بیان فرمایا) انجیل شریف کی بہت سی آیات ہیں، جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے اوصاف بیان کر رہی ہیں، اگرچہ نصاریٰ (یعنی عیسائیوں) نے بہت تحریف کی ہے، اور اپنی چلتی وہ کل آیتیں جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے اوصاف میں تھیں، نکال ڈالیں مگر جس امر کو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) پورا کرنا چاہے اس کو کون ناقص کر سکتا ہے۔ بہت سی آیتیں اب بھی رہ گئیں مگر انہیں سوجھتی نہیں علیٰ هذا القیاس (یعنی اسی طرح) تورات و زبور میں۔

### کیا اللہ عزوجل اور اُس کے حبیب ﷺ کا علم برابر ہے؟

**مؤلف:** ایک صاحب شاہجہانپور سے حاضر خدمت ہوئے انہوں نے عرض کی میں نے سنا ہے اور بعض دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی دیکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو جناب (یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ) اللہ تعالیٰ کے علم کریم کے برابر فرماتے ہیں مگر چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لئے میں نے چاہا کہ حضور کا شرف ملاقات حاصل کر کے اسے عرض کروں اور جو کچھ حضرت کا اس بارے میں خیال ہو دریافت کروں۔

**ارشاد:** اس کا فیصلہ قرآن عظیم نے فرما دیا:

فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝ ترجمہ کنز الایمان: تو جھوٹوں پر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی لعنت ڈالیں۔

(پ ۳، ال عمران: ۶۱)

جو میرے عقائد ہیں وہ میری کتابوں میں لکھے ہیں۔ وہ کتابیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، کہیں اس کا کچھ نام و نشان ہو تو کوئی دکھا دے۔ ہم اہل سنت کا مسئلہ علم غیب میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب لے عنایت فرمایا۔ ربَّ عَزَّوَجَلَّ فرماتا

۱: قرآن کریم کی بیشتر آیات کریمہ مثل ”وَعَلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا“ (پ ۵، النساء: ۱۱۳) ”ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔“ اور بہت احادیث شریفہ مثلاً ”فَتَسَجَلِيْ لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَّعَرَفْتُ ترجمہ: تو میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ (ملتنقطاً، جامع ترمذی، کتاب التفسیر، باب من سورة ص، الحدیث ۳۲۴۶، ج ۵، ص ۱۶۰) نیز کثیر اقوال ائمہ سے آفتاب نصف النہار (یعنی آدھے دن کے سورج) کی طرح روشن ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو علم غیب عنایت ہوا۔ تفصیل کے لئے ”خالص الاعتقاد“، ”انباء المصطفیٰ“، ”الدولة المكيّة“، ”مآلئ الحبيب“ وغیرہ رسائل شریفہ امام اہلسنت مجدد المائۃ الحاضرة دامت برکاتہم ملاحظہ ہوں۔ ۱۲ مؤلف غفرلہ

ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝  
یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔

(ب، ۳۰، التکویر ۲۴)

تفسیرِ معالم و تفسیرِ خازن میں ہے یعنی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو علمِ غیب آتا ہے وہ تمہیں بھی تعلیم فرماتے ہیں۔ (تفسیرِ خازن، سورۃ التکویر تحت الایۃ ۲۴، ج ۴، ص ۳۵۷) اور وہابیہ دیوبندیوں کا یہ خیال ہے کہ کسی غیب کا علم حضور کو نہیں، اپنے خاتمہ کا بھی علم نہیں، دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں بلکہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے لئے علمِ غیب کا ماننا شرک ہے اور شیطان کی وسعتِ علم نص (یعنی ایسی آیت قرآنی یا حدیث) سے ثابت ہے اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے دیئے سے بھی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو علمِ غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ برابری تو درکنار، میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علمِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کے کروڑوں حصہ کو کروڑوں سمندر سے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی (یعنی محدود) کے ساتھ ہے اور وہ غیر متناہی (یعنی لامحدود)، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہے۔

### صدقے کا جانور ذبح کئے بغیر کسی کو دینا کیسا؟

**عرض:** صدقے کا جانور بلا ذبح کئے کسی مصرفِ صدقہ (یعنی جسے صدقہ دینا جائز ہو) کو دے دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟  
**ارشاد:** اگر صدقہ واجبہ ہے اور جو خاص ذبح کا ہے تو بے ذبح ادا نہ ہوگا۔ مگر اس حالت میں کہ ذبح کے لئے وقت معین (یعنی مقرر) تھا جیسے قربانی کے لئے ذی الحجہ کی دسویں گیارہویں بارہویں اور وقت نکل گیا تو اب زندہ تصدق (یعنی صدقہ) کیا جائے گا۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الاضحیۃ، الباب الاول، ج ۵، ص ۲۹۴)

### کیا نانا نانی وغیرہ عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟

**عرض:** عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ماموں بچا وغیرہ کھائیں یا نہیں؟  
**ارشاد:** سب کھا سکتے ہیں ”کُلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا وَاِتَّحِرُوْا“ (یعنی: کھاؤ صدقہ کرو اور کارِ ثواب میں صرف کرو۔ ت) عَقُوْدُ الدَّرِيْهِ میں ہے ”اَحْكَامُهَا اَحْكَامُ الْاُضْحِيَّيْهِ“ (یعنی عقیقے کے احکام قربانی کے احکام کی طرح ہیں۔ ت)

(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الذبائح و مطالبه، ج ۲، ص ۲۳۳)

۱: ”حضور کو معاذ اللہ اپنے خاتمہ کا بھی علم نہیں اور دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں اور حضور کے لئے علمِ غیب کا ماننا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے اور شیطان کا علم وسیع ہے اپنے خاتمہ کا علم نہ ہونا“ دہلی کے ایک وہابی نے کہا تھا۔ باقی سب کفریات براہین قاطعہ میں ہیں۔ مؤلف مغرلہ

## مُحَرَّمٌ وَصَفَرٌ مِیْنِ نِكَاحٍ كَرْنَا كِیْسَا؟

**عرض:** کیا مُحَرَّمٌ و صَفَرٌ میں نِكَاح کرنا منع ہے؟

**ارشاد:** نِكَاح کسی مہینہ میں منع نہیں، یہ غلط مشہور ہے۔

## رَبِیْبَهَ كَا نِكَاحٍ

**عرض:** زید کی ربیبہ (یعنی سوتیلی) لڑکی کا نِكَاح زید کے حقیقی بھائی سے ہو سکتا ہے؟

**ارشاد:** ہاں جائز ہے۔

## دورانِ عَدَّتِ نِكَاحٍ كَرْنَا كِیْسَا؟

**عرض:** کیا عَدَّتِ کے اندر بھی نِكَاح ہو سکتا ہے؟

**ارشاد:** عَدَّتِ میں نِكَاح تو نِكَاح، نِكَاح کا پیام دینا بھی حرام ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطلاق، باب فی الحداد، ج ۱، ص ۵۳۴)

## دورانِ عَدَّتِ نِكَاحٍ پڑھانے والے کا حکم

**عرض:** اگر کوئی پیش امام یا قاضی عدت میں نِكَاح پڑھائے گا تو اُس کے لئے کیا حکم ہے؟ اُس پڑھانے والے کے نِكَاح میں تو

کچھ فرق نہ آئے گا اور ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ اور اُس پر کچھ کفارہ بھی لازم ہو گا یا نہیں؟ اور اس نِكَاح میں جو لوگ شریک

ہوئے اُن کی نسبت بھی ارشاد ہو، پیش امام نے اقرار کیا کہ غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے مسلمان معاف فرمائیں۔ مگر ایک مولوی صاحب

نے اُس سے کہہ دیا کہ تم کہہ دو مجھے اطلاع نہ تھی میں نے بے خبری میں نِكَاح پڑھا دیا، اُن صاحب کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** جس نے دانستہ (یعنی جان بوجھ کر) عدت میں نِكَاح پڑھا دیا، اگر حرام جان کر پڑھا دیا، سخت فاسق اور زنا کا دلال ہوا

مگر اس سے اُس کا اپنا نِكَاح نہ گیا اور اگر عدت میں نِكَاح حلال جانا تو خود اُس کا نِكَاح جاتا رہا اور وہ اسلام سے خارج

ہو گیا۔ بہر حال اُس کی امامت جائز نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ یہی حکم شریک ہونے والوں کا ہے، جو نہ جانتا تھا کہ نِكَاح

پیش از عدت (یعنی تکمیل عدت سے پہلے) ہو رہا ہے اُس پر الزام نہیں اور جو دانستہ شریک ہوا، اگر حرام جان کر تو سخت گناہ گار ہوا

اور حلال جانا تو اسلام بھی گیا۔ اور وہ شخص جس نے امام کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دی سخت گناہ گار ہوا، اُس پر توبہ فرض ہے۔



## میکے میں رہنے والی عورت کا نان نفقہ

**عرض :** ہندہ کے نکاح و رخصت کو دو سال ہوئے۔ رخصت کے بعد صرف چودہ پندرہ روز شوہر کے یہاں (یعنی شوہر کے گھر) رہی پھر اپنے میکے چلی آئی، جب سے نہ شوہر بلاتا ہے نہ روٹی کپڑا دیتا ہے اور ہندہ کا مہر نصف مُعَجَّل اور نصف مُؤَجَّل ہے، اب شرعاً وہ نصف مُعَجَّل اور نان نفقہ (یعنی خرچہ) مل سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد :** ہاں! نصف مُعَجَّل کا ابھی یا جب چاہے دعویٰ کر سکتی ہے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الحادی عشر..... الخ ج ۱، ص ۳۱۸) اور اگر وہ شوہر کے یہاں جانے سے انکاری ہو کر نہ بیٹھی بلکہ وہاں جانا چاہتی ہے اور شوہر نہیں آنے دیتا تو نان نفقہ کی بھی مستحق ہے، مگر جتنا زمانہ گزر لیا اُس کا دعویٰ نہیں کر سکتی جب تک کچھ ماہوار مقرر نہ ہو گیا۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطلاق باب السابع عشر فی النفقات، ج ۱، ص ۵۴۴)

## دورانِ عدتِ نکاح کا حکم

(پھر ایک استفتا پیش ہوا) کہ زید نے اپنی عورت کو طلاق دی، دو تین روز کے بعد دوسرے شخص نے نکاح کر لیا۔ ابھی عدت نہ گزری تھی، آیا اُس کا نکاح ہوا یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہوا تو تیس برس تک اُس نے حرام کیا اور وہ حرام کا مرتکب ہوا۔ اب ہم برادری والے اس پر جرمانہ ڈالنا چاہتے ہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ہم اُسے سزا بھی دینا چاہتے ہیں جو شرع فرمائے۔ وہ سزا ہم اُسے دیں یا اُسے برادری سے جدا کر دیں، یا کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں؟

**ارشاد :** وہ نکاح نہیں ہوا، حرام محض ہوا، اور مرد و عورت پر فرض ہے کہ فوراً جدا ہو جائیں، نہ مانیں تو برادری والے انہیں قطعاً برادری سے خارج کر دیں، اُن سے میل جول، بول چال، نشست برخاست (یعنی اٹھنا بیٹھنا) یک لخت (یعنی فوراً) ترک کر دیں۔ اس کے سوا یہاں اور کیا سزا ہو سکتی ہے اور جبراً کھانا ڈالنا یا جرمانہ لینا جائز نہیں۔

## نکاح کی وکالت لیتے وقت گواہ قائم کرنا

**عرض :** ہمارے یہاں اب یہ رواج ہو چلا ہے کہ نکاح کے وقت شہادین (یعنی دو گواہ) بہ ہمراہی وکیل نہیں جاتے اور

۱۔ مہرتین قسم کا ہے؛ (۱) معجل؛ جو خلوت سے پہلے دینا قرار پائے؛ (۲) مؤجل؛ جس کے لئے کوئی میعاد (یا مدت) مقرر ہو، (۳) مطلق؛ جو نہ معجل ہو اور نہ مؤجل۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ (مہر کا) کچھ حصہ معجل ہو اور کچھ مؤجل، کچھ مؤجل کچھ مطلق، یا کچھ معجل اور کچھ مؤجل اور کچھ مطلق۔

(بہار شریعت، حصہ ۷، ص ۶۶)

قاضی بوکالت وکیل اور حاضرین کی شہادت سے نکاح پڑھا دیتا ہے۔ یہ امر عند الشریع (یعنی شریعت کی رو سے) محمود (یعنی پسندیدہ) ہے یا مردود (یعنی ناپسندیدہ)، نیز مذہبِ حنفی میں اس طور پر نکاح صحیح بھی ہوگا یا نہیں؟ کیا وکیل کو اپنے ساتھ دو شاہد (یعنی دو گواہ) رکھنا اور ان گواہوں کا عورت کی اجازت سننا ضروری نہیں، اگر بطریقِ اول نکاح ہوا تو سب گناہگار ہوئے یا نہیں؟

**ارشاد:** وکیل کے ساتھ شاہدوں (یعنی گواہوں) کی کچھ حاجت نہیں۔ اگر واقع (یعنی حقیقت) میں عورت نے وکیل کو اذن دیا (یعنی اجازت دی) اور اس نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ ہاں اگر عورت انکار کرے گی کہ میں نے اذن نہ دیا تھا تو حاکم کے یہاں گواہوں کی حاجت ہوگی۔

### ایک غلطی کی نشاندہی

(پھر فرمایا) یہ تو کوئی غلطی نہیں ہاں یہ ضرور غلطی ہے کہ وکیل ہوتا ہے کوئی اور نکاح پڑھاتا ہے دوسرا۔ مذہبِ صحیح و ظاہر الروایہ (یعنی حنفیہ امام محمد علیہ رحمۃ الصمد کی چھ مشہور متواتر کتابیں جامع کبیر، جامع صغیر، سیئر کبیر، سیئر صغیر، مبسوط، زیادات) میں وکیل بالزکاح (یعنی نکاح کا وکیل) دوسرے کو وکیل نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت وقتیں (یعنی دشواریاں) ہیں جن کی تفصیل میرے فتاویٰ میں ہے۔ (ملخصاً، الفتاویٰ الرضویہ، ج ۱۱، رسالہ ”ماحی الضلالة فی انکحة الہند..... الخ“ ۱۴۲ تا ۱۵۴) لہذا یہ چاہیے کہ جس سے نکاح پڑھوانا منظور ہو اسی کے نام کی اجازت لی جائے یا اذنِ مطلق لے لیا جائے۔

### دولہا کا سہرا

**عرض:** حضور نوشہ (یعنی دولہا) کا وقت نکاح سہرا باندھنا نیز باجے گاجے سے جلوس کے ساتھ نکاح کو جانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟

**ارشاد:** خالی پھولوں کا سہرا جائز ہے اور یہ باجے جو شادی میں رائج و معمول ہیں سب ناجائز و حرام ہیں۔

### ولیمہ سنت ہے

**عرض:** حضور ولیمہ کا کھانا شریعت کے کس حکم میں داخل ہے اور اس کا تارک (یعنی چھوڑنے والا) کیسا ہے؟

**ارشاد:** ولیمہ بعد زفاف (یعنی سہاگ رات کے بعد) سنت اور اس میں صیغہ امر (یعنی حکم کا لفظ) بھی وارد ہے۔ عبدالرحمن بن عوف

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: "أَوْلِمُّمُ وَكَلْمٌ بِشَاةٍ" ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی ذنبہ یا اگرچہ ایک ذنبہ۔<sup>۱</sup> (ملانقطاً، جامع ترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی الولیمة، الحدیث ۱۰۹۶، ج ۲، ص ۳۴۸) دونوں معنی مُحْتَمَل (یعنی مُراد لئے جاسکتے) ہیں اور اول اظہر (یعنی پہلا معنی مُراد لینا زیادہ ظاہر ہے)۔

## نکاح سے پہلے ولیمہ کرنا کیسا؟

**عَرُضٌ** : جس شہر کے لوگوں میں سے ایک بھی ولیمہ نہ کرتا ہو بلکہ نکاح سے پہلے اول روز جیسا رواج ہے کھلا دیتا ہو تو ان سب کے لئے کیا حکم ہے؟

**اِرْشَادٌ** : تارکانِ سُنَّتِ ہیں مگر یہ سُنَنِ مُسْتَحَبَّةٍ سے ہے۔ تارک (یعنی چھوڑنے والا) گناہگار نہ ہوگا، اگر اسے (یعنی ولیمہ کو) حق جانے۔

## رَضَاعِي بَهْتِيجِي سے نکاح حرام ہے

**عَرُضٌ** : حضور اگر ہندہ بوقتِ شیر خواری عمر و پسر خود، (یعنی ہندہ اپنے بیٹے عمر و کے دودھ پینے کے وقت) بکر کو مدّتِ رَضَاعَتِ<sup>۲</sup> کے اندر اپنا دودھ پلائے، اس کے بعد ہندہ کے تین لڑکے سعید، فاضل، سلیم پیدا ہوئے تو اب بکر کی لڑکی سے سلیم کا نکاح جو عمر و کا برادرِ حقیقی (یعنی حقیقی بھائی) ہے جائز ہے یا نہیں؟

**اِرْشَادٌ** : بکر کی لڑکی ہندہ کی اگلی بچھلی سب اولاد کی رضاعی بھتیجی ہے اور باہم مُنْكَاحَتْ (یعنی آپس میں نکاح کرنا) حرامِ قطعی۔

## رضاعت کا ایک مسئلہ

**عَرُضٌ** : زید و بکر آپس میں بچا زاد بھائی بھی ہیں اور رضاعی بھی، زید کے حقیقی چھوٹے بھائی کا بکر کی حقیقی چھوٹی، ہمیشہ سے

۱: پہلے معنی ایک ذنبہ کی قلت پر دلالت کرتے ہیں یعنی زیادہ نہ ہو تو ایک ہی ذنبہ سہی، دوسرے معنی اس کی کثرت پر یعنی اگرچہ پورا ذنبہ صرف کرنا پڑے۔ ۱۲ منہ

۲: صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی بہار شریعت میں لکھتے ہیں: بچہ کو دو برس تک دودھ پلایا جائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دو برس تک اور لڑکے کو ڈھائی برس تک پلا سکتے ہیں یہ صحیح نہیں یہ حکم دودھ پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے لئے ڈھائی برس کا زمانہ ہے یعنی دو برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی، حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ مدت پوری ہونے کے بعد بطورِ علاج بھی دودھ پینا یا پلانا جائز نہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۷، ص ۲۹)

نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟  
ارشاد: جائز ہے۔

## کیا کسی کو بُرا نہیں کہنا چاہئے؟ { ایک علمی مذاکرہ }

**مؤلف:** ”تحفہ حنفیہ“ کی جلد پیش نظر تھی، اس میں یہ مکالمہ ملا۔ خیال ہوا کہ اسے بھی ملفوظات میں شامل کر لیا جائے کہ نہایت مفید اور ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہے۔ ۲۵ جمادی الاولیٰ روز پنجشنبہ ۱۳۱۶ھ کو وقتِ چاشت جناب مولوی سید محمد شاہ صاحب صدرِ رُوْم ندوہ ابنِ مولوی سید حسن شاہ محدث رامپوری مع گرامی جناب سید نوشہ میاں صاحب و جناب مولوی سید محمد نبی صاحب مختار و جناب تصدق علی صاحب وکیل۔ صاحبِ حجرتِ قاہرہ (یعنی مضبوط دلیوں والے)، مجددِ مآۃِ حاضرہ (یعنی موجودہ صدی کے مجدد) حامیِ اہلسنت اعلیٰ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے یہاں آئے اور دیر تک ایک نفیس جلسہ و دکشا مذاکرہ علمی کا رہا۔ میاں صاحب سے مراد جناب صدرِ رُوْم ندوہ ہیں۔ جو الفاظِ دوخطِ ہلالی کے اندر (یعنی { } میں) ہوں وہ فقیرِ مخررِ سُطور (یعنی خود مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے ہیں۔

**میاں صاحب:** { بعد سلام و مصافحہ و باہمی گفتگوئے مزاجِ پرسی } میں حسن شاہ محدث کا بیٹا ہوں۔  
**ارشاد:** جناب میں اُن کے فضائل سے واقف ہوں اور آپ سے بھی ایک بار نیاز حاصل ہوا تھا۔

**میاں صاحب:** میں بالقصد (یعنی اراداً) ایک بات آپ سے گزارش کرنے کو آیا ہوں اگرچہ آپ کی طبیعتِ علیل (یعنی خراب) ہے { مسہلات (یعنی پیشکش) ہو رہے ہیں } آپ کو تکلیف ضرور ہوگی مگر بات ضروری ہے اور اس میں آپ کی رائے دریافت کرنی ہے۔  
**ارشاد:** میں حاضر ہوں جو فہمِ قاصر (یعنی ناقص فہم) میں آئے اسے گزارش بھی کروں گا، اگرچہ ”رَأَى الْعَلِيلَ عَلِيلًا“ (یعنی بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ ت)

**میاں صاحب:** میری رائے یہ ہے کہ کسی کو بُرا کہنا نہ چاہئے اس لئے کہ صائب نے کہا ہے۔

دھنِ خویشِ بدشنام میالا صائبت کیں زرِ قلب بھر کس کہ دھی باز دھد

(ترجمہ: اے صائب گالی گلوچ سے اپنا منہ آلودہ نہ کر کیونکہ جسے تو برا کہے گا اس کے دل سے بھی وہی صدا نکلے گی۔ ت)

رسالہ ”سَلُّ السُّيُوفِ الْهِنْدِيَّةِ عَلَى كُفْرِيَّاتِ بَابِ النَّجْدِيَّةِ“ میاں صاحب کے پاس پہنچ چکا تھا، یہ نصیحت اس بنا پر تھی۔  
**ارشاد:** بہت بجا (یعنی دُرست) فرمایا۔ جہاں اختلافات فرعیہ ہوں جیسے باہم حنفیہ و شافعیہ وغیرہما فرق اہلسنت (یعنی اہلسنت کے گروہوں) میں وہاں ہرگز ایک دوسرے کو برا کہنا جائز نہیں اور فحش و دشنام (یعنی گالی گلوچ) جس سے دہن (یعنی منہ) آلودہ ہو کسی کو بھی نہ چاہئے۔

**میاں صاحب:** کچھ اختلافات فرعی کی قید نہیں۔ زمانہ رسالت میں دیکھئے: منافق لوگ کیسے مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے، مجالس میں پاس بیٹھتے، شریک رہتے۔

**ارشاد:** ہاں صدر اسلام (یعنی شروع اسلام) میں ایسا تھا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ {ندوے کا سا} یہ گھال میل جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں یوں رہنے نہ دے گا ضرور خبیثوں کو طیبوں (یعنی پاکوں) سے الگ کر دے گا۔  
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ  
 ترجمہ کنز الایمان: اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو سُتھرے سے۔ (پ ۴، ال عمران: ۱۷۹)

اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ بھری مسجد میں خاص جمعے کے دن عَلِي رُوُوَسِ الْأَشْهَادِ (یعنی برسر عام) حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام بنام ایک ایک کو فرمایا: ”يَا فُلَانُ فَاسْخُرْجُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ“ اے فلاں نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں نکل جا تو منافق ہے۔ نماز سے پہلے سب کو نکال دیا۔ (یہ حدیث طبرانی وابن ابی حاتم نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی) (المعجم الاوسط، الحدیث ۷۹۲، ج ۱، ص ۲۳۱)

مخالفین دین کے ساتھ یہ برتاؤ اُن کا ہے جنہیں رَبُّ الْعِزَّةِ عَزَّوَجَلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرماتا ہے، جن کی رحمت رحمتِ الہیہ کے بعد تمام جہان کی رحمت سے زیادہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

**میاں صاحب:** دیکھئے فرعون کے پاس جب موسیٰ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام) کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (پ ۱۶، طہ: ۴۴) اُس سے نرم بات کہنا۔

**ارشاد:** مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط (پ ۱۰، التوبہ: ۷۳)

اے نبی جہاد کر کافروں اور منافقوں سے اور ان پر شدت و سختی کر۔

یہ انہیں حکم دیتا ہے جن کی نسبت فرماتا ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ○ (پ ۲۹، القلم: ۴)

بے شک تو بڑے خلق پر ہے۔

تو معلوم ہوا کہ مخالفانِ دین پر شدت و غلظت (یعنی سختی) منافیِ اخلاق (یعنی بد اخلاقی) نہیں بلکہ یہی خلقِ حسن ہے۔

**میان صاحب:** میری مراد کافروں سے نہیں۔ {منافقین اور فرعون شاید مسلمان ہوں گے!}

**ارشاد:** جی آپ کی بہر کس (یعنی ”ہر کسی“) تو سب کو عام تھی۔ خیر اب کوئی دائرہ محدود کیجئے۔

**میان صاحب:** جو کلمہ کفر کہے اسے ان لفظوں سے بیان کیجئے کہ میرے فلاں بھائی نے جو بات کہی ہے میرے نزدیک یہ کلمہ کفر معلوم ہوتی ہے۔

**ارشاد:** کفریات بکنے والا بِحَمْدِ اللّٰهِ میرا بھائی نہیں اور جب اس کا کلمہ کفر ہونا ثابت ہو تو ان گزرے لفظوں کی کیا حاجت کہ ”میرے نزدیک ایسا معلوم ہوتا ہے“ جس سے عوام سمجھیں کہ احتمالی بات ہے، شک ہے۔

**میان صاحب:** میرے نزدیک ضرور کہنا چاہئے۔

**ارشاد:** جب دلیل شرعی قائم ہو تو ضرور صاف کہنا چاہئے۔

**میان صاحب:** خیر یہ کہو کہ کلمہ کفر کہا مگر گمراہ نہ کہو۔

**ارشاد:** کیا خوب گمراہی کفریات بکنے سے بھی کسی بدتر چیز کا نام ہے؟

**میان صاحب:** یوں تو داڑھی منڈا فاسق بھی گمراہ ہے مگر عرف میں گمراہ بہت بُرا لقب ہے۔

**ارشاد:** داڑھی منڈانے والا کہ اسے فعلِ حرام جانے فاسق ہے گمراہ نہیں، (کہ راہِ سنت جانتا اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے اگرچہ شامتِ نفس سے اختیار نہ کی) مگر قائلِ کفریات ضرور گمراہ ہے۔

**میان صاحب:** کوئی قائلِ کفریات ہو بھی! اب آپ نے اتنے بڑے عالمِ محدث {اسماعیل دہلوی} جس کی عمر خدمت

حدیث میں کٹی، کو قائل کفریات بنا دیا۔

**ارشاد:** ”سَلُّ السُّيُوفِ“ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے؟

**میان صاحب:** ہاں۔

**ارشاد:** میں نے اس میں کافر لکھا ہے؟

**میان صاحب:** نہیں کافر نہیں لکھا۔ { اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَهِيَ غَنِيْمَتٌ هِيَ وَرَنَةٌ بَهِيْمَةٌ وَهَابِيَةٌ تُوْبِيْهِ رُوْرٌ هِيَ فِيْهَا تَكْفِيْرٌ كَرِيْمٌ }۔

**ارشاد:** تو جس قدر میں نے لکھا ہے وہ ضرور ثابت اور خدمتِ حدیثِ مُسَلَّم (یعنی تسلیم) بھی ہو تو اس سے انتقائے ضلالت (یعنی

گمراہی کا نہ ہونا) لازم نہیں۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

وَأَصَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

ترجمہ کنز الایمان: اللّٰهُ (عَزَّوَجَلَّ) نے

(پ ۲۵، الجانیہ: ۲۳) اسے باوصف علم کے گمراہ کیا۔

**میان صاحب:** اب آپ نے لکھ دیا کہ انہوں نے کہا ہے: خدا کے سوا کسی کو نہ مانو۔

**ارشاد:** جی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، یہی لفظ جا بجا دیکھ لیجئے۔

**میان صاحب:** یہ کون کہے گا کہ نبی کا اعتقاد نہ رکھو۔

**ارشاد:** حضرت اُرْدُو زبان ہے۔ آپ ہی فرمائیے کہ ماننے کے معنی کیا ہیں؟

**میان صاحب:** بھلا ہم نبی کو نہ مانتے تو ڈل نہ پڑھتے کہ نوکری ملتی۔ حدیث کیوں پڑھتے؟

**ارشاد:** یہ آپ اپنی نسبت کہتے۔ اُس کے وقت نہ ڈل تھانہ ڈل کی نوکری۔

**مولانا حسن رضا خان صاحب:** حضرت پچیس برس کی عمر کے بعد نوکری ملتی بھی تو نہیں۔

**میان صاحب:** بھلا کوئی نبی کی شان میں گستاخیاں کرے گا؟

**ارشاد:** کیا مَعَاذَ اللّٰهِ مرکرمٹی میں مل جانا بتانا گستاخی نہیں؟

**میان صاحب:** {انکاری لہجے میں} ہوں۔ کس نے کہا ہے؟

**ارشاد:** اسمعیل نے۔

**میاں صاحب:** کوئی نہیں۔ بھلا کوئی رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو ایسا کہے ہے؟  
**ارشاد:** ”تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ“ چھپی ہوئی موجود ہے، دیکھ لیجئے۔

**میاں صاحب:** بھلا کوئی رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو ایسا کہے ہے؟  
**ارشاد:** جی رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہی کی شان میں کہا ہے، دیکھ لیجئے نا۔

**سید مختار صاحب:** جناب میاں صاحب اُس کے کلمات ضرور یہاں ایسے ہیں جن سے دل دُکھتا ہے۔ یہ {اعلیٰ حضرت قبلہ} ان کے سبب جوش میں ہیں۔

**میاں صاحب:** مولوی رُوم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ اے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تُو ظالم ہے جتنا چاہے مجھ پر ظلم کئے جا، تیرا ظلم مجھے اوروں کے انصاف سے اچھا لگتا ہے۔

**ارشاد:** مولانا قدس سرہ نے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) سے یوں عرض کی ہے؟  
**میاں صاحب:** جی مولانا نے۔

**ارشاد:** مثنوی شریف لاؤ۔ مولوی محمد رضا خاں صاحب (یعنی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی) مثنوی شریف لائے، جناب میاں صاحب کے سامنے رکھ دی۔ میاں صاحب نے ہاتھ سے ہٹا دی۔

**ارشاد:** حضرت بتائیے کہاں لکھا ہے؟

**میاں صاحب:** { مثنوی شریف اور ہٹا کر } اب اسی میں لکھا ہے: بع

”گہہ شہید دیدہ از.....خر“

خر کے ساتھ شہید کا لفظ دیکھئے۔

**ارشاد:** یہ فسق پر استہزاء ہے۔ (یعنی گناہ کرنے پر گناہ گار کا مذاق اڑایا ہے) (قرآن مجید میں) فرمایا:

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○ ترجمہ کنز الایمان: کچھ ہاں ہاں تو ہی بڑا

عزت والا کرم والا ہے۔ (پ ۲۵، الدخان: ۴۹)



اسی حکایت کی سرخی میں ہے:

”جان من ..... رایدی وکدورا نیدی“

جناب نے یہ نہ دیکھا کہ مولانا کا یہ ارشاد تو ہماری دلیل ہے۔ جب ایک فاسقہ کی نسبت اکابر دین ایسے کلمات فرماتے ہیں تو گمراہان بددین زیادہ مستحق تشنیع و توہین ہیں۔

**میان صاحب:** اب آپ ہی جو اپنے آپ کو عبدالمصطفیٰ لکھتے ہیں؟

**ارشاد:** یہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن کی خوبی ہے! ربُّ العزت جل جلالہ نے قرآنِ عظیم میں جو فرمایا:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ

بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ (پ ۱۸، النور: ۳۲)

اسے بھی شرک کہہ دیجئے۔ { حضرت عالمِ اہل سنت (یعنی اعلیٰ حضرت) نے اپنے قصیدے ”اکسیر اعظم“ ۱۳۰۲ھ کی شرح ”مُجْمِعُ مُعْظَمِ“ ۱۳۰۲ھ میں تحریر فرمایا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ”إِزَالَةُ الْخُفَا“ میں حدیث نقل کی ہے: امیر المؤمنین عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ”كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ“ میں حضور کا بندہ اور حضور کا خادم تھا۔ (المستدرک علی الصحیحین، کتاب العلم، خطبہ عمر بعد ما ولی علی الناس، الحدیث ۴۴۵، ج ۱، ص ۳۳۳) اس مسئلے کی بحث کافی اسی کتابِ مُسْتَطَاب (یعنی بابرکت کتاب) میں ہے۔ }

**میان صاحب:** خیر بھائی تمہیں اختیار ہے برا کہو برا سنو۔

**ارشاد:** کافر کو کافر، رافضی کو رافضی، خارجی کو خارجی، وہابی کو وہابی ضرور کہا جائے گا اور وہ ہمیں برا کہیں تو اس کی کیا پرواہ! ہمارے پیشواؤں صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو انتقال فرمائے ہوئے تیرہ سو برس گزرے آج تک اُن کا برا کہنا نہیں چھوٹا۔

**میان صاحب:** ایسے ہی وہ (یعنی فریقِ مخالف) بھی کہتے ہیں پھر اس سے کیا حاصل؟

**ارشاد:** ضرور حاصل ہے۔ حدیث میں فرمایا:

أَتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ

گے؟ فاجر کی برائیاں بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں۔

أَذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ يَحَذَرُهُ النَّاسُ

{ یہ حدیث امام ابو بکر ابن ابی الدنیا نے کتاب ”ذم الغیبة“ اور امام ترمذی محمد بن علی نے ”توادر الأصول“ اور حاکم نے ”کتاب الکنی“ اور شیرازی نے ”کتاب الألقاب“ اور ابن عدی نے ”کامل“ اور طبرانی نے ”معجم کبیر“ اور بیہقی نے ”سنن کبری“ اور خطیب نے ”تاریخ“ میں حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطیب نے ”زواة مالک“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی {

(موسوعة ابن ابی الدنیا، الغیبة والنمیمة، الحدیث ۸۴، ج ۴، ص ۳۷۴)

**میاں صاحب:** تو یہ تو فاسق کو کہا ہے۔

**ارشاد:** فسق عقیدہ، فسق عمل سے بدرجہا یعنی کئی درجے بدتر ہے۔

**میاں صاحب:** بے شک۔

**ارشاد:** خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بد مذہبوں کو جہنمی بتایا:

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً  
ترجمہ: ایک فرقے کے علاوہ باقی سب فرقے دوزخی ہیں۔

(المعجم الاوسط، الحدیث ۴۸۸۶، ج ۳، ص ۳۸۰) اب کیا نہ کہا جائے گا کہ رافضی گمراہ جہنمی ہیں!

**میاں صاحب:** رافضی جہنمی نہیں۔

**ارشاد:** حدیث کا کیا جواب؟

**میاں صاحب:** { سکوت فرمایا }

**ارشاد:** کیا آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر کہنے والا جہنمی نہیں؟

**میاں صاحب:** کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں۔

**ارشاد:** رافضی کہتے ہیں۔

**میاں صاحب:** کوئی رافضی ایسا نہیں کہتا۔

**مولوی سید تصدق علی صاحب:** چھپی ہوئی کتابیں تو موجود ہیں اور کوئی کہتا ہی نہیں!

**میاں صاحب:** میرے دس بارہ ہزار ملاقاتی اور عزیز رافضی ہیں، کسی نے میرے سامنے اس کا اقرار نہیں کیا، کوئی ایسا نہیں کہتا۔

**سید مختار صاحب:** حضرت وہ ضرور ایسا کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے تقیہ (یعنی اپنے مذہب کو چھپاتے ہوئے) کچھ

اور کہہ دیا ہوگا۔

**ارشاد:** حضرت اب وجہ حمایت معلوم ہوئی!

**میان صاحب:** پھر بھائی تم انہیں برا کہو، وہ تمہیں برا کہیں۔

**ارشاد:** اس کی پرواہ نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو اب تک (برا) کہا جاتا ہے۔

**میان صاحب:** ایسے ہی وہ بھی کہتے ہیں۔

**ارشاد:** آپ کے نزدیک یہود و نصاریٰ گمراہ ہیں یا نہیں؟

**میان صاحب:** ہوں گے۔

**ارشاد:** ہیں یا نہیں؟

**میان صاحب:** ہوں گے {اللہ اللہ ضروریات دین میں بھی تا مٹل}

**سید مختار صاحب:** اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی وہ بھی آپ کو کہتے ہیں تو اہل باطل اگر اہل حق کو اہل باطل کہیں، اس سے اہل حق انہیں اہل باطل کہنے سے باز نہیں رہ سکتے۔

**میان صاحب:** تشدد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے زمانے میں رافضیوں نے سنیوں کو قتل کیا، سنیوں نے رافضیوں کو مارا۔

ہمارے نزدیک دونوں مردود {اللہ اللہ کفریات بکنے والوں کو گمراہ نہ کہے، رافضیوں کو جہنمی نہ بتائے مگر سستی ضرور مردود۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ}

**ارشاد:** آپ ایسا فرمائیے مگر اہل سنت ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

**میان صاحب:** جب دونوں مسلمان ہیں اور باہم لڑے، دونوں مردود ہوئے {سُبْحٰنَ اللّٰہِ اِسی دلیل سے خارجیوں نے

مولیٰ علی رضی اللہ عنہ اور اہل جہنم و اہل صفین سب پر معاذ اللہ وہ حکم ناپاک لگایا تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ}

**ارشاد:** بھلا امیر المؤمنین مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ایک دن میں پانچ ہزار کلمہ قتل فرمائے جو نہ صرف مسلمان بلکہ قُرَّاء

و علماء کہلاتے، اُس کی نسبت کیا ارشاد ہے؟

**سید مختار صاحب:** میان صاحب یہ بحث ختم نہ ہوگی۔ اب تشریف لے چلے اور اس جلسے کو خوشی و خوش اُسلوبی پر

ختم کیجئے۔

**میاں صاحب:** { کھڑے ہو کر تشریف لے جاتے وقت } ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کسی نے اُن کے سامنے برا کہا۔ لوگوں نے اسے قتل کرنا چاہا۔ صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ قتل میرے برا کہنے والے کے لئے نہیں ہے۔ { آگے تہمتہ (یعنی خاتمہ)، حدیث یوں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، (المعجم الصغير للطبرانی، ج ۱، ص ۲۳۶) میاں صاحب یہیں تک پہنچے کہ ”اس کے لئے ہے کہ“ اعلیٰ حضرت قبلہ نے سبقت کر کے فرمایا { جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے مَعَاذَ اللَّهِ مَرَكْمِي فِي مِلِّكَ }۔

حاضرین سوائے میاں صاحب، سب ہنسنے لگے۔

**ارشاد:** اَلْحَمْدُ لِلَّهِ هَمِ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ كَمَا تَالَعُ (یعنی پیروکار) ہیں جنہوں نے خوارِ ج کونہ گلہ لگایا نہ بھائی بنایا۔ بد مذہبی کے ہوتے ہوئے کچھ پاس (یعنی لحاظ) نہ فرمایا۔

**میاں صاحب:** السلام علیکم

{ جلسہ بالخیر (یعنی بخوبی) ختم و تمام وَالْحَمْدُ لِلَّهِ }

## تہمت کی جگہ سے بچئے

**مؤلف:** حدیث میں ارشاد فرمایا:

اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ بِجَوْتِهْمِ كِي جگہوں سے۔

(كشف الخفاء، حرف الهمزة مع الباء الموحدة، حدیث ۸۸، ج ۱، ص ۳۷)

یہ امر کسی کے ساتھ خاص نہیں سب مسلمانوں کو عام ہے۔ وہ عام ہوں یا خاص اور ظاہر کہ اولیائے کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) مُكَلَّف (یعنی پابندِ قانونِ شرع) ہیں تو وہ بھی مامور (یعنی حکم میں شامل) ہوئے پھر انہیں اس امر کا خلاف کیونکر جائز ہوگا اور پھر اس صورت میں صرف تہمت کے موقع سے نہ بچنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بلا وجہ بدگمانی کا مرتکب کرنا بھی ہے، جو حرام ہے۔

**ارشاد:** شریعت میں احکام اضطرار (یعنی بے اختیاری و مجبوری کے احکام)، احکام اختیار سے جدا ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ خمر (یعنی شراب) و خنزیر حرام قطعی ہیں، مگر ساتھ ہی ارشاد ہوا:

## فَمِنْ أَصْطَرَفِي مَخْصَصَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو۔

(پ ۶، المائدہ: ۳)

بھوک یا پیاس سے جان نکلی جاتی ہے اور کھانے یا پینے کو حرام کے سوا کچھ نہیں، اب اگر ترک کرے تو گناہگار ہوگا اور حرام موت مرے گا۔ بلکہ فرض ہے کہ جان بچانے کی قدر استعمال کرے۔

(درمختار معہ رد المحتار، کتاب الحظر والاباحہ، ج ۹، ص ۵۵۹)

یوں ہی اگر نوالہ اٹکا، دم نکلا جاتا ہے اور اتارنے کو سوائے خمر کچھ نہیں۔ شریعت کا کلیہ قاعدہ ہے:

الْأَصْرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (یعنی ضرورتوں کی بنا پر ممنوع اشیاء مباح

(الاشیاء والنظائر، القاعدة الخامسة، ص ۷۳) ہو جاتی ہیں۔ ت)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ قلب (یعنی دل) کی محافظت اہم و اعظم فرائض سے ہے۔ جب بحالت ضعف و تنگی (یعنی کمزوری اور مشقت کے وقت) اس کا حفظ بے ایسے کسی اظہار کے نہ بن پڑے تو یہ واجب ہوگا۔ حقیقتِ فعل سے جاہل (یعنی لاعلم) اسے مرتکبِ حرام جانے کا حالانکہ وہ ایک مباح (یعنی جائز کام) کر رہا ہے اور فعل سے واقف، حالِ فاعل سے غافل (یعنی وہ شخص جو اس کے عمل کو تو دیکھے مگر کرنے والے کی حالت پر توجہ نہ کرے) اُسے موضعِ تہمت میں پڑتا، لوگوں کو بدگمانی میں ڈالتا، یوں خلاف امر (یعنی حکمِ شرع کے خلاف) کرتا گمان کرے گا حالانکہ وہ ادائے واجبِ اعظم کر رہا ہے۔ کیا اپنے کسی عضو کا ڈالنا حرام نہیں! لیکن مَعَاذَ اللّٰهِ آکلہ (یعنی وہ زخم جو کسی عضو کی ساخت کو کھاتا اور گلاتا چلا جائے) ہو جائے تو کاٹ ڈالا جائے گا کہ اور بدن محفوظ رہے۔

## سِتْنَا سَوْدَا

سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا شرفیاں ملیں۔ کنارہٴ دجلہ پر ایک صاحب خط بنوار ہے تھے، اُن کو دیں قبول نہ کیں۔ حجام کو دیں (اُس نے) کہا: ”میں نے ان کا خط اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے بنانا چاہا ہے اس پر عروض (یعنی بدلہ) نہ لوں گا۔“ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس مال سے فرمایا کہ تُو ایسی ہی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرتا اور دریا میں پھینک دیں۔

جاہل گمان کرے گا کہ تَضَعِ مال ہوئی (یعنی مال ضائع ہوا) حاشا (یعنی ہرگز نہیں) بلکہ ”حَفِظِ قلب“ کہ اُس وقت یہی اس کا ذریعہ تھا۔ دو صاحب سامنے تھے کسی نے قبول نہ کیں اب ان کو پاس رکھتے اور ایسے فقیر کی تلاش میں نکلتے جو قبول

کر لیتا اور معصیت (یعنی گناہ) میں نہ اٹھاتا، اتنی دیر تک کی زندگی پر تم لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے وہاں ہر آن موت پیش نظر ہے اور ڈرتے ہیں کہ اُس وقت آجائے اور اس غیر خدا کا خطرہ (یعنی خیال) قلب میں ہو۔ جنگل میں پھینک دیتے تو نفس کا تعلق قطع نہ ہوتا کہ ابھی دسترس (یعنی پہنچ باقی) رہتی۔ اب بتائیے سو اس کے اُن کے پاس کیا چارہ (یعنی راستہ) تھا کہ اُس (یعنی مال) سے فوراً فوراً اس طرح ہاتھ خالی کر لیں کہ نفس کو یاس (یعنی مایوسی) ہو جائے اور اُس کے خیال سے باز آجائے۔ یہ صفائے قلب و دفعِ خطرہ غیر (یعنی دل کی صفائی اور اس سے غیر خدا کا خیال نکلنے) کی دولت، کروڑوں اشرافیوں بلکہ تمام ہفت اقلیم (یعنی دنیا) کی سلطنت سے کروڑوں درجہ اعلیٰ و افضل ہے۔ کیا اگر سوا شرفیاں خرچ کر کے سلطنت ملی، کوئی اسے تفصیح مال (یعنی مال کا ضائع کرنا) کہہ سکتا ہے؟ بلکہ بڑی دولت کا بہت ارزاں (یعنی سستا) حاصل کرنا، یہی یہاں ہے۔

## وحدت الوجود کے معنی

**عرض :** وحدت الوجود کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد :** وجودِ ہستی بالذات، واجب تعالیٰ کے لئے ہے، اُس کے سوا جتنی موجودات ہیں اُسی کی ظل پر تو (یعنی عکس) ہیں تو حقیقتاً وجود ایک ہی ٹھہرا۔

**عرض :** اس کا سمجھنا تو کچھ دشوار نہیں پھر یہ مسئلہ اس قدر کیوں مشکل مشہور ہے؟

**ارشاد :** اس میں غور و تامل یا موجب حیرت (یعنی حیران کن) ہے یا باعثِ ضلالت (یعنی گمراہی کا سبب)۔ اگر اس کی تھوڑی بھی تفصیل کروں تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا بلکہ اوہامِ کثیرہ (یعنی کثیر وہم) پیدا ہو جائیں گے۔

(اس کے بعد کچھ مثالیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک یاد رہی) مثلاً روشنی بالذات (یعنی بلا واسطہ) آفتاب و چراغ میں ہے، زمین و مکاں اپنی ذات میں بے نور ہیں مگر بالعرض (یعنی بلا واسطہ) آفتاب (یعنی سورج) کی وجہ سے تمام دنیا منور اور چراغ سے سارا گھر روشن ہوتا ہے۔ ان (یعنی زمین و مکاں) کی روشنی اُنہیں (یعنی آفتاب و چراغ) کی روشنی ہے۔ اُن (یعنی آفتاب و چراغ) کی روشنی ان (یعنی زمین و مکاں) سے اٹھالی جائے تو وہ ابھی تاریک محض رہ جائیں۔

## ہر جاہ تو ہی تو

**عرض :** یہ کیوں کہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ صاحبِ مرتبہ کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے؟

**ارشاد:** اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جو شخص آئینہ خانہ میں جائے وہ ہر طرف اپنے آپ ہی کو دیکھے گا، اس لئے کہ یہی اصل ہے اور جتنی صورتیں ہیں سب اسی کے ظل (یعنی عکس) ہیں مگر یہ صورتیں اُس کی صفات ذات کے ساتھ متصف (یعنی موصوف) نہ ہوں گی مثلاً سننے والی دیکھنے والی وغیرہ وغیرہ نہ ہوں گی۔ اس لئے کہ یہ صورتیں صرف اُس کی سطح ظاہری (یعنی جسم کے ظاہری حصے) کی ظل (یعنی عکس) ہیں، ذات کی نہیں اور سمع و بصر (یعنی سُنتا اور دیکھتا) ذات کی صفتیں ہیں سطح ظاہر کی نہیں لہذا جو اثر ذات کا ہے وہ ان ظلال (یعنی عکس) میں پیدا نہ ہوگا بخلاف حضرت انسان کہ یہ ظل ذات باری تعالیٰ ہے لہذا ظلال صفات سے بھی حسب استعداد (یعنی بقدر صلاحیت) بہرہ ور (یعنی فیضیاب) ہے۔

## دیدار الہی کس طرح ہو گا؟

**مؤلف:** حضور یہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہر جگہ خدا کیوں کر دیکھتے ہیں، اگر ان ظلال و عکس کو کہا جاوے تو یہ ”اتحاد“ ہے ”وحدت“ نہیں اور ”اتحاد“ گھلا الحاد و زندقہ (یعنی کفر و بے دینی) ہے اور اگر یہ ظلال و عکس کو نہیں دیکھتے بلکہ انہیں عدم محض میں سلاتے ہیں ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو یہ خود بھی ایک ظل ہیں یہ بھی معدوم ہوئے تو نہ ناظر (یعنی دیکھنے والا) رہا نہ نظر، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے کیا معنی؟ وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کی نظر اُسے احاطہ کرے وہ سب کو محیط ہے نہ کہ محاط (یعنی وہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے مگر کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا) یہ میرا ایمان ہے کہ قیامت میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیدار الہی (عَزَّوَجَلَّ) سے ہم مسلمان فیضیاب ہوں گے، مگر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ رویت (یعنی دیکھنا) کیونکر ممکن ہے جبکہ احاطہ ناممکن۔ اگر یہ کہا جائے کہ منظور (یعنی جسے دیکھا جائے) کو نظر کا محیط ہو جانا کچھ ضرور نہیں مثلاً فلک (یعنی آسمان) ہے کہ اُس کا ایک حصہ انسان کی نظر میں سما سکتا ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے تو یہ تقریر وہاں جاری نہیں کہ وہ تَجَزِی (یعنی تقسیم) سے پاک ہے۔ میں اپنا مَسَافِی الضَّمِیر (یعنی دل کی بات) اچھی طرح پر ظاہر نہ کر سکا مگر یہ جانتا ہوں کہ حضور میرے ان ٹوٹے ٹوٹے الفاظ سے میرا مطلب خیال فرمائیں گے۔

**ارشاد:** ظلال و عکس مرآت ملاحظہ ہیں، مرآت کا مرئی (یعنی نظر آنے والی چیز) سے متحد ہونا کیا ضرور! علم بالوجہ میں وجہ مرآت ملاحظہ ہوتی ہے، حالانکہ ذوالوجہ سے متحد نہیں بلاشبہ آئینہ میں جو اپنی صورت دیکھتے ہو کیا اس میں کوئی صورت ہے؟ نہیں بلکہ شعاع بصری آئینہ پر پڑ کر واپس آتی ہے اور اس رجوع میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے۔ لہذا ذہنی جانب بائیں اور بائیں

یعنی معلوم ہوتی ہے تو آئینہ تمہارا عین نہیں مگر دکھایا اس نے تمہیں کو۔ ظلال اپنی ذات میں معدوم ہیں کہ کسی کی ذاتِ مقتضی وجود نہیں (یعنی وجود کا تقاضا نہیں کرتی)۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: ہر چیز فانی ہے

(پ ۲۰، القصص: ۸۸) سوا اس کی ذات کے۔

مگر وجودِ عطائی سے ضرور موجود ہیں۔ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے کہ

حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ

ترجمہ: اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔

(شرح العقائد النسفیة، مبحث حقائق الاشیاء ثابتة، ص ۹)

نظر سے ساقط (یعنی اوجھل) ہونا واقع سے عدم نہیں کہ نہ ناظر رہے نہ نظر۔ فی الواقع (یعنی درحقیقت) اس مشاہدہ میں خود اپنی ذات بھی اُن کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ اہلسنت کا ایمان ہے کہ قیامت و جنت میں مسلمانوں کو دیدارِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) بے کیف و بے جہت و بے محاذات (یعنی کیفیت و سمت و مقابلے کے بغیر) ہوگا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ ضَرَّةٌ ۗ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ

کچھ منہ تروتازہ ہوں گے اپنے رب (عَزَّوَجَلَّ) کو

دیکھتے ہوئے۔ (پ ۲۹، القیامۃ: ۲۲، ۲۳)

کفار کے حق میں فرماتا ہے:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ط

بے شک وہ اس دن اپنے رب (عَزَّوَجَلَّ) سے

حجاب میں رہیں گے۔ (پ ۳۰، المطففين: ۱۵)

یہ کافروں پر عذاب بیان فرمایا گیا ہے تو ضرور مسلمان اس سے محفوظ ہیں، بصرِ احاطہ مرئی نہیں چاہتی۔ آیہ کریمہ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ بَصِيرٌ ۗ

ترجمہ کنز الایمان: آنکھیں اسے احاطہ نہیں

کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔ (پ ۷، الانعام: ۱۰۳)

کا یہی مفاد (یعنی فائدہ) ہے کہ وہ ابصار و جملہ اشیاء کا محیط ہے اسے بصر اور کوئی شے محیط نہیں۔ فلک وغیرہ کی مثالیں اس کے بیان کو ہیں کہ بصر کو احاطہ لازم نہیں، نہ یہ کہ وہاں بھی عدمِ احاطہ مَعَاذَ اللَّهِ اسی طرح کا ہے وہاں بمعنی عدمِ ادراکِ حقیقت



وگنہ ہی رہا۔ یہ کہ ”رؤیت کیونکر“ یہ کیف سے سوال ہے وہ اور اس کی رؤیت کیف سے پاک ہے پھر کیونکر کو کیا دخل۔

## مظہرِ حق

**عرض :** ذاتِ باری کے پر تو تو صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”مدارج النبوة“ جلد ثانی کے خاتمہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مظہر صفاتِ الہیہ ہیں اور عامہ مخلوق مظہر اسمائے الہیہ ہے۔

”وَسَيِّدُ كُلِّ مَظْهَرٍ ذَاتِ حَقِّ سِتِّ وَظُهُورِ حَقِّ دَرَوے بِالذَّاتِ سِتِّ“

(یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذاتِ حق کے مظہر ہیں اور ظہورِ حق آپ میں بالذات ہے۔ ت)

(ملخصاً، مدارج النبوة تکملہ از صفات کاملہ، ج ۲، ص ۶۰۹)

**عرض :** تو تمام مخلوق ظلالِ ذات کس طرح ہوگی؟

**ارشاد :** اسماءِ مظہر صفات ہیں اور صفاتِ مظہر ذات اور مظہر کا مظہر مظہر ہے تو سب خلق مظہر ذات ہے اگرچہ بواسطہ بلا بواسطہ۔ شیخ کا کلام مظہر ذات بلا واسطہ میں ہے وہ نہیں مگر حضور مظہر اول صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے لفظ دیکھئے کہ

”ظہورِ حق دروے بالذات سِتِّ“

(یعنی حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ مظہرِ حق ہیں) (ایضاً)

## صَلْحِ كِرْوَانِے كَا مُعَاوَضَه لِيِنَا نَاجِزِه هِے

**عرض :** دو شخصوں میں کچھ روپیہ کا جھگڑا تھا، چودھری نے صلح کرادی اور مدعی (یعنی دعویٰ کرنے والے) کو مدعا علیہ (یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا) سے روپے مل گئے اور برادری میں یہ دستور ہے کہ جب چودھری تصفیہ کراتا ہے تو اپنا کچھ حق مقرر کر رکھا ہے وہ لے لیتا ہے چنانچہ اس صلح میں بھی چودھری اپنے حق کا طالب ہوا، اُس (یعنی مدعی) نے دینے سے انکار کیا۔ جب اُس (یعنی چودھری) نے اصرار کیا تو اُس (یعنی مدعی) نے سب روپے چودھری کو دے دیئے۔ چودھری نے کہا کہ میں صرف اپنا حق لوں گا سب نہ لوں گا۔ اُس نے کہا: ”میں خوشی سے دیتا ہوں۔“ چودھری نے وہ سب روپے لے لئے۔ بعد اس واقعہ کے مدعی نے کچھری میں نالش (یعنی مقدمہ) دائر کی کہ مجھے روپے نہیں ملے اور دو شخصوں نے جو اس واقعہ میں موجود تھے اور جن کے سامنے روپے دیئے گئے تھے قسم کھا کر شہادت دی کہ اسکو روپے نہیں ملے۔ ان سب کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد :** مدعی سے چودھری کو روپیہ لینا حرام ہے، ہاں! اپنی خوشی سے دے تو مضائقہ نہیں اور مدعی اور گواہوں پر تو یہ فرض ہے کہ جھوٹا دعویٰ کیا اور جھوٹی گواہی دی اور جھوٹی قسم کھائی۔

## رشوت کو اپنا حق قرار دینا کفر ہے

**عرض :** رشوت بھی اپنی خوشی سے دی جاتی ہے بلکہ چودھری نے تو مانگا اور مدعی نے انکار کیا۔ پھر جب چودھری کا بہت اصرار ہوا تو اُس نے سب دے دیئے جس سے معلوم ہوا کہ وہ ناخوش تھا اور یہ کہ خوشی سے دیتا ہوں جھوٹ تھا اور رشوت تو بغیر طلب خود دی جاتی ہے پھر یہ کیوں جائز ہوا؟ اور وہ تو حرام ہی ہے اور چودھری کو جو پہلے لینا حرام تھا اس کی وجہ بھی نیت رشوت ہوگی؟

**ارشاد :** انسانی خواہش وہاں تک معتبر ہے جہاں تک نہی شرعی (یعنی شرعی ممانعت) نہ ہو، رشوت شرع نے حرام فرمائی ہے وہ کسی کی خوشی سے حلال نہیں ہو سکتی۔ صحیح حدیث میں فرمایا:

الرَّائِسِيُّ وَالْمُرْتَشِيُّ فِي النَّارِ      رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔

(مجمع الزوائد، کتاب الاحکام، باب فی الرشاء، الحدیث ۷۰۲۷، ج ۴، ص ۳۵۹)

چودھری جو صلح ہو جانے پر صلح کرانے کا معاوضہ لیتے ہیں وہ رشوت نہیں ہے، بلکہ ایک ناجائز اجرت ہے۔ جاہلان بے خرد (یعنی بے عقل جاہل) ایسی جگہ حق کا لفظ بولتے ہیں یہاں تک کہ رشوت خوار (یعنی رشوت کھانے والا) بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارا حق دلوائیے۔ یہ کفر ہے کہ حرام کو حق کہا۔ ورع (یعنی تقویٰ) کا مرتبہ وہی ہے جو تم نے کہا کہ ظاہر انداز سے مظنون (یعنی گمان) ہوتا ہے کہ اس کا یہ دینا حقیقتہً خوشی سے نہ ہوا۔ اگرچہ بظاہر صاف کہہ رہا ہے کہ میں خوشی سے دیتا ہوں مگر شریعت مطہرہ میں زبان مُظہِّر مَافِی الضَّمِیْرِ (یعنی دل کی بات ظاہر کرنے والی) مانی گئی ہے، وہ جو کچھ ہے قیاسی دلالت ہے اور یہ کہ خوشی سے دیتا ہوں صریح تصریح ہے اور فتاویٰ قاضی خاں وغیرہ میں مُصَرَّح (یعنی واضح طور پر بیان کیا گیا) ہے؛

الصَّرِيحُ يَفُوقُ الدَّلَالَهَ      صریح کے آگے دلالت نہ لی جائے گی۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب النکاح، باب فی منع الزوجه..... الخ، ج ۲، ص ۲۸۴)

فقہ میں بہت مسائل اس پر مبنی ہیں کہ خانہ و ہندیہ و دُرِّ مختار میں ہیں اور تمام ”کتاب حیل“ (حیلے کی جمع) کی بنا ہی اس پر ہے ورنہ اصل غرض قلبی اس عقیدہ ملفوظ (یعنی زبان کے ذریعے کئے گئے معاہدے) کے مطابق نہیں ہوتی۔ درزی سے کپڑا سلوایا اور

اُجرت دینے کا کچھ ذکر نہ آیا اُجرت واجب ہوگئی کہ اس کا پیشہ ہی دلیل اُجرت ہے لیکن اگر اُس نے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے اُجرت نہیں چاہتا اب نہیں لے سکتا، اگرچہ دوستانہ میں کہا ہو۔ اگرچہ ایسی صورت میں غالباً یہ کہنا دل سے نہیں ہوتا بلکہ محض مُرُوَّت و لحاظ سے، حتی الامکان مسلمان کا حال صلاح (یعنی اچھائی) پر محمول کرنا (یعنی سمجھنا) واجب ہے۔ قیاس سے ٹھہرا لینا کہ اس نے خوشی سے دینا جھوٹ کہا اس کی طرف تین کبیروں کی نسبت ہے، ایک تو جھوٹ، دوسرے دھوکا دینا کہ دینا ناراضی سے اور اس پر رضا ظاہر کی، تیسرے حرام مال دینا ”جس کا لینا حرام ہے دینا بھی حرام ہے۔“ لہذا اس کا قول واقعیت (یعنی حقیقت) پر محمول کریں گے (یعنی سمجھیں گے)۔

## قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا؟

**عرض:** حضور قسم کا کفارہ کچھ نہیں؟

**ارشاد:** اس صورت میں کفارہ کچھ نہیں، توبہ ہے۔ کفارہ اُس قسم کا ہوتا ہے جو آئندہ کے لئے کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر کھائی اور اسکے خلاف کیا گزشتہ پر قسم کھانے سے کفارہ نہیں۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الایمان، الباب الاول، ج ۲، ص ۵۱)

## سلطنت بخارا کا تذکرہ

**مؤلف:** شب جمعہ میں اعلیٰ حضرت مدظلہ کے چھوٹے بھائی مولانا مولوی محمد رضا خاں صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ آج ایک اخبار سے معلوم ہوا ہے کہ سلطنت بخارا شریف روسیوں سے منتقل ہو کر سلطان المعظم کے زیر اثر آگئی۔ اس پر **ارشاد** ہوا کہ یہ ایک قدیمی اسلامی سلطنت ہے جہاں بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین گزرے ہیں اور جن کے برکات اس وقت تک یہ موجود ہیں کہ ایک وقت میں سب جگہ اذان ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں نماز، دوکاندار اور کاروباری لوگ اپنا اپنا کام فوراً چھوڑ کر شامل جماعت ہو جاتے ہیں۔

## وہ بزرگ کون تھے؟

پھر اسی تذکرہ سلطنت بخارا میں فرمایا کہ میں ایک روز حکیم وزیر علی صاحب کے یہاں قریب دس بجے دن کے جا رہا تھا میری عمر اس وقت جیلانی {اعلیٰ حضرت مدظلہ کے پوتے یعنی مولانا ابراہیم رضا خان علیہ رحمۃ اللہ} کے برابر تھی {دس سال} کہ سامنے سے ایک بزرگ سفید ریش (یعنی سفید داڑھی والے) نہایت شکلیں و جیہہ (یعنی خوبصورت) تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: ”سنتا ہے

بچے آجکل عبدالعزیز ہے، اس کے بعد عبدالحمید اور اس کے بعد عبدالرشید ہوگا۔“ اور فوراً نظر سے غائب ہو گئے۔ چنانچہ اس وقت تک اُن بزرگ کا قول بالکل مطابق ہوا۔ ایسے ہی ایک صاحب مسجد کے قریب ملے میرے بچپن کا زمانہ تھا، مجھے بہت دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ تُو رضا علی خاں کا کون ہے؟ میں نے کہا: ”پوتا۔“ فرمایا: ”جسبی۔“ اور فوراً تشریف لے گئے۔

## سنتِ قبلیہ کا قضا ہونا

**عرض:** نمازِ فرض سے قبل کی سنتیں نہ ملنے سے کیا وہ قضا ہو جاتی ہیں؟

**ارشاد:** اپنے وقت سے قضا سمجھی جائیں گی نہ وقتِ نماز سے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، ج ۱، ص ۱۱۲)

## امام کی تقلیدِ ضروری ہے

**عرض:** کیا ائمہ مجتہدین (یعنی امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) میں اختلاف ہے جو ہاتھوں کے باندھنے میں اختلاف ہے کہ بعض سینے پر اور بعض ناف پر باندھتے ہیں؟

**ارشاد:** خربوزہ کھائیے فالیز (یعنی خربوزے کے کھیت) سے کیا غرض، اس میں نہ پڑیے جو کچھ ائمہ نے فرمایا مطابق شرع ہے اور جو خلاف کریں تو امام ہی کس بات کے۔ ہر ایک کو امام کی تقلید چاہیے۔

## زیارتِ سرکارِ پیغمبر کا وظیفہ

**عرض:** حبیبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارتِ شریفہ حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟

**ارشاد:** دُرود شریف کی کثرتِ شب میں اور سوتے وقت کے علاوہ ہر وقت تکثیر (یعنی کثرت) رکھے بالخصوص اس دُرود شریف کو بعدِ عشاء سو بار یا جتنی بار پڑھ سکے پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نَصَلِّيَ عَلَيْهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ط

حصولِ زیارتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے لئے اس سے بہتر صیغہ نہیں مگر خالص تعظیمِ شانِ اقدس (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے لئے پڑھے اس نیت کو بھی جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے اُن کا کرم بے حد بے انتہا ہے۔

فراق و وصل چہ خواہی رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد از و غیر او تمنائی

(قربت و دوری سے کیا مطلب! دوست کی رضا و خوشنودی طلب کر کہ اس کے علاوہ اُس سے دوسرے کی آرزو کرنا افسوس ناک بات ہے۔ ت)

## سائل کا کُتُب کے حوالے طلب کرنا کیسا؟

پھر ایک مسئلہ معمولی پیش ہوا جس کے اخیر میں لکھا تھا کہ جواب بحوالہ کتب ارقام فرمایا جائے (یعنی کتابوں کے حوالے

سمیت لکھا جائے)۔

**ارشاد:** صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں بھی استفتا پیش ہوتے تھے جن کے جواب فرمادیئے جاتے تھے۔

**حوالہ کتب:** وہاں کہاں تھا اور آجکل مُدَلَّل (یعنی دلیل سے ثابت کیا ہوا)، مفصَّل (یعنی بالتفصیل) صفحہ برسطر دریافت کرتے ہیں حالانکہ سمجھتے کچھ بھی نہ ہوں۔

## اِسْتِغَاثَہ کس دن پیش کیا جائے؟

**عرض:** حضور ایک استغاثہ پیش کرنا ہے۔ اس کے واسطے کونسا دن مناسب ہے؟

**ارشاد:** اس کے لئے کوئی خاص دن مقرر نہیں البتہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی حاجت کو ہفتے کے دن صبح

کے وقت قبل طلوع آفتاب اپنے گھر سے نکلے تو اس کی حاجت روائی (یعنی حاجت پوری ہونے) کا میں ضامن (یعنی ذمہ دار)

ہوں۔ (کنز العمال، الحدیث ۱۶۸۰۸، ج ۶، ص ۲۲۱)

**عرض:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر حاجت کے لئے ارشاد فرمایا ہے؟

**ارشاد:** ہاں جائز حاجت (کے لئے) ہونا چاہیے۔





اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در دسر ہوا، آپ نے اس شکر یہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ ربُّ العزت تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہاں یہ حالت کہ اگر برائے نام درد معلوم ہوا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔ پھر فرمایا: ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع (یعنی جگہ) پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے جس سے بِأَذْنِهِ تَعَالَى (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے) تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہ مجھے اکثر حرارت و درد دسر رہتا ہے۔

## خلفائے راشدین کے زمانہ میں بد مذہب موجود تھے؟

**عرض:** حضور خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی فرقہ و ہابیہ تھا؟

**ارشاد:** ہاں یہی وہ فرقہ ہے جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر المؤمنین حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فہمائش (یعنی نصیحت) کی اجازت چاہی تھی اور محکم امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا: کیا بات امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تم کو ناپسند آئی؟ انہوں نے کہا واقعہ صفین میں ابو موسیٰ اشعری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو حکم (یعنی مُنصف) بنایا یہ شرک ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ ط  
حکم نہیں مگر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے لئے۔

(پ ۱۳، یوسف: ۶۷)

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اسی قرآن کریم میں یہ آیت بھی تو ہے:

فَابْعَثُوا حُكَمَا مِنْ أَهْلِهَا وَحُكَمَا مِنْ  
زَن و شوہر میں خصوصت (یعنی جھگڑا) ہو ایک حکم اس  
کی طرف سے بھی جو ایک حکم اس کی طرف سے۔  
(پ ۵، النساء: ۳۵)

اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ان میں میل (یعنی ملاپ) کر دے گا۔ دیکھو وہی طریقہ استدلال (یعنی دلیل پکڑنے کا طریقہ) ہے جو وہابیہ کا ہوتا ہے کہ علم غیب و امداد وغیرہما میں ذاتی (یعنی کسی کے دیئے بغیر حاصل ہونے والی شے) و عطائی (یعنی اللہ کی عطا سے حاصل ہونے والی شے) کے فرق سے آنکھ بند اور نفسی کی آیتوں پر دعویٰ ایمان اور اثبات کی آیتوں سے کفر۔ اس جواب کو سن کر ان میں سے پانچ ہزار تائب (یعنی توبہ کرنے والے) ہوئے اور پانچ ہزار کے سر پر موت سوار تھی، وہ



اپنی شیطنت (یعنی برائی) پر قائم رہے۔ امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اُن کے قتل کا حکم فرمایا۔ امام حسن و امام حسین اور دیگر اکابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے قتل میں تا مل ہوا (یعنی جھجک محسوس ہوئی) کہ یہ قوم رات بھر تہجد اور دن رات تلاوت میں بسر کرتی ہے ہم کیونکر ان پر تلوار اٹھائیں مگر امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو تو حضور عالم ماکان و مایکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یعنی ماضی اور مستقبل کا حال جاننے والے) نے خبر دے دی تھی کہ نماز روزہ وغیرہ ظاہری اعمال کے بشدت پابند ہوں گے، بائیں ہمہ (یعنی ان سب کے باوجود) دین سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے، قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔

(ملخصاً، جامع ترمذی، کتاب الفتن، باب فی صفة المارقة، الحدیث ۲۱۹۵، ج ۴، ص ۸۰)

امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے حکم سے لشکر اُن کے قتل پر مجبور ہوا، عین معرکے میں خبر آئی کہ وہ نہر کے اس پار اتر گئے۔ امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: **واللہ ان میں سے دس اُس پار نہ جانے پائیں گے، سب اسی طرف قتل ہوں گے۔** جب سب قتل ہو چکے امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے لوگوں کے دلوں سے اُن کے تقویٰ و طہارت و تہجد و تلاوت کا وہ خدشہ دفع (یعنی دور) کرنے کے لئے فرمایا: ”تلاش کرو، اگر ان میں ذُو النَّسْبِہ (یعنی پستان والا) پایا جائے تو تم نے بدترین اہل زمین کو قتل کیا، اور اگر وہ نہ ہو تو تم نے بہترین اہل زمین کو قتل کیا۔“ تلاش کیا گیا، لاشوں کے نیچے نکلا جس کا ایک ہاتھ پستانِ زن کے مشابہ تھا۔ امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے تکبیر کہی اور حمدِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) بجالائے اور لشکر کے دل کا شبہ اس غیب کی خبر بتانے اور مطابق آنے سے زائل ہو گیا۔ کسی نے کہا: ”حمد ہے اسے جس نے ان کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔“ امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں کچھ باپ کی پیٹھ میں۔ جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہو گا دوسرا سراٹھائیگا۔

(ملخصاً، الخصائص الکبریٰ، باب احبارہ علیہ السلام بالخوارج، ج ۲، ص ۲۵۰)

حَتَّىٰ يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَالِ      یہاں تک کہ ان کا چچھلا گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔

(ملخصاً، مسند امام احمد، مسند البصرین، حدیث ۱۹۸۲۹، ج ۷، ص ۱۸۹)

## وہابیہ کی علامتیں

یہی وہ فرقہ ہے کہ ہر زمانے میں نئے رنگ نئے نام سے ظاہر ہوتا رہا اور اب اخیر وقت میں وہابیہ کے نام سے پیدا

ہوا، ان کی جو جو علامتیں صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمائی ہیں سب ان میں موجود ہیں۔

تَحَقَّرُوا صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِكُمْ  
مَعَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالِكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ  
تم ان کی نماز کے آگے اپنی نماز کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں  
کے آگے اپنے روزوں کو اور ان کے اعمال کے آگے اپنے اعمال کو۔

(مؤطا امام مالک، کتاب القرآن، باب ماجاء فی القرآن، حدیث ۴۸۷، ج ۱، ۱۹۵)

يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا تَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ  
قرآن پڑھیں گے ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔

يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ بظاہر وہ بات کہیں گے کہ سب کی باتوں سے اچھی معلوم ہو یا ”مَنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ“ بات بات پر  
حدیث کا نام لیں گے۔ (جامع ترمذی، کتاب الفتن، باب فی صفة المارقة، الحدیث ۲۱۹۵، ج ۴، ص ۸۰)

اور حال یہ ہوگا کہ

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ  
دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے۔

”سِيمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ“ ان کی علامت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر سر موٹے۔ (مسند امام احمد، مسند البصرین، حدیث ۴، ۱۹۸۰، ج ۷، ص ۱۸۳)  
”مَشْمَرِي الْأُزْرِ“ گھٹنی ازاروں والے۔

ان کے پیشوا ابن عبد الوہاب نجدی کو سر منڈانے میں یہاں تک غلٹو (یعنی اصرار) تھا کہ عورت اُس کے دین ناپاک  
میں داخل ہوتی اُس کا بھی سر منڈا دیتا کہ یہ زمانہ کفر کے بال ہیں انہیں دور کر۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے کہا جو مرد  
تمہارے دین میں آتے ہیں اُن کی داڑھیاں منڈا دیا کرو کہ وہ بھی تو زمانہ کفر کے بال ہیں، اس وقت سے باز آیا، اور اب  
وہابیہ کو دیکھئے ان میں اکثر وہی سر منڈانے اور گھٹنے پانچے والے ہیں۔

## گُستاخِ رسول

{ اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ { غزوہ حنین میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غنائم (غنیمت کی جمع) تقسیم فرمائے

اس پر ایک وہابی نے کہا کہ میں اس تقسیم میں عدل (یعنی انصاف) نہیں پاتا کیونکہ کسی کو زیادہ کسی کو کم عطا فرمایا۔ اس پر فاروق  
اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن  
مار دوں۔ فرمایا کہ اسے رہنے دے کہ اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ { وہابیہ کی طرف اشارہ فرمایا }

اُس سے فرمایا: افسوس اگر میں تجھ پر عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا، اور فرمایا اللہ (عَزَّوَجَلَّ) رحم فرمائے میرے بھائی موسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر کہ اس سے زائد ایذا دیئے گئے۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب ذکر الخوراج و صفاتہم، الحدیث ۱۰۶۳، ۱۰۶۲، ص ۵۳۱)

## سرکارِ مدینہ ﷺ کی سخاوت

علماء فرماتے ہیں: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اُس دن کی عطا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی داد و دہش (یعنی سخاوت و بخشش) سے زائد تھی، جنگلِ غنائم سے بھرے ہوئے ہیں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) عطا فرما رہے ہیں اور مانگنے والے ہجوم کرتے چلے آتے ہیں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سب اموال تقسیم ہو لئے ایک اعرابی (یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے) نے ردائے مبارک (یعنی چادر مبارک) بدنِ اقدس پر سے کھینچ لی کہ شانہ و پشتِ مبارک پر اس کا نشان بن گیا، اس پر اتنا فرمایا: اے لوگو! جلدی نہ کرو، واللہ کہ تم مجھ کو کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ (ملفوظاً، صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الشجاعة فی الحرب..... الخ، الحدیث ۲۸۲۱، ج ۲، ص ۲۶۰)

حق ہے، اے مالکِ عرش (عَزَّوَجَلَّ) کے نائبِ اکبر! قسم ہے اس کی جس نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو حق کے ساتھ بھیجا کہ دونوں جہان کی نعمتیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہی کی عطا ہیں۔ دونوں جہان حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی عطا سے ایک حصہ ہیں۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عَلَّمَ اللُّوحَ وَالْقَلَمَ

بے شک دنیا و آخرت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی بخشش سے ایک حصہ ہیں اور لوح و قلم کے تمام علوم ”مَا كَانَ وَمَا يَكُون“ (یعنی گذشتہ و آئندہ) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے علوم سے ایک ٹکڑا۔ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْكَ وَصَحْبِكَ وَبَارَكَ وَكَرَّمَهُ

## نمازی کا قتل

ایک روز بارگاہِ رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں صحابہ کرام (علیہم الرضوان) حاضر ہیں، ایک شخص آیا، اور کنارہٗ مجلسِ اقدس پر کھڑے ہو کر مسجد میں چلا گیا؟ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ اسے قتل کرے۔ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر دیکھا وہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ صدیقِ اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہاتھ نہ اٹھا کہ ایسے نمازی کو عین نماز کی

حالت میں قتل کریں۔ واپس حاضر ہوئے اور سب ماجرا عرض کیا۔ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ اسے قتل کرے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہیں بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے پھر ارشاد فرمایا: ”کون ہے کہ اسے قتل کرے؟“ مولیٰ علی (كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ) اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) میں۔ فرمایا ہاں تم، اگر تمہیں ملے مگر تم اُسے نہ پاؤ گے۔ یہی ہوا مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک جائیں وہ نماز پڑھ کر چلتا ہوا۔ ارشاد فرمایا: ”اگر تم اسے قتل کر دیتے تو اُمت پر سے بڑا فتنہ اٹھ جاتا۔“

(ملقطاً، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابو سعید، الحدیث ۱۱۱۱۸، ج ۴، ص ۳۳)

یہ تھا وہابیہ کا باپ جس کی ظاہری و معنوی نسل آج دنیا کو گندہ کر رہی ہے۔ اس نے مجلس اقدس کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک نگاہ سب پر کی اور دل میں یہ کہتا ہوا چلا گیا تھا کہ مجھ جیسا ان میں ایک بھی نہیں، یہ غرور تھا اس خبیث کو اپنی نماز و تقدُّس (یعنی پرہیزگاری) پر اور نہ جانا کہ نماز ہو یا کوئی عملِ صالح وہ سب اس سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی غلامی و بندگی کی فرع ہے جب تک اُن کا غلام نہ ہو لے کوئی بندگی کام نہیں دے سکتی، (یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی غلامی مثل ”جر“ ہے اور اعمالِ صالحہ مثل ”شاخ“ اور پُر ظاہر کہ شاخ بغیر جڑ کے محض باطل و بیکار۔)

## تعظیم رسول

والہذا قرآن عظیم میں ان کی تعظیم کو اپنی عبادت سے مُقَدِّم رکھا کہ فرمایا:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ  
وَتُوَفِّرُوهُ وَتَكْفُرُوهُ بِكُرْهٍ وَآصِيلاً  
○ تا کہ تم ایمان لاؤ اللہ ورسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو،  
اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو یعنی نماز پڑھو۔

(پ ۲۶، الفتح: ۹)

تو سب میں مقدم ایمان ہے کہ بے اس کے تعظیم رسول مقبول نہیں، اس کے بعد تعظیم رسول ہے کہ بے اسکے نماز اور کوئی عبادت مقبول نہیں، یوں تو عبد اللہ تمام جہان ہے مگر سچا عبد اللہ وہ ہے جو عبدِ مصطفیٰ (یعنی غلامِ مصطفیٰ) ہے ورنہ عبدِ شیطان ہوگا۔ اَلْعِبَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى

## قربانی کی کھال مدارس میں دینا کیسا؟

**مؤلف:** ایک روز مولوی سعید احمد ابن مولوی فتح محمد صاحب تائب لکھنوی اعلیٰ حضرت مدظلہ سے آکر دست بوس ہوئے اور قربانی کی کھال کے بارے میں دریافت کیا کہ مدارس میں دی جاسکتی ہیں یا نہیں؟

**ارشاد:** ہو بلاشبہ ان کا صرف (یعنی خرچ) مدرسہ میں جائز ہے۔

**مولوی صاحب** نے صاحب ہدایہ کا قول نقل کیا کہ ان کے نزدیک قربانی کی کھال بیچنے سے اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے اور صدقات واجبہ کا مصرف ”مصرف زکوٰۃ“ ہے اور مصرف زکوٰۃ میں تملیک فقراء (یعنی فقیروں کو مالک بنانا) شرط ہے۔

اس پر **ارشاد** فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ تم مؤل (یعنی حصول مال) کے لئے بیچے کہ وہ بوجہ تکرب (یعنی ثواب کی وجہ سے) صالح تمؤل (یعنی حصول مال کا ذریعہ بننے کے لائق) نہ رہی، بخلاف اس صورت کے کہ فی سبیل اللہ مصارف خیر میں صرف کے لئے بیچے کہ یہ بھی قربت (یعنی ثواب) ہے اور یہاں قربت ہی مقصود ہے۔ علاوہ بریں (یعنی اس کے علاوہ) مدارس میں دینا بیچ کر ہی نہیں ضرور ہے اکثر کھالیں مدارس میں بھیج دیتے ہیں اور کھال تو غنی کو بھی دے سکتا ہے، پھر مدرسہ دینیہ نے کیا قصور کیا ہے؟

### حیلہ شرعی کا طریقہ

اُس وقت مولوی حسنین رضا خاں صاحب بھی حاضر خدمت تھے انہوں نے عرض کی کہ جب صدقات واجبہ میں تملیک شرط ہے تو زکوٰۃ اور ایسے صدقات مدارس میں کیونکر صرف کئے جاسکیں گے؟

**ارشاد:** مہتمم (یعنی ناظم) کو چاہئے کہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی رقوم سے ضرورت پر طلبہ کو کتابیں خرید دے اور انہیں مالک بنادے یا یہ کہ جو کھانا طلبہ کو مدرسہ سے بطریقِ اباحت دیا جاتا ہے (یعنی مالک بنائے بغیر صرف وہیں کھانے کی اجازت دی جاتی ہے) طلبہ کو پہلے روپیہ دے کر مالک بنادے پھر وہ روپیہ مہتمم کو واپس کریں اور کھانے میں شریک ہو جائیں۔

### دورانِ سفر قرآن پاک کہاں رکھے؟

**عرض:** حضور اگر قرآن عظیم صندوق میں بند ہو اور ریل کا سفر یا کسی دوسری سواری میں سفر کر رہا ہے اور تنگی جگہ کے باعث مجبوری ہے تو ایسی صورت میں صندوق نیچے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد :** ہرگز نہ رکھے انسان خود مجبوریاں پیدا کر لیتا ہے، ورنہ کچھ دشوار نہیں، جس کے دل میں قرآنِ عظیم کی عظمت ہے وہ ہر طرح سے اس کی تعظیم کا خیال رکھے گا۔

## عصر کا مکروہ وقت کونسا ہے؟

**عرض :** وقتِ عصر میں کراہت کس وقت آتی ہے؟

**ارشاد :** غروبِ آفتاب سے بیس منٹ قبل تک کراہت نہیں یعنی سلام کے بعد بیس منٹ غروب میں باقی رہیں۔ اس کے بعد کراہت ہے کہ اس وقتِ تخمینہ (یعنی اندازاً اس وقت) میں آفتاب پر نگاہ جسنے لگتی ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار کتاب الصلاة، مطلب فی طلوع الشمس من مغربها، ج ۲، ص ۳۲)

## نماز میں قرأت کا ایک مسئلہ

**عرض :** ایک شخص نے نماز میں سورۃ ”زلزال و عادیات“ پڑھیں اور اَثْقَالَهَا اور تَحَدَّثُ کی ث کو س کے مخرج سے ادا کیا اور اَوْسَلٰی کی ح کو ھ اور صَبِحًا کے ض کو د مُنْم (یعنی پُر) بھی نہیں پڑھا بلکہ صرَح دَبَّهَا پڑھا اور حُصِّل کے ص کو مشابہ س تو اس صورت میں اعادہ نماز ہوگا یا نہیں؟

**ارشاد :** نماز نہ ہوئی پھر پڑھے۔

## قضا نمازیں کیسے ادا کرے؟

**عرض :** بعض حاضرین نے عرض کیا کہ حضور دُنویٰ مکروہات (یعنی ناپسند معاملات) نے ایسا گھیرا ہے کہ روزِ ارادہ کرتا ہوں آج قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دوں گا مگر نہیں ہوتا۔ کیا یوں ادا کروں کہ پہلے تمام نمازیں فجر کی ادا کر لوں پھر ظہر کی پھر اور اوقات کی، تو کوئی حرج ہے مجھے یہ بھی یا نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟

**ارشاد :** قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہیں۔ (رد المحتار علی در مختار، کتاب الصلاة، مطلب فی بطلان الوصیة..... الخ،

ج ۲، ص ۶۴۶) نہ معلوم کس وقت موت آجائے، کیا مشکل ہے ایک دن کی بیس رکعت ہوتی ہیں { یعنی فجر کے فرضوں کی دو رکعت

اور ظہر کی چار اور عصر کی چار اور مغرب کی تین اور عشاء کی سات رکعت یعنی چار فرض تین وتر } ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب و زوال

کے { کہ اس وقت سجدہ حرام ہے } (رد المحتار علی در مختار، کتاب الصلاة، مطلب فی تعریف الاعادۃ، ج ۲، ص ۶۳۴) ہر وقت

ادا کر سکتا ہے اور اختیار ہے کہ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی یا سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے اور ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ (یعنی اندازہ) میں باقی نہ رہ جائیں زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے، کاہلی نہ کرے۔ جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو مثلاً سو بار کی فجر قضا ہے تو ہر بار یوں کہے کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی۔ ہر دفعہ یہی کہے، یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے اسی طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کرے جس پر بہت سی نمازیں قضا ہوں۔

### قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ

اس کے لئے صورت تخفیف (یعنی آسانی) اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہ خالی رکعتوں میں بجائے الحمد شریف کے تین بار سُبْحَانَ اللَّهِ کہے، اگر ایک بار بھی کہہ لے گا، تو فرض ادا ہو جائے گا نیز تسبیحات رکوع و سجود میں صرف ایک ایک بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ اور ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھ لینا کافی ہے۔ تَشَهُّد کے بعد دونوں درود شریف کے بجائے ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ“ وتروں میں بجائے دعائے قنوت ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ کہنا کافی ہے۔ طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد اور غروب آفتاب سے بیس منٹ قبل، نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یا اس سے بعد ناجائز ہے۔ ہر ایسا شخص جس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑھے کہ گناہ کا اعلان جائز نہیں۔

### نیت صاف مَنَزِلِ آسان

{ اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا { اگر کسی شخص کے ذمے تیس یا چالیس سال کی نمازیں ہیں واجب الادا، اُس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے آرام لوں گا اور فرض کیجئے اسی حالت میں ایک مہینہ یا ایک دن ہی کے بعد اُس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَنْ يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ  
وَسَأُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ  
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط (پ، ۵، النساء: ۱۰۰)

جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہو  
نکلے پھر اُسے راستے میں موت آجائے تو اس کا ثواب  
اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے ذمہ کرم پر ثابت ہو چکا۔

یہاں مطلق فرمایا، گھر سے اگر ایک ہی قدم نکالا اور موت نے آیا تو پورا کام اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور کامل ثواب پائے گا۔ وہاں نیت دیکھتے ہیں، سارا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔

## رَسُوْلُوْنَ اور ملائکہ کو ایصالِ ثواب کرنا

**عرض:** حضور جب رسل و ملائکہ معصوم ہیں تو ان کو علیہ الصلوٰۃ والسلام کہہ کر ایصالِ ثواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

**ارشاد:** اول تو علیہ الصلوٰۃ والسلام ایصالِ ثواب نہیں بلکہ اظہارِ تعظیم ہے، اور ان پر نزولِ درود و سلام کی دُعا اور ہوجھی تو ملائکہ زیادتِ ثواب سے مستغنی (یعنی بے نیاز) نہیں۔

## سونے کی بارش

حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، ربُّ العزت تبارک و تعالیٰ نے سونے کا میخھ اُن پر برسایا۔ آپ چادر مبارک پھیلا کر سونا اٹھانے لگے۔ ندا آئی: ”اے ایوب! (علیہ السلام) کیا ہم نے تمہیں اس سے غنی نہ کیا۔“ عرض کرتے ہیں: ”بے شک تُو نے غنی کیا ہے لیکن تیری برکت سے مجھے کسی وقت غنا نہیں۔“

(صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ یریدون ان یبدلوا..... الخ، الحدیث ۷۴۹۳، ج ۴، ص ۵۷۲)

## غُربت و افلاس کی شکایت کرنے والے پر انفرادی کوشش

{ اسی تذکرے میں فرمایا کہ ایک صاحب ساداتِ کرام سے اکثر میرے پاس تشریف لاتے اور غربت و افلاس کے شاکِی رہتے (یعنی شکایت کرتے)۔ ایک مرتبہ بہت پریشان آئے، میں نے اُن سے دریافت کیا کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو کیا وہ بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے؟ فرمایا: ”نہیں۔“ میں نے کہا: حضرت امیر المؤمنین مولا علی (کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْهَهُ) نے جن کی آپ اولاد میں ہیں تنہائی میں اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا: ”اے دنیا! کسی اور کو دھوکا دے



میں نے تجھے وہ طلاق دی جس میں کبھی رجعت (یعنی واپسی) نہیں۔“ پھر ساداتِ کرام کا افلاس (یعنی غربت) کیا تعجب کی بات ہے۔ سید صاحب نے فرمایا: ”واللہ! میری تسکین ہو گئی۔“ وہ اب زندہ موجود ہیں اس روز سے کبھی شاکہ نہ ہوئے۔

## پریشانی دُور کرنے کا وظیفہ

مولوی عبدالرحمن صاحب بہاری جے پوری: حضور حاجی عبدالجبار صاحب کو اکثر اوقات پریشانی رہتی ہے۔

**ارشاد:** لاحول شریف کی کثرت کریں یہ ۹۹ بلاؤں کو دفع (یعنی دُور) کرتی ہے۔ اُن (بلاؤں) میں سب سے آسان تر پریشانی ہے اور ۶۰ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے روز پی لیا کریں۔

## رِزْقِ مِیں بَرَکَتِ کا وَظِیْفَہ

**عرض:** برکتِ رزق کی کوئی دُعا حضور ارشاد فرمائیں میں آج کل بہت پریشان ہوں۔

**ارشاد:** ایک صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خدمتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ خلقِ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوعِ فجر کے ساتھ سو بار کہا کر ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ“

(لسان المیزان، حرف العین، الحدیث ۵۱۰۰، ج ۴، ص ۳۰۴)

اُن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات دن گزرے تھے کہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی: ”حضور! دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔“ اس تسبیح کا آپ بھی وِزْد رکھیں، حتیٰ الامکان طلوعِ صبح صادق کے ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجئے اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوعِ شمس سے پہلے۔

## اھرامِ مِصر کس نے بنائے؟

**مؤلف:** مصر کے میناروں کا تذکرہ ہوا، اس پر فرمایا:

**ارشاد:** نوح علیہ السلام کی اُمت پر جس روز عذابِ طوفان نازل ہوا ہے، پہلی رجب تھی بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی

۱: مصر کے مثلث میناروں کو اہرامِ مصر کہا جاتا ہے، یہ مینار دریائے نیل سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔

پانی ابل رہا تھا حکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو ۱۰ رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر ۸۰ آدمی سوار تھے جس میں دو نبی تھے {حضرت آدم و حضرت نوح علیہما السلام} حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتوں کو بٹھایا تھا۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا ۳۰ ہاتھ اونچا ہو گیا تھا دسویں محرم کو چھ ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جو دی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا ”سُوْفُ الشَّمَانِیْن“ نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل واقع ہے، اس طوفان میں دو عمارتیں مثل گنبد و منارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اُس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور عمارت نہ تھی، امیر المؤمنین حضرت مولیٰ علی (کرم اللہ تعالیٰ و جہۃ الکریم) سے انہیں عمارتوں کی نسبت منقول ہے ”بُنِيَ الْهَرَمَانُ..... النَّسْرُفِي سَرَطَانَ“ یعنی دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نسر نے برج سرطان میں تحویل کی تھی۔ نسر دو ستارے ہیں: نسر واقع نسر طائر اور جب مطلق بولتے ہیں تو اس سے نسر واقع مراد ہوتا ہے۔ ان کے دروازے پر ایک گدھ کی تصویر ہے اور اسکے پنجے میں گنگچہ ہے جس سے تاریخ تعمیر کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب نسر واقع برج سرطان میں آیا اس وقت یہ عمارت بنی جس کے حساب سے بارہ ہزار چھ سو چالیس سال ساڑھے آٹھ مہینے ہوتے ہیں کہ ستارہ چونسٹھ برس قمری سات مہینے ستائیس دن میں ایک درجہ طے کرتا ہے اور اب برج جدی کے سولہویں درجہ میں ہے تو جب سے چھ برج ساڑھے پندرہ درجے سے زائد طے کر گیا۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق سے بھی تقریباً پانچ ہزار برس پہلے کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کی آفرینش (یعنی تخلیق) کو سات ہزار برس سے کچھ زائد ہوئے۔ لاجرم (یعنی ضرور) یہ قوم جن کی تعمیر ہے کہ پیدائش آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے ساڑھے ہزار برس زمین پر رہ چکی ہے۔

## آدم ثانی کون؟

**عرض:** حضور! انہیں ۱۸۰ انسانوں کی اولاد ہو کر دنیا بڑھی؟

**ارشاد:** پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَارِقِينَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اسی

کی اولاد باقی رکھی۔ (پ ۲۳، الصافات: ۷۷)

اسی لئے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان للحقی، سورۃ ہود تحت الآیۃ ۴۸، ۴۹)

## حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟

**عرض:** کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں ایک ہزار برس قیام فرمایا؟  
**ارشاد:** نہیں بلکہ تقریباً سولہ سو برس تک تشریف فرما رہے۔

(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، سورة العنکبوت تحت الآية ۴۱، ج ۷، ص ۲۵۰)

## کیا انبیاء عظیم السلام پر حج فرض تھا؟

**عرض:** حضور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی حج فرض ہوا تھا؟  
**ارشاد:** ان پر فرضیت کا حال خدا جانے! انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حج کرتے رہے۔

## کعبہ کی فریاد

حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہِ اُحدیت میں (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور) عرض کی کہ ”ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا نہ مجھ میں اُترا، نہ نماز پڑھی۔“ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”نہ رو! میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچہ کے شوق میں اور تجھ میں نبی آخر الزماں کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء سے زیادہ پیارا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔“

(ملخصاً، تفسیر بغوی، سورة النمل تحت الایة ۱۸، ج ۳، ص ۳۵۱)

## غُرور اور غُرور میں کیا فرق ہے؟

**عرض:** غُرور یا فُتْح (یعنی زبر کے ساتھ) اور غُرور یا لُثْم (یعنی پیش کے ساتھ) میں کیا فرق ہے؟  
**ارشاد:** غُرور بافتح فریبی اور باضم فریب۔

## زنا کا ثبوت

**عرض:** زید اپنے عیال و اطفال (یعنی بیوی بچوں) کو اپنے بھانجے یا بھتیجے کی نگرانی میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا، اس کے چلے جانے کے بعد عورت کے بچہ پیدا ہوا، اس کی اطلاع خاوند کو دی گئی۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ جب واپس آیا تب بھی محض خاموش رہا، نہ کچھ کہا نہ سنا اور پھر باہر چلا گیا۔ پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کی خبر اطلاع دینے پر اس نے جواب لکھا

کہ تم میری عورت پر تہمت لگاتے ہو۔ اس صورت میں اولاد حرامی ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** تا وقتیکہ (یعنی جب تک) چار مرد مسلمان آزاد عادل گواہان ثبوت اس طرح دیکھنے کی گواہی نہ دیں جیسے سرمہ دانی میں سلامی اُن کی شہادت شریعتِ مطہرہ میں قابلِ سماعت نہ ہوگی۔

(ردالمحتار علی الدرالمختار، کتاب الحدود، مطلب الزانی لا یختص بما یوجب الحد بل اعم، ج ۶، ص ۱۲)

## کیا عہد رسالت میں گواہی سے زنا کا ثبوت ہوا؟

**عرض:** حضور! عہد رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** عہد رسالتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں زنا کا ثبوت گواہوں سے کبھی نہیں ہوا۔ البتہ دوبار یہ ہوا کہ مجرموں نے خود اقرار کر لیا۔ پہلا واقعہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ دونوں مجرم بارگاہ رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں حاضر ہوئے اور شرعی سزا کے خواست گار (یعنی طلب گار) ہوئے کہ ہم پاک ہو جائیں۔ دونوں کو سنگسار کیا گیا۔ جس وقت حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کیا آپ بھاگے لیکن سنگساریوں نے پکڑ کر قتل کر دیا، اور خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر گل واقعہ بیان کیا۔ فرمایا: ”تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا جب وہ بھاگا تھا۔“ اور فرمایا: ”اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر تمام شہر پر تقسیم کی جائے سب کو کافی ہو۔“

(ملفوظاً، صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف بالزنی، الحدیث ۱۶۹۵، ص ۹۳۲)

صحابہ کرام (علیہم الرضوان) میں سے ایک صاحب نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بُرے الفاظ فرمائے، اس پر ارشاد ہوا: ”برائے کہو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔“

(ملخصاً، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، تحت الحدیث ۶۸۲۰، ج ۱۲، ص ۱۰۹)

## رجم کی حکایت

اسی طرح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے جرم کا خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اقرار کیا اور سزا کی خواستگار ہوئیں۔ ارشاد فرمایا: ”تیرے پیٹ میں حمل ہے بعد وضع حمل (یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد) آنا۔“ بعد فراغِ حمل بچہ کو لیکر

حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اس بچے کو اب کیا کروں؟ فرمایا: اس کو دودھ پلاؤ۔ یہ ارشاد عالی سن کر وہ بی بی واپس گئیں اور دو برس بعد بچے کو لے کر حاضر ہوئیں۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، عرض کی حضور! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اب یہ روٹی کھاتا ہے، بچے لے کر رجم (یعنی سنگسار) فرمایا۔ (ملخصاً، صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف بالزنی، الحدیث ۱۶۹۵، ص ۹۳۲)

## شرعی سزا سے پاک ہونا

**عرض:** کیا حضور! حد شرعی (یعنی شرعی سزا) سے (گناہ کرنے والا) پاک ہو جاتا ہے؟

**ارشاد:** حد سے پاک ہو جاتا ہے اور قصاص سے نہیں ہوتا۔ خون ناحق کرنے والے پر تین حق ہیں: ایک مقتول کے اعزہ (یعنی ورثا) کا، دوسرا مقتول کا، تیسرا رب العزت تبارک و تعالیٰ کا۔ جن میں سے اعزہ کا حق قصاص لینے سے ادا ہو جاتا ہے اور دو حق باقی رہتے ہیں۔

## قصاص میں قتل ہونے والے کی نماز جنازہ

**عرض:** اس شخص پر جو قصاص میں قتل کیا گیا، نماز پڑھی جائے؟

**ارشاد:** ہاں، جیسے خودکشی کرنے والے کی سزا۔ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والے اور باغی ڈاکو کو ڈاکہ میں مارا گیا، ان کے

جنازہ کی نماز نہیں۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة هل يسقط فرض الكفایة..... الخ، ج ۳، ص ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸)

## بدمذہب کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا حکم

**عرض:** ایک صاحب نے وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی، ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے؟

۱: حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اُس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس سے مقصود لوگوں کو ایسے کام سے باز رکھنا ہے جس کی یہ سزا ہے اور جس پر حد قائم کی گئی وہ جب تک تو بہ نہ کرے محض حد قائم کرنے سے پاک نہ ہوگا۔ حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اسکے نائب کا کام ہے یعنی باپ اپنے بیٹے پر یا آقا اپنے غلام پر نہیں قائم کر سکتا۔ اور شرط یہ ہے کہ جس پر قائم ہو اس کی عقل درست ہو اور بدن سلامت ہو لہذا پاگل اور نشہ والے اور مریض اور ضعیف الخلقہ پر قائم نہ کریں گے بلکہ پاگل اور نشہ والا جب ہوش میں آئے اور بیمار جب تندرست ہو جائے اُس وقت حد قائم کریں گے۔ (بہار شریعت، حصہ ۹، ص ۸۱) ۲: قصاص کے لغوی معنی ”کاٹنا، برابری اور پیچھے چلنے“ کے ہیں، اصطلاح میں قتل یا زخم میں برابری کرنے کو قصاص کہتے ہیں، نیز مقتول کا ولی یا مجروح قاتل اور جارج کے پیچھے پڑتا ہے بدلہ لینے کے لئے، لہذا پہلے معنی سے بھی یہ بات درست ہے۔ (مراۃ، ج ۵، ص ۲۱۳) ۳: جس نے خودکشی کر لی حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصداً خودکشی کی ہو جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا اُسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ (بہار شریعت، حصہ ۴، ص ۱۷۶)

**ارشاد:** وہابی، رافضی، قادیانی وغیرہم کفار مُرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا (یعنی کافر) جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے۔

## منبر چھوڑ کر خطبہ پڑھنا خلاف سنت ہے

**عرض:** اگر امام منبر چھوڑ کر خطبہ پڑھے اور جب کہا جائے تو کہے کوئی حرج نہیں اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** خلاف سنت ہے۔ امام کو سمجھانا چاہئے نماز ہوگئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں برسوں کے بعد منبر شریف بنا، اکثر ستون کے سہارے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے خطبہ فرمایا ہے۔

(سنن الدارمی، باب مقام الامام اذا خطب، الحدیث ۱۵۶۲، ج ۱، ص ۴۴۲)

## نمازی کے سامنے سے گزرنے کا طریقہ

**عرض:** حضور نمازی کے سامنے سے نکلنے کے لئے کتنا فاصلہ درکار ہے؟

**ارشاد:** خاشعین (یعنی ظاہری و باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل توجہ رکھنے والوں) کی سی نماز پڑھے کہ قیام میں نظر موضع سجود (یعنی سجدے کی جگہ) پر جمائی تو نظر کا قاعدہ ہے جہاں جمائی جائے اس سے آگے کچھ بڑھتی ہے۔ میرے تجربے میں یہ جگہ تین گز ہے یہاں تک نکلنا مطلقاً جائز نہیں، اس سے باہر باہر صحر اور بڑی مسجد میں نکل سکتا ہے۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں دیوارِ قبلہ تک سامنے سے نہیں جاسکتا۔ فقہائے کرام نے جس کو بڑی مسجد فرمایا ہے، یہاں کوئی نہیں سوائے مسجد خوارزم کے جس کا ایک ربع (یعنی چوتھائی) چار ہزار ستون پر ہے، بڑی مسجد ہے یا مسجد حرم شریف میں نمازی کے سامنے طواف جائز ہے کہ وہ بھی مثل نماز عبادت ہے۔

## اگر کوئی سامنے سے گزرے تو نمازی کیا کرے؟

{ اسی سلسلہ بیان میں فرمایا کہ } اگر کوئی شخص تنہا اپنے گھر یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص دستک دے یا مسجد میں نمازی کے سامنے سے نکلنا چاہتا ہو تو نمازی اس کو آگاہ کرنے کی غرض سے بالجبر (یعنی باوازی بلند) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دے اور اگر نماز میں بچہ سامنے آ کر بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا دے اور اگر تخت پر پڑھ رہا ہو اور بچے کے گرجانے کا احتمال ہو تو اس کو گود

ان مُرتدین مُرتد کی جمع ہے اور مرد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یونہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے مثلاً بت کو سجدہ کرنا۔ مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔

(بہار شریعت، حصہ ۹، ص ۱۶۳)

میں اٹھالے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اُمّامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گود میں لیکر نماز پڑھی ہے۔

(صحیح البخاری کتاب الصلاة باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، الحديث ۵۱۶، ج ۱، ص ۱۹۲)

اگر بچے کے کپڑے یا بدن میں نجاست لگی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ گود میں خود رک سکتا ہے تو نماز جائز ہے کہ بچہ حامل نجاست (یعنی نجاست اٹھانے والا) ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی کہ اب یہ خود حامل نجاست ہوا۔

(الدر المختار، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۲، ص ۹۱)

## نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کرنا کیسا؟

**عرض:** جھوٹے مدعی نبوت (یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے) سے مُعْجِزَةٌ طلب کیا جاسکتا ہے؟

**ارشاد:** اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا معجزہ ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو حرج نہیں اور اگر تحقیق کے لئے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھاسکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، ج ۲، ص ۲۶۳)

## مَذْهَب چھوڑنے کی شرط پر مَبَاحَثَہ کرنا کیسا؟

{ اسی تذکرے میں فرمایا کہ {مباحثے میں لوگ یہ شرط کر لیتے ہیں کہ ”جو سکتا (یعنی لا جواب) ہو جائے گا وہ دوسرے کا مذہب اختیار کر لے گا۔“ یہ سخت حرام ہے اور اشد حماقت ہے۔ ہم اگر کسی سے لا جواب بھی ہو جائیں تو مذہب پر کوئی الزام نہیں کہ ہمارے مقدس مذہب کا مدار ہم پر نہیں، ہم انسان ہیں اس وقت جواب خیال میں نہ آیا۔

## تحریری بات چیت کے فوائد

**مؤلف:** اس وقت مولانا مولوی نعیم الدین صاحب اور مولانا مولوی ظفر الدین صاحب اور مولانا مولوی احمد افتخار صاحب صدیقی میرٹھی اور مولانا مولوی احمد علی صاحب میرٹھی و مولانا مولوی رحمہ اللہ صاحب ناظم انجمن اہل سنت و مدرس مدرسہ اہل

۱: نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے اللہ عزوجل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں کہ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیضا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مَرْدُوں کو جلا دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور ہمارے حضور کے معجزے تو بہت ہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۱، ص ۳۸)

سُنّت و مولانا مولوی امجد علی صاحب مدرس مدرسہ اہلسنت و مہتمم مطبج اہل سُنّت وغیرہ حضرات علمائے کرام (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) حاضر خدمت تھے۔ انجمن کے آریہ ناریہ<sup>۱</sup> کے مقابل جلسے ہو رہے تھے۔ یہ سب حضرات جلسہ مناظرہ سے مظفر و منصور (یعنی کامیاب و کامران) واپس آئے تھے، رام چندر مناظر آریہ کی چرب زبانی اور بے حیائی کا ذکر ہو رہا تھا کہ بات سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا، بے حیائی سے کچھ نہ کچھ کہے ضرور جاتا ہے۔

اس پر ارشاد فرمایا سخت غلطی ہے کہ ایسوں سے زبانی بات چیت ہو، اس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بکے جائیگا جس سے لوگ جانیں کہ بڑا مقرر ہے، برابر جواب دے رہا ہے۔ انسان میں یہ قوت نہیں کہ زبان بند کر دے، بے حیا کفار اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور نہ چوکیں گے وہاں بھی زبان چلی ہی جائے گی، یہاں تک کہ منہ پر مہر فرمائی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو۔

اَلْيَوْمَ نَحْنُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا اَيُّنَ يٰهِمْ  
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: آج ہم ان کے مونہوں پر مہر کر  
دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان

(پ ۲۳، یس: ۶۵) کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔

تو ایسوں سے ہمیشہ تحریری گفتگو ہونا چاہیے، کہ مگر نے بدلنے بچلنے کی گلی نہ رہے۔ بہت دھوکہ ہوتا ہے کہ وہابیہ وغیرہ سے فرعی مسائل پر گفتگو کر بیٹھتے ہیں۔ وہابی غیر مقلد قادیانی وغیرہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اصول چھوڑ کر فرعی مسائل میں گفتگو ہو، انہیں ہر گز موقع نہ دیا جائے۔ ان سے یہی کہا جائے کہ تم اسلام کے دائرے میں آلو، اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کر لو پھر فرعی مسائل میں گفتگو کا حق ہوگا۔

۱: اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فتاویٰ رضویہ جلد 21 صفحہ 124 پر لکھتے ہیں: (ہندوؤں) میں ایک نیافرقتہ ہے جو آریہ کہلاتا ہے، وہ زبانی طور پر توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور بت پرستی کے حرام ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن برادری الفت و محبت اور اتحاد میں ان کا رویہ بت پرستوں سے مختلف نہیں، ان بت پرستوں کے ساتھ ان کی الفت و محبت ان کا اتحاد قائم ہے جو پتھر، پانی، درختوں اور تراشیدہ مورتوں کو خدا سمجھتے ہوئے پوجتے ہیں اور یہ انہیں اپنا ہم مذہب اور دینی بھائی خیال کرتے ہیں۔ پھر یہ خبیث اگرچہ غیر کی عبادت و بندگی سے پرہیز کرتے ہیں مگر مادہ اور روح دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم اور غیر مخلوق مانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ پس اگر عبادت میں شرک نہ ہو تو وجوب وجود میں شرک ہو گیا پس ہر وجہ سے ان پر تین خدا لازم ہو گئے لہذا وہ یقیناً مشرک ہیں، ان کا دعویٰ توحید ہوا میں پاؤں رکھنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم آخری درجہ پر فرض کر لیں کہ وہ مشرک نہیں تاہم ان کے کفر یعنی کافر ہونے میں بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے کہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نہ ہو وہ کافر ہے اور جو انہیں کافر نہ جانے وہ خود کفر میں ان کے ساتھ برابر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۱، ص ۱۲۲)



## ملاقات سے واپسی پر مُصَافَحَہ کا حُکْم

**عرض:** مُصَافَحَہ واپسی کے وقت کرنے کی مُمَانَعَت فرمائی گئی ہے؟

**ارشاد:** نہیں۔ اصحابِ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) جب آپس میں ملتے تھے مصافحہ فرماتے۔ (شعب الایمان، قصۃ ابراہیم فی المعانقۃ فی الثالث والثلاثین من التاریخ، الحدیث ۸۹۵۸، ج ۶، ص ۴۷۵) اور جب رخصت ہوتے معانقہ کرتے (یعنی گلے ملتے)۔

## مُعَانَقَہ کرنے کا طریقہ

**عرض:** معانقہ ایک جانب یا دونوں سے کرے؟

**ارشاد:** ایک طرف سے بھی ہو جائے گا لیکن عرب شریف میں دونوں طرف سے کرتے ہیں۔

## نماز کے بعد مُصَافَحَہ کرنا کیسا؟

**عرض:** نماز جمعہ یا عیدین یا بعد صلاۃ پنجگانہ مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** جائز ہے۔ لے نسیم الریاض میں ہے

الْأَصْحَحُ أَنَّهَا بَدْعَةٌ مُبَاحَةٌ      زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جائز بدعت ہے۔

(نسیم الریاض، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلیٰ لقدر النبی، ج ۲، ص ۱۳)

## اذان میں روضہ آنور کی طرف منہ کرنے کا حکم

**عرض:** اذان میں نامِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) لیتے وقت روضہ منورہ کی طرف منہ کر سکتا ہے؟

**ارشاد:** خلاف سنت ہے۔ سوائے حَسْبِ عَلَی الصَّلَاةِ اور حَسْبِ عَلَی الْفَلَاحِ کے اور کسی کلمہ پر کسی طرف منہ نہیں پھیر سکتا یا خطبہ میں عَزَّ جَلَّالَہُ وَصَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے یہ قلبی محبت نہیں، قلبی محبت وہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہے اس میں اپنی اصلاح کی مداخلت نہ کرے البتہ خطبے میں اگر کلمہ شریف خطیب پڑھے تو رَفْعِ سَبَابَہِ کرنے (یعنی شہادت کی انگلی اٹھانے) میں کوئی حرج نہیں۔

۱۔ اس مسئلہ کی تفصیل فتاویٰ رضویہ جلد 22 صفحہ 337/410/410/418/563 پر ملاحظہ کیجئے۔

## گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق

**عرض :** گناہ کبیرہ و صغیرہ میں کیا فرق ہے؟

**ارشاد :** گناہ کبیرہ سات سو ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، سورة النساء تحت الآية ۳۱، ج ۳، ص ۱۱۲) ان کی تفصیل بہت طویل۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی معصیت جس قدر ہے سب کبیرہ ہے۔ اگر صغیرہ و کبیرہ کو علیحدہ شمار کرایا جائے تو لوگ صغائر (یعنی صغیرہ گناہوں) کو ہلکا سمجھیں گے، وہ کبیرہ سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ جس گناہ کو ہلکا جان کر کرے گا وہی کبیرہ ہے۔ ان کے امتیاز کے لئے صرف اس قدر کافی ہے کہ فرض کا ترک کبیرہ ہے اور واجب کا صغیرہ۔ جو گناہ بے باکی اور اصرار سے کیا جائے کبیرہ ہے۔

## کونسی عورتیں غیر مَحْرَم کے ہاں جاسکتی ہیں؟

**عرض :** کون کون عورتیں غیر محرم کے یہاں جاسکتی ہیں؟

**ارشاد :** مریضہ، غاسلہ (یعنی عورت کی میت کو غسل دینے والی)، قابلہ (یعنی دائی) کا غیر محرم کے یہاں جانا جائز ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب النکاح، باب فی السفر بالزوجة، ج ۴، ص ۲۸۷)

## غیر مُسَلِّم کو مسلمان کرنے کا طریقہ

**عرض :** لاندھب کو مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

**ارشاد :** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ایک ہے۔ آسمان سے پانی اُتارنے والا ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہے۔ زمین سے کھیتی اُگانے والا ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہے۔ جلانے (یعنی زندہ کرنے) والا ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہے۔ مارنے والا ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہے۔ روزی دینے والا ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہے۔ ایک اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی پوجا ہے۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ لوگ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے اپنے بندوں کو سچا راستہ دکھانے کے لئے اپنے نیک بندے بھیجے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، وہ جو کچھ خدا (عَزَّوَجَلَّ) کے پاس سے لائے وہ سب حق ہے۔ میں ان نبیوں اور کتابوں پر ایمان لایا، ان میں سب سے بڑے اور سب کے سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ جو کچھ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے پاس سے لائے سب سچ ہے۔ میرا دین مسلمانوں کا دین ہے،

مسلمانوں کا دین سچا ہے۔ مسلمانوں کے دین کے سوا اور دین جتنے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

## وَسْوَسوں کا علاج

**عرض:** وسوسے کے دفع (یعنی دور کرنے) کے لئے کیا پڑھے؟

**ارشاد:** اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (یعنی: میں اللہ ورسول پر ایمان لایا وہی اول و آخر، وہی ظاہر و باطن ہے اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔) پڑھنے سے وسوسے رفع ہو جاتے ہیں بلکہ صرف اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ہی کہنے سے دور ہو جاتے ہیں۔

## ریا کے لئے نماز و روزہ کا حکم

**عرض:** اگر ریا کے لئے نماز و روزہ رکھا تو فرض ادا ہو گا یا نہیں؟

**ارشاد:** {مَعَادَ اللَّهِ}۔ فقہی نماز و روزہ ہو جائے گا کہ مُفْسِدٌ (یعنی نماز یا روزہ توڑنے والا کوئی کام) نہ پایا گیا، ثواب نہ ملے گا، بلکہ عذاب نار کا مستحق ہوگا۔ روز قیامت اُس سے کہا جائے گا: ”او فاجر! او غادر! او خاسر! او کافر! تیرا عمل حَبْطٌ (یعنی ضائع) ہوا، اپنا اجر اُس سے مانگ جس کے لئے کرتا تھا۔“ یہی ایک برائی ریا کی ندمت کو کافی ہے۔

## تبارک شریف کا مقصد

**عرض:** ”تبارک“ بعد مرنے ہی کے ہو سکتا ہے یا زندگی میں بھی کر سکتا ہے، اور مقدر سوا من صحیح ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہر سال کریں یا ایک ہی سال، تبارک شریف سے مقصود ایصالِ ثواب ہے اور شریعت میں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ جتنا ہو اور جب ہو پاک مال اور خالص نیت سے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے لئے ہو، مرنے کے بعد ہو یا زندگی میں ہر سال کریں کوئی حرج نہیں بلکہ مقرر کر کے موقوف کرنا نہ چاہئے۔

## سورہ مُلک کی فضیلت

اس کے فوائد بے شمار ہیں، اس میں سورہ تَبَارَكَ (یعنی سورہ مُلک) شریف پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ کریمہ کے برابر عذابِ قبر سے بچانے والی اور راحت پہنچانے والی کوئی چیز نہیں، اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس ملائکہ عذاب (یعنی عذاب کے فرشتے) آنا چاہتے ہیں تو ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہتے ہیں تو ادھر حائل ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ

اس کے پاس نہ آؤ! یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔“ تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ جب تک میں واپس نہ آؤں اس کے پاس نہ آنا اور بارگاہِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق کو ایسا جھگڑنے کی طاقت نہیں، انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہوتی ہے عرض کرتی ہے: ”وہ مجھے پڑھتا تھا اور تُو نے اُسے نہ بخشا۔ اگر میں تیرا کلام نہیں تو مجھے اپنی کتاب میں سے چھیل دے۔“ اس پر ارشادِ باری (عَزَّوَجَلَّ) ہوتا ہے: ”جاہم نے اسے بخشا۔“ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے اور آرام تکیے اور پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے: ”مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہ تھا۔“ پھر بچھونے بچھاتی اور تکیہ لگاتی ہے۔ فرشتے بحکمِ ربِّ العلمین واپس جاتے ہیں۔ (ملخصاً، تفسیر القرآن العظیم، سورة الملك، تحت السورة، ج ۸، ص ۱۹۵)

## خواب میں کسی کو بعد وفات بیمار دیکھنا

**عرض :** حضور ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ علیل (یعنی بیمار) اور بڑھتا ہوا ہے۔ یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے۔

**ارشاد :** کلمہ طیبہ ستر ہزار (70000) مرتبہ مع درود شریف پڑھ کر بخش دیا جائے ان شاء اللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا ہے، دونوں کے لئے ذریعہ نجات ہوگا اور پڑھنے والے کو دونا ثواب ہوگا اور اگر دو کو بخشے گا تو تینا اسی طرح کروڑوں بلکہ جمع مؤمنین و مؤمنات کو ایصالِ ثواب کر سکتا ہے۔ اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔

## ایصالِ ثواب کی برکتیں

حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دفعتاً (یعنی اچانک) رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لئے جاتے ہیں (اس شہر میں یہ لڑکا کشف میں مشہور تھا)۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہی کلمہ طیبہ ستر ہزار مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا آپ نے اُس کی ماں کو دل میں ایصالِ ثواب کر دیا۔ فوراً وہ لڑکا ہنسا، آپ نے سبب ہنسنے کا دریافت فرمایا، لڑکے نے جواب دیا کہ حضور میں نے ابھی دیکھا میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لئے جا رہے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں: ”اس حدیث کی تصدیق مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے۔“

## عذاب رُوح پر ہوتا ہے یا جِسْم پر؟

**عرض :** عذاب فقط رُوح پر ہوتا ہے یا جِسْم پر بھی؟

**ارشاد :** روح و جسم دونوں پر، یوں ہی ثواب بھی۔

(شرح العقائد النسفیة بحث عذاب القبر، ص ۹۹)

## لنگڑے اور اندھے کی حکایت

حدیث میں ہے: ایک لُجھا (یعنی لنگڑا) کسی باغ کے سامنے پڑا تھا اور میوے دیکھ رہا تھا، مگر اس تک جانہ سکتا تھا۔ اتفاقاً ایک اندھے کا اس طرف گزر ہوا کہ باغ میں جاسکتا تھا مگر میوے اسے نظر نہ آتے۔ لُجھے نے اندھے سے کہا: ”تُو مجھے باغ میں لے چل، وہاں جا کر ہم اور تم دونوں میوے کھائیں“۔ اندھا اس کو اپنی گردن پر سوار کر کے باغ میں لے گیا، لُجھے نے میوے توڑے اور دونوں نے کھائے۔ اس صورت میں کون مجرم ہوگا؟ دونوں ہی مجرم ہیں۔ اندھا ”جسم“ ہے اور لُجھا ”روح“۔

(شرح الصدور، الفائدة العاشرة، ص ۳۲۷)

## ہر ایک کے ساتھ کتنی رُوحیں ہوتی ہیں؟

**عرض :** ہر ایک کے ساتھ کتنی رُوحیں ہیں؟

**ارشاد :** صرف ایک روح ہے اگر مسلمان ہے تو عَلَیِّین (یعنی جنت اعلیٰ) میں اور کافر ہے تو سَجِّین میں۔ جو شخص قبر پر جاتا ہے اس کو بخوبی دیکھتی ہے، اس کی بات سنتی سمجھتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کا ادراک بے شمار بڑھ جاتا ہے خواہ مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں: روح کو قُرب و بُعْد مکانی یکساں ہے (یعنی روح کے لئے کسی چیز کا دُور و نزدیک ہونا برابر ہے)۔ روح بصر (یعنی بینائی کی رُوح) کو دیکھو کنوئیں کے اندر سے ستاروں کو دیکھتی ہے یعنی نگاہ اٹھتی ہے زمین سے فلکِ ثوابت تک پہنچتی ہے جو یہاں سے آٹھ ہزار برس کی راہ پر ہے۔ حدیث میں رُوح زندہ و مردہ کی مثال پر ندی فرمائی کہ جب تک پنجرے میں بند ہے اس کے لائق پر کھول سکتا ہے جب قفس (یعنی قید) سے نکال دو پھر اس کی اُڑان دیکھو۔

## قبر کھودنے پر مُردے کی ہڈیاں ملیں تو.....

**عرض :** قبر کھودی وہاں مُردے کی ہڈیاں نکلیں تو کیا کیا جائے؟

**ارشاد :** اگر اور جگہ مل سکتی ہے تو ہرگز اُس میں دفن نہ کریں اور اُس قبر کو بدستور دُست کر دیں ورنہ اُن ہڈیوں کو ایک طرف رکھ کر حائل کا فصل دے کر (یعنی درمیان میں کوئی چیز رکھ کر) اُس کو دفن کریں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ پہلے یہاں قبر تھی اگر چہ اب یہاں نشان باقی نہ رہا تو اس صورت میں وہاں قبر کھودنا جائز نہیں، ہاں اگر کوئی اور جگہ مل سکے اور یہ قبر پرانی ہو چکی تو مجبوراً جائز ہے۔

## داڑھی منڈانا اور کتر وانا گناہِ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟

**عرض:** داڑھی منڈانا اور کتر وانا گناہِ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟

**ارشاد:** کتر وانا یا منڈ وانا ایک دفعہ کا صغیرہ گناہ ہے اور عادت سے کبیرہ جس سے فاسقِ مُغلن (یعنی علانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا) ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب، اگر اعادہ نہ کیا گیا (یعنی دوبارہ نہ پڑھی تو) گناہ گار ہوگا۔

## فتویٰ نویسی کیسے سیکھیں؟

ایک روز حضرت مولانا شاہ سید احمد اشرف صاحب کچھوچھوی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) تشریف لائے ہوئے تھے۔ رخصت کے وقت انہوں نے عرض کیا کہ مولوی سید محمد صاحب اشرفی اپنے بھانجے کو، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں، حضور جو مناسب خیال فرمائیں ان سے کام لیں۔ ارشاد ہوا: ”ضرور تشریف لائیں یہاں فتوے لکھیں اور مدرسے میں درس دیں۔“ ”رَدِّ وہابیہ“ اور ”اُفتاء“ یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے ان میں بھی طبیبِ حاذق (یعنی ماہر طبیب) کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک طبیبِ حاذق کے مطب میں سات برس بیٹھا، مجھے وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں۔ میں نے ایک بار ایک نہایت پیچیدہ حکم کو بڑی کوشش و جانفشانی (یعنی جان توڑ محنت) سے نکالا اور اس کی تائیدات مع تنقیح (یعنی زائد کلام نکالنے کے بعد) آٹھ ورق میں جمع کیں مگر جب حضرت والد ماجد قُدسِ سرُّہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ اس سے یہ سب ورق رَدِّ ہو گئے۔ وہی جملہ اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے۔ خود ستائی (یعنی اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا) جائز نہیں مگر وقتِ حاجت، اظہارِ حقیقتِ تحدیثِ نعمت ہے (یعنی ضرورت کے وقت حقیقت کے اظہار کے لئے اپنی تعریف خود کرنے کی اجازت پر عمل ہے)۔

سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بادشاہِ مصر سے فرمایا:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي

زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں دے دے بے شک

حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ۝ (پ ۱۳، یوسف: ۵۵)

میں حفظ والا ہوں اور علم والا ہوں۔

بفضل ورحمتِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) پھر بعون و عنایتِ رسالت پناہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد و عنایت سے) افا اور ردِ وہابیہ کے دونوں کامل فن دونوں نہایت عالی فن انہیں یہاں سے اچھا ن شاء اللہ تعالیٰ ہندوستان میں کہیں نہ پائے گا، غیر ممالک کی بابت (یعنی بارے میں) نہیں کہتا۔ میں تو ہر شخص کو بطیب خاطر (یعنی بخوشی) سکھانے کو تیار ہوں۔ سید محمد اشرفی صاحب تو میرے شاہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں کے جدِ امجد یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ و عطیہ ہے۔ آپ کے یہاں موجود دین میں تَفَقُّہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب (علیہ رحمۃ اللہ الوہاب) میں زیادہ پائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اِسْتِفْتَا (یعنی سوالات) سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں، طبیعت اِخْتَاذ (یعنی جلدی سمجھنے والی) ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ اسی طرح علمِ توقیت بھی ایک ایسا فن ہے کہ اس کے جاننے والے بھی معدوم (یعنی نایاب) ہیں۔ حالانکہ ائمہ دین نے اسے فرضِ کفایہ بتایا ہے۔ (تفسیر روح المعانی، سورۃ الانعام تحت الایۃ ۹۷، ج ۷، ص ۳۰۶) علمائے موجودین میں تو کوئی اتنا بھی نہیں جانتا کہ فلاں دن آفتاب کب طلوع ہوگا اور کب غروب۔ بہت سی عمر گزر گئی تھوڑی باقی ہے، جن صاحب کو جو کچھ لینا ہو وہ حاصل کر لیں.....

سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي

مجھے گم کرنے سے پہلے یعنی میری موت سے پہلے مجھ سے پوچھ لو

حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر، باب تفسیر ایه..... الخ، الحدیث ۳۳۹۴، ج ۳، ص ۹۵)

اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا قول بالکل صحیح ہے

”قدرِ نعمت پس از زوال بود“

(نعمت کی قدر اس کے زائل ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ت)

خالی پیالہ

پھر لینے والے کو چاہیے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگرچہ کمالات سے بھرا ہوا ہو، اپنے تمام کمالات کو دروازہ ہی پر چھوڑ دے اور یہ جانے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ ”خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا“ اور جو اپنے

آپ کو بھرا سمجھے گا تو بزع ”انائے کہ پر شدد گر چون پرد“

”بھرے برتن میں اور کوئی چیز نہیں ڈالی جاسکتی۔“

## خدمتِ علم سے محروم ہو گئے

اور آجکل تو حاصل کرنے والے ایسے ہیں کہ جب میں حسن میاں مرحوم کے مکان میں رہتا تھا۔ اس میں ایک زینہ (یعنی بیڑھی) ہے جو باہر سے چھت پر گیا ہے۔ اس زمانے میں ایک مُدِرس (یعنی استاذ) صاحب کے ہدایہ اخیرین سپرد ہوا یہ کوئی آسان کتاب نہیں، جب انہوں نے کام چلتا نہ دیکھا تو مجھ سے پڑھنا چاہا مگر شرط یہی کہ اس باہر کے زینے سے چھت پر مجھے بلا لیا کیجئے اور وہاں تنہائی میں پڑھا دیا کیجئے (تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا: ”مولانا! ہدایہ اخیرین کا سبق کوئی سرقہ (یعنی چوری) نہیں جو لوگوں سے چھپ کر ہو، مجھ سے یہ نہ ہوگا۔“ ایک صاحب یہیں کے فتویٰ نویسی کرتے تھے، وہ اس طرح لکھتے تھے کہ باہر سے جواب لکھ کر بھیج دیا، میں نے اصلاح دے کر بھیج دیا۔ ایک روز اُن سے کہا گیا: ”مولانا یوں جواب تو ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت کیوں کاٹی گئی اور دوسری عبارتیں کس مصلحت سے بڑھائی گئیں، مناسب یہ ہے کہ آپ بعد نماز عصر اپنے لکھے ہوئے فتوؤں پر اصلاح لے لیا کریں۔“ انہوں نے کہا کہ ”اس وقت آپ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مجمع میں آپ فرمائیں گے کہ تم نے یہ غلط لکھا وہ غلط لکھا اور مجھے اس میں ندامت ہوگی۔“ اس بندہ خدا کے نام افریقہ اور امریکہ تک سے استفعا آتے (یعنی فتوے پوچھے جاتے) تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اُن کے نام سے جواب جاتا تو لوگ انہیں کے نام استفعا بھیجتے۔ اُس زمانے میں مکہ معظمہ کے ایک عالم جلیل حضرت مولانا سید اسماعیل حافظ کتبِ حرمِ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقیر کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ سے صرف ملاقات فقیر کے لئے کر فرمایا تھا، اُن کے سامنے اسکا تذکرہ ہوا فرمایا: ”ایسا شخص برکتِ علم سے محروم رہتا ہے۔“ یہی ہوا کہ وہ صاحبِ چھوڑ کر بیٹھ رہے۔ اب بی۔ اے (B.A) پاس کرنے کی فکر میں ہیں۔

## شاگرد کی عاجزی

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب میں بغرض تحصیلِ علم (یعنی علم دین سیکھنے کے لئے) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے ہوتے تو براہِ ادب ان کو آواز نہ دیتا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ رہتا۔ ہوا خاک اور ریتا اُڑا کر مجھ پر ڈالتی، پھر جب حضرت زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا شانہ اقدس سے تشریف لاتے فرماتے: ”ابنِ عم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے) آپ نے مجھے



اطلاع کیوں نہ کرادی؟“ میں عرض کرتا مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا۔“

(ملخصاً، الاصابة في تمييز الصحابة، حرف العين المهملة، ج ۴، ص ۱۲۵)

یہ وہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ  
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى  
تُخْرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ۝ (پ ۲۶، الحجرات: ۵، ۴)

وہ جو حجروں کے باہر سے تمہیں آواز دیتے ہیں، ان میں  
بہت کو عقل نہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم باہر  
تشریف لاؤ تو ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ)

بخشنے والا مہربان ہے۔

## اہل بیت کا ادب

ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے رکاب لے  
تھامی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”یہ کیا ہے؟ اے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم!“ انہوں نے کہا: ”ہمیں یہی  
تعلیم دی گئی ہے کہ علما کے ساتھ ادب کریں۔“ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور حضرت عبداللہ ابن  
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا: ”ہمیں یہی حکم ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا ہی کریں۔“

(ملتنقظاً، المعجم الكبير للطبرانی، زید بن ثابت الانصاری، حدیث ۴۷۴۶، ج ۵، ص ۱۰۶)

## اُستاد کے قدم دھلانے والا شاگرد

ہارون رشید جیسے جبار بادشاہ نے مامون رشید کی تعلیم کے لئے حضرت امام کسائی سے (جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خالہ  
زاد بھائی اور اجداد علمائے قرآن سب سے ہیں) عرض کیا۔ فرمایا: ”میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا، شہزادہ میرے ہی مکان  
پر آ جایا کرے۔“ ہارون رشید نے عرض کی: ”وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے گا مگر اُس کا سبق پہلے ہو۔“ فرمایا: ”یہ بھی نہ ہوگا بلکہ جو  
پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔“ عرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاقاً ایک روز ہارون رشید کا گزر ہوا، دیکھا کہ  
امام کسائی اپنے پاؤں دھورے ہیں اور مامون رشید پانی ڈالتا ہے۔ بادشاہ غضب ناک ہو کر اُترا اور مامون رشید کے کوڑا مارا،  
اور کہا: ”اُو بے ادب! خدا نے دو ہاتھ کس لئے دیئے ہیں ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں دھو۔“

۱: وہ آہنی حلقہ جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لٹکتا رہتا ہے اور سوار اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے۔

۲: اکابر علما کی روایت کردہ قرآن پاک کی سات مشہور متواتر قرآنی آیتوں میں سے ایک کے راوی ہیں۔

## علم کی عزت

ایک مرتبہ ہارون رشید نے ابو معاویہ عزیز کی دعوت کی وہ آنکھوں سے معذور تھے۔ جب آفتابہ (یعنی ڈھکنے دار دستہ لگا ہوا لوٹا) اور چلمچی (یعنی ہاتھ منہ دھونے کا برتن) ہاتھ دھونے کے لئے لائی گئی تو چلمچی خدمت گار کو دی اور آفتابہ خود لے کر ان کے ہاتھ دھلائے اور کہا: ”آپ نے جانا کون آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے؟“ کہا: ”نہیں۔“ کہا: ہارون۔ (انہوں نے) کہا جیسی آپ نے علم کی عزت کی ایسی اللہ (عَزَّوَجَلَّ) آپ کی عزت کرے۔ ہارون رشید نے کہا اسی دُعا کے حاصل کرنے کے لئے یہ کیا تھا۔ (تاریخ بغداد، ذکر من اسمہ ہارون، ج ۴، ص ۹)

## علمائے کرام کا احترام

ہارون رشید کے دربار میں جب کوئی عالم تشریف لاتے، بادشاہ ان کی تعظیم کے لئے سروقد (یعنی سرو کے درخت کی طرح بالکل سیدھا) کھڑا ہوتا۔ ایک بار درباریوں نے عرض کیا: ”یا امیر المؤمنین رعب سلطنت جاتا ہے۔“ جواب دیا: ”اگر علمائے دین کی تعظیم سے رعب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے۔“ یہی وجہ تھی کہ ہارون رشید کا رعب روئے زمین کے بادشاہوں پر بدرجہ اتم (یعنی بہت زیادہ) تھا۔ سلاطین نصاریٰ (یعنی عیسائی بادشاہ) اس کا نام لینے تھڑاتے تھے۔

## عیسائیہ کا بیٹا

تختِ قسطنطنیہ پر ایک عیسائیہ عورت حکمران تھی اور وہ ہر سال خراج لے ادا کرتی۔ جب وہ مرگئی تو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا اور خراج نہ حاضر کیا۔ ادھر سے خراج کا مطالبہ ہوا تو اُس نے حضرت ہارون رشید کی خدمت میں ایک اپیلچی (یعنی قاصد) کے ہاتھ اس مضمون کی تحریر بھیجی کہ:

”وہ مرگئی جو خود پیدا دہ لے بنی تھی اور آپ کو رُخ لے بنایا تھا“ (یعنی میری ماں جس نے آپ کی بالادستی قبول کی تھی وہ مر چکی ہے، اب میرے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے)

یہ تحریر لے کر اپیلچی جب حاضر دربار ہوا، وزیر کو حکم ہوا سناؤ! وزیر نے اُسے دیکھ کر عرض کی: ”حضور مجھ میں تاب نہیں

۱: خراج دو قسم ہے (۱) خراج مقاسمہ کہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر ہو جیسے حضور اقدس ﷺ نے یہود خیبر پر مقرر فرمایا تھا اور (۲) خراج مؤظف کہ ایک مقدار معین لازم کر دی جائے خواہ روپے سالانہ دو روپیہ یا گھہہ یا کچھ اور جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ (بہار شریعت، حصہ ۵، ص ۴۹) ۲: شطرنج کا ایک مہرہ۔ ۳: یہ بھی شطرنج کے ایک مہرے کو کہا جاتا ہے۔

جو اسے سنا سکوں۔“ فرمایا: ”لا مجھے دے۔“ اور اس تحریر کو پڑھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی ایسا جلال آیا جسے دیکھ کر تمام دربار بھاگ گیا۔ صرف وزیر اور وہ اپیلچی رہ گئے۔ وزیر کو حکم ہوا کہ جواب لکھ! اُس نے ارادہ لکھنے کا کیا مگر رُعبِ شاہی اس قدر غالب تھا کہ ہاتھ تھر تھرانے لگا اور قلم نہ چلا۔ پھر فرمایا: ”لا مجھے دے۔“ اور یوں لکھا:

”یہ خط ہے خدا کے بندے امیر المؤمنین ہارون رشید کی طرف سے روم کے کتے فلاں کو کہ اوکا فرہ کے جنے! جواب وہ نہیں جو تو سنے جواب وہ ہے جو تو دیکھے گا۔“

یہ فرمان اپیلچی کو دیا اور فوراً لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اپیلچی کے ساتھ لشکر لے کر پہنچے اور جاتے ہی قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس بادشاہ عیسائی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت گریہ وزاری کی، ہاتھ پاؤں جوڑے، خراج دینے کا وعدہ کیا، چھوڑ دیا اور تاج بخشی کر کے واپس آئے۔ ابھی ایک منزل آئے تھے کہ خبر پائی: اس نے پھر سرتابی کی۔ فوراً واپس گئے اور پھر فتح کیا اور پھر اُسے گرفتار کیا۔ (ملخصاً، الكامل فی التاريخ، سنة ۱۸۷، ذکر غزو الروم، ج ۵، ص ۳۳۳) پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور خوشامد کی پھر چھوڑ دیا۔ ایسے جبار بادشاہ کی علما کے ساتھ یہ طرزِ تعظیم تھی۔

## سجدے میں قُربِ الہی

**عرض:** بندوں کو قُربِ الہی اللہ کا مرتبہ علاوہ نماز بھی ہوتا ہے؟

**ارشاد:** ہاں ہر سجدے میں ربّ (عَزَّوَجَلَّ) کے قریب ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع..... الخ، الحدیث ۴۸۲، ص ۲۵۰) اور سجدے چار قسم (کے) ہیں: (۱) سجدہ نماز (۲) سجدہ تلاوت (۳) سجدہ سہو (۴) سجدہ شکر۔

## سجدہ شُکرِ مَسْنُونِ هے یا مُسْتَحَبّ؟

**عرض:** سجدہ شکرِ مَسْنُونِ هے یا مُسْتَحَبّ؟

**ارشاد:** سُنّتِ مُسْتَحَبّ هے۔ (ردالمحتار علی درمختار، کتاب الصلاة، ج ۲، ص ۷۲۰) جس وقت ابو جہل العین کا سر کٹ کر سرکاریں آیا تو سجدہ شکر فرمایا۔

## گستاخِ رسولِ کَا اَنجام

**عرض:** اس لعین سے بھی قلبِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو بہت تکلیف پہنچی؟

**ارشاد:** یہ ان بارہ لعینوں سے تھا جو سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی کے سر پر بجلی گری، کسی پر پتھر برسے غرض طرح طرح کے عذاب الہی (عَزَّوَجَلَّ) ان خبیثاء (یعنی خبیثوں) پر نازل ہوئے۔ ایک مرتبہ عاص سفر کو گیا۔ تکان (یعنی تھکن) کے باعث ایک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ جبریل امین (علیہ السلام) بحکم رب العالمین (عَزَّوَجَلَّ) تشریف لائے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرائی شروع کیا۔ وہ چلاتا تھا کہ ”ارے! کون میرے سر کو درخت سے ٹکرائ رہا ہے؟“ اُس کے ساتھی کہتے تھے کہ ”ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔“ یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا (یعنی مرکز جہنم پہنچا)۔

**قیامت** کے دن اس جہنمی کی سب سے جدا حالت ہوگی: یہ اپنے آپ کو مَعَاذَ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا یعنی عزت والا و کرم والا۔ داروغہ دوزخ (یعنی دوزخ کے نگران فرشتے) کو حکم ہوگا کہ اس کے سر پر گر زلٹا رو جس کے لگتے ہی ایک بڑا خلا سر میں ہو جائے گا اور جس کی وسعت اتنی نہ ہوگی جتنی تم خیال کرتے ہو بلکہ جس کی ایک داڑھ کوہِ اُحُد (یعنی اُحُد پہاڑ) کے برابر ہوگی اس کے سر پھٹنے سے جو خلا ہوگا وہ کس قدر وسیع ہوگا! غرض اس خلا میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی بھرا جائے گا اور اس سے کہا جائیگا

دُقِّ لِّ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ○ چکھو تو تو عزت و کرم والا ہے۔

(پ ۲۵، الدخان: ۴۹)

اور کافر کو یہی پانی پلایا جائے گا کہ جب منہ کے قریب آئے گا منہ اس میں گل کر کر پڑے گا اور جب پیٹ میں اترے گا، آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، اور اس پانی کو ایسا پیئیں گے جیسے ٹونس (یعنی نہ بچھنے والی پیاس) کے مارے اُونٹ۔ بھوک سے بیتاب ہوں گے تو خاردار تھوہر کھولتا ہوا، چرخ دیئے (یعنی پھلے) ہوئے تانبے کی طرح اُبلتا ہوا کھلائیں گے جو پیٹ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا اور بھوک کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ انواع انواع (یعنی طرح طرح) کے عذاب ہوں گے۔ ہر طرف سے موت آئے گی اور مریں گے کبھی نہیں، نہ کبھی ان کے عذاب میں تخفیف (یعنی کمی) ہوگی۔ یہی حال تمام رافضیوں، وہابیوں اور قادیانیوں، نیچر یوں تمام مرتدین کا ہے۔ جس نے کسی دوسرے کے بہکانے سے کفر کیا ہوگا وہ بارگاہِ ربِّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) میں عرض کرے گا: ”اس نے مجھے بہکایا، اس پر دونا عذاب کر۔“ ربِّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) فرمائے گا: سب پر دونا ہے مگر تم جانتے نہیں اور نار یوں (یعنی دوزخیوں) کے جسم ایسے ایسے بڑے بڑے ہوں گے جنکی ایک ایک داڑھ مثل کوہِ اُحُد کے۔

۱: ایک ہتھیار جو اوپر سے گول موٹا اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے۔ ۲: ایک خاردار ہریلا پودا جس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگ ہوتے ہیں۔

## مَسْجِدِ مِیں کپڑے سِینا کیسا؟

**عرض:** مسجد میں کپڑا سینا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر اجرت پر سیتا ہے تو ناجائز ورنہ کوئی حرج نہیں۔

(الفتاویٰ الہندیۃ، الفصل الثانی فیما یکرہ للصلاة وما لا یکرہ، ج ۱، ص ۱۱۰)

## سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ

**عرض:** کھانا کھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟

**ارشاد:** داہنپاؤں کھڑا ہو اور بائیں بچھا اور روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر داہنے سے توڑنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے توڑ کر کھانا اور دوسرا ہاتھ نہ لگانا عادتِ مُتکَبِّرِین (یعنی تکبر کرنے والوں کی عادت) ہے۔

## فاتحہ کا ثواب

**عرض:** فاتحہ میں الحمد شریف پڑھنے کو وہا بیہ منع کرتے ہیں۔ آیا کچھ زیادہ ثواب ہے؟

**ارشاد:** جو کچھ تمہیں پاروں میں ہے وہ صرف الحمد شریف میں ہے۔ اس کی بابت حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ رب عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ  
عَبْدِي نِصْفَيْنِ  
میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے  
کے درمیان نصف نصف تقسیم فرمایا۔

نصف اول میرے لئے اور نصف آخر میرے بندے کے لئے ہے۔ جب بندہ پہلے تین آیتوں کو پڑھتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے، کہ میرے بندے نے میری تمجید (یعنی بزرگی بیان) کی، اور جب بیچ کی آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے: یہ آدھی میرے لئے اور آدھی میرے بندے کے لئے، جب اخیر کی تین آیات پڑھتا ہے، ارشاد فرماتا ہے:

فَهُؤَلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  
یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے

بندے کے لئے ہے وہ جو اس نے مانگا۔

(ملخصاً، الموطأ لامام مالك، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الامام..... الخ، الحدیث ۱۹۲، ج ۱، ص ۹۵)

یہ اس لئے ارشاد ہوا کہ پہلی تین آیتوں میں: لَمَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کی خالص حمد و ثنا ہے اور کچھلی میں اِهْدِنَا سے آخر سورہ تک اپنے لئے دعا ہے اور بیچ کی آیت میں ذکرِ عبادت و استعانت (یعنی عبادت اور مدد مانگنے کا ذکر) ہے۔ عبادت مولیٰ تعالیٰ کے لئے ہے اور استعانت (یعنی مدد طلب کرنا) بندے کا نفع۔ وہابیہ کی بد عقلی کو کیا کہتے کہ ایسی متبرک سورہ کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔

## قرآن پاک کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟

**عرض:** حضور زمانہ صحابہ (علیہم الرضوان) میں بھی قرآنِ عظیم کے پارے ہو گئے تھے؟

**ارشاد:** امام جلال الدین سیوطی نے کتاب ”الانثقان“ میں جس قدر احادیث و روایات و اقوال قرآنِ عظیم کے ایسے امور کے متعلق ہیں جمع فرمادیئے ہیں۔ اس میں پاروں کا کہیں ذکر نہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے وقت تک یہ تقسیم نہ تھی۔ ہاں رکوع جاری ہوئے آٹھ سو برس ہوئے۔ مشائخ کرام نے اَلْحَمْدُ شَرِيف کے بعد پانچ سو چالیس (540) رکھے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو ستائیسویں شب میں کہ شبِ قدر ہے ختم ہو۔

## احزاب و آعشار کا آغاز کب ہوا؟

**عرض:** یہ احزاب وغیرہ کیسے شروع ہوئے؟

**ارشاد:** احزاب و آعشار زمانہ مبارک سے ہیں۔ آعشار دس آیتوں کے مجموعہ کا نام تھا یعنی صحابہ کرام (علیہم الرضوان) ایک عشر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھتے اور اس کے متعلق علوم و معارف جو ان کے لائق ہوتے ان سب کو حاصل کرنے کے بعد دوسرا عشر شروع کرتے۔

سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ برس میں سورہ بقرہ شریف ختم فرمائی اور بعد اختتام ایک اونٹ قربانی فرمایا۔

سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سورہ بقرہ شریف آٹھ برس میں پڑھی۔ (شعب الایمان، الحدیث ۱۹۵۶/۱۹۵۷، ج ۲، ص ۳۳۱)

## گانے والوں پر لعنت

**عرض:** کیا یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت محبوبِ الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر شریف میں ننگے سر کھڑے ہوئے گانے والوں پر لعنت فرما رہے تھے؟

**ارشاد :** یہ واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ آپ کے مزار شریف پر مجلس سماع میں قوالی ہو رہی تھی۔ آج کل تو لوگوں نے بہت اختراع کر لئے ہیں (یعنی نئی باتیں نکال لیں ہیں)، ناچ وغیرہ بھی کراتے ہیں حالانکہ اس وقت بارگاہوں میں مزامیر (یعنی آلات موسیقی) بھی نہ تھے۔ حضرت سید ابراہیم ابرہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے پیران سلسلہ میں سے ہیں باہر مجلس سماع کے تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب صالحین سے آپ کے پاس آئے اور گزارش کی مجلس میں تشریف لے چلئے۔ حضرت سید ابراہیم ابرہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”تم جاننے والے ہو، مواجہ اقدس میں حاضر ہو، اگر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلتا ہوں۔“ انہوں نے مزار اقدس پر مراقبہ کیا، دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔

”ایں بد بختاں وقتِ مارا پریشان کردہ اند“

(یعنی ان بد بختوں نے میرے اوقات پریشان کر رکھے ہیں۔ ت)

وہ واپس آئے اور قبل اس کے کہ عرض کریں، فرمایا: ”آپ نے دیکھا۔“

## کاکے کے معنی

**عرض :** حضور کاکی کے کیا معنی ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ (یعنی اس نام کی وجہ) کیا ہے؟

**ارشاد :** حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں چند مسافر حاضر ہوئے، حضور کے یہاں اس وقت کچھ سامان خورد و نوش (یعنی کھانے پینے کا سامان) موجود نہ تھا غیب سے کاک { روٹیاں } آئیں جو سب کو کافی و وافی ہو گئیں جب سے آپ کاکی مشہور ہو گئے۔

## جلی ہونی روٹی اور کیڑے والا چھوہارا

{ اسی تذکرے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فضل رسول صاحب جو میرے پیر و مرشد (یعنی شاہ آل رسول مارہروی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے { جو مولانا بجز العلوم ملک العلماء کے شاگرد تھے } پڑھتے تھے۔ دہلی میں تھے، جلسہ وہابیہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں حاضرین پر کاک اور چھوہارے برساکرتے تھے۔ چنانچہ حسب دستور

آپ کے سامنے بھی بوچھاڑ ہوئی ایک کاک اور ایک چھوہارا آپ کو بھی ملا۔ آپ نے چھوہارا توڑا تو اُس میں سے کیڑا نکلا اور کاک کا کنارہ اجلا ہوا۔ یہ دیکھ کر تبسم کیا اور باوا زبند کہا: ”صاحبو آج تک تو سنا کرتے تھے کہ فرشتے بھولتے نہیں یہ کیسا بھول گئے کہ روٹی بھی جلادی اور سنتے تھے کہ جنت کا میوہ سڑتا لگتا نہیں، تعجب ہے کہ چھوہاروں میں کیڑے پڑ گئے۔“ اس پر بہت شور مچا ہوا۔ آپ کو غصہ آیا، پردہ کو ہٹا دیا جس کے پیچھے سے یہ بارش ہو رہی تھی دیکھا تو اسماعیل دہلوی کا ایک غلام جس کا نام عبداللطیف تھا ایک جھولی میں کاک اور ایک میں چھوہارے لئے بیٹھا ہے۔ پردہ ہٹتے ہی پردہ فاش ہو گیا۔

اس کے بعد حضرت مولانا فضل رسول صاحب دہلی سے لکھنؤ حضرت مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اندر سے خبر آئی کہ آنے کی ممانعت ہے۔ آپ چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور رونے لگے اور عرض کی کہ ”میری کیا خطا ہے معلوم ہو کہ وہ قابلِ معافی بھی ہے یا نہیں؟“ جب بہت دیر گزر گئی تو مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف لائے اور فرمایا: ”تمہیں میں نے اسی لئے پڑھایا تھا کہ وہابیوں کے جلسوں میں جاؤ۔“ آپ نے عرض کی کہ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ”میری خطا قابلِ معافی ہے۔“ اور پھر آپ نے سارا واقعہ اسماعیل دہلوی کے مکرو فریب کا عرض کیا اور کہا میں اس کا صرف پردہ فاش کرنے کو گیا تھا کہ نہ معلوم کتنے بندگانِ خدا (عَزَّوَجَلَّ) اس کی اس عیاری سے گمراہ ہو رہے تھے۔ آپ سن کر خوش ہوئے اور راضی ہو گئے۔

## خوفزدہ باد شاہ

یہی مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز راستے میں تشریف لئے جا رہے تھے، سامنے سے علی بخش وزیر بادشاہ اودھ، جو اُس کی ناک کا بال ہو رہا تھا، ہاتھی پر چلا آ رہا تھا۔ اُس نے حضرت کو دیکھ کر اتنا ادب کیا کہ ہاتھی کو بٹھا دیا اور اتر کر قریب حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے اُس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور سلام نہ لیا کہ وہ رافضی تھا اور دارِ اٹھی منڈھی ہوئی تھی۔ سمجھا کہ شاید مجھے دیکھا نہیں۔ دوسری طرف جا کر سلام عرض کیا۔ آپ نے اُدھر سے منہ پھیر لیا اور سلام قبول نہ فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اُس خبیث کو غصہ آیا اور ہاتھی پر چڑھ کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ فرنگی محل کے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کا سر نہ منڈو یا تو علی بخش نام نہیں۔ آپ جب مکان میں تشریف لے گئے تو ایک طالب علم نے علی بخش کا وہ فقرہ عرض کیا۔ آپ فوراً باہر تشریف لائے آستانے پر اس وقت میرے پیرومرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا فضل رسول صاحب



رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر تھے۔ عرض کیا: حضور کہاں کا قصد (یعنی ارادہ) فرماتے ہیں؟ فرمایا: ”بچو نورا کی حماقتے تو ہے (آپ کی زبان پور بی تھی) رافضی آیا تھا، سلام کیا تھا، جواب دے دیا ہوتا۔ اب کسی کی داڑھی مونڑے (یعنی مونڈھے) ہے کسی کا مونڑ مونڑے ہے۔ نورا کی حماقتے تو ہے۔“ اور آپ سیدھے بادشاہ کے محل کو تشریف لے چلے کہ اس سے پیشتر (یعنی پہلے) کبھی نہ گئے تھے، پیچھے پیچھے یہ دونوں حضرات بھی ہوئے۔ اُس دن نوروز کا دن تھا۔ اُس کے محل میں جشن ہو رہا تھا۔ شراب و کباب اور گانے بجانے کے سامان موجود تھے۔ جب دربان نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا، گھبرا کر دوڑتا ہوا گیا، اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ سن کر گھبرا گیا اور حکم دیا کہ فوراً تمام منہیات شرع (یعنی شرعاً ممنوع چیزیں مثلاً ساز و آلات اور شراب وغیرہ) اٹھا دیئے جائیں اور خود دروازے تک استقبال کر کے حضرت کو اندر لے گیا اور باعزاز تمام بٹھایا۔ علی بخش کھڑا ہوا یہ واقعہ دیکھ رہا ہے، ”کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔“ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ شکایت فرمائیں گے اور خدا جانے بادشاہ کیا کچھ کرے گا، مگر یہ ”وسیع ظرف“ اس ”ہلکے قیاس“ سے وراہیں۔ یہ شکایت فرمانے تشریف نہ لے گئے بلکہ اُسے اپنی عظمت دکھانے کو کہ وہ ایذا رسانی کے خیال سے باز رہے۔ بادشاہ نے عرض کی: ”حضرت نے کیسی تکلیف فرمائی۔“ ارشاد فرمایا: ”تیری زمین میں رہت (یعنی رہتے) ہیں ہم نے کہا ہوا آئیں۔“ بادشاہ نے وہ شیرینی جو نوروز کے لئے آئی تھی پیش کی۔ فرمایا: ”ہمارے دو بچے بھی باہر ہیں۔“ چنانچہ ان حضرات کو بھی بلا لیا گیا۔ تھوڑی دیر تشریف رکھ کر واپس تشریف لائے۔

یہ دونوں حکایتیں مجھ سے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھنؤ میں بیان فرمائیں جب میں اور وہ ۱۳۰۹ھ میں کچھ کتابیں دیکھنے لکھنؤ گئے تھے۔

## علم جفر

**مؤلف:** ایک روز نواب وزیر احمد خاں صاحب ایک کتاب جس میں انہوں نے ”تعریفات اشیاء“ لکھی تھیں۔ اعلیٰ حضرت مدظلہ کو بغرض اصلاح بعد ظہر سنار ہے تھے۔ علم جفر کی تعریف سناتے وقت حضور نے ارشاد فرمایا: آپ نے علم زاریجہ کی

۱: نوروز کا معنی ”نیادان“ ہے، نو بمعنی نیا، اور روز بمعنی یوم، اور اس سے مراد وہ دن ہے جس میں سورج برج حمل میں پہنچ جاتا ہے۔ (رد المحتار، کتاب الصوم، باب سبب صوم رمضان، ج ۷) اُس دن مجوسی جشن مناتے ہیں۔

۲: اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت لکھتے ہیں: جفر پیشک نہایت نفیس جائز فن ہے حضرات اہلبیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا علم ہے امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے خواص پر اس کا اظہار فرمایا اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے معرض کتابت میں لائے مستطاب جفر جامع تصنیف فرمائی۔ علامہ سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق نے جامع میں ما کان وما یکون تحریر فرمادیا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۳، ص ۶۹۷)

تعریف نہ لکھی۔ یہ علم جفر ہی کا ایک شعبہ ہے، اس میں جواب منظوم عربی زبان ”بحر طویل“<sup>۱</sup> اور حرف ل کی روی سے آتا ہے اور جب تک جواب پورا نہیں ہوتا مقطع<sup>۲</sup> نہیں آتا جس کو صاحب علم کی اجازت نہیں ہوتی نہیں آتا، میں نے اجازت حاصل کرنا چاہی۔ اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر اجازت عطا ہوئی حکم مل گیا ورنہ نہیں۔ میں نے تین روز پڑھا، تیسرے روز خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے اور اس میں ایک بڑا پختہ کنواں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور چند صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) بھی حاضر ہیں جن میں سے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا۔ اس کنوئیں میں سے خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام (علیہم الرضوان) پانی بھر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا تختہ نکلا کہ عرض (یعنی چوڑائی) میں ڈیڑھ گز اور طول (یعنی لمبائی) میں دو گز ہوگا اور اس پر سبز کپڑا چڑھا ہوا تھا جس کے وسط میں سفید روشن بہت جلی قلم سے اھ ذی شکل میں لکھے ہوئے تھے جس سے میں نے یہ مطلب نکالا کہ اس کا حاصل کرنا ”ہذیان“ فرمایا جاتا ہے۔ اس سے بقاعدہ جفر اذن نکل سکتا تھا۔ ہ کو بطور صدر مؤخر آخر میں رکھا۔ اس کے عدد پانچ ہیں اب وہ اپنی پہلی جگہ سے ترقی کر کے دوسرے مرتبہ میں آگئی اور پانچ کا دوسرا مرتبہ پانچ دہائی ہے یعنی پچاس جس کا حرف نون ہے یوں اذن سمجھتا مگر میں نے اس طرف التفات نہ کیا اور لفظ کو ظاہر پر رکھ کر اس فن کو چھوڑ دیا کہ ”اھذ“ کے معنی ہیں ”فضول بک۔“

## مزارِ مُرشدِ پرِ حاضری کے آداب

**عرض:** مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہئے؟

**ارشاد:** چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے اور اس کی حیات میں جیسا ادب کرتا تھا (ویسا ہی اب بھی کرے) سامنے سے حاضر ہو کہ بالیں (یعنی سر ہانے) سے حاضر ہونے میں مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔

## صاحبِ مزار کی تاکید

{ اسی سلسلہ بیان میں یہ حکایت بیان فرمائی { ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ ان کی صاحبزادی روزانہ قبر پر حاضر ہوتیں اور

تلاوتِ قرآنِ عظیم کیا کرتیں۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا۔ ایک روز حاضر نہ ہوئیں، شب کو خواب میں تشریف

۱: شعر کو تولنے کے لئے جو پیمانے مقرر کئے گئے ہیں انہیں بجز کہا جاتا ہے۔ خلیل بن احمد نے شعر کے لئے 15 وزن قرار دیئے اور ہر وزن کا نام بجز

رکھا، ان میں سے بحر طویل بھی ایک وزن ہے جو ایک مصرعہ میں دو مرتبہ فعلن مفاعیلن کے وزن پر آتا ہے۔ (فن شاعری اور حسان الہند، ص 99/98)

۲: غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا غلص آتا ہے۔

لائے، فرمایا: ”ایسا نہ کرو، آؤ اور میرے مواجہہ میں کھڑی ہو۔ یہاں تک کہ تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں۔ پھر میرے لئے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ رحمت آکر مجھ میں اور تم میں حجاب ہو جائے گی۔“ ۱

## نیا کفن

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا: میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے۔ پرسوں فلاں شخص آنے والا ہے، اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا۔ صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اُس شخص کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں۔ تیسرے روز خبر ملی اُس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا: ”یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔“ رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا: ”خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔“

## زائد کفن واپس دے دیا

ابہان بن صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے کفن میں ایک تہبند زائد چلا گیا۔ شب کو اپنے صاحبزادے کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: ”یہ تہبند لو اور الگنی (یعنی کپڑے لٹکانے کی رسی) پر ڈال دیا۔“ صبح اُن کی آنکھ کھلی تو وہیں رکھا ملا۔

## برا پڑوسی

ایک شخص قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر میں غافل ہو گیا (یعنی سو گیا)۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بی بی اس قبر میں فرماتی ہیں: ”اے خدا کے بندے! اُس بلا کو میرے پاس سے دُور کر جو تھوڑی دیر میں آنے والی ہے۔“ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ ایک قبر وہیں گھد رہی ہے اور سامنے سے ایک جنازہ جو کسی رئیس کا تھا چلا آ رہا ہے۔ اُس نے سب کو منع کیا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ غرض وہ لوگ بازار ہے اور دوسری جگہ اس میت کو لے گئے۔ شب کو اُس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بی بی فرماتی ہیں کہ ”خدا (عَزَّوَجَلَّ) تجھے جزائے خیر دے کہ تُو نے آگ کو میرے پاس سے دُور کیا۔“

۱: مزارات پر عورتوں کی حاضری کی نفیس تفصیل اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے رسالہ مبارکہ ”جَمَلُ السُّورِ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ“ میں ہے۔ یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ جلد ۹ ص ۵۴۱ پر ہے۔

## رب تعالیٰ کے لئے مؤنث کا صیغہ بولنے کا حکم

**مؤلف :** ایک روز مولوی امجد علی صاحب بعد عصر بہار شریعت حصہ سوم بغرض اصلاح سنا رہے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ اس بارے میں تھا کہ رب العزت جل جلالہ کی طرف مؤنث کا صیغہ زبان سے نماز میں نکل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔

**ارشاد :** فرمایا صیغہ ہو یا ضمیر لے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعتاً (یعنی اچانک) سوتے سوتے اُٹھ بیٹھے اور بہت روئے۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا، فرمایا: ”میں نے دیکھا رب العزت (عَزَّوَجَلَّ) کو کہ فرماتا ہے تو اشعارِ لیلیٰ و سلمیٰ کو مجھ پر محمول کرتا ہے، اگر میں نہ جانتا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ عذاب کرتا جو کسی پر نہ کیا ہو۔“

## دعا کرتے وقت ہاتھ ڈھانپ کر رکھنا کیسا؟

**عرض :** حضور دعا کے وقت اگر کسی شخص کے ہاتھ سردی کی وجہ سے ڈھکے رہیں تو کیسا ہے؟

**ارشاد :** ایک بزرگ (حضرت ابوسلیمان عبدالرحمن دارانی علیہ رحمۃ اللہ الخ) نے دعا میں سردی کے سبب صرف ایک ہاتھ باہر نکالا تھا۔ الہام لے ہوا: ”ایک ہاتھ اٹھایا ہم نے اس میں رکھ دیا جو رکھنا تھا، دوسرا اٹھاتا تو اسے بھی بھر دیتے۔“

(رسالہ قشیریہ، ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی، ص ۴۱)

## دعا کی قبولیت

**عرض :** دعا ہر وقت مقبول ہوتی ہے؟

**ارشاد :** حدیث شریف میں ہے: ”اللہ تعالیٰ حیا والا، کرم والا ہے اس سے شرم فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور انہیں خالی پھیر دے۔“

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب ۱۰۴، الحدیث ۳۵۶۷، ج ۵، ص ۳۲۶)

اور فرمایا: ”جو دعائے مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔“

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی فضل الدعاء، الحدیث ۳۳۸۴، ج ۵، ص ۲۴۴)

۱: صیغہ اور ضمیر علم صرف و نحو کی اصطلاحیں ہیں۔ صیغہ کا لغوی معنی پیدائش اور ڈھالنا، اور اصطلاح میں صیغہ سے مراد وہ ہیئت ہے جو حروف کو مع حرکات و سکنات ترتیب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً حَسْرَب میں ض، ر اور ب حروف ہیں جن میں سے ہر ایک پر زبر لگا کر لفظ ”حَسْرَب“ بنایا گیا ہے۔ ضمیر کے لغوی معنی پوشیدہ کیا ہوا، اصطلاحی طور پر ضمیر وہ اسم ہے جو کسی حاضر متکلم یا ایسے غائب پر دلالت کے لئے وضع کیا (یعنی بنایا) گیا ہو کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ۲: خدا عزوجل کی طرف سے نیک بندوں کے دل میں آئی ہوئی بات کو الہام کہتے ہیں۔

## صفِ اول میں نماز پڑھنے کا ثواب

**عرض:** کیا صفِ اول میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟

**ارشاد:** حدیث میں فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صفِ اول میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے تو ضرور اس پر قرمہ اندازی کرتے۔ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الصف الاول، الحدیث ۷۲۱، ج ۱، ص ۲۰۶) یعنی ہر ایک صفِ اول میں کھڑا ہونا چاہتا اور جگہ کی تنگی کے سبب قرمہ برداری (یعنی نام کی پرچی نکالنے) پر فیصلہ ہوتا۔ سب سے پہلے امام پر رحمتِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) نازل ہوتی ہے پھر صفِ اول میں جو اس کے محاذی (یعنی اس کی سیدھ میں) کھڑا ہو، اس محاذی کے دائیں جانب پھر بائیں اسی طرح دوسری صف میں پہلے محاذی امام پر پھر دابنے پھر بائیں پر یوں ہی آخر صفوں تک۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الامامة، مطلب فی کراهة قیام الامام، ج ۲، ص ۳۷۲)

## نصرانی طبیب مسلمان ہو گیا

**مؤلف:** برکاتِ اولیائے کرام کے ذکر میں فرمایا: سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہوئے۔ آپ کا قارورہ (یعنی پیشاب) ایک طبیب نصرانی کے پاس گیا۔ بغور دیکھتا رہا پھر دفعتاً (یعنی اچانک) کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ لوگوں نے سبب پوچھا۔ کہا: ”میں دیکھتا ہوں یہ قارورہ ایسے شخص کا ہے جس کا جگر عشقِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) نے کباب کر دیا۔“

## مؤمن کی فراست

یمن کے ایک نصرانی (یعنی عیسائی) نے یہ صحیح حدیث سنی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اَتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ  
بُنُورِ اللَّهِ  
مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ  
(عَزَّوَجَلَّ) کے نور سے دیکھتا ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب سورة الحجر، الحدیث ۳۱۳۸، ج ۵، ص ۸۸)

اس نصرانی نے چاہا کہ امتحان کرے، ادھر کے نصاریٰ زُتار باندھتے ہیں، اس نے زنا نیچے چھپایا اور اوپر مسلمانا لباس پہنا، عمامہ باندھا اور مسلمان بن کر مشائخ کرام کی مجلسوں پر دورہ شروع کیا۔ ہر ایک کے پاس جاتا اور حدیث کے معنی

۱۔ یعنی: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان پر درود اور سلام نازل فرمائے۔

پوچھتا۔ وہ کچھ فرمادیتے، یہ دوسرے کے پاس حاضر ہوتا۔ یوں ہی بغداد شریف آیا اور حضرت سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوا۔ عرض کی: ”یاسیدی! اس حدیث کے معنی کیا ہیں: ”اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ“ فرمایا: اس کے یہ معنی ہیں کہ ”زنارتوڑ اور نصرا نیت چھوڑ، اسلام لا۔“ وہ یہ سنتے ہی بے تاب ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ (ملخصاً، تذکرۃ الاولیاء، ج ۲، ص ۱۰) اور کہا: ”یاسیدی میں اتنے مشائخ کرام کے پاس گیا اور کسی نے مجھے نہ پہچانا۔“ فرمایا: سب نے پہچانا، مگر تجھ سے تعرض نہ کیا (یعنی پوچھ گچھ نہ کی) کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر لکھا ہے۔

## مُجَاهِدِے کا مطلب

**عرض:** مجاہدے کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد:** سارا مجاہدہ اس آیہ کریمہ میں جمع فرمادیا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ  
عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ  
جو اپنے رب (عَزَّوَجَلَّ) کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس  
کو خواہشوں سے روکے بے شک تو جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

(پ ۳۰، النزعت: ۴۰، ۴۱)

یہی جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں ہے: جہاد کفار سے واپس آتے ہوئے فرمایا:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى  
الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ  
ہم اپنے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی  
طرف پھرے۔

(کشف الحفاء، حرف الرءاء المهملة، الحدیث ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۳۷۵)

## سرکارِ علیہ السلام کھلاتے ہیں

ایک صاحب کو انار کی خواہش میں تیس برس گزر گئے اور نہ کھایا۔ اس کے بعد خواب میں زیارت اقدس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ فرماتے ہیں: ”إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا“ تیرے نفس کا بھی کچھ تجھ پر حق ہے۔ صبح اٹھے انار کھایا۔ اب نفس نے دودھ کی خواہش کی، فرمایا تیس برس خواہش کر پھر شاید حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لائیں اور فرمائیں، اس سے یہی بہتر ہے کہ صبر کر۔ فوراً خواہش دُور ہوگئی۔

## نفسانی اور شیطانی خواہش میں فرق

اس قسم کی خواہش یا تو نفسانی ہوا کرتی ہے یا شیطانی جس کے دو امتیاز سہل (یعنی آسان) ہیں، ایک یہ کہ شیطانی خواہش میں بہت جلد کا تقاضا ہوتا ہے کہ ابھی کر لو

عجلت (یعنی جلدی) شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔  
الْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

(جامع ترمذی، کتاب البر، باب ما جاء فی التانی والعجلة، الحدیث ۲۰۱۹، ج ۳، ص ۴۰۷)

اور نفس کو ایسی جلدی نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ نفس اپنی خواہش پر جبار ہوتا ہے جب تک پوری نہ ہو اسے بدلتا نہیں۔ اُسے واقعی اُسی شے کی خواہش ہے۔ اگر شیطانی ہے تو ایک چیز کی خواہش ہوئی، وہ نہ ملی، دوسری چیز کی ہوگئی، وہ نہ ملی تیسری کی ہوگئی اس واسطے کہ اُس کا مقصد گمراہ کرنا ہے خواہ کسی طور پر ہو۔

## مجھے شرم آتی ہے

ایک صاحب ایک بزرگ (حضرت داؤد طائی علیہ رحمۃ اللہ الباری) کے یہاں آئے دیکھا کہ پانی پینے کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا: ”پانی دھوپ میں رکھا رہ گیا، گرم ہو گیا ہوگا۔“ فرمایا: ”صبح تو سایہ ہی تھا پھر دھوپ آگئی، ہمیں نے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) سے شرم کی کہ نفس کی خاطر قدم اٹھاؤں۔“ (الرسالة القشيرية، فصل فی بیان عقائدہم فی مسائل التوحید، ص ۳۵)

## ٹھنڈا پانی

حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ طاق (یعنی دیوار میں بنی ہوئی محرابی ڈاٹ) میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لئے آب خورہ (یعنی پیالے) میں رکھ دیا تھا۔ عصر کے مراقبے میں تھے۔ حورانِ بہشتی (یعنی جنتی حُوروں) نے یکے بعد دیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا۔ جو سامنے آتی اس سے دریافت فرماتے: ”تُوکس کے لئے ہے؟“ وہ ایک بندہ خدا کا نام لیتی۔ ایک آئی اُس سے پوچھا۔ اُس نے کہا: ”میں اُس کے لئے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لئے نہ رکھے۔“ فرمایا: ”اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے۔“ اُس نے گرا دیا۔ اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو وہ آب خورہ ٹوٹا پڑا ہے۔

(ملخصاً، روض الراحین فی حکایات الصالحین، الحکایة العاشرة، ص ۵۳)

## دودھ کا پیالہ

دو فرشتے آپس میں ملے۔ ایک نے پوچھا: ”کہاں جاتے ہو؟“ دوسرے نے کہا: ”فلاں عابد کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور وہ پیا چاہتا ہے مجھے حکم ہے کہ جا کر پڑ ماروں اور گر ادوں اور تم کہاں جاتے ہو؟“ کہا: ”ایک فاسق دیر سے دریا میں ننھی ڈالے بیٹھا ہے اور مچھلیاں نہیں پھنستیں مجھے حکم ہے جاؤں اور پھانس دوں۔“

(احیاء علوم الدین، الجز الثالث بیان طریق الرياضة..... الخ، ج ۳، ص ۱۱۴ بتغییر ما)

## بیماری بھی نعمت ہے

{اسی تذکرے میں ارشاد فرمایا {اگر چالیس (40) دن گزر جائیں کہ کوئی علّت (یعنی بیماری یا تکلیف) یا قلت (یعنی تنگی) یا ذلت نہ ہو تو خوف کرے کہ کہیں چھوڑ نہ دیا گیا۔

## دعا قبول ہونے میں تاخیر کا ایک سبب

حدیث میں ہے، جب کوئی مقبول بندہ ربَّ عَزَّوَجَلَّ کی طرف اپنی کسی حاجت کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور گرگڑاتا ہے، جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد ہوتا ہے: ”اے جبریل اس کی حاجت رہنے دے کہ مجھے اس کا گرگڑانا اور میری طرف منہ اٹھانا اچھا معلوم ہوتا ہے“ اور جب کوئی فاسق اپنی حاجت کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے ارشاد ہوتا ہے: ”اے جبریل! اس کی حاجت جلد روا (یعنی پوری) کر دے کہ مجھے اپنی طرف اس کا منہ اٹھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔“

(المعجم الاوسط، من اسمہ موسیٰ، الحدیث ۸۴۴۲، ج ۶، ص ۱۸۳)

## سرکارِ پیغمبر ہمارے حاجت روا ہیں

اس حدیث میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاجت روا ہیں، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاجت روا و مشکل کشا و دفع البلاء (یعنی مصیبتیں دور کرنے والا) ماننے میں کس مسلمان کو تامل ہو سکتا ہے! وہ تو جبریل کے بھی حاجت روا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## امامتِ کبریٰ کا مستحق کون؟

مؤلف: ایک روز مولوی مختار احمد صاحب میرٹھ سے تشریف لائے اور بعد نمازِ عشاء اعلیٰ حضرت مدظلہ سے دست بوس ہوئے



اور یہ مسئلہ پوچھا کہ آیا شرعی امامت کبریٰ کے لئے قرشی ہونا شرعاً ضروری ہے کہ بے اس کے شرعی امامت کبریٰ نہ پائی جائے گی اگرچہ عربی ہو یا یہ کوئی استثنائی شرط ہے؟ (یعنی وہ شرط جس کا پورا کرنا ضروری نہ ہو)

**ارشاد :** یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارا اور روافض (بد مذہبوں کا ایک گروہ) و خوارج لے کا خلاف (یعنی اختلاف) ہے۔ خوارج کچھ تخصیص نہیں کرتے اور روافض نے اس قدر تنگی کی کہ صرف ہاشمیوں سے خاص کر دی اور یہ بھی مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خاطر ورنہ بنی فاطمہ کی تخصیص کرتے۔ اہل سنت صراطِ مستقیم (یعنی سیدھے راستے) و طریق وسط (یعنی درمیانی راہ) پر ہیں۔ ہمارے تمام کتب عقائد میں تصریح ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امامت کبریٰ کے لئے ذکور (یعنی مرد ہونا) و حریت (یعنی آزادی) و قرشیت لازم ہے اور تصریح فرماتے ہیں کہ اس کا اشتراط قطعی یقینی اجماعی ہے۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الامامة، ج ۲، ص ۳۳۳)

## خلافتِ راشدہ کسے کہتے ہیں؟

**عرض :** خلافتِ راشدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہوئے، اور اب کون کون ہوں گے؟

**ارشاد :** خلافتِ راشدہ وہ خلافت کہ منہاجِ نبوت (یعنی نبوی طریقے) پر ہو جیسے حضراتِ خلفائے اربعہ (یعنی چار خلفائے کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) و امام حسن مجتبیٰ و امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی اور اب میرے خیال میں ایسی خلافتِ راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قائم کریں گے۔ وَالْغَيْبُ عِنْدَ اللَّهِ (یعنی: اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ت)

## قیامت کب آئے گی؟

**عرض :** قیامت کب ہوگی اور ظہورِ امام مہدی کب؟

**ارشاد :** قیامت کب ہوگی اسے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قیامت ہی کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے:

۱۔ وہ گمراہ فرقہ جو جنگِ صفین کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا اس وجہ سے مخالف ہو گیا تھا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بندی کے لیے ہاشمی قبول کر لی تھی۔

عِلْمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا ۝  
اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) غَيْبٌ كَا جَانِنٌ وَاللَّهِ، وَهُوَ اپنے غیب پر کسی  
الْأَمَنِ اِمْتَنَى مِنْ رَسُولٍ  
کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

(پ ۲۹، الحن: ۲۶، ۲۷)

امام قسطلانی وغیرہ نے تصریح فرمائی کہ اس غیب سے مراد قیامت ہے جس کا اوپر متصل آیت میں ذکر ہے۔

(ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ عِلْمُ الْعَيْبِ ..... الخ، ج ۱، ص ۳۹۲)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بعض علمائے کرام نے بملاحظہ احادیث حساب لگایا کہ یہ اُمت سن ہزار ہجری سے آگے نہ بڑھے گی۔ امام سیوطی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اس کے انکار میں رسالہ لکھا ”الْكَشْفُ عَنْ تَجَاوُزِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَلْفِ“ اس میں ثابت کیا کہ یہ اُمت ۱۰۰۰ھ سے ضرور آگے بڑھے گی۔ امام جلال الدین (سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی) کی وفات شریف ۹۱۱ھ میں ہے، اور اپنے حساب سے یہ خیال فرمایا کہ ۱۳۰۰ھ میں خاتمہ ہوگا۔ بِحَمْدِ اللَّهِ تعالیٰ اسے بھی چھبیس برس گزر گئے اور ہنوز (یعنی ابھی تک) قیامت تو قیامت، اُشراطِ کبریٰ (یعنی بڑی نشانیوں) میں سے کچھ نہ آیا۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت اور متواتر ہیں مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں اور بعض علوم کے ذریعہ سے مجھے ایسا خیال گذرتا ہے کہ شاید ۱۸۳۰ھ میں کوئی سلطنت اسلامی باقی نہ رہے اور ۱۹۰۰ھ میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں۔

**مؤلف:** جب میں مکہ معظمہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قاضی رحمۃ اللہ وہابی کو حاضر خدمت پایا اور یہ وہ وقت تھا کہ مولانا اس کو سند حدیث دے چکے تھے۔ مجھے یہ نہایت ہی گراں گزرا۔ میں نے مولانا عبدالحق صاحب سے عرض کیا کہ میں بھی آپ کی غلامی میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آپ سے سند حاصل کر چکے ہیں تو یہاں وہ اختلاف جو ہم میں ان میں دربارہ مسئلہ غیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں) ہے باسانی طے ہو سکتا ہے، اس پر مولانا نے تین دن میں ایک رسالہ ”بَفَرَايِدِ السَّنِيَّةِ فِي الْفَوَائِدِ الْبُهَيْيَّةِ“ تحریر فرما کر قاضی رحمۃ اللہ کو دیا۔ اس رسالہ میں مولانا نے آثارِ قیامت کے متعلق بہت سی احادیث جمع فرمائیں لیکن ان میں بھی تعین وقت نہیں۔

**ارشاد:** حدیث میں ہے: ”دنیا کی عمر سات دن ہے، میں اس کے پچھلے دن میں مبعوث ہوا۔“

دوسری حدیث میں ہے: ”میں امید کرتا ہوں کہ میری اُمت کو خدائے تعالیٰ نصف دن اور عنایت فرمائے۔“

(سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب قیام الساعة، الحدیث ۴۳۵۰، ج ۴، ص ۱۶۷)

ان حدیثوں سے اُمت کی عمر پندرہ سو برس ثابت ہوئی:

اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

تیرے رب (عَزَّوَجَلَّ) کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار

(پ ۱۷، الحج: ۴۷) برس کے برابر ہے۔

ان حدیثوں سے جو مستفاد (یعنی نتیجہ حاصل) ہوا وہ اس توقیت کے منافی (یعنی مخالف) نہیں جو اس علم سے میرے خیال میں آئی ہے کیوں کہ یہاں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے استدعا (یعنی دعا) ہے۔ آئندہ انعام الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) وہ جس قدر زیادہ عمر عطا فرمائے جیسے جنگِ بدر میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے صحابہ کرام (علیہم الرضوان) کو تین ہزار فرشتے مدد کے لئے آنے کی اُمید دلائی۔

کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب (عَزَّوَجَلَّ) تین ہزار

اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُبَدِّلَكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ

فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔

الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ ۝ (پ ۴، ال عمران: ۱۲۴)

اس پر حق سُبْحَانَهُ تَعَالَى نے فرشتوں کا اضافہ فرمایا کہ

کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقویت پر رہو اور کافر ابھی کے

بَلَىٰ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ اٰمَنُوْا

ابھی تم پر آئیں تو تمہارا رب (عَزَّوَجَلَّ) پانچ ہزار نشان

يُبَدِّلُكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔

(پ ۴، ال عمران: ۱۲۵)

**عرض:** حضور نے جفر سے معلوم فرمایا؟

**ارشاد:** ہاں! {اور پھر کسی قدر زبان دبا کر فرمایا {آم کھائیے پیڑ نہ گنتے، {پھر خود ہی ارشاد فرمایا {کہ میں نے یہ دونوں وقت

(۱۸۳ھ میں سلطنت اسلامی کا ختم ہونا اور ۱۹۰۰ھ میں امام مہدی کا ظہور فرمانا) سَيِّدُ الْمُرْكَاتِ شَفِيْعِيْنَ (یعنی اصحابِ کشف کے سردار) حضرت

شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے اخذ کئے ہیں، اللہ اکبر! کیسا زبردست واضح کشف تھا کہ سلطنتِ ترکی کا

بانی اول عثمان پاشا حضرت کے مدتوں بعد پیدا ہوا مگر حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زمانے پہلے عثمان پاشا سے لے کر

قریب زمانہ آخر تک جتنے بادشاہ اسلامی اور ان کے وزراء ہوں گے رموز (یعنی اشاروں کنایوں) میں سب کا مختصر ذکر فرمایا۔ ان کے زمانے کے عظیم وقائع (یعنی غیر معمولی واقعات) کی طرف بھی اشارے فرمادیئے۔ کسی بادشاہ سے اپنی اس تحریر میں بہ نرئی خطاب فرماتے ہیں اور کسی پر حالتِ غضب کا اظہار ہوتا ہے، اس میں ختمِ سلطنتِ اسلامی کی نسبت لفظ ”ایقظ“ فرمایا اور صاف تصریح فرمائی کہ لَا أَقُولُ أَيَقْظُ الْهَجْرِيَّةَ بَلْ أَيَقْظُ الْحَجْرِيَّةَ (یعنی میں ایقظِ ہجریہ کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ میری مراد ایقظِ ہجریہ ہے۔) میں نے اس ”ایقظِ ہجری“ کا جو حساب کیا تو ۱۸۳۰ھ آتے ہیں اور انہیں کے دوسرے کلام سے ۱۹۰۰ھ ظہورِ امام مہدی کے اخذ کئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: رباعی

إِذَا دَارَ الزَّمَانُ عَلَى حُرُوفٍ      بِبِسْمِ اللَّهِ فَالْمَهْدِي قَامَا  
وَيَخْرُجُ فِي الْحَطِيمِ عَقِيبَ صَوْمٍ      أَلَا فَاقْرَأْهُ مِنْ عِنْدِي سَلَامَا

(یعنی: جب زمانہ اللہ کے حروف پر گھومے گا تو امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور حطیم کعبہ میں شام کے وقت تشریف لائیں گے، سنو انہیں میرا سلام کہنا۔)

خود اپنی قبر شریف کی نسبت بھی فرمادیا کہ اتنی مدت تک میری قبر لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گی مگر

”إِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي السِّينِ ظَهَرَ قَبْرُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ“  
جب سین میں سین داخل ہوگا تو محمدی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔

سلطان سلیم جب شام میں داخل ہوئے تو ان کو بشارت دی کہ فلاں مقام پر ہماری قبر ہے۔ سلطان نے وہاں ایک قبہ بنا دیا جو زیارت گاہ عام ہے۔ (پھر فرمایا) چند جداول ۲۸-۲۹ خانوں کی آپ نے تحریر فرمادی ہیں جن میں ایک ایک خانہ لکھا اور باقی خالی چھوڑ دیئے اب اس کا حساب لگاتے رہئے کہ اس سے کیا مطلب ہے؟

## ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا؟

**عرض:** کافر جو ہولی لے دیوالی لے میں مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں، مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اُس روز نہ لے۔ ہاں! اگر دوسرے روز دے تو لے لے نہ یہ سمجھ کر کہ ان خُبثاء کے تيوہار کی مٹھائی ہے بلکہ ”مالِ مُؤْذِي نَصِيْبِ غَازِي“ سمجھے۔

۱: ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار جو موسم بہار میں منایا جاتا ہے۔ اس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ چھڑک کر خوشیاں مناتے ہیں۔  
۲: ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار جس میں وہ (اپنی دولت کی دیوی) لکشمی کی پوجا کرتے اور خوب روشنی کرتے اور جوا کھیلنے ہیں۔



(عَزَّوَجَلَّ) ہوگا:

هَلْ وَالَيْتَ لِيْ وَلِيًّا وَعَادَيْتَ لِيْ  
 کبھی میرے محبوبوں سے محبت اور میرے  
 عَدُوًّا دشمنوں سے عداوت بھی رکھی؟

(تفسیر الدر المنثور، سورة المجادلة تحت الآية ۱۹، ج ۸، ص ۸۷)

تو عمر بھکر کی عبادت ایک طرف اور خدا (عَزَّوَجَلَّ) اور رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی محبت ایک طرف۔ اگر محبت نہیں سب  
 عبادت و ریاضات بیکار۔

## دشمنانِ رسول سے نفرت کیجئے

بھڑکے کاٹنے سے ایک ذرا سی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کہیں اسے زمین پر پڑا دیکھیں کہ اس کا ایک پاؤں یا پیر  
 بیکار ہو گیا ہے اور اس میں طاقت پرواز نہیں ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے کہ پیر سے مسل دیتے ہیں تو خدا اور رسول عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ  
 تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں اور اُن سے دشمنی و عداوت رکھیں وہ قابلِ رحم ہیں؟ عوام کی یہ حالت ہے کہ ذرا کسی کو  
 ننگا محتاج دیکھا سمجھے کہ قابلِ رحم ہے، خواہ خدا اور رسول (عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدی  
 عبدالعزیز دباغ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذرا سی اعانت (یعنی مدد) کافر کی کرنا حتیٰ کہ اگر وہ راستہ پوچھے اور کوئی مسلمان بتا دے  
 اتنی بات اللہ تعالیٰ سے اس کا علاقہ مقبولیت قطع (یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کی مقبولیت کا تعلق ختم) کر دیتی ہے۔ (الابریز،  
 الباب الاول، ج ۱، ص ۴۵۲) ہاں ذمی<sup>۱</sup>، مستأمن<sup>۲</sup> کافروں کے لئے شرع میں رعایت کے خاص احکام ہیں، یہ اس لئے کہ  
 اسلام اپنے ذمہ کا پورا ہے اور اپنے عہد کا سچا۔

## دریا کے پار اترنے والا

**عرض :** حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید الطائفہ (یعنی گروہ اولیاء کے سردار) جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے  
 ”یا اللہ“ فرمایا، اور دریا میں اتر گئے، پورا واقعہ یاد نہیں۔

۱: اگر کافروں نے دین حق کو قبول نہ کیا تو بادشاہ اسلام ان پر جزیہ مقرر کر دے کہ وہ ادا کرتے رہیں اور ایسے کافر کو ذمی کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۹، ص ۱۳۴)  
 ۲: مستأمن وہ شخص ہے جو دوسرے ملک میں امان لیکر گیا۔ دوسرے ملک سے مراد وہ ملک ہے جس میں غیر قوم کی سلطنت ہو یعنی حربی دارالاسلام میں یا  
 مسلمان دارالکفر میں امان لیکر گیا تو مستأمن ہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۹، ص ۱۵۰)

**ارشاد :** غالباً حقیقہ نندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و جلہ پر تشریف لائے اور ”یا اللہ“ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی: ”میں کس طرح آؤں؟“ فرمایا: ”یا جنید یا جنید“ کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو ”یا اللہ“ کہیں اور مجھ سے ”یا جنید“ کہلواتے ہیں۔ میں بھی ”یا اللہ“ کیوں نہ کہوں۔ اُس نے ”یا اللہ“ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا: ”حضرت میں چلا“ فرمایا: ”وہی کہہ ”یا جنید یا جنید“ جب کہا دریا سے پار ہوا۔ عرض کی: ”حضرت یہ کیا بات تھی آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟“ فرمایا: ”ارے نادان ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں اللہ تک رسائی کی ہوس ہے، اللہ اکبر!۔“ (الحدیقة الندیة، مع کشف النور عن اصحاب القبور، ج ۲، ص ۲۰۔ وفیہ ذکر سیدی محمد الحنفی الشاذلی)

## اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کیا

دو صاحب اولیائے کرام سے ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے اُس پار رہتے تھے۔ اُن میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی اور خادم سے کہا: ”تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔“ خادم نے عرض کی: ”حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے کیوں کر پار اُتروں گا، کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں۔“ فرمایا: ”دریا کے کنارے جا اور کہہ کہ میں اُس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔“ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معما ہے اس واسطے کہ حضرت صاحب اولاد تھے۔ بہر حال تعمیل حکم ضرور تھی، دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا۔ دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔ اس نے پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی۔ انہوں نے نوش جان فرمائی (یعنی کھائی) اور فرمایا: ”ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔“ خادم نے عرض کی کہ سلام تو جی بھی کہوں گا جب دریا سے پار اُتر جاؤں۔ فرمایا: ”دریا پر جا کر کہہ: ”میں اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے تمیں برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا۔“ خادم شش و پنج (یعنی الجھن) میں تھا۔ یہ عجیب بات

۱: فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ الغنی لکھتے ہیں: اگر کوئی کہے کہ ”یا جنید، یا جنید“ کہے تو نہ ڈوبے اور ”اللہ، اللہ“ کہے تو ڈوب جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کہنے والے کو صوبہ مہاراشٹر پونہ بھیج دیا جائے کہ اُسی کے قریب حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ وہاں ایک بڑا گول پتھر ہے جس کا وزن نوے (90) کلو بتایا جاتا ہے وہ ”قمر علی درویش“ کہنے پر انگلیوں کے معمولی سہارا دینے سے اُپر اٹھتا ہے اور ”اللہ“ کہنے سے نہیں اٹھتا۔ میں بذات خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس میں کیا راز ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ (فتاویٰ فقیہ ملت، ص ۱)

ہے ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا مگر بلحاظ ادب خاموش۔ دریا پر آ کر جیسا فرمایا تھا کہہ دیا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا، جب اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے نہ رہا گیا اور عرض کی: ”حضور یہ کیا معاملہ تھا؟“ فرمایا: ”ہمارا کوئی فعل اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتا۔“

### وہابیہ کی نماز؟

**عرض:** وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟

**ارشاد:** نہ اُن کی نماز نماز ہے نہ اُن کی جماعت جماعت۔

### وہابیہ کی مسجد؟

**عرض:** وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد، مسجد ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔

### وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ

**عرض:** وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟

**ارشاد:** جس طرح اُن کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی، ہاں تعظیماً اللہ کے نام پر جَلَّ شَانُهُ اور نام اقدس (یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نام مبارک) پر دُرُود شریف پڑھے۔

### کیا کفار سے نرمی کرنی چاہئے؟

**عرض:** حضور یہ روایت صحیح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے کا شانہ اقدس میں ایک کافر مہمان ہوا، اور اس خیال سے کہ اہل بیت اطہار بھوکے رہیں سب کھانا کھا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجرہ شریف میں ٹھہرایا۔ پچھلی رات کے وقت پیٹ میں گرانی معلوم ہوئی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اجابت (یعنی پاخانے) کی ضرورت ہوئی۔ شرمندگی کی وجہ سے کہیں کوئی دیکھ نہ لے حجرے شریف میں غلاظت پھیلائی اور تمام بستر وغیرہ خراب کر دیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چل دیا۔ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) حجرے شریف میں مہمان کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے نجاست کو صاف کروایا۔ صحابہ کرام (علیہم الرضوان) کو اُس (کافر) کی اس ناشائستہ حرکت پر



سخت غصہ آیا۔ اتفاقاً عجلت (یعنی جلدی) میں وہ اپنی تلوار بھول گیا اور تلوار بہت اچھی تھی جس کے لئے اُسے مجبوراً پھر لوٹنا پڑا۔ یہاں آ کر دیکھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) بستر صاف کروا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور اُس سے فرمایا: ”تم اپنی تلوار بھول گئے تھے جہاں رکھی تھی وہاں سے اٹھا لو۔“ (مثنوی شریف مترجم، دفتر پنجم، ص ۲، ۳)

وہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے اس خلقِ عظیم کو دیکھ کر فوراً مشرف باسلام ہو گیا تو حضور! اس روایت سے ظاہر

ہوتا ہے کہ کفار پر بھی زہر عنایت کرنا چاہئے؟

**ارشاد:** اس کے قریب روایت ”مثنوی شریف“ (یعنی مثنوی مولانا روم علیہ رحمۃ القیوم) میں مذکور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن ہی سے خلق فرماتے جو جوع لانے والے ہوتے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے اور کفار و مرتدین کے ساتھ ہمیشہ سختی فرماتے۔ اُن کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھر وائیں، ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے۔ پانی مانگا تو پانی تک نہ دیا۔ یہ سلوک کس کے ساتھ تھے؟ وہ جو جوع لانے والے نہ تھے۔

## سامنے سے کھانا اٹھوا دیا

امیر المؤمنین فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا زمانہ خلافت ہے آپ مسجد نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) سے نماز پڑھ کر تشریف لئے جاتے ہیں۔ ایک مسافر نے کھانا مانگا، امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اسے ہمراہ لے آئے۔ خادمِ بحکم امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کھانا حاضر کرتا ہے۔ اتفاقاً کھاتے کھاتے اس کی زبان سے ایک بد مذہبی کا فقرہ نکل جاتا ہے جس پر حضور (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فوراً اُس کے سامنے سے کھانا اٹھوا لیتے ہیں اور خادمِ کو حکم دیتے ہیں کہ اُسے نکال دے۔

(کنز العمال، کتاب العلم، الحدیث ۲۹۳۸۴، ج ۱۰، ص ۱۱۷)

## وہابی واعظ کا پردہ چاک ہو گیا

ربُّ العزت (عَزَّ وَجَلَّ) کی شان ہے کہ بد مذہب کیسا ہی جامہ عیاری پہن (یعنی بھیس بدل) کر میرے سامنے آئے، خود بخود دل نفرت کرنے لگتا ہے۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ کے زمانہ حیات میں دہلی کا ایک واعظ حاضر ہوا اور اس وقت مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ اسماعیل دہلوی اور وہابیہ پر بڑے شد و مد (یعنی زور و شور)

سے دیر تک لعن طعن کی اور اس نے اپنے سستی ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا۔ میرے بچپن کا زمانہ تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنا خیال حضرت کی خدمت میں ظاہر کیا کہ مجھے تو یہ پکا وہابی معلوم ہوتا ہے۔ مولانا بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”ابھی تو وہ تمہارے سامنے وہابیوں اور اسماعیلیں پر تبرا (یعنی برا بھلا) کہہ گیا ہے!“ میں نے عرض کی کہ میرا قلب گواہی دیتا ہے کہ یہ سب تَفَرُّقِیَّہ (یعنی اپنے مذہب کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولنا) تھا، اسے جامع مسجد میں وعظ کہنے کی اجازت ہمارے حضرت سے لینی ہے کہ بے حضرت کی اجازت کے یہاں وعظ نہیں کہہ سکتا، اس لئے اس نے تمہید ڈالی۔ دوسرے دن شام کو پھر حاضر ہوا۔ میں نے اسے مسائل وہابیت میں چھیڑا، ثابت ہوا کہ پکا وہابی ہے۔ (لہذا) دفع کر دیا گیا۔ اپنا سامنہ لے کر چلا گیا۔

### اعلیٰ حضرت اور ایک نجدی کی ملاقات

حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز (یعنی رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ) کے وصال شریف کے کچھ دنوں بعد جب کہ اپنے محلے (یعنی درمیانے) بھائی مرحوم (یعنی شاہ سخن، استاد زکریا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ) کے مکان میں رہتا تھا۔ باہر تنہا تھائی۔ گلی میں سے ایک عربی صاحب نظر آئے۔ جب قریب آئے میں نے چاہا اُن کے لئے قیام کرتا کہ اہل عرب کے لئے قیام میری عادت تھی مگر اس بار دل کراہت کرتا ہے۔ میں اٹھنا چاہتا ہوں اور دل اندر سے دامن کھینچتا ہے۔ آخر میں نے (اپنے نفس سے) کہا کہ یہ تیرا تکبر ہے۔ جبراً قہراً قیام کیا وہ آکر بیٹھے۔ میں نے نام پوچھا کہا: عبدالوہاب۔ مقام پوچھا کہا: نجد۔ اب تو میں کھٹکا اور میں نے اُس سے مسائل متعلقہ وہابیت پوچھے۔ اتنا اشد وہابی نکلا کہ یہاں کے وہابیہ اُس کی شاگردی کریں۔ بار بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لیتا، نہ اول میں کلمہ تعظیم نہ آخر میں دُرود۔ میں اُسے ہر بار روکتا اور کلمات تعظیم اور دُرود شریف کی ہدایت کرتا اور وہ نہ مانتا۔ آخر میں نے سختی کے ساتھ اُس سے کہا تو مجبور ہو کر بولا: ”أَقُولُ لِقَوْلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ میں تمہارے کہنے سے کہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے اسے دفع کیا۔ اخیر فقرہ یہ تھا کہ ہمارا ”رخصتاناہ (یعنی رخصتی کا انعام)“ دو۔ میں نے شہر کے دو ایک وہابیوں کا پتہ بتا دیا کہ اُن کے پاس جا یہاں تیرے لئے کچھ نہیں۔ بالآخر وہ خائب و خاسر (یعنی ناکام و نامراد) دفع ہوا۔ میں نے اپنے دل کو شاباش دی کہ تُو نے ہی ٹھیک کہا تھا۔

### اعلیٰ حضرت اور ایک رافضی

ایک دفعہ علی گڑھ سے ایک شخص اپنا بیگ وغیرہ لئے آیا۔ اُس کی صورت دیکھ کر میرے قلب نے کہا: ”یہ رافضی

ہے۔“ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی رافضی ہے۔ کہا: ”میں اپنے مکان کو لکھنؤ جاتا تھا، راستے میں صرف آپ کی زیارت کے لئے اُتر پڑا ہوں، کیا آپ اہل سنت میں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں مجتہدین؟ میں نے التفات نہ کیا (یعنی اُس پر توجہ نہ دی)۔ غرض وہ رافضی اپنی طرف مجھے مخاطب کرتا تھا اور میں دوسری طرف منہ پھیر لیتا تھا۔ آخر اُٹھ کر چلا گیا۔ اُس کے جانے کے بعد ایک صاحب شاکا (یعنی شکایت گزار) بھی ہوئے کہ وہ اتنی مسافت طے کر کے آیا اور آپ نے قطعی التفات نہ فرمایا۔ میں نے یہی روایت (امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بد مذہب ہے فوراً کھانا سامنے سے اُٹھو لیا اور اسے نکلوا دیا) بیان کی کہ ہمارے اممہ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ تہذیب بتائی ہے۔ اب بھلا وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ خاموش ہو گئے۔

## دُشمنِ احمد پہ شدت کیجئے

مسلمانو! ذرا ادھر خدا و رسول (عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی طرف متوجہ ہو کر ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ اگر کچھ لوگ تمہارے ماں باپ کو رات دن بلاوجہ محض فحش مُغلَّظہ (یعنی گندی گندی) گالیاں دینا اپنا شیوہ کر لیں بلکہ اپنا دین ٹھہرا لیں، کیا تم ان سے بکشادہ پیشانی ملو گے؟ حاشا! ہرگز نہیں۔ اگر تم میں نام کو غیرت باقی ہے، اگر تم ماں کو ماں سمجھتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے پیدا ہو تو انہیں دیکھ کر تمہارے دل بھر جائیں گے، تمہاری آنکھوں میں خون اُترے گا، تم ان کی طرف نگاہ اٹھانا گوارا نہ کرو گے۔ لِلّٰہِ الْاِنصَافُ! صدیق اکبر و فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) زائد یا تمہارے باپ؟ امّ المؤمنین عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) زائد یا تمہاری ماں؟ ہم صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے ادنیٰ غلام ہیں اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ امّ المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے بیٹے کہلاتے ہیں، اُن کو گالیاں دینے والوں سے اگر یہ برتاؤ نہ برتیں جو تم اپنی ماں بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں سے برتتے ہو تو ہم نہایت نمک حرام غلام اور حد بھر کے بُرے ناخلف (یعنی نااہل) بیٹے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ نیچری تہذیب کے مدعیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا کوئی کلمہ اُن کی شان کے خلاف کہا اُن کا تھوک اُڑنے لگتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس وقت وہ مجنون تہذیب بکھری پھرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ و رسول و معظمان دین (عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے اپنی وقعت دل میں زیادہ ہے۔ ایسی ناپاک تہذیب انہیں کو مبارک، فرزند ان اسلام اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ خود

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) سے بد مذہبوں کو نام لے لے کر اٹھا دیا۔

ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جمعہ میں دیر ہوگئی، راستے میں دیکھا کہ چند لوگ مسجد سے لوٹے ہوئے آرہے تھے۔ آپ اس ندامت کی وجہ سے کہ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، چھپ گئے اور وہ اس ذلت کی وجہ سے جو مسجد شریف سے نکال دینے میں ہوئی تھی، الگ چھپ کر نکل گئے۔ (تفسیر طبری سورة التوبة تحت الاية ۱۰۱، ج ۶، ص ۴۵۷)

رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ (پ ۱۰، التوبة: ۷۳)

اور فرماتا ہے عَزَّوَجَلَّ :

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ترجمہ کنز الایمان: محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ (پ ۲۶، الفتح: ۲۹)

اور فرماتا ہے جل وعلا :

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ط (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔

تو ثابت ہوا کہ کافروں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی فرماتے تھے۔

## کیا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے؟

**عرض:** اگر کسی شخص کا ستر کھل جائے تو جس نے دیکھا یا جس کا ستر کھلا، وضو ہے گا یا نہیں؟

**ارشاد:** وضو کسی چیز کے دیکھنے یا چھونے سے نہیں جاتا۔

جان بوجھ کر ستر کھولنے سے نماز جاتی رہتی ہے

{ پھر فرمایا } تمہیں عضو عورت کے عورت (یعنی پوشیدہ رکھنا ضروری) ہیں اور مرد کے، ان میں سے کسی عضو کا چہارم بقدر رکن

یعنی تین بار سُبْحَانَ اللَّهِ کہنے تک بلا قصد کھلا رہنا مُفْسِدِ نماز ہے اور بالقصد تو اگر ایک آن کے لئے کھولے تو نماز جاتی رہے گی۔

(رد المحتار علی الدر المختار کتاب الصلاة مطلب فی النظر الی وجه الامر، ج ۲، ص ۱۰۰)

## وحدة الوجود کسے کہتے ہیں؟

**عرض:** حضور وحدۃ الوجود کسے کہتے ہیں؟

**ارشاد:** وجود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے ظل (یعنی عکس) ہیں۔

## اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہئے؟

**عرض:** اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

**ارشاد:** میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ البتہ غلام احمد (قادیانی)، سید احمد (علی گڑھی)، خلیل احمد (امپٹھوی)، رشید احمد (گنگوہی)، اشرف علی (تھانوی) کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر

مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ (جوان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ ت)

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الجہاد، مطلب فی حکم سب الانبیاء، ج ۶، ص ۳۵۷)

۱: اسماعیل دہلوی سے متعلق ایک شبہ کا ازالہ: یہاں وہابیہ سخت دھوکا دیتے ہیں کہ جب تنقیص و توہینِ شانِ رسالت کفر ہے تو اسماعیل نے بھی کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اشرف علی وغیرہ ایسے کافر ہوں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو اور اسماعیل ایسا نہ ہو؟ مگر مسلمان ہوشیار ہوں یہاں خبیثاً کا سخت دھوکا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسماعیل اور حال کے وہابیہ کے اقوال میں فرق ہے۔ ہم اہل سنت متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ جب تک کسی قول میں تاویل کی گنجائش ہوگی تکفیر سے زبان روکی جائے گی کہ ممکن ہے اس نے اس قول سے یہی معنی مراد لئے ہوں۔ شرح فقہ اکبر میں فرمایا ہاں جب قول ایسا ہو کہ اس میں اصلاً تاویل کی گنجائش نہ ہو تو تکفیر کی جائے گی تو اس قول کے قائل کو جس میں تاویل کی گنجائش ہے اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کرتے کہ وہ معنی ظاہر کے اعتبار سے ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کی خود تکفیر نہیں کرتے کہ احتیاط اس میں ہے اور اس دوسری صورت کے قائل کی تکفیر ضرور ہے کہ اس میں جب اصلاً تاویل نہیں تو تکفیر سے زبان روکنے کا حاصل خود کفر اور طغیان ہے۔ ان کے اس بیہودہ اعتراض اور ذلیل دھوکے کا جواب اتنا کافی ہے کہ ایک قول پر فقہا تکفیر فرماتے ہیں اور متکلمین نہیں کرتے۔ اب کہیں کیا کہتے ہیں، کیا فقہا کے نزدیک متکلمین اس کی تکفیر نہ کر کے جس کی تکفیر فقہانے کی ہے معاذ اللہ فقہا کے نزدیک کافر ٹھہریں گے، یا متکلمین فقہا کو کافر کہیں گے اس لئے کہ انہوں نے متکلمین کے نزدیک جو کافر نہ تھا اس کی تکفیر کی۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ان خبیثاء کے اقوال بدتر از ابوال (یعنی پیشاب سے بدتر اقوال) ایسے ہیں جن میں نام کو بھی تاویل کی گنجائش نہیں لہذا ان کے لئے یہ حکم ہے کہ جوان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر۔ جو تفصیل چاہے وہ رسالہ ”الْمَوْتُ الاحمر“ مطالعہ کرے۔ ۱۲ مولف غفرلہ

## کیا ہر کافر ملعون ہے؟

**عرض:** ہر کافر ملعون (یعنی لعنتی) ہے؟

**ارشاد:** ہاں عِنْدَ اللّٰہِ جو کافر ہے قطعاً ملعون ہے۔ کسی خاص کا نام لیکر پوچھا جائے گا ہم اسے ملعون نہ کہیں گے ممکن ہے کہ توبہ کر لے اور اگر عام کفار کی بابت سوال ہو تو ملعون کہیں گے۔

## اللّٰہ و رسول کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟

**عرض:** خدا اور رسول عز جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کس طرح دل میں پیدا ہو؟

**ارشاد:** تلاوتِ قرآن مجید اور رُودِ شریف کی کثرت اور نعتِ شریف کے صحیح اشعار خوش الحانوں (یعنی سریلی آواز والے) سے بکثرت سُننے اور اللّٰہ و رسول (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو اس پر ہیں، غور کرے۔

## پوسٹ کارڈ پر اسمِ جلالیت ”اللّٰہ“ لکھنا کیسا؟

ایک روز برادر مولانا حسنین رضا خاں صاحب (سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے) برائے جواب کچھ استفہانتا

سنا رہے تھے اور جواب لکھ رہے تھے۔ ایک کارڈ پر اسمِ جلالیت لکھا گیا

اس پر ارشاد فرمایا: ”یاد رکھو کہ میں کبھی تین چیزیں کارڈ پر نہیں لکھتا: (1) اسمِ جلالیت اللّٰہ اور (2) محمد اور احمد اور (3) نہ کوئی آیت کریمہ، مثلاً اگر رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم لکھنا ہے تو یوں لکھتا ہوں: ”حضور اقدس علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام یا اسمِ جلالیت کی جگہ مولیٰ تعالیٰ۔“

## لفظ ”شہر“ کس کے ساتھ بولیں؟

**عرض:** لفظ شہر ہر مہینہ کے ساتھ بولا جاتا ہے یا نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں: ”شہر رجب المرجب“

**ارشاد:** نہیں، یہ لفظ ان تینوں مہینوں کے لئے ہے۔ شہر ربیع الاول، شہر ربیع الآخر، شہر رمضان المبارک۔

(روح المعانی الجز الثانی تحت الایۃ ۱۸۵، سورۃ البقرۃ، ص ۶۲۴)

## اللہ میاں کہنا کیسا؟

**عرض:** حضور ”اللہ میاں“ کہنا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** زبانِ اُردو میں لفظِ میاں کے تین معنی ہیں، ان میں سے دو ایسے ہیں جن سے شانِ اُلُوہیت پاک و مُعزَّزہ ہے اور ایک کا صدق ہو سکتا ہے۔ تو جب لفظ دو خبیث معنوں میں اور ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھہرا، اور شرع میں وارد نہیں تو ذاتِ باری پر اس کا اطلاق ممنوع ہوگا۔ اس کے ایک معنی مولیٰ، اللہ تعالیٰ بے شک مولیٰ ہے، دوسرے معنی شوہر، تیسرے معنی زنا کا دلال کہ زانی اور زانیہ میں متوسط ہو۔

## جشنِ ولادت کا چراغاں

**عرض:** میلاد شریف میں جھاڑ (یعنی بیج شاخہ مشعل)، فانوس لے، فروش لے وغیرہ سے زیب و زینتِ اسراف ہے یا نہیں؟  
**ارشاد:** علما فرماتے ہیں:

لَا خَيْرَ فِي الْاِسْرَافِ وَلَا  
اِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ  
یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے  
کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔

(ملخصاً، تفسیر کشاف، سورة الفرقان تحت الاية ٦٧، ج ٣، ص ٢٩٣)

جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو، ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔

## ایک ہزار شمعیں

امام غزالی (علیہ رحمۃ اللہ الہی) نے اَحیاءُ العلوم شریف میں سید ابوعلی رود باری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح نے مجلسِ ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں ایک ہزار شمعیں روشن کیں۔ ایک شخص ظاہر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے۔ بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شمع میں نے غیر خدا کے لئے روشن کی ہو وہ بجھا دیجئے۔ کوششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی۔

(احیاء علوم الدین، الجز الثانی کتاب اداب الاکل، فصل یجمع ادا با ..... الخ، ص ٢٦)

## تَحِيَّةُ الْوُضُوْءِ كِي فَضِيْلَتِ

**عرض:** تحیۃ الوضوء کی کیا فضیلت ہے؟

۱: ایک قسم کا شمع دان جس پر بیچرے کی شکل کا باریک کپڑا یا کاغذ چڑھا ہوتا ہے جو گھمانے یا ہوا کے زور پر گردش کرتا ہے۔ ۲: بیہ فرس کی جمع ہے۔ یعنی چونے وغیرہ سے زمین کی سطح ہموار کرنا۔

**ارشاد:** ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”اے بلال! کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا۔“ عرض کی: یا رسول اللہ (عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَسَلَّم) میں جب وضو کرتا ہوں دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا: یہ ہی سبب ہے!

(ملخصاً، صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب فضل الطہور..... الخ، الحدیث ۱۱۴۹، ج ۱، ص ۳۹۰)

## رُکوع کے بعد پانچے اوپر چڑھانے کا حکم

**عرض:** حضور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رکوع کے بعد پانچے اوپر کو چڑھ لیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

**ارشاد:** مکروہ ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب فی الکراهة التحریمیة الخ، ج ۳، ص ۴۹۰) اور اگر دونوں ہاتھ سے ہو تو بعض علما کے نزدیک مفسدِ صلوة (یعنی نماز توڑنے والا) ہے۔

## ایک خواب اور اُس کی تعبیر

**خواب:** ایک مسجد معمولی وسعت کی ہے اور نماز تیار ہے، ایک شخص جس کو میں جانتا ہوں عقائد و ہابیہ کا پیرو، اذان کہتا ہے لیکن نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر مکث کرکے کہتا ہے وہ بھی نام نامی تک۔ میں نے کہا یہ عجیب و ہیروں نے دستور نکالا ہے۔ میں اندر مسجد کے اس وقت پہنچا جبکہ امام اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ تکبیر تحریمہ کہے، میں نے باوازِ بلند اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہا۔ جس سے امام نے چونک کر میری طرف رُخ کیا اور پیچھے ہٹ آیا اور میں فوراً اُس کی جگہ کھڑا ہو کر امامت کرنے لگا جب سلام پھیرا فوراً آنکھ کھل گئی دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔

**تعبیر:** ان شاء اللہ و ہابیہ کی دعوت بند ہوگی اور اہل سنت کی ترقی ہوگی۔

## رکوع کا طریقہ

**عرض:** نوافل میں رکوع کس طرح کرنا چاہیے، اگر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے؟

**ارشاد:** اتنا جھکے کہ سر گھٹنے کے محاذی (یعنی سمت میں) آجائے اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو پنڈلیاں مقوس (یعنی کمان کی طرح خم کھائے ہوئے) نہ ہوں اور کف دست (یعنی ہتھیلیاں) گھٹنوں پر قائم کر کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں۔

۱: صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ انھی لکھتے ہیں: ”بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ پیشانی گھٹنوں کی سمت میں آجائے۔“ مزید لکھتے ہیں: ”یہاں محاذات سے مراد سمت میں ہونا ہے کہ اتنا جھکنا کہ پیشانی کی زمین سے بلندی گھٹنے کے بالائی حصہ کے برابر ہو جائے۔“ (فتاویٰ امجدیہ، ج ۱، ص ۷۹)



## ایک نمازی کی اصلاح

ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ حالتِ رکوع میں پشت بالکل سیدھی اور منہ اٹھائے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا گیا: ”یہ آپ نے کیسا رکوع کیا؟ حکم تو یہ ہے کہ گردن نہ اتنی جھکاؤ جیسے بھیڑ اور نہ اتنی اٹھاؤ جیسے اونٹ۔“ وہ صاحب کہنے لگے کہ منہ اس وجہ سے اٹھالیا تھا کہ سمتِ قبلہ سے نہ پھر جائے۔ میں نے کہا تو آپ سجدہ بھی ٹھوڑی پر کرتے ہوں گے۔ اُن کی سمجھ میں بات آگئی اور آئندہ کے لئے اصلاح ہوگئی۔

## عورت کا تنہا حج کو جانا کیسا؟

**عرض:** حضور ایک بی بی تنہا حج کرنا چاہتی ہیں اور سفرِ خرچِ قلیل (یعنی تھوڑا) اور خودِ علیل (یعنی بیمار) اس صورت میں کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** عورت کو بغیر حُرْمِ حج کو جانا جائز نہیں۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، ج ۳، ص ۵۳۱)

## سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو خداوندِ عرب کہنا کیسا؟

**عرض:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اے خداوندِ عرب“ کہہ کر ندا کر سکتے ہیں؟

**ارشاد:** کر سکتے ہیں۔ خداوندِ عرب کے معنی ”مالکِ عرب“۔

## عَجَم اور عَرَب کے معنی

**عرض:** حضور والا ”عجم“ کے معنی ”بے پڑھی ولایتیں“؟

**ارشاد:** ”گوئی زبان“ اور ”عرب“ کے معنی ”تیز زبان“۔

## اولیاء اللہ کا ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہونا

**عرض:** حضور! اولیا ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟

**ارشاد:** اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔

## ایک شبہ اور اُس کا ازالہ

**عرض مؤلف:** حضور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ ”عالمِ مثال“ سے ”اجسامِ مثالیہ“ اولیا کے تابع ہو جاتے ہیں اس لئے ایک وقت میں متعدد جگہ ایک ہی صاحب نظر آتے ہیں۔ اگر یہ ہے تو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ ”مثال“ تو شے کا غیر ہوتا ہے۔ امثال کا وجود شے کا وجود نہیں تو ان اجسام کا وجود اس جسم کا وجود نہ ٹھہرے گا؟

**ارشاد:** امثال اگر ہوں گے تو جسم کے۔ (جبکہ) اُن کی روح پاک ان تمام اجسام سے متعلق ہو کر تصرف فرمائے گی تو از روئے رُوح و حقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے یہ بھی فہم ظاہر میں ورنہ ”سبع سنابل شریف“ میں حضرت سیدی فتح محمد قدس سرہ الشریف کا وقتِ واحد میں دس مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا اور یہ کہ اس پر کسی نے عرض کی حضرت نے وقتِ واحد میں دس جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ کیونکر ہو سکے گا؟ شیخ نے فرمایا: ”کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا، فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے!“ (سبع سنابل سنبل ششم، ص ۱۷۰)

یہ ذکر کر کے فرمایا: ”کیا یہ گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے باقی جگہ مثالیں؟ حاشا! بلکہ شیخ بذاتِ خود ہر جگہ موجود تھے۔ اسرارِ باطن فہم ظاہر سے ورا ہیں (یعنی باطنی راز ظاہری سمجھ سے بالاتر ہیں)، خوض و فکر بے جا ہے۔“

## ہندوستان میں اسلام کب پھیلا؟

**عرض:** حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے وقت سے پھیلا؟

**ارشاد:** حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا۔ مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے سترہ حملے ہندوستان پر ہوئے۔

## ایک شعر کا مطلب

**عرض:** اس شعر کا کیا مطلب ہے

اہلِ نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا

کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے

**ارشاد:** شبِ میلاد کعبے نے سجدہ کیا اور جھکا مقامِ ابراہیم کی طرف اور کہا: حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا۔

## کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟

**عرض:** غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟

**ارشاد:** بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔

## غوث کا کشف

**عرض:** غوث کے مراقبے سے حالات منکشف (یعنی ظاہر) ہوتے ہیں؟

**ارشاد:** نہیں! بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے۔ (اس کے بعد ارشاد فرمایا) ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں۔

غوث کا لقب ”عبداللہ“ ہوتا ہے اور وزیر دستِ راست (یعنی دائیں طرف کا وزیر) ”عبدالرب“ اور وزیر دستِ چپ (یعنی بائیں

طرف کا وزیر) ”عبدالملک“۔ اس سلطنت میں وزیر دستِ چپ، وزیر راست سے اعلیٰ ہوتا ہے بخلاف سلطنتِ دنیا اس لئے کہ

یہ سلطنتِ قلب ہے اور دل جانبِ چپ۔ غوثِ اکبر و غوثِ ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ صدیق اکبر (رضی اللہ

تعالیٰ عنہ) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے وزیر دستِ چپ تھے اور فاروقِ اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وزیر دستِ راست۔ پھر اُمت

میں سب سے پہلے درجہِ غوثیت پر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروقِ

اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا ہوئی، اس کے بعد امیر المؤمنین فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وزیر ہوئے پھر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت عنایت ہوئی

اور مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے پھر مولیٰ علی (کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) کو اور امین محترمین رضی

اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تک یہ سب حضرات

مستقل غوث ہوئے۔ امام حسن عسکری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بعد حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب

ان کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوثِ اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مستقل غوث، حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجہ پر فائز

ہوئے۔ حضور ”غوثِ اعظم“ بھی ہیں اور ”سید الافراد“ بھی، حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تک سب نائب حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔

## آفراد کون ہیں؟

**عرض:** حضور ”افراد“ کون اصحاب ہیں؟

**ارشاد:** اَجَلَّہ اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) سے ہوتے ہیں۔ ولایت کے دَرَجَات ہیں، غوثیت کے بعد فدیت۔

## حُضُورِ غوثِ پاک کی شان

ایک صاحبِ اَجَلَّہ (یعنی جلیل القدر) اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) سے کسی نے پوچھا: حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ فرمایا: ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرماتے تھے: ”میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نُور دیکھا جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبل کا نور ہے۔“ ایک صاحب اُسے اوڑھے سو رہے ہیں۔ میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا: ”اٹھو مشغول بخدا ہو۔“ کہا: ”آپ اپنے کام میں مشغول رہیں مجھے میری حالت پر رہنے دیجئے۔“ میں نے کہا: ”میں مشہور کئے دیتا ہوں، یہ ولی اللہ ہے۔“ کہا: ”میں مشہور کر دوں گا کہ یہ حضرت خضر (علیہ السلام) ہیں۔“ میں نے کہا ”میرے لئے دعا کرو۔“ کہا: ”دعا تو آپ ہی کا حق ہے۔“ میں نے کہا: ”تمہیں دُعا کرنی ہوگی۔“ کہا: ”وَقَرَّ اللَّهُ حَظَّكَ مِنْهُ“ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ (یعنی حصہ) زائد کرے اور کہا: میں اگر غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا اور فوراً نظر سے غائب ہو گئے حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی کہ میری نگاہ سے غائب ہو سکے۔ وہاں سے آگے بڑھا ایک اور اسی طرح کا نور دیکھا کہ نگاہ کو خیرہ کرتا (یعنی آنکھ کو چندھیاتا) ہے۔ قریب گیا تو دیکھا ٹیلے پر ایک عورت کمبل اوڑھے سو رہی ہے۔ وہ اس کے کمبل کا نور ہے۔ میں نے پاؤں ہلا کر ہوشیار کرنا چاہا۔ غیب سے ندا آئی ”اے خضر (علیہ السلام) احتیاط کیجئے۔“ اُس بی بی نے آنکھ کھولی اور کہا: حضرت نہ رُکے یہاں تک کہ روکے گئے۔ میں نے کہا: ”اٹھ مشغول بخدا ہو۔“ کہا: حضرت اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں۔ میں نے کہا: ”تو میں مشہور کئے دیتا ہوں: یہ ولی اللہ ہے۔“ کہا: ”میں مشہور کر دوں گی کہ یہ حضرت خضر (علیہ السلام) ہیں۔“ میں نے کہا: ”میرے لئے دعا کرو۔“ کہا: ”دُعا تو آپ کا حق ہے۔“ میں نے کہا: ”تمہیں دُعا کرنی ہوگی۔“ کہا: ”وَقَرَّ اللَّهُ حَظَّكَ مِنْهُ“ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے۔“ پھر کہا: ”اگر میں غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا۔“ میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے، کہا: یہ تو بتائیے کیا تُو اُسی مرد کی بی بی ہے۔ کہا: ”ہاں یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا اس کی تجہیز و تکفین کا ہمیں حکم ملا تھا۔“ یہ کہا اور میری نگاہ سے غائب ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ فرمایا: یہ لوگ ”افراد“ ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی کوئی ہے جس کی طرف یہ رجوع لاتے ہیں۔ فرمایا: ”ہاں! شیخ عبدالقادر جیلانی۔“

## غوث کا جانشین

**عرض:** غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون مامور ہوتا ہے؟

**ارشاد :** غوث کی جگہ ”امامین“ سے غوث کر دیا جاتا ہے اور امامین کی جگہ اوتا واربعہ سے اور ”اوتا“ کی جگہ بدلا (یعنی بدالوں) سے ”بدلا“ کی جگہ پر ابدال سبعین سے اور ان کی جگہ تین سو ”نقبا“ سے۔ پھر اولیاء سے اور اولیاء کی جگہ عامہ مومنین سے کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بلا لحاظ ترتیب کافر کو مسلمان کر کے بدل کر دیتے ہیں، اُن کا مرتبہ ابدال سے زیادہ ہے۔

## پانی کے مسام

**عرض :** پانی میں مسام ہیں یا نہیں؟

**ارشاد :** نہیں کہ پانی میں بالطبع خلا بھرنے کی قوت رکھی گئی ہے۔ ضرور ہے کہ جو مسام فرض کئے جائیں وہ پانی کہ ان سے اوپر ہے ان کی طرف اترے گا اور انہیں بھرے گا اور مسام ہونے پر فلسفہ جدیدہ کی یہ دلیل کہ شکر ڈالنے سے پانی میں حل ہو جاتی ہے اور اس کا حجم نہیں بڑھتا مقبول نہیں۔ جب زیادت قدر احساس کو پہنچے گی ضرور حجم بڑھتا ہو محسوس ہوگا مگر ایک استدلال اس پر یہ خیال میں آتا ہے کہ حوض کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، دوسرا غوطے لگائے اور باہر والا شخص آواز پکارے اگر مسام ہیں تو ضرور سنے گا اور سنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ مسام ہیں بخلاف اس کے ایک کمرہ صرف آئینوں کا فرض کیجئے جس میں کہیں روزن نہ ہو، اس کے اندر کی آواز باہر نہ آئے گی اور باہر کی اندر نہ جائے گی اگر چہ اندر باہر وہ شخص متصل (معنی قریب) کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو آواز بلند پکاریں مگر یہ استدلال بھی کافی نہیں آواز پہنچنے کے لئے ملاء فاضل میں تموج (یعنی لہروں کا تلاطم) چاہئے مسام کی کیا حاجت، ہاں جہاں تموج نہ ہو بذریعہ مسام پہنچے گی، آئینے میں نہ تموج نہ مسام لہذا نہ پہنچے گی۔ پختہ و خام عمارات میں تموج نہیں منافیہ و مسام ہیں ان سے پہنچتی ہے۔ آب و ہوا خود اپنے تموج سے پہنچاتے ہیں اور یہ ہی اصل ذریعہ صوت (یعنی آواز پہنچنے کا ذریعہ) ہے۔ ہوا میں تموج زائد ہے کہ پانی سے لطف (یعنی زیادہ لطیف) ہے، وہ زیادہ پہنچاتی ہے اور پانی کم۔ تالاب میں دو شخص دونوں کناروں پر غوطہ لگائیں اور ان میں سے ایک اینٹ پراینٹ مارے، دوسرے کو آواز پہنچے گی مگر نہ اتنی کہ ہوا میں۔

قطعہ تاریخ عطیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ مدظلہ الاقدس

میرے ملفوظ کئے کچھ محفوظ مصطفےٰ مصطفےٰ کا ہو ملفوظ  
نام تاریخی اسکا رکھتا ہوں زُبر و پینہ میں املفوظ

۱۳۳۸ھ

ت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ ملفوظات حصہ دوم }

## دُعَاؤُنِ پَر بھروسہ

**مَوَافِق:** حضور (یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت) بعد نمازِ عصر صحن میں تشریف فرما ہیں، مُریدین و معتقدین (یعنی عقیدت رکھنے والے) حاضر خدمت کہ مولوی رحمہ اللہ صاحب (علیہ رحمۃ اللہ الوہاب) مدرّس دُوم مدرسہ منظر الاسلام اور طالب علم مولوی نجیب الرحمن ایک کتاب ہمراہ لائے۔ حضور نے دُرّ یافت فرمایا: کیا کتاب ہے؟  
**عَرَض:** کیا: حضور! ”اَعْمَالِ تَسْوِیر“ (یعنی کسی جن یا انسان کو قابو کرنے کے عملیات کے بارے) میں ہے، ایک عبارت کا مطلب دُرّ یافت کرنا تھا۔

**اِرْشَاد:** میرے پاس ان عملیات کے ذخائر بھرے ہیں لیکن بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى آج تک کبھی اس طرف خیال بھی نہیں کیا۔ ہمیشہ اُن دُعَاؤُنِ پَر جو احادیث میں ارشاد ہوئیں عمل کیا۔ میری تو تمام مُشْکَلَاتِ انہیں سے حل ہوتی رہتی ہیں۔

## سمندری طوفان سے نجات مل گئی

(اسی تذکرے میں فرمایا) دوسری بار جب کعبہ برمعظمہ حاضر ہوا، ریکارڈ ایک (یعنی اچانک) جانا ہو گیا، اپنا پہلے سے کوئی ارادہ نہ تھا۔ پہلی بار کی حاضری حضرات والدین ماجدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے ہمراہ ریکاب (یعنی ہمراہی میں) تھی۔ اُس وقت مجھے تیسواں سال تھا۔ واپسی میں تین دن طوفان شدید رہا تھا، اس کی تفصیل میں بہت طویل ہے۔ لوگوں نے کفن پہن لئے تھے۔ حضرت والدہ ماجدہ کا اضطراب (یعنی پریشانی) دیکھ کر اُن کی تسکین (یعنی تسلی) کیلئے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم! یہ جہاز نہ ڈوبے گا۔ یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار

ہوتے وقت غرق (یعنی ڈوبنے) سے حفاظت کی دُعا ارشاد ہوئی ہے۔<sup>۱</sup> میں نے وہ دُعا پڑھ لی تھی لہذا حدیث کے وعدہ صادقہ (یعنی سچے وعدے) پر مطمئن تھا۔ پھر بھی قسم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا اور معاً حدیث یاد آئی:

مَنْ يَتَّأَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكْذِبُهُ  
 جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے، اللہ اُس کی  
 قسم کو رد فرما دیتا ہے۔ (ت)

(کنز العمال، کتاب المواعظ والرفائق، قسم الاقوال، الحدیث ۴۳۵۸۰، ج ۱۵، ص ۳۸۸)

حضرت عزّت (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف رجوع کی اور سرکارِ رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے مدد مانگی اَلْحَمْدُ لِلَّهِ (عَزَّوَجَلَّ) کہ وہ مخالف ہو کہ تین دن سے بَشَدَّت چل رہی تھی دو گھڑی میں بالکل موقوف ہو گئی (یعنی رُک گئی) اور جہاز نے نجات پائی۔

## اعلیٰ حضرت کا دوسرا سفرِ حج والدہ سے اجازت کیسے لی؟

(مزید فرمایا کہ) ماں کی محبت! وہ تین شبانہ روز (یعنی دن رات) کی سخت تکلیف یاد تھی، مکان میں قدم رکھتے ہی پہلا لفظ مجھ سے یہ فرمایا کہ ”حج فرض اللہ تعالیٰ نے ادا فرما دیا، اب میری زندگی بھر دوبارہ ارادہ نہ کرنا!“ اُن کا یہ فرمانا مجھے یاد تھا اور ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ حج نفل جائز نہیں۔ یوں خود ادا کرنے سے مجبور تھا۔ یہاں سے ننھے میاں {برادر خورد}

۱: احادیث مبارکہ میں کشتی میں سوار ہوتے وقت کی دعائیں مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہیں، ان میں سے دو دعائیں (جو زیادہ معروف ہیں) یہاں لکھی جا رہی ہیں، دونوں کی وہی فضیلت ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے بیان فرمائی: { 1 } بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الرَّحْمٰنِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ترجمہ: اللہ مالک و مہربان کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بیشک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے (کنز العمال، کتاب السفر، قسم الاقوال، الحدیث، ۱۷۵۳۴، ج ۶، ص ۳۰۳) ﴿ 2 ﴾ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ترجمہ: اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بیشک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیئے جائیں گے اور وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ (عمل الیوم واللیلة، ص ۱۵۵)

(یعنی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ المنان) اور حامد رضا خاں {خلف اکبر} (یعنی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے) مع متعلقین بارادہ حُج روانہ ہوئے۔ لکھنؤ تک ان لوگوں کو پہنچا کر میں واپس آ گیا لیکن طبیعت میں ایک قسم کا انتشار رہا۔ ایک ہفتہ یہاں رہا، طبیعت سخت پریشان رہی۔ ایک روز عصر کے وقت زیادہ اضافہ ہوا اور دل وہاں (یعنی حرمین طیبین) کی حاضری کے لیے زیادہ بے چین ہوا۔ بعد مغرب مولوی نذیر احمد صاحب کو اسٹیشن بھیجا کہ جا کر بمبئی تک سیکنڈ کلاس رزرو (Reserve یعنی مخصوص) کروالیں کہ نمازوں کا آرام رہے۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے گاڑی مانگی، اُس نے پوچھا: کس ٹرین سے ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: ”اسی شب کے دس بجے والی گاڑی سے۔“ وہ بولا: یہ گاڑی نہیں مل سکتی، اگر آپ کو اس سے جانا تھا تو چوبیس گھنٹے پیشتر (یعنی پہلے) اطلاع دیتے۔ بیچارے مایوس ہو کر لوٹنا چاہتے تھے کہ ایک ٹکٹ کلکٹر (Ticket Collector یعنی ٹکٹ وصول کرنے والا) جو قریب رہتا تھا، مل گیا۔ اُس نے کہا: تم گھبراؤ مت! میں چلتا ہوں اور اسٹیشن ماسٹر سے جا کر کہتا ہوں۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کی بات سن کر ایک سو تریسٹھ روپے پانچ آنے لے کر سیکنڈ کلاس کا کمرہ رزرو کر دیا۔

عشا کی نماز سے اوّل وقت فارغ ہو لیا۔ شکر کم (یعنی چار پہیوں والی مخصوص گاڑی) بھی آگئی۔ صرف والدہ ماجدہ سے اجازت لینا باقی رہ گئی جو نہایت اہم مسئلہ تھا اور گویا اس کا یقین تھا کہ وہ اجازت نہ دیں گی کس طرح عرض کروں اور بغیر اجازت والدہ حج نفل کو جانا حرام۔ آخر کار اندر مکان میں گیا، دیکھا کہ حضرت والدہ ماجدہ چادر اوڑھے آرام فرماتی ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے قدموں پر سر رکھ دیا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں اور فرمایا: ”کیا ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”حضور! مجھے حج کی اجازت دے دیجئے۔“ پہلا لفظ جو فرمایا یہ تھا کہ: ”خدا حافظ!“ یہ (یعنی والدہ کا یوں باسانی اجازت دے دینا) انہیں دعاؤں کا اثر تھا۔ میں اُلٹے پیروں باہر آیا اور فوراً سوار ہو کر اسٹیشن پہنچا۔ چلتے وقت جس لگن (یعنی برتن) میں میں نے وضو کیا تھا، والدہ ماجدہ نے اس کا پانی میری واپسی تک نہ پھینکنے دیا کہ اُس کے وضو کا پانی ہے۔

## بریلی شریف سے بمبئی تک کا سفر

بریلی کے اسٹیشن سے میں نے ایک تار اپنی روانگی کا بمبئی روانہ کیا۔ وہاں سب نے یہ خیال کیا کہ شاید حسن میاں {یعنی اعلیٰ حضرت مدظلہ کے منجھلے بھائی} تشریف لا رہے ہیں، اس واسطے کہ ان کا سالِ آئندہ میں ارادہ تھا، میرا کسی کو لگان بھی نہ



تھا، غرض دن کے دن تک سب کو تَذَبُّد (یعنی اِضْ مَرَاب) رہا۔ ادھر مجھے راستہ میں ایک دن کی دیر ہوگئی کہ آگرہ پر میل نکل گیا اور ہماری گاڑی نے پسپا کا انتظار کیا۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ ہماری گاڑی کاٹ کر کیوں جدا کر لی؟ کہا: ”میل رُزُو نہ تھا آپ کو پسپا کرنا ہوگا۔“ یہاں تک کہ وہ دن آگیا جس روز حجاج بمبئی کے قَرْنَطِينَه ۱ میں داخل ہونے والے تھے اور میں اس وقت تک نہ پہنچ سکا۔ اب سخت مشکل کا سامنا تھا کہ ہمارے لوگ قرنطینہ میں داخل ہو جائیں گے اور میں رہ گیا، اب جانا کیونکر ہوگا؟ یہ دن پنجشنبہ (یعنی جمعرات) کا ہے۔ تارا چکا تھا کہ پنجشنبہ کو بھپارا ہو کر (یعنی جوش دی ہوئی دوا لے کر) لوگ قرنطینہ میں داخل ہو جائیں۔ گاڑی کٹ جانے نے یہ تاخیر کی کہ میں جمعہ کے دن صبح آٹھ بجے پہنچا۔ اسٹیشن پر دیکھا، بمبئی کے احباب کا جھوم ہے، حاجی قاسم وغیرہ گاڑیاں لئے موجود ہیں۔

سلام و مُصَافَحَہ کے بعد پہلا لفظ جو انہوں نے کہا یہ تھا: ”شہر کو نہ چلے سیدھے قَرْنَطِينَه چلے، ابھی آپ کے لوگ داخل نہیں ہوئے ہیں۔“ میں شکرِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) بجالایا اور اپنے لوگوں کے ساتھ داخل قَرْنَطِينَه ہوا۔ یہ حدیث کی انہیں دعاؤں کی برکت تھی کہ ”گئی ہوئی مراد“ عطا فرمائی۔ میں نے واقعہ پوچھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا: عجب ہے اور سخت عجب! ایسا کبھی نہ ہوا تھا، پنجشنبہ کو روزِ موعود (یعنی مقرر دن) پر ڈاکٹر آیا اور آدھے لوگوں کو بھپارا دیا (یعنی جوش دی ہوئی دوا دی) کہ دفعۃً (یعنی اچانک) اسے سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی اور کہا کہ باقی کا بھپارا کل ہوگا، یوں تمہارے لوگ باقی رہ گئے۔

## بمبئی سے سوئے عرب روانگی

اب ایک اور وقت پیش آئی کہ اُس جہاز کا ٹکٹ بالکل تقسیم ہو چکا تھا جس میں ہمارے لوگ جانے والے تھے۔ مَجْبُورِی دوسرے جہاز کا ٹکٹ خریدا اور وہ بھی تیسرے درجے کا جس کی حکمت آگے ظاہر ہوگی اور حدیث کی دعائیں پڑھیں کہ ”سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! مجھے اپنوں کا ساتھ عطا فرمائیں، ان سے چھوٹ کر میں تنہا کیونکر حاضر ہوں گا!“ تلاش کی گئی کہ اس جہاز میں کوئی صاحب ایسے ہیں جو اکیلے جانے والے ہوں جنہیں یہ اور وہ دونوں جہاز برابر ہوں۔ مولیٰ تعالیٰ کی رحمت کہ ایک بڑے میاں ہمارے ہی ضلع بریلی مقام بھیرٹی کے ساکن مل گئے جنہوں نے بخوشی ٹکٹ بدل لیا، وہ اس

۱: وہ میعاد (مقررہ مدت) جس میں مسافروں یا وَاَزْدَہ علاقے کے بیماروں کو جبراً سب سے علیحدہ رکھا جاتا ہے تاکہ مرض پھیلنے نہ پائے

جہاز میں گئے اور میں بَفَضْلِهِ تَعَالَى اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں رہا۔

سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے پہلا ٹکٹ تیسرے درجے کا اسی لئے دلویا تھا کہ وہ بڑے میاں ملنے والے تھے جن کا ٹکٹ تیسرے ہی درجے کا تھا، ان سے تبدیلی میں مالی نقصان نہ ہو۔ بعدِ قرظینہ اس جہاز پر سوار ہو کر سوا سو روپے داخل کر کے اول درجے کا ٹکٹ تبدیل کر لیا۔

### سمتِ قبلہ نکالنے میں اعلیٰ حضرت کی مہارت

جب عدنان کے قریب جہاز پہنچا میں نمازِ عصر پڑھا رہا تھا۔ نماز میں ایک عربی صاحب کی آواز میرے کان میں پہنچی کہ سمتِ قبلہ یہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ خیال نہ کیا اس لئے کہ میں مؤامرہ ہندسیہ سے عدنان و کامران کی سمتِ قبلہ نکال چکا تھا۔ وہ اتنی دیر کہ میں نے نماز پڑھی وظیفہ پڑھا، بیٹھے رہے۔ جب میں فارغ ہوا تو ان سے پوچھا: ”اس وقت بتائیے سمتِ قبلہ کس طرف ہے اور پانچ منٹ پہلے کس طرف تھی؟“ اور حساب لگا کر سمجھایا کہ اس وقت سمتِ قبلہ ہی پر نماز ہوئی جس کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ جب کامران آیا تو قرظینے میں داخل ہوئے، وہاں دس روز ٹھہرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اُن ٹُرکی کارکنوں کو جزائے خیر دے! حجاج کو ایسا آرام دیا کہ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ حج کا وقت قریب ہے ورنہ کچھ دن بیمار رہتے اور یہاں کے آرام کا لطف اٹھاتے، بمبئی میں کیا مجال تھی کہ کوئی اس احاطہ سے باہر قدم رکھتا۔ احاطہ کے اندر ہر بات کی روک ٹوک تھی۔ ہندو سپاہی قصداً حجاج کو تنگ کرتے تھے۔

### مزار شریف کی حاضری

یہاں میں نے سنا کہ کامران سے کوئی ایک میل فاصلہ پر کسی بزرگ کا مزار ہے۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے حاضری کا ارادہ کیا، ٹُرکی ڈاکٹر سے پوچھا، بکشادہ پیشانی (خوش دلی سے) اجازت دی اور کہا، آپ کے ساتھ گئے (یعنی کتنے) آدمی ہوں گے؟ میں نے کہا: دس بارہ۔ ان سب کو بھی اجازت دی اور ہم زیارت سے فارغ ہو کر آئے۔

۱۔ عرب شریف کے جنوب مغربی کونے میں ایک جزیرہ نما مقام۔

## جہاز میں بیانات

جہاز اور کامران میں تقریباً روزانہ میرے بیانات ہوتے جس میں اکثر مناسک حج کی تعلیم ہوتی اور وہ جو ہمیشہ میرے بیان کا مقصود اعظم رہتا ہے یعنی ”تعظیم شان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ایک بہت بڑا رئیس بھی جہاز میں تھا، شریک و عطف ہوتا، مسائل سنا کر تا مگر تعظیم شان اقدس کے ذکر کے وقت اس کے چہرہ پر بے شائستگی (یعنی خوشی) کی جگہ کدورت (کدورت، یعنی ناپسندیدگی) ہوتی، میں سمجھا وہابی ہے۔ دریافت کئے سے معلوم ہوا کہ گنگوہی کا مرید ہے۔ اس روز میں نے رُوئے سخن (یعنی بات کا رخ) ردّ وہابیہ و گنگوہی کی طرف پھیرا، جبراً قہراً سننا باہم دوسرے دن سے بیان میں نہ آیا، میں نے محمد کی کہ جلسہ پاک ہوا۔

## استغاثہ کی برکت

اب یہاں کامران میں نودن ہو چکے۔ کل جہاز پر جانا ہے۔ دفعۃً رات کو میرے سب ساتھیوں کو دردِ شکم (یعنی پیٹ کا درد) و اسہال (اس۔ ہال، یعنی پیش) عارض (یعنی لاحق) ہوا، میرے درد تو نہ تھا مگر پانچ بار اجابت (یعنی رفع حاجت) کو مجھے جانا ہوا، دن چڑھ گیا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہوا، باہر ٹرکی مرد اور اندر عورتوں کو ٹرکیہ عورت روزانہ آ کر دیکھا کرتے۔ میرے بھائی ننھے میاں سلمہ (یعنی علامہ محمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ) کو اندیشہ ہوا اور عزم کر لیا کہ اپنی حالتوں کو ڈاکٹر سے کہہ دو۔ مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے کہا: اگر بیمار سمجھ کر روک لئے گئے اور حج کا وقت قریب ہے مَعَاذَ اللّٰہ وقت پر نہ پہنچ سکے تو کیسا خسارہ (یعنی نقصان) ہوگا۔ کہا: ”اب ڈاکٹر اور ڈاکٹرنی آتے ہوں گے اگر انہیں اطلاع ہوئی تو ہمارا نہ کہنا اخفا (یعنی پوشیدگی) میں نہ ٹھہرے گا؟“ میں نے کہا: ”ذرا ٹھہرو! میں اپنے حکیم سے کہہ لوں۔“ مکان سے باہر جنگل میں آیا اور حدیث کی دعائیں پڑھیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اِسْتِمْدَاد (یعنی مدد طلب) کی کہ دفعۃً سامنے سے حضرت سید شاہ غلام جیلانی صاحب سجادہ نشین سرکار بانسہ شریف کہ اولاد انجا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور بمبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا، سامنے سے تشریف لائے۔ ان کی تشریف آوری فالِ حَسَن (یعنی نیک شگون) تھی۔ میں نے ان سے بھی دُعا کو کہا، انہوں نے بھی دعا فرمائی۔ مجھے مکان سے باہر آئے شاید دس منٹ ہوئے ہوں گے، اب جو مکان میں جا کر دیکھا بِحَمْدِ اللّٰہ



بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی احرام بندھ چکا تھا۔ اس سردی میں رضائی گردن تک اوپر سے ڈال لیتا کہ احرام میں چہرہ چھپانا منع ہے، سو جاتا آنکھ کھلتی تو بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی رضائی گردن سے اصلاً (یعنی بالکل) نہ بڑھی ہوتی۔ تین روز جَدَّہ میں رہنا ہوا اور بخار ترقی پر ہے، آج چل کر جَدَّہ کے کھلے میدان میں رات بسر کرنی ہوگی۔ بخار میں کیا حالت ہوگی؟ سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی۔ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی بخار معاً (یعنی فوراً) جاتا رہا اور تیرہویں تک عود نہ کیا (یعنی دوبارہ نہ آیا)۔ جب بِفَضْلِهِ تَعَالٰی تمام مناسک حج سے فارغ ہوئے، تیرہویں تاریخ بخار نے عود کیا۔ میں نے کہا: ”اب آیا کیجئے، ہمارا کام ربُّ العزت نے پورا کر دیا۔“

### ڈائبرین کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت

بعد فراغ مناسک، کتب خانہ حرم محترم کی حاضری کا شُغْل رہا۔ پہلے روز جو حاضر ہوا، حامد رضا خاں ساتھ تھے۔ محافظِ کتب حرم ایک وجیہ و جمیل عالمِ نبیل مولانا سید اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) تھے۔ یہ پہلا دن اُن کی زیارت کا تھا۔ یہ حضرت مثل دیگر اکابر مکہ مکرمہ اس فقیر سے غائبانہ خلوص تام رکھتے تھے جس کا سبب میرا فتویٰ مسُئِلٌ بہ ”فَتَاوَى الْحَرَمَيْنِ بِرَجْفِ نَدْوَةِ الْمَيْنِ“ تھا کہ سات برس پہلے ۱۳۱۶ھ میں ردّ ندوہ کے لئے اٹھائیس سوال و جواب پر مشتمل جسے میں نے بیس گھنٹے سے کم میں لکھا تھا اور بذریعہ بعض حجاجِ خادمانِ دین ان حضرات کے حضور پیش ہوا اور انہوں نے اپنی گراں بہا (یعنی قیمتی) تقریظات سے اسے مَزُوْبِنَ (یعنی آراستہ) فرمایا اور فقیر کو بے شمار اعلیٰ اعلیٰ درجے کے کلماتِ دُعا و ثنا کا شرف دیا اور وہ مح ترجمہ ایک مبسوط کتاب ہو کر بمبئی ۱۳۱۷ھ میں طبع ہو کر شائع ہو چکا تھا۔ اُس وقت سے مولانا عَزَّوَجَلَّ نے اس ذرہ بے مقدار کی کمال محبت و وقعت اُن جلیل قلوب میں ڈال دی تھی مگر ملاقاتِ ظاہری نہ ہوئی تھی۔ حضرت مولانا موصوف سے کچھ کتابیں مطالعہ کے لئے نکلوائیں۔ حاضرین میں سے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ قبل زوالِ رَمٰی (یعنی زوال کے وقت سے پہلے حمرات یعنی شیطان کو نکریاں مارنا) کیسی؟ مولانا نے فرمایا: ”یہاں کے علماء نے جوازِ پرفتویٰ دیا ہے۔“ حامد رضا خاں سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ مجھ سے استفسار (یعنی سوال) ہوا، میں نے کہا: ”خلافِ مذہب (یعنی احناف کے مؤقف کے خلاف) ہے۔“ مولانا سید صاحب نے ایک مُتَبَدِّل (یعنی مُرَوِّج) کتاب کا نام لیا کہ اُس میں جواز کو ”عَلَيْهِ الْفُتُوٰی“ (یعنی اسی پرفتویٰ ہے) لکھا ہے۔ میں نے کہا: ممکن کہ روایتِ جواز ہو مگر ”عَلَيْهِ الْفُتُوٰی“ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ کتاب لے آئے، مسئلہ نکلا اور اُسی صورت

سے نکلا جو فقیر نے گزارش کی تھی یعنی اُس میں ”عَلَيْهِ الْفُتْوَى“ کا لفظ نہ تھا۔ حضرت مولانا نے حامد رضا خاں سے کان میں جھک کر مجھے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اور حامد رضا خاں کو بھی نہ جانتے تھے مگر اُس وقت گفتگو انہیں سے ہو رہی تھی لہذا اُن سے پوچھا۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولانا وہاں سے اٹھ کر بیتا بانہ دوڑتے ہوئے آکر فقیر سے لپٹ گئے۔ پھر تو بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَادٍ (یعنی الفت و دوستی) نے کامل ترقی کی۔

### مسئلہ علم غیب پر د و گھنٹے تک دلائل دئیے

اِس بار سرکار محترم میں میری حاضری بے اپنے ارادے کے جس غیر متوقع طور اور غیر معمولی طریقوں پر ہوئی اُس کا کچھ بیان اوپر ہو چکا ہے، وہ حکمت الہیہ یہاں آکر گھلی۔ سننے میں آیا کہ وہاں پہلے سے آئے ہوئے ہیں جن میں خلیل احمد ٹیپٹھی، بعض وزرائے ریاست اور دیگر اہل ثروت (یعنی اُمرا) بھی ہیں۔ حضرت شریف (یعنی گورنر مکہ) تک رسائی پیدا کی ہے اور مسئلہ علم غیب چھیڑا ہے اور اس کے متعلق کچھ سوال اُعلم علمائے مکہ (یعنی مکے کے سب سے بڑے عالم) حضرت مولانا شیخ صالح کمال سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا۔ حضرت مولانا مولوی وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے عزیز مولوی عبدالاحد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ میں نے بعد سلام و مصافحہ مسئلہ علم غیب کی تقریر شروع کی اور دو گھنٹے تک اسے آیات و احادیث و اقوال ائمہ سے ثابت کیا اور مخالفین جو شبہات کیا کرتے ہیں اُن کا رد کیا۔ اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف محض سکوت (یعنی خاموشی) کے ساتھ ہمہ تن گوش (یعنی مکمل متوجہ) ہو کر میرا منہ دیکھتے رہے۔ جب میں نے تقریر ختم کی، چپکے اٹھتے ہوئے، قریب الماری رکھی تھی، وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ نکال لائے جس پر مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کے رسالہ ”اعْلَامُ الْأُدْكِيَاءِ“ کے اس قول کے متعلق کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (یعنی وہی اوّل، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں) لکھا، چند سوال تھے اور جواب کی چار سطریں ناتمام اٹھالائے مجھے دکھایا اور فرمایا: ”تیرا انا اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی رحمت تھا ورنہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتویٰ یہاں سے جا چکتا۔“ میں حمد الہی (عَزَّوَجَلَّ) بجایا اور فرُود گاہ (یعنی قیام گاہ) پر واپس آیا۔

## علمائے حرم کی فرمائش پر صرف دو دن میں علم غیب

### کے موضوع پر ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ تصنیف فرمائی

مولانا سے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا۔ اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں اور حج کا ہنگامہ اور جائے قیام نامعلوم، آخر خیال فرمایا کہ ضرور کتب خانہ میں آیا کرتا ہوگا۔ ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ کی تاریخ ہے، بعد نماز عصر میں کتب خانے کے زینے (یعنی سیڑھی) پر چڑھ رہا ہوں، پیچھے سے ایک آہٹ معلوم ہوئی، دیکھا تو حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں، بعد سلام و مصافحہ دفتر کتب خانہ میں جا کر بیٹھے۔ وہاں حضرت مولانا سید اسماعیل اور ان کے نوجوان سعید، رشید بھائی سید مصطفیٰ اور ان کے والد ماجد مولانا سید خلیل اور بعض حضرات بھی کہ اس وقت یاد نہیں، تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جیب سے ایک پرچہ نکالا جس پر علم غیب کے متعلق پانچ سوال تھے {یہ وہی سوال ہیں جن کا جواب مولانا نے شروع کیا تھا اور تقریر فقیر کے بعد چاک فرما (یعنی پھاڑ) دیا {مجھ سے فرمایا: یہ سوال وہابیہ نے حضرت سپدنا کے ذریعہ سے پیش کئے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ {سیدنا وہاں تشریف مکہ کو کہتے ہیں کہ اس وقت تشریف علی پاشا تھے {میں نے مولانا سید مصطفیٰ سے گزارش کی کہ قلم دوات دیجئے۔

حضرت مولانا شیخ کمال و مولانا سید اسماعیل و مولانا سید خلیل سب اکابر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) نے کہ تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا فوری جواب نہیں چاہتے بلکہ ایسا جواب ہو کہ خمیشوں کے دانت کھٹے ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اس کے لئے قدرے مہلت چاہئے، دو گھنٹی دن باقی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا: ”کل سہ شنبہ (یعنی منگل)، پرسوں چہار شنبہ (یعنی بدھ) ہے، ان دو روز میں ہو کر پنجشنبہ (یعنی جمعرات) کو مجھ مل جائے کہ میں تشریف کے سامنے پیش کر دوں۔“ میں نے اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی عنایت اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت (یعنی مدد) پر بھروسہ کر کے وعدہ کر لیا اور شانِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کہ دوسرے ہی دن سے بخار نے پھر عود کیا، اسی حالتِ تپ (یعنی بخار) میں رسالہ تصنیف کرتا اور حامد رضا خاں تمبیض کرتے (یعنی مُؤَدِّے کو صاف اور خوشخط کر کے لکھتے)، اس کا شہرہ مکہ معظمہ میں ہوا کہ وہابیہ نے فلاں کی طرف سوال متوجہ کیا ہے اور وہ جواب لکھ رہا ہے۔

## شیخ الخطباء کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت

میں نے اس رسالہ میں ”غیوبِ خمسہ“ ۱ کی بحث نہ چھیڑی تھی کہ سائلوں کے سوال میں نہ تھی اور مجھے بخار کی حالت میں بکمال تعجیل قصد تکمیل آج ہی کہ میں لکھ رہا ہوں حضرت شیخ الخطباء، کبیر العلماء مولانا شیخ احمد ابوالخیر مرداد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کا پیام آیا کہ میں پاؤں سے معذور ہوں اور تیرا رسالہ سننا چاہتا ہوں، میں اسی حالت میں جتنے اوراق لکھے گئے تھے لے کر حاضر ہوا۔ رسالہ کی قسم اول ختم ہو چکی تھی جس میں اپنے مسلک کا ثبوت ہے۔ قسم دوم لکھی جا رہی تھی جس میں وہابیہ کا رد اور ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ حضرت شیخ الخطباء نے اول تا آخر سن کر فرمایا: ”اس میں علمِ خمس کی بحث نہ آئی۔“ میں نے عرض کی کہ سوال میں نہ تھی، فرمایا: ”میری خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو، میں نے قبول کیا، رخصت ہوتے وقت ان کے زانوائے مبارک کو ہاتھ لگایا۔ حضرت موصوف نے ہاں فضل و کمال و ہاں کبرِ سال کہ عمر شریف ستر برس سے متجاوز تھی، یہ لفظ فرمائے کہ ”أَنَا أَقْبَلُ أَرْجُحُكُمْ، أَنَا أَقْبَلُ نِعَالَكُمْ“ میں تمہارے قدموں کو بوسہ دوں، میں تمہارے جوتوں کو بوسہ دوں۔

یہ میرے حبیبِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کہ ایسے اکابر کے قلوب میں اس بے وقعت کی یہ وقعت! میں واپس آیا اور شب ہی میں بحثِ خمس کو بڑھایا۔

## جَلِيلُ الْقَدْرِ مُحَدَّثٌ كَا اجازتِ حدیث لینا

اب دوسرا دن چہار شنبہ (یعنی بدھ) کا ہے، صبح کی نماز پڑھ کر حرم شریف سے آتا ہوں کہ مولانا سید عبداللہ ابن مولانا سید عبدالکبیر محدثِ ملکِ مغرب (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (کہ اُس وقت تک ان کی چالیس کتابیں علومِ حدیثیہ و دینیہ میں مصر میں چھپ چکی تھیں) ان کا خادمِ پیام لایا کہ مولانا تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ وعدے میں آج ہی کا دن باقی ہے اور ابھی بہت کچھ لکھنا ہے، عذر کر بھیجا کہ آج کی معافی دیں کل میں خود حاضر ہوؤں گا۔ فوراً خادم واپس آیا کہ میں آج ہی مدینہ طیبہ جاتا ہوں، تَبْرِيْزُ ہو چکی ہے یعنی قافلے کے اونٹ بیرونِ شہر جمع ہو لئے ہیں، ظہر پڑھ کر سوار ہو جاؤں گا۔ اب میں مجبور ہوا اور مولانا کو تشریف آوری کی اجازت دی۔ وہ تشریف لائے اور علومِ حدیث کی اجازتیں فقیر سے طلب فرمائیں اور لکھوائیں

۱: یعنی (۱) قیامت کب آئے گی؟ (۲) مینہ کب اور کہاں اور کتنا برسے گا؟ (۳) مادہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ (۴) کل کیسا ہوگا؟ (۵) فلاں کہاں مرے گا؟ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۹، ص ۲۷۳)



اور علمی مذاکرات ہوتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوئی، وہاں زوال ہوتے ہی معاً اذان ہو جاتی ہے، میں اور وہ نماز میں حاضر ہوئے۔ بعد نماز وہ عازمِ مدینہ طیبہ ہوئے اور میں فرؤذ گاہ (یعنی قیام گاہ) پر آیا۔ آج کے دن کا بڑا حصہ یوں بالکل خالی گیا اور بخار سا تھا ہے۔ بقیہ دن میں اور بعدِ عشاءِ فضلِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) اور عنایتِ رسالتِ پناہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب کی تکمیل و تمییز سب پوری کرادی۔ ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَةِ الْغَيْبِيَّةُ“ (۱۳۲۳ھ) اس کا تاریخی نام ہوا اور پنجشنبہ (یعنی جمعرات) کی صبح ہی کو حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی خدمت میں پہنچادی گئی۔

### مکتہ المکرّمہ میں ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ کی پذیرائی

مولانا نے دن میں اسے کامل طور پر مطالعہ فرمایا اور شام کو شریف صاحب کے یہاں لے کر تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز وہاں شروع وقت پر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے نصف شب تک کہ عربی گھڑیوں میں چھ بجتے ہیں! شریف علی پاشا کا دربار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا نے دربار میں کتاب پیش کی اور علی الاعلان فرمایا: ”اس شخص نے وہ علم ظاہر کیا جس کے انوار چمک اٹھے اور جو ہماری خواب میں بھی نہ تھا۔“ حضرت شریف نے کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ دربار میں دو وہابی بھی بیٹھے تھے، ایک احمد فگلیہ کہلاتا، دوسرا عبدالرحمن اسکوبی۔ انہوں نے مقدمہ کتاب کی آمد ہی سن کر سمجھ لیا کہ یہ کتاب رنگ بدل دے گی۔ شریف ذی علم ہیں مسئلہ اُن پر منکشف ہو جائے گا لہذا چاہا کہ سننے نہ دیں، بحث میں الجھا کر وقت گزار دیں۔ کتاب پر کچھ اعتراض کیا، حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے جواب دیا۔ آگے بڑھے، انہوں نے پھر ایک مہمل اعتراض کیا، حضرت مولانا (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے جواب دیا اور فرمایا: ”کتاب سن لیجئے پوری کتاب سننے سے پہلے اعتراض بے قاعدہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کے شکوک کا جواب کتاب ہی میں آئے اور نہ ہو تو میں جواب کا ذمہ دار ہوں اور مجھ سے نہ ہو سکا تو مصنف موجود ہے۔“ یہ فرما کر آگے پڑھنا شروع کیا، کچھ دُور پہنچے تھے، انہیں الجھانا مقصود تھا پھر معترض ہوئے۔ اب حضرت مولانا نے حضرت شریف سے کہا کہ یا سَيِّدَنَا! حضرت کا حکم ہے کہ میں کتاب پڑھ کر سناؤں اور یہ جا بجا بے جا الجھتے ہیں، حکم ہوتا ان

۱: گھڑیاں دو طرح کی ہوتی ہیں (۱) زَوَالِی، (۲) غُرُوبِی۔ زَوَالِی گھڑی کا نظام الاوقات دن کے 12 بجے سے رات 12 بجے تک ہے اور غُرُوبِی گھڑیوں میں غُرُوبِ آفتاب کے وقت 12 بجتے ہیں اور نصف شب 6 بجے ہوتی ہے۔ حرین طیبین میں آج بھی بعض مقامات پر دکھائی دیتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت غالباً انہی گھڑیوں کے حساب سے نصف شب کا وقت بیان فرما رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

کے اعتراضوں کا جواب دُوں یا حکم ہو تو کتاب سناؤں؟ شریف نے فرمایا: ”اِقْرَأْ“ آپ پڑھیے! اب اُن کی ”ہاں“ کو کون ”نا“ کر سکتا تھا؛ معترضوں (یعنی اعتراض کرنے والوں) کا مُنہ مارا گیا اور مولانا کتاب سناتے رہے۔

اس کے دلائل قاہرہ سن کر مولانا شریف نے باوا زبلند فرمایا: ”اَللّٰهُ يُعْطِيْ وَهُوَ لَا يَمْنَعُوْنَ“ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں۔“ یہاں تک کہ نصف شب تک نصف کتاب سنائی، اب دربار برخواست ہونے کا وقت آ گیا۔ شریف صاحب نے حضرت مولانا سے فرمایا: یہاں نشانی رکھ دو، کتاب بغل میں لے کر بالا خانے (یعنی چھت) پر آرام کے لئے تشریف لے گئے وہ کتاب آج تک اُنہیں کے پاس ہے۔

## لوہے ٹھنڈے ہو گئے

اصل سے متعدد نقلیں مکہ معظمہ کے علماء کرام (علیہ رحمۃ اللہ السلام) نے لیں اور تمام مکہ معظمہ میں کتاب کا شہرہ ہوا، وہابیہ پراؤں پڑ گئی۔ بِفَضْلِهِ تَعَالَى سب لوہے ٹھنڈے ہو گئے۔ گلی کوچہ میں مکہ معظمہ کے لڑکے ان سے تَمَسُّخُ کرتے (یعنی مذاق اُڑاتے) کہ اب کچھ نہیں کہتے، اب وہ جوش کیا ہوئے، اب وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علوم غیب ماننے والوں کو کافر کہنا کدھر گیا؟ تمہارا کفر و شرک تمہیں پر پلٹا۔ وہابیہ کہتے: ”اس شخص نے کتاب میں منطقی تقریریں بھر کر شریف پر جادو کر دیا۔“

”اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ پر علمائے حرم کی تقاریض اور انہیں

## ضائع کرنے کے لئے بد مذہبوں کی سازش

مولاء زَوْجَلَّ كَانُ فَضْل، حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم کہ علماء کرام نے کتاب پر دھوم دھامی تقریظیں لکھنی شروع کیں۔ وہابیہ کا دل جلتا اور بس نہ چلتا، آخر اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح فریب کر کے تقریظات تَلَف کر دی جائیں۔ ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت مولانا شیخ ابوالخیر مراد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے عرض کی کہ ہم بھی کتاب پر تقریظیں لکھا چاہتے ہیں، کتاب ہمیں منگوا دیجئے۔ وہ سیدھے مقدس بُرگ اُن کے فریبوں کو کیا جانیں! اپنے صاحبزادے مولانا عبداللہ مراد کو میرے پاس بھیجا، یہ صاحب مسجد حرام کے امام ہیں اور اسی زمانے میں فقیر کے ہاتھ پر بیعت فرما چکے تھے۔ حضرت مولانا ابوالخیر کا منگنا اور مولانا عبداللہ مراد کا لینے کو آنا مجھے شبہہ کی کوئی وجہ نہ ہوتی مگر مولیٰ زَوْجَلَّ کی رحمت میں اُس وقت کتب خانہ حرم شریف میں تھا۔

حضرت مولانا اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) کو اللہ عَزَّوَجَلَّ جَنَّاتِ عالیہ میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں نہایت ترشی اور جلالِ سیادت سے فرمایا: ”کتاب ہرگز نہ دی جائے گی، جو تقریظیں لکھنی ہوں لکھ کر بھیج دو۔“ میں نے گزارش بھی کی کہ ”حضرت مولانا ابوالخیر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) منگاتے ہیں اور ان کے صاحبزادے لینے آئے ہیں اور ان کا جو تعلق فقیر سے ہے آپ کو معلوم ہے۔“ فرمایا: ”جو لوگ وہاں جمع ہیں اُن کو میں جانتا ہوں وہ منافقین ہیں، مولانا ابوالخیر کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔“ یوں اس عالم نبیل سید جلیل کی برکت نے کتاب بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی محفوظ رکھی وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

### ترک فوجی افسر کے ہاتھوں وہابیہ کی ذلت و رسوائی

جب وہابیہ کا یہ مکرب بھی نہ چلا اور مولانا شریف کے یہاں سے بِحَمْدِہِ تَعَالٰی اُن کا منہ کالا ہوا، ایک ناخواندہ (یعنی اُن پڑھ) جاہل کہ نائب الحرم کہلاتا { اُسے کسی طرح اپنے { موافق کیا۔ احمد راتب پاشا اس زمانہ میں گورنر مکہ معظمہ تھے۔ آدمی ناخواندہ مگر دیندار، ہر روز بعدِ عصر طواف کرتے، (وہابیوں نے) خیال کیا کہ شریف ذی علم تھے کتاب سن کر معتقد ہو گئے، یہ بے پڑھا فوجی آدمی ہمارے بھڑکائے سے بھڑک جائے گا۔ ایک روز یہ (یعنی احمد راتب پاشا) طواف سے فارغ ہوئے ہیں کہ نائب الحرم نے اُن سے گزارش کی: ”ایک ہندی عالم نے ہندوستان میں بہت لوگوں کے عقیدے بگاڑ دیئے ہیں اور اب اہل مکہ کے عقیدے خراب کرنے آیا ہے“ اور ساتھ ہی دل میں سوچا کہ یہ کیونکر جمے گی کہ ایک ہندی مکئیوں کے عقیدے بگاڑ دے لہذا مجبوراً اُس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ ”اور اکابر علماء مکہ مثل شیخ العلماء سید محمد سعید باصیل و مولانا شیخ صالح کمال و مولانا ابوالخیر مر داد؛ اُس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔“ مولیٰ تعالیٰ کی شان کہ یہ واقعی بات جو اُس نے مجبوراً نہ کہی اُس پر اُلٹی پڑی۔ پاشا نے کمال غضب ایک چپت اُس کی گردن پر جمائی اور کہا: ”يَا حَبِيْبُ ابْنِ الْحَبِيْبِ يَا كَلْبَ ابْنِ الْكَلْبِ اِذَا كَانَ هُوَ لَآءٍ مَّعَهُ فَهُوَ يَفْسِدُ اَمْ يُصْلِحُ (یعنی) اے خبیث ابن خبیث اے کلب ابن کلب (اے کتے کے بچے) جب یہ اکابر اس کے ساتھ ہیں تو وہ خرابی ڈالے گا یا اصلاح کرے گا۔“

اُس روز سے مولانا سید اسماعیل وغیرہ اسے ”نَاهِبُ الْحَرَمِ (یعنی حرم کا ٹھیرا)“ کہتے اور احمد فکریہ کو احمق سَفِيہ (یعنی انتہائی جاہل و بیوقوف) اور ایک اور مخالف کو مفصوم (یعنی کٹا پھٹا ہوا)۔ مولانا شریف کا دربار مہذب دربار تھا وہاں وہابیہ کو مہذب ذلت پہنچی، یہ ایک جنگی فوجی ترک کا سامنا تھا، اسی طریقے کی ذلت پائی۔

## حُسامِ الحرمین پر علمائے حرم کی تقریظیں

”دولتِ مکہ“ کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کچھ پہلے سے بِفَضْلِهِ تَعَالَى حُسامُ الْحَرَمَیْنِ لے کر روائی جاری کی۔ اکابر نے جو عالیشان تقریظات اس پر لکھیں، آپ حضرات کے پیش نظر ہیں۔ ابتدا ہی میں یہ فتویٰ حضرت مولانا شیخ صالح کمال کے پاس تقریظ کو گیا تھا، ادھر حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے کتاب سنانے کے ضمن میں حضرت شریف سے خلیل احمد کے عقائدِ ضالہ (یعنی گمراہی کن عقائد) اور اس کی کتاب ”براہینِ قاطعہ“ کا بھی ذکر کر دیا تھا۔

## خلیل انبیٹھی کا راہ فرار اختیار کرنا

انبیٹھی کو خبر ہوئی، مولانا کے پاس کچھ اشرفیاں نذرانہ لے کر پہنچے اور عرض کی کہ حضرت مجھ پر کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا: کیا تم خلیل احمد ہو؟ کہا: ہاں! مولانا نے فرمایا: ”تجھ پر افسوس! تو نے براہینِ قاطعہ میں وہ شنیع (یعنی بری) باتیں کیسے لکھیں ہیں تو تجھے زَنَدِیقُ (یعنی بے دین و کافر) لکھ چکا ہوں۔“ {اس سے پہلے مولانا غلامِ دستگیرِ قسوری مرحوم کتاب ”تَقْدِیْسُ الْوَاكِلِ عَنِ تَوْهِنِ الرَّشِیْدِ وَالْخَلِیْلِ“ لکھ کر علمائے مکہ سے تقریظیں لے چکے تھے اس پر مولانا شیخ صالح کمال کی بھی تقریظ ہے اور اس میں انبیٹھی اور ان کے استاد گنگوہی صاحب کو زندیق لکھا ہے {

انبیٹھی نے کہا: ”حضرت جو باتیں میری طرف نسبت کی گئی ہیں اَفْتَرُ (یعنی بہتان) ہیں میری کتاب میں نہیں ہیں۔“ فرمایا: تمہاری کتاب براہینِ قاطعہ چھپ کر شائع ہو چکی ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ انبیٹھی نے کہا: حضرت! کیا کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا: ہوتی ہے۔ مولانا نے چاہا کسی مُنْتَزِعِمْ کو بلائیں اور براہینِ قاطعہ انبیٹھی کو دکھا کر ان کلمات

۱: علمِ کلام کی مشہور کتاب ”الْمُعْتَقَدُ الْمُنْتَقَدُ“ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر کردہ حاشیہ مبارکہ ”الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَدُ“ کا وہ حصہ جس میں آپ نے چند بد مذہبوں کی کفریہ عبارات و نظریات ذکر کر کے اس پر حکمِ شرعی بیان فرمایا تھا، جب مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے اکابر علمائے اسلام کے سامنے تصدیق کے لئے پیش کیا گیا تو ان حضرات نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ ”مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ وَعَدَّ ابَهُمْ فَقَدْ كَفَرَ“، یعنی جو ان لوگوں کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ۱۳۲۲ھ میں ۳۳ جلیل القدر علماء نے زبردست تقریظیں لکھیں اور واشگاف الفاظ میں تحریر کیا کہ ”مرزا قادیانی کے ساتھ ساتھ افرادِ مذکورہ بلاشک و شبہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں“ اور سرکارِ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ربِّ العزت کو حمایتِ دین کے سلسلے میں بلا خوفِ لَوْمَةٍ لائِمٍ اخفاقِ حق و ابطالِ باطل پر بھرپور خراجِ تحسین پیش کیا۔ علمائے حرمینِ مطہین کے برائے فتوے اور تقریظات ”حُسامُ الْحَرَمَیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْكُفْرِ وَالْمِیْنِ“ کے نام سے ۱۳۲۲ھ میں شائع کر دیئے گئے۔

کا اقرار کرنا کر تو بہ لیں مگر اٹیٹھی صاحب رات ہی میں جدہ کو فرار ہو گئے۔ حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے حضرت مولانا سید اسمعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) کو اس واقعہ کی اطلاع کا خط بھیجا اور انہوں نے بعینہ اپنے خط میں رکھ کر مجھے بھیج دیا۔ وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ صبح کو حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) فقیر کے پاس تشریف لائے

اٹیٹھی کے بارے میں مولانا صالح کمال کا ایک نامی نامہ

۱:

صاحب الفضیلة والاخلاق والمحبۃ الجمیلة حضرة السيد اسمعیل افندی حافظ الکتب حضر عندنا قبل تاریخة رجل من اهل الهند یقال له خلیل احمد مع بعض علماء الهند المجاورین بمکة يستعطف خاطرنا علیہ لانه قد بلغه انی شدید الغیظ علیہ وانا لا اعرفه شخصا فقال یاسیدی بلغنی انکم واجدون علیّ وذلک بسبب انی ذکر ت ما وقع منه فی البراهین القاطعة لدى حضرت الامیر حفظه الله فقلت له لعلک خلیل احمد الانیتهی فقال نعم فقلت له ویحک کیف تقول فی البراهین قاطعه تلک المقالات الشنیعة وتجوز الکذب علی الله جل جلاله کیف لا اغتاض علیک ولقد کتبت علیها بانک رجل زندق وکیف تعتذر و تنکر و هی قد طبعت و شاعت عنک و قال یا سیدی هی لی ولكن لیس فیها تجویز الکذب علی الله ولان کان فیها فانا تائب وراجع عما فیها مما یخالف اهل السنة والجماعة فقلت له ان الله یحب التائبین والبراهین موجوده و ساخرج لک منها هذا الذی انکرته وتجارتہ به علی الله جل شانہ فصار ینتصل و یعتذر و یقول ان کان فهو مکذوب علیّ و انا رجل مسلم موحد من اهل السنة والجماعة ما قلت فیها هذا ولا غیره مما یخالف مذهب اهل السنة والجماعة فتعجبت منه کیف ینکر ما هو مطبوع فی رسالته البراهین القاطعة المطبوعة بلسان الهند وظهر لی انه انما قال ذالک تقیة کانهم مثل الرافضة یرون النقیة واجبة و اردت ان احضرها واحضر من یفهم ذالک اللسان لاقرره وما فیها واستتیبه لکنه فی ثانی یوم من معینہ عندنا هرب الی جدہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله احببنا اعلامکم بذلک ودمتم! محمد صالح کمال ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ

**ترجمہ خط:** بزرگی اور اخلاق اور محبت جمیلہ والے حضرت سید اسمعیل آفندی حافظ الکتب! آیا ہمارے پاس آج سے پہلے ایک شخص ہندی جس کو خلیل احمد کہا جاتا ہے ہماری میں بعض علمائے ہندی جو مکہ میں مجاور ہیں مہربان کرنا چاہتا تھا ہمارے دل کو اپنے اوپر اس لیے کہ اسے خبر پہنچی کہ میں سخت ناراض ہوں اس پر، پس کہا: اے میرے سردار مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ مجھ پر ناراض ہیں۔ یہ آنا اس کا اس سبب سے تھا کہ جو کچھ اس سے براہین قاطعہ میں واقع ہوا تھا اس کو میں نے حضرت امیر حفظہ اللہ سے ذکر کر دیا تھا۔ پس میں نے اس سے کہا: شاید تو خلیل احمد اٹیٹھی ہے۔ کہا: ہاں۔ میں نے کہا: تجھ پر فسوس ہے! تو کیوں کر کہتا ہے براہین قاطعہ میں یہ گندی باتیں اور جائز رکھتا ہے تو کذب اللہ جل جلالہ پر، کیوں کر نہ ناراض ہوں میں تجھ پر اور البتہ تحقیق لکھ چکا ہوں میں تجھ کو ان کے برابر زندق اور کس طرح عذر کرتا ہے اور انکار کرتا ہے حالانکہ براہین قاطعہ چھپ کر تیری جانب سے شائع ہو چکی ہے۔ پس کہا: اے سردار وہ کتاب تو میری ہے مگر اس میں امکان کذب کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر ہے اس میں تو میں تو بہ کرتا ہوں اور اس میں جو کچھ مخالفت مذہب اہلسنت وجماعت ہے اس سے رجوع کرتا ہوں۔ پس میں نے کہا: بے شک اللہ تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور براہین میرے پاس موجود ہے ابھی نکالتا ہوں وہ کہ جس کا تو نے انکار کیا ہے اور جرأت کی تو نے اللہ جل شانہ پر تو عذر و خوشامد کرنے لگا اور بولا اگر وہ براہین قاطعہ میں ہے تو مجھ پر اٹھتا ہے اور میں مسلمان مؤحد سنی ہوں، میں نے نہ اس میں یہ کہنا نہ کچھ اور جو مخالفت مذہب اہل سنت ہے۔ مجھے تعجب ہوا کیوں کر انکار کرتا ہے اس بات کا، جو چھاپی جا چکی اس کے رسالہ براہین قاطعہ میں کہ زبان ہندی میں طبع ہوئی اور مجھ پر کھل گیا کہ وہ یہ باتیں تقیہ سے کہتا ہے گویا وہ مثل روافض کے ہے جو تقیہ کو واجب جانتے ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ براہین قاطعہ لاؤں اور اس شخص کو بلاؤں جو اس زبان کو سمجھتا ہے تاکہ اس سے اقرار لوں اس کا جو کچھ کہ براہین قاطعہ میں ہے اور تو بہ لوں لیکن وہ ہمارے پاس آنے کے دوسرے دن جدہ کو بھاگ گیا "ولا حول ولا قوۃ الا بالله" ہم نے دوست رکھا خبردار کرنا اس واقعہ پر آپ کو اور آپ ہمیشہ رہیں۔

محمد صالح کمال ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ

اور خود یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا: ”میں نے سنا کہ وہ رات ہی میں بھاگ گیا۔“ میں نے کہا: ”مولانا! آپ نے بھگا دیا۔“ فرمایا: ”میں نے!“ میں نے کہا: ”ہاں! آپ نے۔“ فرمایا: ”یہ کیونکر؟“ میں نے عرض کیا: ”جب اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے کیا فرمایا؟“ فرمایا: ”میں نے کہا ہوتی ہے۔“ میں نے کہا: ”اسی نے اُسے بھگایا، آپ کو یہ فرمانا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کی توبہ قبول نہیں۔“ فرمایا: ”واللہ! یہ مجھ سے رہ گئی۔“ میں نے کہا: ”تو آپ ہی نے بھگایا۔“

### علمائے حرم کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی دعوتیں

زمانہ قیام میں علماء عظماء مکہ معظمہ نے بکثرت فقیر کی دعوتیں بڑے اہتمام سے کیں۔ ہر دعوت میں علماء کا مجمع ہوتا، مذاکرات علمیہ رہتے۔ شیخ عبدالقادر کردی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے شاگرد تھے۔ مسجد الحرام شریف کے احاطے ہی میں اُن کا مکان تھا انہوں نے تَقَرَّرِ دَعْوَت (یعنی دعوت رکھنے) سے پہلے باصرار تام (مکمل اصرار سے) پوچھا کہ تجھے کیا چیز مرغوب (یعنی پسند) ہے؟ ہر چند عذر کیا، نہ مانا، آخر گزارش کی کہ ”اَلْحُلُوُّ الْبَارِد“ شیریں سرد۔ اُن کے یہاں دعوت میں اَنْوَاعِ اطْعَمَہ (یعنی طرح طرح کے کھانے) جیسے اور جگہ ہوتے تھے، ان کے علاوہ ایک عجیب نفیس چیز پائی کہ اس ”اَلْحُلُوُّ الْبَارِد“ کی پوری مصداق تھی، نہایت شیریں و سرد اور خوش ذائقہ! ان سے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ کہا: ”رَضِيُّ الْوَالِدَيْنِ“ اور وجہ تسمیہ (یعنی نام کی وجہ) یہ بتائی کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں یہ پکا کر کھلائے راضی ہو جائیں۔

### علمائے حرم کی تشریف آوری

فقیر دعوتوں کے علاوہ صرف چار جگہ ملنے کو جاتا۔ مولانا شیخ صالح کمال اور شیخ العلماء مولانا محمد سعید باصیل اور مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی اور کتب خانے میں مولانا سید اسماعیل کے پاس، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات اور باقی تمام حضرات فرزدگاہ فقیر (یعنی قیام گاہ) پر تشریف لایا کرتے، صبح سے نصف شب کے قریب تک ملاقاتوں ہی میں وقت صرف ہوتا۔ مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی تشریف آوری کی تو گنتی نہیں اور مولانا سید اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) التزاماً روزانہ تشریف لاتے خصوصاً ایام علالت میں کہ یکم محرم ۱۳۲۶ھ سے سَلَخِ محرم (یعنی محرم کے آخری دنوں) تک مسلسل رہی،

دن میں دوبار بھی تشریف لاتے اور ایک بار کا آنا تو ناعہ ہی نہ ہوتا۔ آخر محرم میں کہ طبیعت بہت رُو بہ صحت ہو گئی تھی، ایک ضرورت کے سبب دو روز تشریف لانا نہ ہوا۔ اُن دو روز میں میرا اُن کی طرف اشتیاق میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے اُن سید جلیل کو ایک پرچے پر یہ تین شعر لکھ کر بھیجے۔

هَذَا يَوْمَانِ مَا فُرْنَا بِطَلْعَتِكُمْ      وَوَقَدَرْنَا جَعَلْنَا رَأْسَنَا قَدَمَا

قَالُوا لِقَاءَ حَلِيلٍ لِّلْحَلِيلِ شِفَا      أَلَا تُجِبُونَ أَنْ تَبْرُوا لَنَا سَقَمَا

عَوْدُ تُمْوْنَا طُلُوعَ الشَّمْسِ كُلِّ ضَحَى      وَهَلْ سَمِعْتُمْ كَرِيمًا يَقْطَعُ الْكَرَمَا

اس رقعہ کو دیکھ کر سپد موصوف کی جو کیفیت ہوئی حاملِ رقعہ نے دیکھی، فوراً اُس کے ساتھ ہی تشریف لے آئے اور پھر روزِ رخصت تک کوئی دن خالی جانا مجھے یاد نہیں۔

## مولانا عبدالحق الہ آبادی سے ملاقات

حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی (علیہ رحمۃ اللہ الہادی) کو چالیس سال سے زائد مکہ معظمہ میں گزرے تھے، کبھی تشریف کے یہاں بھی تشریف نہ لے گئے۔ قیام گاہ فقیر پر دو بار تشریف لائے۔ مولانا سید اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) وغیرہ ان کے تلامذہ فرماتے تھے کہ یہ محض خرقِ عادت ہے۔ مولانا کا دم (یعنی وجود) بسا (یعنی بہت) غنیمت تھا، ہندی تھے مگر ان کے انوار مکہ میں چمک رہے تھے، التزاماً ہر سال حج کرتے۔ مولانا سید اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) فرماتے تھے کہ ایک سال زمانہ حج میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب (علیہ رحمۃ اللہ الوہاب) بہت علیل اور صاحبِ فراش تھے، نویں تاریخ اپنے تلامذہ سے کہا: ”مجھے حرم شریف میں لے چلو!“ کئی آدمی اٹھا کر لائے کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی کہ ”اللہم (عَزَّوَجَلَّ) حج سے محروم نہ رکھ۔“ اُسی وقت مولیٰ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا۔

۱: **ترجمہ اشعار:** (۱) یہ دو دن ہیں کہ ہمیں دیدار نہ ملا اور ہم میں طاقت ہوتی تو سر سے آتے۔ (۲) لوگ کہتے ہیں: لقاے خلیل شفا ہے علیل ہے یعنی دوست کا آنا مرض کا جانا ہے۔ کیا آپ ہمارے مرض کی شفا نہیں چاہتے؟ (۳) آپ نے ہمیں عادی کر دیا کہ ہر چاشت کو سورج طلوع کرے اور آپ نے کسی کریم کو سنا ہے کہ کرم قطع کرے۔ ۱۲

## مفتی حنفیہ سے ملاقات

مکہ معظمہ میں بنام ”علم“ کوئی صاحب ایسے نہ تھے جو فقیر سے ملنے نہ آئے ہوں سوا شیخ عبداللہ بن صدیق بن عباس کے کہ اس وقت مفتی حنفیہ تھے اور وہاں مفتی حنفیہ کا منصب شریف سے دوسرے درجے میں سمجھا جاتا ہے، اپنے منصب کی جلالتِ قدر (یعنی عظیم الشان ہونے) نے انہیں فقیرِ غریب الوطن کے پاس آنے سے روکا۔ اپنے ایک شاگردِ خاص کو فقیر کے پاس بھیجا کہ حضرت مفتی حنفیہ نے بعد سلام فرمایا ہے کہ میں آپ کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں۔ مولانا سید اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) اس وقت میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے چاہا کہ حاضری کا وعدہ کروں مگر اللہ اعلم (عَزَّوَجَلَّ) حبیبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم نے ان اکابر کے دل میں اس ذرہ بے مقدار کی کیسی وقعت ڈالی تھی، فوراً روکا اور فرمایا: ”واللہ (عَزَّوَجَلَّ) بینہ ہوگا، تمام علما ملنے آئے ہیں وہ کیوں نہیں آتے!“ میں ان کی قسم کے سبب مجبور رہا مگر تقدیرِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) میں ان سے ملنا تھا اور نئی شان سے تھا۔ اس کا ذریعہ یہ ہوا کہ انہیں دنوں میں مولانا عبداللہ مراد و مولانا حامد احمد محمد جدّ اوی نے نوٹ کے بارے میں فقیر سے استفتاء کیا تھا جس میں بارہ سوال تھے اور میں نے بکمالِ استِعْجَال (یعنی انتہائی جلدی میں) اس کے جواب میں رسالہ ”کِفْلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ فِي أَحْكَامِ قِرطاسِ الدَّرَاهِمِ“ تصنیف کیا تھا، وہ تمییز کے لیے حرم شریف کے کتب خانے میں سید مصطفیٰ برادر خرد مولانا سید اسماعیل کے پاس تھا کہ نہایت جمیل الخط ہیں۔ زمانہ سابق میں جب میرے استاذ الاستاذ حضرت مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی حنفیہ تھے، ان سے نوٹ کے بارے میں سوال ہوا تھا اور جواب تحریر فرمایا تھا کہ ”علم علما کی گردنوں میں امانت ہے مجھے اس کے جزئیہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کچھ حکم دوں۔“ ایک دن میں کتب خانہ میں جاتا اور ایک شان دار صاحب کو بیٹھے دیکھتا ہوں کہ میرا رسالہ ”کِفْلُ الْفَقِيهِ“ مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچے، جہاں میں نے ”فتح القدیر“ سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہزار روپیہ کو بیچے جائز ہے مگر وہ نہیں۔ (فتح القدیر، کتاب الکفالة، ج ۶، ص ۳۲۴) پھر ٹکڑا اٹھے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولے: ”أَيْنَ جَمَالُ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا النَّصِّ الصَّرِيحِ! حضرت جمال بن عبداللہ اس نص صریح سے کہاں غافل رہے!“

پھر کوئی مسئلہ دیکھنا تھا اس کے لئے کتابیں نکلوائیں، ان کی عبارتیں نکال کر نقل کرنا چاہتے تھے اور میں رسالے کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کا کرنسی نوٹوں کے بارے میں تحقیقی رسالہ جس کی شہرت عرب و عجم میں ہے۔ المدینۃ العلمیۃ کی طرف سے تخریج و تسمیہ کے بعد ”کرنسی نوٹ کے احکام“ کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہو چکا ہے۔



نقل کی تَصْحیح (نص - حیح) کر رہا تھا۔ اس وقت تک نہ انہوں نے مجھے جانا ہے نہ میں نے ان کو، اتنے میں انہوں نے دوات ایک ایسی کتاب پر رکھ دی جسے نہ دیکھ رہے تھے نہ اس سے کچھ نقل کر رہے تھے، میں نے ان پر نہ اعتراض کیا بلکہ کتاب کی تعظیم کے لئے اتار کر نیچے رکھ دی، انہوں نے پھر اٹھا کر کتاب پر رکھ دی اور کہا ”بَحْرُ الرَّائِقِ كِتَابُ الْكِرَاهِيَةِ“ میں اس کے جواز کی تصریح ہے۔ میں نے ان سے یہ تو نہ کہا کہ ”بَحْرُ الرَّائِقِ“ كِتَابُ الْكِرَاهِيَةِ تک کب پہنچی وہ ”كِتَابُ الْفَضَاءِ“ میں ہی ختم ہو گئی ہے، ہاں یہ کہا کہ ایسا نہیں بلکہ ممانعت کی تصریح فرمائی ہے مگر لکھتے وقت بضرورت مثلاً وَرَقٌ هُوَ مِنْ أَرْضِ نَهْمٍ۔ کہا کہ میں لکھنا ہی تو چاہتا ہوں میں نے کہا: ابھی لکھتے تو نہیں ہو، وہ خاموش ہو رہے اور حضرت سید اسماعیل سے مجھے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہی اس رسالے کا مصنف ہے، اب ملے مگر تجلت (یعنی شرمندگی) کے ساتھ اور عجلت کے ساتھ (یعنی جلدی سے) اٹھ گئے۔ حضرت سید اسماعیل نے فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ! یہ کیسا واقعہ ہوا۔“

## آبِ زَمِ زَمِ سے علاج

یہ چہارم صفر ۱۳۲۴ھ تھی اس سے پہلے محرم شریف میں شدید و مَدید (یعنی انتہائی سخت اور طویل) دورہ بخار کا رہ چکا تھا۔ دوبارہ مسہل ہوئے، ایک بار ایک ہندی کی رائے سے اور نفع نہ ہوا۔ دوبارہ ایک ترکی ڈاکٹر رمضان آفندی نے بہت قلیل مقدار میں ایک نمک دیا کہ آبِ زمزم شریف میں ملا کر پی لو اور پیاس بے پیاس زمزم شریف کی کثرت کرو۔ اس سے بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بہت نفع ہوا اور انہوں نے دوا وہ بتائی جو مجھے بالطبع محبوب و مرغوب تھی یعنی زمزم شریف کہ مجھے ہر مشروب سے زیادہ عزیز ہے، میری عادت ہے کہ باسی پانی کبھی نہیں پیتا اور اگر پیوں تو با آنکہ (یعنی اس وجہ سے کہ) مزاج گرم ہے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے حکیم سید وزیر علی مرحوم نے میرے یہاں باسی پانی کو منع کر دیا تھا، جب سے معمول ہے کہ رات کے گھڑے بالکل خالی کر کے پینے کا پانی بھرا جاتا ہے تو میں نے دودھ بھی باسی پانی کا نہ پیا، نہ کبھی نہ ہار منہ پانی پیتا ہوں، نہ کبھی کھانے کے سوا اور وقت میں، گرمیوں کی سہ پہر میں جو پیاس ہوتی ہے اس میں کلیاں کرتا ہوں اس سے تسکین ہوتی (یعنی سکون ملتا) ہے مگر زمزم شریف کی برکت کہ صحت میں، مرض میں، دن میں، رات میں، تازہ باسی بکثرت پیا اور نفع ہی کیا۔ زور قیس (یعنی پانی بھرنے کے ڈنڈی دار برتن) ہر وقت بھری رکھی رہتی تھیں، بخار کی شدت میں رات کو جب آنکھ کھلی۔ کلی

کر کے زمزم شریف پی لیا۔ وضو سے پہلے پیتا، وضو کے بعد پیتا بارہ بارہ زور قیں ایک دن رات میں صرف میرے  
صَرف (یعنی استعمال) میں آتیں، پونے تین مہینے کے قیام مکہ معظمہ میں میں نے حساب کیا تو تقریباً چار مَن زمزم شریف  
میرے پینے میں آیا ہوگا۔

حضرت مولانا سید اسمعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) کو اللہ تعالیٰ جنات عالیہ نصیب فرمائے، میری واپسی حج کے چند سال  
بعد ۱۳۲۵ھ میں مجھ سے ملنے آئے ہیں اور میرے شوقِ زمزم کا ذکر ہوا، فرمایا تھا ”کہ ہر مہینے اتنے طنک یعنی پیئے بھیج دیا  
کروں گا کہ تمہارے ایک مہینے کے صرف کو کافی ہوں۔“ مگر یہاں سے جاتے ہی انہیں سہر باب عالی کی ضرورت ہوئی اور  
مشیتِ الہی کہ وہیں انتقال فرمایا۔ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً

## عُلَمَاءِ حَرَمِ كَا عِبَادَتِ كَلِے اَنَا

حرم شریف مجھے تقریباً بخار ہی میں گزرا، اُسی حالت میں علمائے کرام کو اجازت لکھی جاتیں اور اسی حالت میں  
”كِفْلُ الْفَقِيْهِ“ تصنیف ہوا۔ وہاں پلنگ کا بھی رواج نہیں بالا خانوں (یعنی گھر کی اوپری منزلوں میں) میں زمین پر فرش ہیں اس  
پر سوتے ہیں مگر حضرت سید اسمعیل و حضرت مولانا شیخ صالح کمال رحمہما اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک عمدہ پلنگ منگوا دیا تھا۔ ایامِ  
مرض میں میں اسی پر ہوتا اور علماء عظماء عیادت کو آتے اور فرش پر تشریف رکھتے میں اس سے ناوم ہوتا، ہر چند چاہتا کہ نیچے  
اُتروں مگر قسموں سے مجبور فرماتے۔

## سَفَرِ مَدِيْنَةِ كِي تِيَارِي

امتدادِ مرض (یعنی بیماری کے طویل ہو جانے) میں مجھے زیادہ فکرِ حاضری سرکارِ اعظم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی تھی۔  
جب بخار کو امتداد دیکھا، میں نے اُسی حالت میں قصدِ حاضری کیا، یہ علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) مانع ہوئے (یعنی روکنے لگے)۔ اوّل  
تو یہ فرمایا ”کہ حالت تو تمہاری یہ ہے اور سفر طویل!“ میں نے عرض کی: ”اگر سچ پوچھے تو حاضری کا اصل مقصود زیارتِ طیبہ  
ہے، دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، مَعَاذَ اللَّهِ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔“ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت

کا اِشعار کیا (یعنی میری حالت یاد دلائی)۔ میں نے حدیث پڑھی:

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يُزْرَنْجِي فَقَدْ جَفَّانِيْ  
جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جھکا۔

(کشف الخفاء، الحدیث ۲۴۵۸، ج ۲، ص ۲۱۸)

فرمایا: ”تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔“ میں نے کہا: ”میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے، اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تک پہنچ لوں۔ روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگر چہ اسی وقت دم نکل جائے۔“

## حضرت مولانا شیخ صالح کمال کا اجازتیں لینا اور مسائل دریافت کرنا

حضرت مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو اللہ تعالیٰ جنّاتِ عالیہ عطا فرمائے بآں (یعنی باوجود اس) فضل و کمال کہ میرے نزدیک مکہ معظمہ میں ان کے پائے کا دوسرا عالم نہ تھا، اس فقیر حقیر کے ساتھ غایت اعزاز بلکہ ادب کا برتاؤ رکھتے، بار بار کے اصرار کے ساتھ مجھ سے اجازت نامہ لکھوایا، جسے میں نے ادباً کئی روز ٹالا، جب مجبور فرمایا لکھ دیا۔ تین تین پہر میری ان کی مُجائست (یعنی بیٹھک) ہوتی اور اس میں سو ”مذاکراتِ علمیہ“ کے کچھ نہ ہوتا۔ جس زمانے میں قاضی مکہ معظمہ رہے تھے اس وقت کے اپنے فیصلوں کے مسئلے دریافت فرماتے، حقیر جو بیان کرتا اگر ان کے فیصلے کے موافق ہوتا بشاشت و خوشی کا اثر چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتا اور مخالف ہوتا تو ملال و کبیدگی اور یہ سمجھتے کہ مجھ سے حکم میں لغزش ہوئی۔ مجھے بھی ان دونوں صاحبوں کے کرم کے سبب ان سے کمال بے تکلفی! ہر قسم کی بات گزارش کر دیتا۔ ایک بار کہا: ”موذّٰنوں نے یہ جواذان واقامت و تکبیرات انتقال میں نعمات ایجاد کیے ہیں آپ حضرات ان سے منع نہیں فرماتے؟“ ”فتح القدیر“ میں مبلغ (یعنی مکتبہ) کے نغموں کو مفسد نماز لکھا ہے۔ (فتح القدیر، کتاب الصلاة، باب الامامة، ج ۱، ص ۳۲۲) اور یہ کہ اس کی تکبیرات پر جو مقتدی رکوع و سجود وغیرہ افعال نماز کرے گا اس کی نماز نہ ہوگی۔“ فرمایا: ”حکم یہی ہے مگر ان پر علما کا بس نہیں (چلتا)، یہ جانب سلطنت سے ہیں۔“

## خطیب کی اصلاح

ایک جمعہ میں میں خطیب کے قریب تھا، اس نے خطبے میں پڑھا:

وَأَرْضٍ عَنِ أَعْمَامِ نَبِيِّكَ الْأَطَائِبِ (اور اپنے نبی کے پاک چچا ”حمزہ، عباس اور ابو

حمزہ وَالْعَبَّاسِ وَ أَبِي طَالِبٍ طالب“ سے راضی ہو۔ت)

یہ بدعت تازہ ایجاد ہوئی، پہلی بار کی حاضری میں نہ تھی اور یہ بدعاہتہً جانب حکومت سے تھی، اسے سنتے ہی فوراً میری زبان سے آواز بلند نکلا:

اللَّهُمَّ هَذَا مُنْكَرٌ (الہی! یہ بُرا ہے۔ت)

کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ (تم میں جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ

بیدہ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان

أَضْعَفُ الْإِيمَانِ سے بھی روکنے کی قدرت نہ ہو تو دل میں برا

جانے اور یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔ت)

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النهی عن المنکر..... الخ، الحدیث ۴۹، ص ۴۴)

فقیر بتوفیق رب کریم یہ حکمِ احکم بر وَجْهِ اَوْ سَطِّ بَجَالَا یا (یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس مضبوط حکم کی تعمیل درمیانے درجے ”زبان کے ذریعے روک کر“ کی) اور مولیٰ تعالیٰ کی رحمت کہ کسی کو تَعَسَّرَ ض (یعنی آڑے آنے) کی جرأت نہ ہوئی، فرضوں کے بعد ایک اعرابی (یعنی عرب شریف کے رہنے والے ایک دیہاتی) نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا: ”رَأَيْتَ“ تم نے دیکھا! میں نے کہا ”رَأَيْتُ“ ہاں دیکھا۔ کہا: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ اور تشریف لے گئے۔ دونوں اکابر علماء نے ہماری مجلس خلوت (یعنی تنہائی) میں اس کی مبارک بادی کہ اس رَدِّ مُنْكَرٍ (یعنی برائی روکنے) پر کوئی مُعْتَرِضٌ نہ ہو اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے اُمور میں کہ جانب حکومت سے ہیں سُنُّوْتِ شَايَا (یعنی خاموشی بہتر) ہے۔

۱: اس مسئلے کی نفسِ تفصیل و تحقیق پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کا رسالہ مبارکہ ”شَرْحُ الْمَطَالِبِ فِي مَبْحَثِ أَبِي طَالِبٍ“ فتاویٰ رضویہ شریف جلد 29 میں ملاحظہ کیجئے۔

## سید جلیل کی عقیدت

اسی واقعہ مفتی حنفیہ کے وقت میں نے جناب سید مصطفیٰ خلیل برادر حضرت سید اسماعیل (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) سے کہا ”ہَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ هُزْمَةِ جَبْرِئِلَ“ آپ کے پاس سیدنا جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ٹھوکر کا کچھ بقیہ ہے؟ سید زادے نے فرمایا: ”نَعَمْ (یعنی ہاں)“ اور کٹورے میں زمزم شریف لائے۔ میں اسے ضعف (یعنی کمزوری) کے سبب بیٹھا ہی ہوا پی رہا تھا، آنکھیں نیچی تھیں، جب نظر اٹھائی، دیکھا تو وہ سید جلیل مودب ہاتھ باندھے کھڑے تھے یہاں تک کہ کٹورا میں نے انہیں دیا۔ یہ حال ان مُعَظَّمٍ وَمُعَرَّزٍ بندگانِ خدا کے ادب و اِجْتِمَال کا تھا۔

## حضرت شیخ صالح کمال کی محبت

بائیں ہمہ (یعنی اس سب تعظیم و توقیر کے باوجود) شدتِ مرض و شوقِ مدینہ طیبہ میں جب وہ جملہ میں نے کہا کہ ”روضہ انور پر ایک نگاہ پڑ جائے پھر دم نکل جائے۔“ دونوں علمائے کرام کا غصے سے رنگ مٹیر ہو گیا اور حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے فرمایا: ”ہرگز نہیں بلکہ ”تَعُوذُ ثُمَّ تَعُوذُ ثُمَّ تَعُوذُ ثُمَّ يَكُونُ تَوْرُوضَةً اَنْوَرًا بِرَابِ حَاضِرٍ هُوَ، پھر حاضر ہو، پھر حاضر ہو، پھر مدینہ طیبہ میں وفات نصیب ہو۔“ مولیٰ تعالیٰ اُن کی دُعا قبول فرمائے۔

## والد محترم کی بشارت

ان کی اس غایتِ محبت کے غصے نے مجھے وہ حالت یاد دلانی جو اس حج سے تیرہ چودہ برس پہلے میں نے خواب میں اپنے حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ العزیز سے دیکھی تھی۔ میں اس زمانہ میں شدتِ دردِ کمر اور سینہ میں مبتلا تھا اسے بہت امتداد و اشتداد ہوا تھا (یعنی یہ درد بہت طویل و شدید تھا)۔ ایک روز دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے شاگرد مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور حضرت پیر مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے۔ کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیر و مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو رواں (یعنی جاری) نہ ہوتے، جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے زمین پڑھو کر ماری تھی جس سے زمزم نکل آیا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن، البقرة، تحت الآیة: ۲۵۱، ج ۲، ص ۱۹۶) غالباً یہاں اسی روایت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

اُترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔ ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مُشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ عرض کی: یا رسول اللہ! (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْکَ وَسَلَّمَ) حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا: ”برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔“ الحمد للہ! یہ جنازہ مبارک میں نے پڑھایا کہ یہ وہی برکات احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھیں کہ محبتِ پیر و مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئیں۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ ۗ  
 وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٥١﴾  
 ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔  
 (پ ۲۸، الجمعة: ۴)

ہاں تو اس خواب میں دیکھا کہ مولوی برکات احمد صاحب (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) بھی حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز کے ہمراہ میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ دونوں حضرات نے مزاج پرسی فرمائی۔ میں شدتِ مرض سے تنگ آچکا تھا، زبان سے نکلا کہ ”حضرت دعا فرمائیں کہ اب خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔“ یہ سنتے ہی حضرت والد ماجد قدس سرہ الشریف کا رنگ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا: ”ابھی تو باون برس مدینے شریف میں۔“ واللہ اعلم! اس ارشاد کے کیا معنی تھے مگر اس کے بعد جو دوبارہ حاضری مدینہ طیبہ ہوئی ہے اُس وقت مجھے باون وال (52) ہی سال تھا یعنی اکاون برس پانچ مہینے کی عمر تھی، یہ چودہ برس کی پیش گوئی حضرت نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامانِ غلام کے کشفِ بردار ہیں، علومِ غیب دیتا ہے اور وہاں یہ کو جناب سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے انکار ہے۔

۱: حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرکت کا معاملہ ایسا ہے جس کی نظیر دورِ صحابہ میں بھی موجود ہے چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آکر فرمایا ”لا حضر جنازة ایہ بکر الصدیق“ مجھے ابو بکر کے جنازہ میں جانا ہے (فتوح الشام، ج ۱، ص ۷۲) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۲۵) امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں ”امت کے نیک لوگوں کے جنازہ میں تشریف لے جانے وغیرہ ایسے امور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعالِ برزخیہ میں سے ہیں جیسا کہ احادیث و آثار میں وارد ہوا۔“ (الحواری للفتاویٰ، ج ۲، ص ۱۸۵ حدیث ۳۷۹۶) ۲: یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے نیک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں۔ (تحقیقات ص ۱۲۸)

## روزہ نہ چھوڑنا

ابھی چند سال ہوئے ماہِ رجب میں حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ الشریف خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: ”اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا روزہ نہ چھوڑنا۔“ ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا (مگر) میں نے بِحَمْدِ اللّٰهِ تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بِفَضْلِهِ تَعَالٰی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے:

صَوْمُوا تَصِحُّوا

روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔

(المعجم الاوسط، الحدیث ۸۳۱۲، ج ۶، ص ۱۴۷)

## پڑھنے کی خواہش

وہ حضرات علماء بہت اس کے مُتَمَنِّی (یعنی خواہش مند) رہتے کہ کسی طرح میرا وہاں قیام زائد ہو۔ حضرت مولانا سید اسماعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) نے فرمایا: ”یہاں کی شدت گرمی تمہارے لیے باعثِ تپ (یعنی بخار کا سبب) ہے۔“ طائف شریف میں موسم نہایت مُعْتَدِل اور وہاں میرا مکان بہت پُر فضا ہے، چلنے گرمی کا موسم وہاں گزاریں۔“ میں نے گزارش کی کہ ”اس حالتِ مرض میں قابلیتِ سفر ہو تو سرکارِ اعظم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہی کی حاضری ہو۔“ ہنس کر فرمایا کہ ”میرا مقصود یہ تھا کہ چند مہینے وہاں تنہائی میں رہ کر تم سے کچھ پڑھتے کہ یہاں تو آمد و شد (یعنی آنے جانے والوں) کے ہجوم سے تمہیں فرصت نہیں۔“

## شادی کی پیش کش

مولانا شیخ صالح کمال (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا: ”اجازت ہو تو ہم یہاں تمہاری شادی کی تجویز کریں۔“ میں نے کہا: ”وہ کنیز بارگاہِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) جسے میں اُس کے دربار میں لایا اور اُس نے مناسکِ حج ادا کیے، کیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں اسے یوں مَغْمُوم (یعنی غم زدہ) کروں؟“ فرمایا: ”ہمارا خیال یہ تھا کہ یوں یہاں تمہارے قیام کا سامان ہو جاتا۔“

## وہ بُزرگ کون تھے؟

اس طویل مرض میں کئی ہفتے حاضری مسجدِ اقدس سے محروم رہا کہ میں جس بالا خانے (یعنی گھر کی اوپری منزل) پر تھا، چالیس زینے (یعنی سیڑھیوں) کا تھا اور اس سے اترنا اور چڑھنا نا مقدور (یعنی دشوار ترین) تھا۔ مسجد الحرام شریف میں کوئی

نا آشنا بزرگ میرے بھائی مولوی محمد رضا خاں کو ملے تو فرمایا: ”کئی دن سے تمہارے بھائی کو نہ دیکھا۔“ انہوں نے عرض کیا: ”علیل ہیں۔“ پانی دم فرما کر دیا کہ یہ پلاؤ اور اگر بخار باقی رہے تو میں دس بجے دن کے تم کو یہیں ملوں گا۔“ دس بجے دن کے نہ بخار رہا، نہ وہ ملے اور اب میں مسجد شریف اور کتب خانہ حرم شریف میں حاضر ہونے لگا جس میں چوتھی صفر کا وہ واقعہ تھا جو مفتی حنفیہ کے ساتھ پیش آیا۔

## نماز عصر کی حنفی مذہب کے مطابق ادائیگی

نماز صبح کے سوا، کہ ہمارے نزدیک اس میں اسفار یعنی وقت خوب روشن کر کے پڑھنا افضل ہے اور شافیہ کے نزدیک تغلیس یعنی خوب اندھیرے سے پڑھنا (ملتقطاً، فتح القدیر مع الہدایۃ، کتاب الصلاة، باب مواقیت الصلاة، ج ۱، ص ۱۹۷-۱۹۸) تین مصلوں پر نماز پہلے ہو جاتی ہے اور مصلائے حنفی پر سب کے بعد۔ باقی چاروں نمازیں سب سے پہلے مصلائے حنفی پر ہوتی ہیں۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وقت عصر دو مثل سایہ گزر کر ہے۔ (فتح القدیر مع الہدایۃ، کتاب الصلاة، باب مواقیت الصلاة، ج ۱، ص ۱۹۴) اس (یعنی دو مثل سایہ گزرنے) کے بعد نماز حنفی ہوتی اس کے بعد باقی تین مصلوں پر۔ وہ لوگ (یعنی شوافع، مالکیہ، حنابلہ) اپنے لیے اسے بہت تاخیر سمجھتے، آخر کو ششیں کر کے حنفیہ سے یہ کر لیا کہ تمام (لوگ) عصر مطابق قول صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثل دوم کے شروع میں پڑھ لیں۔ اس بار کی حاضری میں یہ جدید بات دیکھی۔ اگرچہ کتب حنفیہ میں یہاں قول صاحبین پر بھی بعض نے فتویٰ دیا مگر ”صَحِّحٌ وَآخُوْطٌ وَاقْدَمٌ“ قول سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور فقیر کا معمول ہے کہ کسی مسئلے میں بے خاص مجبوری کے قول امام سے عدول (یعنی پھرنا) گوارا نہیں کرتا جس کی تفصیل حلیل میرے رسالہ ”أَجْلَى الْأَعْلَامِ بَانَ الْفَتَاوَى مُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ“<sup>۱</sup> میں ہے:

إِذَا قَالَ "الْإِمَامُ" فَصَدَّقُوهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ "الْإِمَامُ"

(ترجمہ: جب کسی مسئلے میں امام اعظم کچھ فرمائیں اسے تسلیم کر لو کیونکہ معتبر قول وہی ہے جو امام اعظم نے فرمایا ہے۔ ت)

ہم ”حنفی“ ہیں نہ کہ ”یوسفی“ یا ”شیبانی“<sup>۲</sup> میں اس بار جماعت عصر میں بہ نیت نفل شریک ہو جاتا اور فرض عصر مثل دوم کے

۱: 84 صفحات پر مشتمل یہ مبارک رسالہ فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضافاؤنڈیشن لاہور کی جلد 1 صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے۔

۲: یعنی ہم امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مقلد ہیں نہ کہ ان کے عظیم المرتبت شاگردوں امام ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے۔



بعد میں اور حضرت مولانا شیخ صالح کمال، حضرت مولانا سید اسماعیل (رحمۃ اللہ علیہا) و دیگر بعض محتاطین حنفیہ اپنی جماعت سے پڑھتے جس میں وہ حضرات امامت پر اس فقیر کو مجبور فرماتے۔

## وحشی کبوتر بھی ادب کرتے

پہلے شیخ عمر صحتی کا مکان کراہیہ پر لیا تھا پھر سید عمر رشیدی ابن سید ابوبکر رشیدی اپنے مکان پر لے گئے۔ بالا خانے کے در و سطلانی (یعنی بیچ والے دروازے) پر میری نشست تھی، دروازوں پر جو طاق (یعنی دیوار میں بنے ہوئے محراب دار ڈاٹ) تھے بائیں جانب کے طاق میں وحشی کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا، وہ تنکے لاتے اور گرایا کرتے۔ اس طرف کے بیٹھنے والوں پر گرتے، جب علالت میں میرے لئے پلنگ لایا گیا، وہ اس در کے سامنے بچھایا گیا کہ تشریف لانے والوں کے لیے جگہ وسیع رہے۔ اس وقت سے کبوتروں نے وہ طاق چھوڑ کر دروازہ وسطانی کے طاق میں بیٹھنا شروع کیا کہ اب جو وہاں بیٹھتے ان پر تنکے گرتے۔ حضرت مولانا سید اسماعیل نے فرمایا، ”وحشی کبوتر بھی تیرا لحاظ کرتے ہیں“۔ میں نے عرض کی: ”صَالِحَانَهُمْ فَصَالِحُونَ“ ہم نے ان سے صلح کی تو انہوں نے بھی ہم سے صلح کی۔ اس پر بعض علمائے حاضرین نے فرمایا: کہ ہم پر کیوں تنکے پھینکتے ہیں، ہم نے ان سے کون سی جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: ”میں یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ جہاں آ کر بیٹھتے ہیں انہیں اڑاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ سلامیوں کی توپیں جب چھوٹتی ہیں یہ خوف سے تھر تھرا کر رہ جاتے ہیں۔ یہ سب میرا مشاہدہ ہے حالانکہ یہ حرم محترم کے وحشی ہیں، انہیں اڑانا یا ڈرانا منع ہے۔ پیڑ کے سایے میں حرم کا ہرن بیٹھتا ہو آدمی کو اجازت نہیں کہ اسے اٹھا کر خود بیٹھے۔“ اُن عالم نے فرمایا، ”یہ کبوتر ایذا دیتے ہیں، اوپر سے کنکریاں پھینکتے ہیں، لیمپ کی چٹنی توڑ دیتے ہیں“۔ میں نے کہا: ”کیا یہ ابتدا بِالْإِيذَا (یعنی تکلیف پہنچانے میں پہل) کرتے ہیں؟“ کہا: ہاں! میں نے کہا: ”تو فاسق ہوئے اور کبوتر بالا جماع فاسق نہیں چیل کوے فاسق ہیں۔“ وہ ساکت (یعنی خاموش) ہو گئے۔ ”شریعت میں وہ جانور فاسق ہے جو بغیر اپنے نفع کے بالقصد ابتداً ایذا پہنچائے۔“ (فتح الباری، کتاب جزاء الصید تحت الحدیث ۱۸۲۹، ج ۴، ص ۳۳ ملخصاً) ایسے جانور کا قتل حرم شریف میں بھی جائز ہے۔ جیسے چیل، کوا، بندر، چوہا۔ (بحر الرقیق شرح کنز الدقائق، کتاب الحج، فصل ان قتل محرم صید، ج ۳، ص ۵۹) چیل، کواے زیور اٹھا کر لے جاتے ہیں، بندر کیڑے پھاڑ ڈالتے ہیں۔ چوہے کتابیں کترتے ہیں جس میں اُن کا کوئی نفع نہیں، محض

براہِ شرات ایذا دیتے ہیں لہذا فاسق ہیں بخلاف بلی کے کہ اگرچہ مرغی پکڑتی، کبوتر توڑتی ہے مگر اپنی غذا کے لیے نہ تمہاری ایذا کے لیے۔ کنکریاں اگر طاق میں ہوں کبوتر کے چلنے پھرنے سے گریں گی نہ یہ کہ چمنی پر کنکری مارنا انہیں مقصود ہو۔ اس قسم کے وقائع (یعنی واقعات) بہت تھے کہ یاد نہیں۔ اگر اُس وقت مُنْضَبَط کر (یعنی لکھ) لیے جاتے محفوظ رہتے مگر اس کا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو احساس بھی نہ تھا۔

## بارش میں طوافِ کعبہ

جب اواخرِ محرم میں بِفَضْلِهِ تَعَالَى صحت ہوئی۔ وہاں ایک سلطانی حمام ہے میں اُس میں نہایا۔ باہر نکلا ہوں کہ بر (یعنی بادل) دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ جو مینہ برستے میں طواف کرے وہ رحمتِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) میں تیرتا ہے۔ فوراً سنگِ اسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں سات پھیرے طواف کیا، بخار پھر عود کر (یعنی واپس) آیا۔ مولانا سید اسماعیل نے فرمایا: ”ایک ضعیف حدیث کے لئے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی!“ میں نے کہا: ”حدیث ضعیف ہے مگر امید بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالَى قوی ہے۔“ یہ طواف بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالَى بہت مزے کا تھا۔ بارش کے سبب طائفین (یعنی طواف کرنے والوں) کی وہ کثرت نہ تھی۔

## حجرہٴ اسود کے بوسے

اور اس سے بھی زیادہ لطف کا طواف بِفَضْلِهِ عَزَّوَجَلَّ گیا رہویں ذی الحجہ کو نصیب ہوا تھا۔ طوافِ زیارت کے لیے، کہ بعدِ وقوفِ عرفہ فرض ہے، (الہدایۃ، الجزء الاول، کتاب الحج، باب الاحرام، ص ۱۴۶) عام حجاج دسویں ہی کو منیٰ سے مکہ معظمہ جاتے ہیں، میرے ساتھ مسئورات (یعنی گھر کی خواتین) تھیں اور خود بھی بخار اٹھائے ہوئے تھا۔ گیارہویں کو بعدِ زوالِ ربی جمار (یعنی شیطانوں کو کنکریاں مار) کر کے اونٹوں پر مع مسئورات روانہ ہوا، حرم شریف میں نمازِ عصر ادا کی۔ آج تمام حجاج منیٰ میں تھے، حرم شریف میں صرف پچیس تیس آدمی۔ یہ طواف نہایت اطمینان سے ہوا۔ ہر بار جی بھر کر سنگِ اسود شریف پر منہ مانا اور بوسہ لینا نصیب ہوتا۔ ایک عربی صاحب کو جنہیں پہچانتا نہیں مولیٰ تعالیٰ نے بے کہے مہربان فرما دیا کہ ہر پھیرے کے ختم پر چند آدمی جو طواف کر رہے تھے انہیں روک کر کھڑے ہو جاتے کہ بہنوں کو سنگِ اسود شریف کا بوسہ لینے دو، یوں ہر پھیرے

پر میرے ساتھ کی مستورات بھی مُشرف بہ بوسہ سبگ اقدس ہوئیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ۔

## غلاف کعبہ تھام کر دعا مانگی

بعد ختم طواف میں دیوار کعبہ معظمہ سے لپٹا اور غلاف مبارک ہاتھ میں لے کر یہ دعا عرض کرنی شروع کی:

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّي نِعْمَةً أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ یعنی: یا اوجد! یا ماجد! مجھ سے وہ نعمتیں زائل نہ کر جو تو نے مجھے عطا فرمائیں۔ ت

اور بہت پر کیف رقت طاری ہوئی کہ آزادی اور یکسوئی تھی مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک عربی صاحب میرے برابر آ کر کھڑے ہوئے اور آواز چلا کر رونا شروع کیا ان کے چلانے سے کچھ طبیعت بٹی، پھر خیال آیا ممکن کہ یہ مقبولان بارگاہ سے ہوں اور ان کے قرب کا فیض مجھ پر تجلی ڈالے، اس تصور سے پھر اطمینان ہو گیا۔ مغرب پڑھ کر منی کو واپس آئے۔

## سند عالی کی تلاش

اس تقریباً تین مہینے کے قیام میں میں نے خیال کیا کہ حدیث میں کسی کی سند میری سند سے عالی ہو تو میں ان سے سند لے کر غلٹو حاصل کروں مگر بفضلہ تعالیٰ تمام علما سے میری ہی سند عالی تھی۔ ۱

## علم جفر میں اعلیٰ حضرت کی مہارت

یہ بھی خیال کیا کہ یہ شہر کریم تمام جہاں کا مرجع و ملجا ہے۔ اہل مغرب بھی یہاں آتے ہیں ممکن کہ کوئی صاحب جعفر داں مل جائیں کہ ان سے اس فن کی تکمیل کی جائے۔ ایک صاحب معلوم ہوئے کہ جعفر میں مشہور ہیں، نام پوچھا تو معلوم ہوا (کہ) ”مولانا عبدالرحمن دہان“، حضرت مولانا احمد دہان کے چھوٹے صاحبزادے، میں نام سن کر اس لیے خوش ہوا کہ یہ اور ان کے بڑے بھائی صاحب مولانا اسعد دہان علیہ رحمۃ اللہ ان کہ اب قاضی مکہ معظمہ ہیں مجھ سے سند حدیث لے چکے تھے۔ میں نے مولانا عبدالرحمن کو بلا لیا، وہ تشریف لائے، کئی گھنٹے خلوت (یعنی صحبت) رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاعدہ جوان کے پاس ناقص تھا قدرے اس کی تکمیل ہو گئی۔

اسی کے قریب سرکار مدینہ طیبہ میں واقع ہوا، وہاں بھی ایک صاحب عبدالرحمن نام ہی کے ملے۔ یہ عبدالرحمن دہان

۱: سند عالی اس سند کو کہتے ہیں جس میں صاحب سند کے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تک سماعت حدیث کے واسطے کم ہوں جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی ہی سند عالی ہوگی۔ (نزہۃ النظر فی توضیح نخبة الفکر، ص ۱۱۵)

عربی مکی ہیں اور وہ عبدالرحمن آفندی ترکی شامی۔ کئی روز متصل تشریف لاتے اور دیر تک بیٹھ کر چلے جاتے، ہجوم حضرات اہل علم و معززین کے سبب انہیں بات کا موقع نہ ملتا۔ ایک دن میں نے ان سے عرض پوچھی۔ کہا: تنہائی میں کہوں گا۔ دوسرے دن ان کے لئے وقت نکالا۔ کہا: ”میں جعفر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔“ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا: ”یہاں نہ میرا اب قیام ہے نہ تیرا، میں خاص اس کی تحصیل کو تیرے پاس ہندوستان میں آؤں گا۔“

## اعلیٰ حضرت نے علم جفر کیوں ترک کیا؟

وہ تو نہ آئے مگر مولانا سید حسین مدنی صاحبزادہ حضرت مولانا سید عبدالقادر شامی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور چودہ مہینے فقیر خانے پر قیام فرمایا اور یہ علم اور ”علم اوفاق و تکسیر“ سیکھے۔ انہیں کے لیے میں نے اپنا رسالہ ”اَطَابُ الْاَكْسِيْرِ فِي عِلْمِ التَّكْسِيْرِ“ زبان عربی میں املا کیا یعنی میں عبارت زبانی بولتا اور وہ لکھتے جاتے اور اُسی لکھنے میں اسے سمجھتے جاتے۔ علم جفر میں اتنی دست گاہ (یعنی مشق) ہو گئی تھی کہ پانچ سوالوں میں دو کا جواب صحیح نکال لیتے کہ ان کے لیے میں نے اس علم سے اجازت تعلیم کا سوال پہلے کر لیا تھا اور جواب ملا کہ ضرور بتاؤ کہ یہ اسی کے واسطے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اگر چند مہینے اور رہتے تو اُمید تھی کہ سب جواب صحیح نکالنے لگتے۔ میں نے جو جداول کثیرہ اس فن کی تکمیل جلیل کے لیے اپنی طبع زاد ایجاد کی تھیں، رخصت کے وقت انہیں نذر کر دیں کہ خود اس فن کے ترک کا قصد کر لیا تھا۔ جس کی وجہ سوالوں کی کثرت سے لوگوں کا پریشان کرنا تھا۔

## موت کب اور کہاں ہوگی؟

اور بالخصوص یہ عجیب واقعہ کہ ایک امیر کبیر کی بیگم بیمار ہوئی جن کا مذہب سنی نہ تھا۔ انہوں نے میرے آقا زادے حضرت سیدنا سید شاہ مہدی حسن میاں صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے سوال کرایا، جواب نکلا: ”سُنِّيْتِ اِخْتِيَارِ كَرِيْمٍ وَرَنَهٗ شِفَا نَهِيْمٍ۔“ اور اس فن کا حکم ہے کہ جو جواب نکلے بلا رور رعایت صاف کہہ دیا جائے، میں نے یہ ہی لکھ بھیجا یہ منظور نہ ہوا اور مرض بڑھتا گیا۔ اب حضرت ہی کے ذریعے سے یہ سوال آیا کہ ”موت کب اور کہاں ہوگی؟ اپنے شہر میں یا نینی تال پر“ کہ اس وقت تبدیل آب و ہوا کے لیے مریضہ کا وہیں قیام تھا۔ یہ سوال ۸ شوال المکرم ۱۳۲۸ھ کو ہوا۔ جواب نکلا: ”مَحْرَمٌ“ یعنی ماہ محرم میں موت ہوگی۔ اور کہاں ہوگی؟ اس کے جواب میں میں نے ان کے شہر کے نام کا پہلا حرف اور اس کے بعد ق اور اس

کے بعد ۲ کا ہندسہ اور آگے لفظ ”خولیش“ لکھ دیا، وہاں کے جَعْفَر (یعنی ماہرین علم جفر) بلائے گئے کہ اس معنے کو حل کریں، انہوں نے حرف نام شہر سے تو شہر مراد لیا اور قاف سے قلعہ اور آگے نہیں چلتا۔ حالانکہ اس حرف سے شہر مراد تھا اور ق سے قریب اور دو سے حرف ب کہ اول لفظ بیت ہے یعنی موت نینی تال میں نہ ہوگی بلکہ اپنے شہر میں مگر نہ اپنے محل میں بلکہ قریب بیتِ خولیش دوسری جگہ میں۔ ایسا ہی واقع ہوا تو 17 محرم کو اپنے شہر کے ایک باغ میں موت واقع ہوئی۔ جب اس جواب کا شہرہ ہوا، اطراف سے جلد بازوں کے خط ذیقعد ہی سے آنے لگے کہ تم نے تو موت کی خبر دی تھی اور ابھی نہ ہوئی۔ میں نے کہا: بھائیو! اگر محرم سے پہلے موت واقع ہو تو جواب غلط ہو جائے گا نہ کہ اس کی صحت کے لیے تم ابھی موت تلاش کرتے ہو۔ اور اس قسم کے طوفان بے تمیزی کے سبب میں نے یہ قصد کر لیا کہ اگر یہ جواب غلط گیا تو اس فن پر اتنی محنت کروں گا کہ بِإِذْنِ تَعَالَى پھر غلطی نہ ہو۔

## اعلیٰ حضرت نے علم جفر کہاں سے سیکھا؟

یہ علم تمام علوم سے مشکل تر اور سکھانے والے مفقود (یعنی میسر نہیں) اور اکابر مصنفین کو کمالِ اخفا (یعنی بالکل پوشیدہ رکھنا) مقصود۔ جو علوم ظاہر ہیں اور مصنفین و معلمین ان کا اعلان چاہتے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ کتاب کچھ کہتی ہے اور ناظر کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس علم میں ناظر کی غلط فہمی کیا تعجب ہے اور وہ بھی مجھ جیسے کے لئے جس نے نہ کسی سے سیکھا نہ کوئی مشورہ و مذاکرہ کرنے والا۔ صرف ایک قاعدہ ”بدوح یلن“ کہ مزدوجات سے ہے، والا حضرت عظیم البرکت حضرت سیدنا سید شاہ ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب قدس سرہ العزیز نے ۱۲۹۴ھ میں تذکرہٴ تعلیم فرمایا تھا اس کے بعد جو کتابیں اس فن کے نام سے مشہور و رائج ہیں، اُن کی نسبت اسی فن سے سوال کیا، اس نے ان پر نہایت تشنیع (یعنی لعن طعن) کی اور کہا کہ یہ سب ہٹمل و باطل اور جلانے کے قابل ہیں۔ صرف دو کتابوں کی مدح کی جو ان سب رائج کتابوں سے جدا ہیں جن میں ایک حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے وہ دونوں کتابیں مولیٰ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے بہم (یعنی میسر) کرا دیں، انہیں مطالعہ کیا جہاں تک بزور مطالعہ انکشاف ہوا اور جہاں مطلب حضرات مصنفین نے ذہن میں رکھا تھا اس کی نسبت جتنا قاعدہ معلوم ہو لیا تھا اس سے سوال کیے۔ اس نے مطلب بتایا، ایک قاعدہ اور حل ہوا، اب جو آگے اُلجھا اس سے پوچھا اس نے بتایا اور حل ہوا، اس طور پر اس فن کی قدرے ”آنچد“ معلوم ہوئی۔

میری کتاب ”سِفْرُ السَّفَرِ عَنِ الْجَفْرِ بِالْجَفْرِ“ یعنی ”جفر سے جفر کو واضح کرنے کی کتاب“ انہیں مباحث میں ہے جس میں ساٹھ سوال جواب ہیں۔ اس نے ایک دوسرے علم ”زایرجہ“ کے ایک عظیم ”سر مکتوم“ (یعنی پوشیدہ راز) کو بھی واضح کیا جس کی نسبت حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ ”زایرجہ“ میں ہے کہ زمانہ سیدنا شہید علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس راز کے اِخفا (یعنی چھپانے) کا حلقی عہد ہے۔ رسائل فن میں نہایت غامض چہستان (یعنی پیچیدہ پہیلی) کی طرح اس کے بارہ پتے دیئے گئے ہیں، ازاں جملہ (یعنی ان میں سے) یہ کہ خاتمِ آدم میں ہے (یعنی ان بارہ میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ راز حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک میں مکتوب ہے)۔ میں نے اس کی نسبت بھی اسی پہلے قاعدہ جفر سے سوال کیا۔ اس نے روشن طور پر بتا دیا، اب جو ان بارہ پہیلیوں کو دیکھوں تو سب خود بخود مُتَشَفِّف (یعنی ظاہر) ہو گئیں۔ میرے جی میں آیا کہ کچھ اس فن کی طرف بھی توجُّہ کروں کہ اس کا راز پنہاں (پوشیدہ راز) تو کھل ہی گیا ہے، اس پر اقدام کا ائمہ فن نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ چند روز کچھ اسمائے الہیہ تلاوت کیے جاتے ہیں، مدت موعود میں خوش نصیب بندہ بِكْرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰی زیارتِ جمال جہاں آرائے حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے۔ اگر سرکارِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے اس فن میں اشتغال کا اذن ملے مشغول ہو ورنہ چھوڑ دے۔ میں نے وہ اسمائے طیبہ تلاوت کیے، پہلے ہی ہفتے میں سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا کرم ہوا جسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس سے اذن کا استنباط ہو سکتا تھا مگر میں نے ظاہر پر محمول کر کے تڑک کر دیا۔

### عِلْمِ جَفْرِ كے ذریعے ملنے والے جواب کی حیثیت

غرض جفر سے جواب جو کچھ نکلے گا ضرور حق ہوگا کہ (یہ) علم اولیائے کرام کا ہے، اہل بیتِ عظام کا ہے، امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جمعین مگر اپنی غلط فہمی کچھ اچنبھا (یعنی عجیب) نہیں تو اگر یہ جواب غلط گیا کافی محنت کروں گا اور صحیح اُترے تو اس فن کا اشتغال (یعنی اس فن کی مصروفیت) چھوڑ دوں گا کہ آئے دن سوالوں کی محنت اور اُلٹے اعتراضوں کی وقت کون سمے؟ جواب بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی پورا صحیح اُترے اور میں نے اشتغال چھوڑ دیا۔ طَبْعُ زَاهِد (یعنی اپنے بنائے ہوئے) جَدَّ اَوَّلُ کہ تَذَقُّیْقِ تَام (یعنی مکمل باریک بینی) سے بنائی تھیں اور جنہوں نے اس فن کے بہت اعمالِ مشککہ کو آسان کر دیا تھا، چلتے وقت حضرت سپید صاحب موصوف کے نذر کر دیں۔

۱۔ جدول کی جمع

## علم جفر سیکھنے کے لئے آنے والے عالم دین

اُن سے پہلے مولانا عبد الغفار صاحب بخاری (علیہ رحمۃ الباری) اسی فن کے سیکھنے کو تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد سے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کی خدمت میں عریضہ لکھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: ”کہ یہ کام خُطوط سے نہیں ہو سکتا، خود آئیے۔“ وہ مارہرہ شریف آئے، اتنے میں حضرت بریلی شریف ملنے آئے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا خاں سلمہ کے یہاں رونق افروز ہیں کہ عَصْر کے وقت مولوی صاحب تشریف لائے، مَا شَاءَ اللہ کمال مُتَّقٰی وصالِح و عالم تھے، وہ جہاں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خیر و خوبی سے رکھے۔ حضرت فُؤدَسَ سِرَّةُ نے فقیر سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ سیکھیں ان کو بتاؤ۔ میں ارشاد حضرت کے سبب حسبِ قاعدہ اس فن سے اجازت طلب نہ کر سکا کہ اگر مُمَانَعَت ہوئی تو حکم حضرت کا خلاف کیونکر کروں گا۔ آٹھ مہینے تک اُنہیں سکھایا۔ ایامِ سرما میں بعض دفعہ رات کے دو دو بج جاتے۔ وہ عالم پورے تھے قواعد خوب مُضَبَّط (یعنی اچھی طرح سمجھ کر یاد) کر لیے۔ آٹھ پہر میں ایک سوال نہایت اُجلا باضابطہ مرتب فرما لیتے اور جواب تلاش کرتے، نہ ملتا مجھے دکھاتے، میں گزارش کرتا: دیکھئے یہ جواب رکھا ہے۔ اپنی ران پر ہاتھ مارتے کہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ میں گزارش کرتا کہ ”جتنی بات تعلیم کے متعلق تھی وہ آپ کو پوری آگئی، رہا جواب وہ القاءِ ملک ہے اگر القانہ ہو اپنا کیا اختیار؟“ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اس علم سے بے اجازت لیے اُنہیں سکھایا۔ آٹھ مہینے رہے اور چلتے وقت فرما گئے کہ میں جیسا آیا تھا ویسا ہی جاتا ہوں۔ ان کی محبت و صلاح و تقویٰ کے سبب اکثر ان کی یاد آتی ہے۔ جزیرہ سنگا پور سے ایک خط ان کا آیا تھا اس کے بعد سے کچھ پتہ معلوم نہیں۔

## مدنی عالم دین کی ہند آمد

سید حسین مدنی صاحب (علیہ رحمۃ اللہ الوہاب) سا کوئی ”سیرِ چشم و بے طمع“ (یعنی فراخ دل اور حرص سے پاک) عربی میں نے ان عرب سے آنے والوں میں نہ دیکھا، اُن کی خوبیاں دل پر نقش ہیں۔ میں حضرت سید اسمعیل مکی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کا تذکرہ اکثر اُن کے سامنے کرتا تو فرماتے: ”زہے سعادت اُن کی کہ اُن کی ایسی یاد تمہارے قلب میں ہے۔“ اب اپنے چلے جانے کے بعد وہ کیونکر دیکھیں کہ اُن کی کتنی یاد ہے۔ یہاں سے ملک چین کو تشریف لے گئے پھر ان کا کوئی خط بھی نہ آیا نہ مدتوں تک مدینہ طیبہ اُن کا کوئی خط گیا۔ اُن کے چھوٹے بھائی سید ابراہیم مدنی اُن سے پہلے یہاں تشریف لائے تھے، وہ اس

زمانے میں قازان کو گئے ہوئے تھے کہ ملک روس میں ہے اور یہ تبت کو۔ ان کے بڑے بھائی سید احمد خطیب مدنی کے خطوط آتے کہ ”والدہ بہت پریشان ہیں، سید حسین کہاں ہیں؟“ یہاں کسے پتہ معلوم تھا؟ اب سنا گیا ہے کہ شاید مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ یہ سید صاحب محمد مدنی کا بیان ہے جو پار سال (یعنی پچھلے سال) تشریف لائے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## گُردے کا درد

خیر یہ تو ”جملہ مُعْتَرَضَةٌ“<sup>۱</sup> تھا، صفر کے پہلے عشرہ میں عزمِ حاضری سرکارِ اعظم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) مُصَمَّم (یعنی پختہ) ہو گیا، اونٹ کرایہ کر لیے، سب اشرفیاں پیشگی دے دیں، آج سب اکابر علماء سے رخصت ہونے کو ملا۔ وہاں پان کی جگہ چائے کی تَوَاضِع (یعنی مہمان نوازی) ہے اور انکار سے برامانتے ہیں۔ ہر جگہ چائے پینی ہوئی جس کا شمار نونو فنجان (یعنی نو پیالیوں) تک پہنچا اور وہاں بے دودھ کی چائے پیتے ہیں جس کا میں عادی نہیں اور چائے گردے کو مُضِر (یعنی نقصان دینے والی) ہے اور میرے گردے ضعیف (یعنی کمزور)، رات کو مَعَاذِ اللہ بشدت ”خَوَالِیُ گُردہ“ (یعنی گردے کے ارد گرد) کا درد ہوا، ساری شب جاگتے کئی۔ صبح ہی سفر کا قصد (یعنی ارادہ) تھا کہ مجبوراً نہ مُلْتَمِی رُہا۔ جَمَّالوں (یعنی اونٹ والوں) سے کہہ دیا گیا کہ تاشفا نہیں جاسکتے۔ وہ چلے گئے اور اشرفیاں بھی انہیں کے ساتھ گئیں۔

## درد جاتا رہا

تُرکی ڈاکٹر رمضان آفندی نے پلاستر لگائے، دو ہفتے سے زاید تک مُعَالَجے کئے، بِحَمْدِ اللہ شفا ہوئی مگر اب بھی دن میں پانچ چھ بار چمک ہو جاتی تھی (یعنی درد اٹھتا تھا) اسی حالت میں دوبارہ اونٹ کرایہ کیے، سب نے کہا کہ ”اونٹ کی سواری میں ہال (یعنی جھکے اور حرکت) بہت ہوگی اور حال یہ ہے۔“ مگر میں نے نہ مانا اور تَوَكَّلًا عَلَی اللہ تعالیٰ ۲۳ صفر ۱۳۲۳ھ کو کعبہ تن سے کعبہ جاں (یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) کی طرف روانہ ہوا۔ براہِ بشریت مجھے بھی خیال آتا تھا کہ اونٹ کی ہال (یعنی جھکوں) سے کیا حال ہوگا! ولہذا اس بار سلطانی راستہ اختیار نہ کیا کہ بارہ منزلیں اونٹ پر ہوں گی بلکہ جدہ سے براہِ کشتی رانچ جانے کا قصد کیا مگر اُن کے کرم کے صدقے! اُن سے استعانت عرض (یعنی مدد کی درخواست) کی اور اُن کا نام پاک لے کر اونٹ پر سوار ہوا۔ ہال کا ضرر

۱: یعنی وہ زائد بات جو مقصود کلام نہ ہو بلکہ ضمناً اس کا ذکر ہوا ہو۔



پہنچنا درکنار وہ چمک کہ روزانہ پانچ چھ بار ہو جاتی تھی، دفعۃً دفع (یعنی دُور) ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ایک کُرن سے زیادہ گزرا کہ بِفَضْلِهِ تَعَالَى اب تک نہ ہوئی، یہ ہے ان کی رحمت، یہ ہے ان سے استعانت کی برکت! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## سفرِ مدینہ کا آغاز

حضرت مولانا سید اسمعیل (علیہ رحمۃ اللہ الجلیل) اور بعض دیگر حضرات شہر مبارک سے باہر دور تک ”بِرَّسْمٍ مُّشَايَعَتٍ“،<sup>۱</sup> تشریف لائے۔ مجھ میں بوجہ ضعفِ مرض پیادہ (یعنی بیدل) چلنے کی طاقت نہ تھی پھر بھی اُن کی تعظیم کے لیے ہر چند اُترنا چاہا مگر اُن حضرات نے مجبور کیا۔ پہلی رات کہ جنگل میں آئی صبح کے مثل روشن معلوم ہوتی تھی جس کا اشارہ میں نے اپنے قصیدہ حضور جانِ نور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں کیا جو حاضری دربارِ معلیٰ میں لکھا گیا تھا۔

وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی!

پہروں نہیں کہ بست و چہارم صفر کی ہے

## ملاحوں کا اولیائے کرام کو نداء کرنا

جدہ سے کشتی میں سوار ہوئے، کوئی تیس چالیس آدمی اور ہوں گے۔ کشتی بہت بڑی تھی جسے سماعیہ کہتے ہیں، اُس میں جہاز کا سامسٹول (یعنی ستون) تھا، ہوا کے لیے پردے حسبِ حاجت مختلف جہات (یعنی سمتوں) پر بدلے جاتے۔ حبشی ملاح کہ اس کام پر مقرر تھے اُن کے کھولنے باندھنے کے وقت اکابر اولیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عجب اچھے لہجے سے ندا کرتے (یعنی پکارتے) جاتے۔ ایک حضور سیدنا ”غوثِ اعظم“ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دوسرا حضرت سیدی ”احمد کبیر“، تیسرا سیدی ”احمد رفاعی“ کو، چوتھا حضرت سیدی ”اهدل“ کو، علیٰ ہذا القیاس۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہر کشتی پر اُن کی یہ آوازیں عجب دل کش لہجے سے ہوتیں اور بہت خوش آتیں۔

## شیخ کون؟

ایک بصری صاحب نے اپنی حاجت سے بہت زیادہ جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اُن سے کہا گیا نہ مانے، معلوم ہوا کہ

۱: کسی کو رخصت کرنے کے لئے چند قدم سہا تھ جانے کو مشایعت کہتے ہیں۔

اُن پر اثر (یعنی رُعب) اِن دوسرے بصری شیخ عثمان کا ہے۔ میں نے اُن سے کہا: ”یَا شَيْخُ“ انہوں نے کہا: ”الْشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِي“ شیخ تو حضرت عبدالقادر جیلانی ہیں۔ اُن کے اِس کہنے کی لذت آج تک میرے قلب میں ہے، انہوں نے اُن پہلے بُرگ کو سمجھا دیا۔ اِس کے بعد جب اُن کو کچھ حالات معلوم ہوئے پھر تو وہ نہایت مُخلص بلکہ کمال مُطیع تھے۔

## رابع میں ایک مقدمے کا فیصلہ

تین روز میں کشتی رابع پہنچی، یہاں کے سردار شیخ حسین تھے۔ ٹیویوں کے مکان لہ قیام کے لیے تھے۔ جب ان میں اُترنا ہوا اللہ اَعْلَم! لوگوں کو کس نے اطلاع دی! اُن کے بھائی ابراہیم مع اپنے اَعْوَا (یعنی عزیزوں) کی ایک جماعت کے تشریف لائے اور اپنے یہاں کا ایک نزاعی مقدمہ کہ مدت سے نا فیصل پڑا تھا (یعنی جس کا فیصلہ نہ ہو سکا تھا) پیش کیا، میں نے حکم شرعی عرض کیا، بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی باتوں ہی باتوں میں باہم فیصلہ ہو گیا۔

## سامان سفر پیچھے رہ گیا

ریح الاول شریف کا ہلال (یعنی چاند) ہم کو یہیں ہوا۔ یہاں سے اُونٹ کرایہ کیے گئے۔ نمازِ عصر پڑھ کر سوار ہونا تھا، تمام اَسباب (یعنی سامان) قلعہ کے سامنے سڑک پر نکال کر رکھا تھا۔ گنتی کے اونٹوں کا قافلہ تھا، ہم لوگ سوار ہو گئے اور یہ خیال کیا کہ حاجی صاحب اَسباب بار کرا (یعنی لڈوا) دیں گے، حاجی صاحب بھی سوار ہو گئے اور اَسباب وہیں سڑک پر پڑا رہ گیا۔ جب منزل پر پہنچے، اب نہ کپڑے ہیں نہ برتن نہ کھی ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ پانچ منزلیں ساتھیوں کے برتنوں اور منازل پر وقتاً فوقتاً خرید حواج (یعنی ضرورت کی چیزیں خرید کر) سے گزریں۔ چھٹے دن بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی خاک بوس آستانِ جنت نشان ہوئے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

## نماز فجر کی ادائیگی

راہ میں جب منزل ”بیر شیخ“ پر پہنچے ہیں چند میل باقی تھی اور وقتِ فجر تھوڑا۔ جمالوں (یعنی اونٹ والوں) نے منزل ہی پر رکنا چاہا اور جب تک وقتِ نماز نہ رہتا، میں اور میرے رُفقاء (یعنی ساتھی) اتر پڑے، قافلہ چلا گیا۔ کَرْمِج کا (یعنی

۱: یعنی وہ مکان جن کے دروازوں یا کھڑکیوں پر بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھپر لگا ہوتا ہے۔

مخصوص ٹاٹ کا بنا ہوا) ڈول پاس تھا۔ رسی نہیں اور کنواں گہرا، عمامے باندھ کر پانی بھرا (اور) وضو کیا۔ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی نماز ہو گئی۔ اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ طولِ مرض سے ضَعْفِ شَدِيدِ ہے، اتنے میل پیادہ (یعنی پیدل) کیونکر چلنا ہوگا؟ منہ پھیر کر دیکھا تو ایک جہاں محض اجنبی اپنا اونٹ لیے میرے انتظار میں کھڑا ہے، حمدِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) بجالایا اور اُس پر سوار ہوا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کیسا لائے؟ کہا: ہمیں شیخ حسین نے تاکید کر دی تھی کہ شیخ کی خدمت میں کمی نہ کرنا، کچھ دور آگے چلے تھے کہ میرا اپنا جمال اونٹ لیے کھڑا ہے۔ اُس سے پوچھا، کہا: جب قافلے کے جمال نہ ٹھہرے، میں نے کہا شیخ کو تکلیف ہوگی، قافلہ میں سے اونٹ کھول کر واپس لایا۔ یہ سب میری سرکارِ کرم کی وصیتیں تھیں ”صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی وَبَارَكَ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى عِتْرَتِهِ قَدْرَ رَافَتِهِ وَرَحْمَتِهِ“ ورنہ کہاں یہ فقیر اور کہاں سردارِ رابع شیخ حسین، جن سے جان نہ پہچان اور کہاں وحشی مزان جہاں اور ان کی یہ خارق العاداتِ رَوِّثِیں (یعنی خلافِ معمول طرزِ عمل)!

### عَرَبِي لِبَاسِ مِيں رَوْضَةُ اَقْدَسِ پَر حَاضِرِي

سرکارِ اعظم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں حاضری کے دن، بدن کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، اور کپڑے رابع میں چھوٹ گئے تھے اور ایک یاد و منزل پہلے شب کو ایک جوتا کہیں راستہ میں نکل گیا۔ یہاں عربی وضع کا لباس اور جوتا خرید کر پہنا اور یوں موابہ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی حاضری نصیب ہوئی۔ یہ بھی سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہی کی طرف سے تھا کہ اس لباس میں بلانا چاہا۔

### سَامَانِ سَفَرِ مِلِ گِیَا

دوسرے دن رابع سے ایک بدوی پہنچا، اونٹ پر سوار اور ہمارا تمام اسباب کہ چلتے وقت قلعہ کے سامنے چھوٹ گیا تھا، اس پر بار (یعنی لدا ہوا تھا)، اس نے شیخ حسین کا رُفْعَہ لاکر دیا کہ آپ کا یہ اسباب رہ گیا تھا روانہ کرتا ہوں۔ میں ہر چند اُن بدوی صاحب کو آتے جاتے دس منزلوں کی محنت کا نذرانہ دیتا رہا مگر انہوں نے نہ لیا اور کہا: ”ہمیں شیخ حسین نے تاکید فرمادی تھی کہ شیخ سے کچھ نہ لینا۔“

## بارہویں شریف مدینے میں

یہاں کے حضرات کرام کو حضرات مکہ معظمہ سے زیادہ اپنے اوپر مہربان پایا۔ بِحَمْدِهِ تَعَالَى اکتیس روز حاضری نصیب ہوئی۔ بارہویں شریف کی مجلس مبارک یہیں ہوئی۔ صبح سے عشاء تک اسی طرح علماء عظام کا ہجوم رہتا۔

## ہندی عالم کا خلوص

بیرون ”باب مجیدی“ مولانا کریم اللہ علیہ رحمۃ اللہ تلمیذ حضرت مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی (علیہ رحمۃ اللہ الہادی) رہتے تھے، اُن کے خلوص کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ ”حُسَامُ الْحَرَمِیْنِ“ و ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ پر تقریظات میں انہوں نے بڑی سعی جمیل فرمائی حَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہاں بھی اہل علم نے ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ کی نقلیں لیں۔ ایک نقل بالخصوص مولانا کریم اللہ نے مزید تقریظات کے لیے اپنے پاس رکھی۔ میرے چلے آنے کے بعد بھی مصر و شام و بغداد مقدس وغیرہا کے علماء جو موسم میں خاک بوس آستانہ اقدس ہوتے جن کا ذرا بھی زیادہ قیام دیکھتے اور موقع پاتے، ان کے سامنے کتاب پیش کرتے اور تقریظیں لیتے اور بصیغہ رجسٹری مجھے بھیجتے رہتے رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً۔

## مدنی علماء کا اجازات و اسناد لینا

علمائے کرام نے یہاں بھی فقیر سے سندیں لیں اور اجازتیں لیں، خصوصاً شیخ الدلائل حضرت مولانا سید محمد سعید مغربی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کے الطاف کی تو حد ہی نہ تھی۔ اس فقیر سے خطاب میں ”يَا سَيِّدِي“ (یعنی اے میرے سردار) فرماتے۔ میں شرمندہ ہوتا، ایک بار میں نے عرض کی: ”حضرت سید تو آپ ہیں“۔ فرمایا: ”واللہ تم سید (یعنی سردار) ہو“۔ میں نے عرض کی: ”میں سیدوں کا غلام ہوں“۔ فرمایا: ”یوں بھی تو سید ہوئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ“ قوم کا غلام آزاد شدہ انہیں میں سے ہے“۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام کی سچی غلامی اور اُن کے صدقے میں آفات دنیا و عذاب قبر و عذاب حشر سے کامل آزادی عطا فرمائے آمین!

یوں ہی مولانا حضرت سید عباس رضوان و مولانا سید مامون بری و مولانا سید احمد جزائری و مولانا شیخ ابراہیم خر بوطی و مفتی حنفیہ مولانا تاج الدین الیاس و مفتی حنفیہ سابقاً مولانا عثمان غنی بن عبدالسلام داغستانی وغیرہم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم) حضرات

کے کرم بھولنے کے نہیں۔ ان مولانا داغستانی سے قباشریف میں ملاقات ہوئی تھی کہ وہیں اٹھ گئے تھے۔

## ”حُسامُ الْحَرَمِیْنِ“ اور ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ پر مدنی علما کی تقریظیں

مکہ معظمہ کی طرح زیادہ اہم ”حُسامُ الْحَرَمِیْنِ“ کی تصدیقات تھیں جو بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی بہت خیر و خوبی کے ساتھ ہوئیں، زیادہ زمانہ قیام انہیں میں گزر گیا کہ ہر صاحب پوری کتاب مع تقریظات مکہ معظمہ دیکھتے اور کئی کئی روز میں تقریظ لکھ کر دیتے۔ مفتی شافعیہ حضرت سید احمد برزنجی نے ”حُسامُ الْحَرَمِیْنِ“ پر چند ورق کی تقریظ لکھی اور فرمایا: ”اس کتاب کی تائید میں اسے ہمارا مستقل رسالہ کر کے شائع کرنا۔“ ایسا ہی کیا گیا۔ ”حُسامُ الْحَرَمِیْنِ“ کا کام پورا ہونے کے بعد ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ پر تقریظات کا خیال ہوا۔ دونوں حضرات مفتی حنفیہ نے مدینہ طیبہ اور قباشریف میں تقریظیں تحریر فرمائیں۔

تیسری باری مفتی شافعیہ کی آئی، یہ آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے، یہ ٹھہری کہ ان کے داماد سید عبداللہ صاحب کے مکان پر اس کتاب کے سننے کی مجلس ہو۔ عشاء کہ وہاں اول وقت ہوتی ہے، پڑھ کر بیٹھے۔ میں نے کتاب سنانی شروع کی۔ بعض جگہ مفتی صاحب کو شُکوک ہوئے، میری غلطی کہ میں نے حسبِ عادت جرأت کے ساتھ مُسکِت (خاموش کر دینے والے) جواب دیئے جو مفتی صاحب کو اپنی عظمتِ شان کے سبب ناگوار ہوئے، جا بجا اُن کا ذکر میں نے ”الْفِيُوضَاتُ الْمَكِّيَّةُ“ حاشیہ ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ میں کر دیا ہے۔ بارہ بجے جلسہ ختم ہوا اور مفتی صاحب کے قلب میں جو اُن جوابوں کا غبار رہا، مجھے بعد کو معلوم ہوا، اس وقت اگر اطلاع ہوتی میں معذرت کر لیتا۔

ایک رات اُن کے شاگرد شیخ عبدالقادر طرابلسی شلمبی کہ مدرس ہیں فقیر کے پاس آئے اور بعض مسائل میں کچھ الجھنے لگے۔ حامد رضا خاں نے انہیں جواب دیئے جن کا جواب وہ نہ دے سکے اور وہ بھی سینے میں غبار لے کر اٹھے۔ اُن کا غبار مجھے معلوم ہو گیا تھا جس کی میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ انصاف پسند تو اس کے ممنون ہوتے ہیں جو انہیں صواب (یعنی درست) کی راہ بتائے نہ یہ کہ بات سمجھ لیں، جواب نہ دے سکیں اور بتانے سے رنجیدہ ہوں۔

## اہل مدینہ کا اشتیاق

اور فقیر کو متواتر ناسازیوں کے بعد مکہ معظمہ میں جو کئی مہینے گزرے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وہ کیا بات تھی جس نے حضراتِ کرام

مدینہ طیبہ کو اس ذرہ بے مقدار کا مشتاق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ مولانا کریم اللہ صاحب (علیہ رحمۃ اللہ الوہاب) فرماتے تھے کہ ”علماء تو علماء اہل بازار تک کو تیرا اشتیاق تھا“ اور یہ جملہ فرمایا کہ ”ہم سالہا سال سے سرکار میں مقیم ہیں، اطراف و آفاق سے علماء آتے ہیں“ واللہ یہ لفظ تھا کہ ”جو تیاں چٹختے چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں پوچھتا اور تمہارے پاس علماء کا یہ ہجوم ہے!“ میں نے عرض کی: ”میرے سرکار کا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔“

کریمان کہ در فضل بالا ترند      سگان پرورد و چنان پرورد  
اپنے کرم کا جب وہ صدقہ نکالتے ہیں      ہمسوں کو پالتے ہیں اور ایسا پالتے ہیں!

### مدینے شریف میں معمولات

ایامِ اقامتِ سرکارِ اعظم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) (یعنی مدینہ منورہ کی حاضری کے دنوں) میں صرف ایک بار مسجد قبا شریف کو گیا اور ایک بار زیارتِ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہوا۔ باقی سرکارِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہی کی حاضری رکھی۔ سرکارِ کریم ہیں، اپنے کرم سے قبول فرمائیں اور خیریت ظاہر و باطن کے ساتھ پھر بلائیں۔ ع  
ہم کو مشکل ہے انہیں آسان ہے

### مدینے شریف سے رخصتی

رخصت کے وقت قافلے کے اونٹ آ لئے ہیں، پابراکاب (یعنی سوار) ہوں۔ اُس وقت تک علماء کو اجازت نامے لکھ کر دیئے، وہ سب تو ”الْإِجَازَاتُ الْمَتِينَةُ“ میں طبع ہو گئے اور یہاں آنے کے بعد دونوں حرمِ محترم سے درخواستیں آیا کیں اور اجازت نامے لکھ کر گئے، یہ درج رسالہ نہیں۔ چلتے وقت حضراتِ مدینہ کریمہ نے بیرونِ شہر دُور تک ”مُشَايَعَتٌ“ فرمائی (یعنی رخصت کرنے کے لئے میرے ساتھ پیدل آئے)، اب مجھ میں طاقت تھی، ان کی مُعَاوَدَت (یعنی واپس لوٹنے) تک میں بھی پیادہ (یعنی پیدل) ہی رہا۔

### جدہ کو سفر

اونٹ جدہ کے لیے کیے تھے، اب موسمِ سخت گرمی کا آ گیا تھا اور بارہ منزلیں، منزل پر نظر کی نماز کہ ٹھیک زوال ہوتے ہی پڑھتا تھا اور معاً قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ سر پر آفتاب اور پاؤں نیچے گرم ریت یا پتھر۔ اللہ تعالیٰ مولوی نذیر احمد صاحب کا بھلا

کرے! فرضوں میں تو مجبور تھے کہ خود بھی شریک جماعت ہوتے مگر جب میں سنتوں کی نیت باندھتا چھتری لے کر سایہ کرتے، جب پہلی رکعت کے سجدے میں جاتا پاؤں کے نیچے اپنا عمامہ رکھ دیتے کہ باقی رکعتوں میں پاؤں نہ جلیں۔ ابتدا میں یوں نہ کر سکتے تھے کہ میں عمامہ رکھنا درکنار نماز میں چھتری لگانے پر بھی ہرگز راضی نہ ہوتا۔ انہوں نے اور حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس سفر مبارک میں بلا طمع بلا معاوضہ محض اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) کے لیے جیسے آرام دیئے اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم دنیا و آخرت میں ان صاحبوں کو عطا فرمائے آمین۔

### اعلیٰ حضرت کی باب المدینہ کراچی آمد

جدہ پہنچ کر جہاز تیار ملا، بمبئی کے ٹکٹ بٹ رہے تھے، خریدے اور روانہ ہوئے۔ جب عدن پہنچے معلوم ہوا کہ جہاز والے نے کہ رافضی تھا دھوکا دیا، عدن پہنچ کر اعلان کیا کہ جہاز کراچی جائے گا۔ ہم لوگوں نے قصد کیا کہ اتر لیں اور بمبئی جانے والے جہاز میں سوار ہوں۔ اتنے میں انگریز ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا: بمبئی جانے والوں کو قَرْنَطِينَه میں رہنا ہوگا۔ ہم نے کہا: اس مصیبت کو کون جھیلے! اس سے کراچی ہی بھلی۔

راستہ میں طوفان آیا اور ایسا سخت کہ جہاز کا لنگر ٹوٹ گیا، سخت ہولناک آواز پیدا ہوئی مگر دعاؤں کی برکت کہ مولیٰ تعالیٰ نے ہر طرح امان رکھی۔ جب کراچی پہنچے ہیں ہمارے پاس صرف دو روپے باقی تھے اور اس زمانے تک وہاں کسی سے تعارف نہ تھا۔ جہاز کنارے کے قریب ہی لگا اور عین ساحل پر چوگی (یعنی محصول لینے) کی چوکی جس پر انگریز یا کوئی گورنر نوکر۔ ”اسباب“، کثیر (اور) یہاں محصول تک دینے کو نہیں۔ ہر چیز کی تعلیم و ارشاد فرمانے والے پر بے شمار درود و سلام! اُن کی ارشاد فرمائی ہوئی دعا پڑھی، وہ گورا آیا اور اسباب دیکھ کر بارہ آنے محصول کہا۔ ہم نے شکر الہی (عَزَّوَجَلَّ) کیا اور بارہ آنے دے دیئے۔ چند منٹ بعد وہ پھر واپس آیا اور کہا، نہیں نہیں! اسباب دکھاؤ، سب صندوق وغیرہ دیکھے اور پھر بارہ آنے کہہ کر چلا گیا، پھر واپس آیا اور سب صندوق کھلوا کر اندر سے دیکھے اور پھر بارہ ہی آنے کہے اور رسید دے کر چلا گیا۔ اب سو روپیہ باقی رہا، اس میں سے منجھلے (یعنی درمیانے) بھائی مرحوم مولوی حسن رضا خاں کوتا دیا کہ دو سو روپیہ بھیجو۔ یہاں وہ تار مُشْتَبَہ (یعنی مشکوک) ٹھہرا کہ بمبئی سے آتا، کراچی سے کیسا آیا؟ بارہ روپے پہنچ گئے۔

## احمد آباد میں تشریف آوری

بمبئی کے احباب وہاں لے جانے پر مُصر ہوئے، وہاں جانا پڑا۔ مولوی حکیم عبدالرحیم صاحب وغیرہ احباب احمد آباد کو اطلاع ہوئی۔ آدمی بھیجے، باصرار احمد آباد لے گئے۔ سواریوں کو بمبئی سے محمد رضا خاں و حامد رضا خاں کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ میں ہندوستان میں اترنے سے ایک مہینے بعد مکان پر پہنچا۔

## وہابیہ کی ذلت و رسوائی

وہابیہ ”حَدَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى“ (یعنی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے) کو بِفَضْلِهِ تَعَالَى جب شدید ذلتیں اور ناکامیاں ہوئیں ”الْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ“ لے کی وراثت سے یہاں یہ اڑا رکھی تھی کہ مَعَاذَ اللَّهِ فلاں قید ہو گیا۔ بمبئی آ کر یہ خبر سنی احباب نے مجلس بیان منعقد کی اور چاہا کہ اس کی نسبت کچھ کہہ دیا جائے، وَاحِدٌ قَبْرًا (عزوجل) نے ان کا کذب خود ہی سب پر روشن فرما دیا تھا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی! ہاں اتنا ہوا کہ آیہ کریمہ:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح دی۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱)

کا بیان کیا اور اس میں فتح مکہ مکرمہ اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کی حدیث ذکر کی۔ اس میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرما کر امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا۔ یہاں انہیں دیر لگی، کافروں نے اڑا دیا کہ وہ مکہ میں قید کر لیے گئے۔

## اعزازِ مدینہ

میرے آنے سے پہلے ہی اطراف سے لوگوں نے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو استفسار واقعات کے خطوط لکھے جس کے جواب انہوں نے وہ دینے کہ سنیوں کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہابیوں کا کلیجہ داغ داغ۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُن میں سے بعض جواب میرے دیکھنے میں آئے جن میں فرمایا ہے کہ ”یہ (یعنی قید ہوجانے کا دعویٰ) خبیث کذابوں کا کذب ہے۔ یعنی وہ کفار و منافقین جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دور میں جنگ کے مواقع پر مسلمانوں کو بزدل اور پریشان کرنے کے لیے اسلامی لشکروں کے متعلق مدینہ طیبہ میں جھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، الاحزاب۔ تحت الآیت ۶۰، ص ۷۶۹)



خبیث ہے اُس کو تو مکہ معظمہ میں وہ اعزاز ملا جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔“ وہابیہ کی تو کیا شکایت کہ وہ پورے اعداء (یعنی دشمن) ہیں اور کیوں نہ میرے دشمن ہوں کہ میرے مالک و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ان کے افتراؤں (یعنی جھوٹے الزاموں) نے بعض جاہل کپے سُنیوں کو بھی میرا مخالف کر دیا تھا یہ بہتان لگا کر کہ یہ معاذ اللہ حضرت شیخ مجدد (الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو کافر کہتا ہے اور جب مکہ معظمہ میں علم غیب کا مسئلہ بِفَضْلِهِ تَعَالَىٰ بِاِحْسَانٍ وَجُوهٍ (یعنی خوب اچھی طرح) روشن ہو گیا، علم الہی (عَزَّوَجَلَّ) اور علم نبوی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا غیر متناہی فرق میں نے ظاہر کر دیا تو اب یہ جوڑی کہ عیاذاً بِاللّٰهِ یہ قدرت نبوی کو قدرت الہی کے برابر کہتا ہے، کچے نا سمجھ لوگ آئیے کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا أَعْلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لِيَدْمِينَهُ ۗ ﴿٦١﴾ پر عمل نہ کرنے والے اُن کے داؤں میں آگئے۔

### مدینہ طیبہ میں مقیم ایک ہندی کی توبہ

مدینہ طیبہ میں ایک ہندی صاحب شیخ الحرم عثمان پاشا کے یہاں کچھ دُخیل (یعنی اثر رکھتے) تھے ایک مدرسہ کے نام سے ہندوستان وغیرہ سے چندہ منگاتے، یہ بھی انہیں کڈا بوں (یعنی جھوٹوں) کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ میں ابھی مکہ معظمہ ہی میں تھا۔ یہاں جو فتح و ظفر (یعنی کامیابی و کامرانی) مولیٰ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور پھر میرے عزمِ حاضری سرکارِ اعظم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی۔ اُن صاحب نے اپنے زُعم (یعنی گمان) پر کہ مجازی حاکم شہر کے یہاں رسائی ہے، یہ لفظ فرمائے کہ ”وہاں تو اس نے اپنا سکہ جمالیآ آنے تو دو یہاں آتے ہی قید کرادوں گا۔“ مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کی شان! میری سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے اُن کو یہ جواب ملا کہ میں ابھی مکہ معظمہ میں ہی ہوں اُن کی نسبت دھوکے سے چندے منگانے کا دعویٰ ہوا اور جیل بھیج دیئے گئے۔ جب میں حاضر ہوا ہوں، وہ میعاد کاٹ کر آچکے تھے۔ مسجد کریم میں مجھ سے ملے اور فرمایا: ”میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔“ میں نے کہا: ”علماء عظماء کی تشریف آوری کا ہجوم آپ دیکھتے ہیں، مجھے تنہائی نصف شب کو ملتی ہے۔“ کہا: ”میں اسی وقت آؤں گا۔“ میں نے کہا: ”اس وقت بندش (یعنی روک ٹوک) ہوتی ہے۔ کہا، میری بندش نہ ہوگی۔“

۱: یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت

۲: ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کئے پر پچھتاتے (یعنی پچھتاتے) رہ جاؤ۔ (پ ۲۶، الحجرات: ۶)

تشریف لائے اور کلمات استیثالت واستغفا کے فرمائے (یعنی دل جوئی کی اور معافی کے طلب گار ہوئے) میں نے معاف کیا اور میرے دل میں بِحَمْدِهِ تَعَالَى اُس کا کچھ غبار بھی نہ تھا۔ پھر ہندوستان تشریف لا کر بھی مجھ سے ملے، انظہارِ نام کی ضرورت نہیں رہ

### چو باز آمدی ماجرا در نوشت

(یعنی جب کوئی اپنی غلطی سے باز آجائے تو اس کے تذکرے کی حاجت نہیں۔ ت)

یہ تمام وقائع (یعنی واقعات) ایسے نہ تھے کہ ان کو میں اپنی زبان سے کہتا، ہمراہیوں کو توفیق ہوتی اور آتے جاتے اور ایام قیام ہر دوسرے کار کے واقعات روزانہ تاریخ وار قلمبند کرتے تو اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) کی بے شمار نعمتوں کی عمدہ یادگار ہوتی، اُن سے رہ گیا اور مجھے بہت کچھ سہو ہو گیا، جو یاد آ یا بیان کیا، نیت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا):

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی

نعمت کا خوب چرچا کرو۔ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱)

یہ برکات ہیں اُن دعاؤں کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی حَبِیْبِہِ الْکَرِیْمِ وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْن

### نعتیہ شاعری

**مؤلف:** ایک صاحب، شاہ نیاز احمد صاحب کے عرس میں بریلی تشریف لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت مدظلہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور کچھ اشعار نعت شریف سنانے کی درخواست کی۔ استفسار فرمایا: کس کا کلام ہے؟ انہوں نے بتایا۔ اس پر **ارشاد فرمایا:** ”سوا دو کے کلام کے کسی کا کلام میں قصداً نہیں سنتا، مولانا کافی اور حسن میاں مرحوم کا کلام اوّل سے آخر تک شریعت کے دائرہ میں ہے البتہ مولانا کافی کے یہاں لفظ ”رَعْنَا“ کا اطلاق (یعنی استعمال) جا بجا ہے اور یہ شرعاً محض نارواو بے جا (یعنی نامناسب اور بے فائدہ) ہے، مولانا کو اس پر اطلاع نہ ہوئی ورنہ ضرور احترام فرماتے۔ حسن میاں مرحوم (رحمۃ اللہ تعالیٰ

۱: یعنی ناؤک، حسین۔ یہ لفظ عام طور پر مجازی محبوبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

علیہ) کے یہاں بِفَضْلِهِ تَعَالَى یہ بھی نہیں۔ اُن کو میں نے نعت گوئی کے اُصول بتا دیئے تھے، اُن کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ ہمیشہ کلام اسی معیارِ اعتدال پر صادر ہوتا۔ جہاں شُبہ ہوتا مجھ سے دریافت کر لیتے۔ حسن میاں مرحوم نے ایک مقطع میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ۔

بھلا ہے حسن کا جنابِ رضا سے

بھلا ہو الٰہی جنابِ رضا کا

غرض ہندی نعت گو یوں میں ان دو کا کلام ایسا ہے۔ باقی اکثر دیکھا گیا کہ قدم ڈگمگا جاتا ہے۔

### فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

بلاشبہ جتنے فضائل و کمالات خزانہ قدرت میں ہیں سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے،

اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (پ ۱۲، یوسف: ۶) ترجمہ کنز الایمان: اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوة میں فرماتے ہیں:

ہر نعمتے کہ داشت خدا شد بر و تمام

(اللہ عزوجل نے اپنی تمام نعمتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام کر دیں۔ ت)

(مدارج النبوة بیان عقل و در علم، ج اول، ص ۳۶)

### مدنی پھول

میرے ایک وعظ میں ایک نفیس نکتہ مجھ پر القاء ہوا تھا (یعنی دل میں آیا تھا) اسے یاد رکھو کہ جملہ فضائل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے معیارِ کامل ہے وہ یہ کہ کسی مُنعم (یعنی نعمت دینے والے) کا دوسرے کو کوئی نعمت نہ دینا چاہی طور پر ہوتا ہے: (۱) یا تو دینے والے کو اس نعمت پر دسترس (یعنی قدرت) نہیں، یا (۲) دے سکتا ہے مگر بخل (یعنی کنجوسی) مانع (یعنی رکاوٹ) ہے،

یا (۳) جسے نہ دی وہ اس کا اہل نہ تھا، یا (۴) وہ اہل بھی ہے مگر اس سے زائد اُسے کوئی اور محبوب ہے اُس کے لیے بچا رکھی۔  
 اُلُوہیت ہی وہ کمال ہے کہ زیرِ قدرتِ ربّانی نہیں، باقی تمام کمالاتِ تحتِ قدرتِ الٰہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اَکْرَمُ  
 الْاَکْرَمِیْنَ ہر جَوَّاد سے بڑھ کر جَوَّاد اور حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے اہل اور حضور سے زائد اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کو  
 کوئی محبوب نہیں۔ لازم ہے کہ اُلُوہیت کے نیچے جتنے فضائل جس قدر کمالات، جتنی نعمتیں، جس قدر برکات ہیں مولیٰ عَزَّوَجَلَّ  
 نے سب اعلیٰ وجہ کمال پر حضور کو عطا فرمائیں، اگر اُلُوہیت عطا فرمانا بھی زیرِ قدرت ہوتا ضرور یہ بھی عطا فرماتا۔ جیسے ارشاد ہوا:

لَوْ اَمَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهُمُ الْاَلَاءَ نَتَّخِذُهُ  
 مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فاعِلِیْنَ ﴿۱۷﴾  
 اگر ہم بیٹا چاہتے تو ضرور اپنے پاس سے  
 اگر ہمیں کرنا ہوتا۔

(پ ۱۷، الانبیاء: ۱۷)

گو یا ارشاد ہوتا ہے اے نصرانیو! تم مسیح کو اور یہودیو! تم عزیر کو اور عرب کے مشر کو! تم ملائکہ کو ہماری اولاد ٹھہراتے ہو، ہمیں اگر  
 اپنے لیے بیٹا بنانا ہوتا تو انہیں کو نہ بناتے جو سب سے زیادہ ہمارے مقرب ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## نعت شریف لکھنے کی احتیاطیں

اور حقیقتاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر بڑھتا  
 ہے تو اُلُوہیت میں پہنچا جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص (یعنی شان میں کمی یا گستاخی) ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ  
 صاف ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔

## نعت گو شاعروں کی خواب میں زیارت

(پھر فرمایا) مولانا کافی علیہ الرحمۃ کی زیارت آٹھ برس کی عمر میں مجھے خواب میں ہوئی۔ میری پیدائش کے گیارہ مہینے  
 بعد مولانا کو پھانسی ہوئی۔ پچھلی غزل میں ایک مصرع یہ بھی لکھا تھا ع  
 بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا

میں نے اپنے منگلے بھائی حسن میاں مرحوم کو اُن کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ اپنی مسجد کی فصیل شمالی (یعنی شمالی

دیوار) پر مسجد میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں اور یہ مسجد کی منہ تائے حد جنوبی سے میری طرف خوش خوش آرہے ہیں۔ ہاتھ میں ایک بہت طویل کاغذ ہے وہ مجھے دکھانے لائے اور کہتے ہیں نوباتیں بہت ہی اعلیٰ درجہ پر قبول ہوئیں، تفصیل نہ معلوم ہوئی تھی کہ آنکھ کھل گئی۔

## طَلَب اور بَيْعَت میں فرق

**عرض:** حضور طلب اور بیعت میں کیا فرق ہے؟

**ارشاد:** طالب ہونے میں صرف طلبِ فیض ہے اور بیعت کے معنی پورے طور سے پکنا۔

## بیعت کی 4 شرائط

بیعت اس شخص سے کرنا چاہیے جس میں یہ چار باتیں ہوں ورنہ بیعت جائز نہ ہوگی:

**اولاً:** سنی صحیح العقیدہ ہو۔ **ثانیاً:** کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی کی امداد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔ **ثالثاً:** اُس کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مُتَّصِل (یعنی ملا ہوا) ہو، کہیں مُنْقَطِع (یعنی ٹوٹا ہوا) نہ ہو۔ **رابعاً:** فاسق مُعَلِن نہ ہو۔

## پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے چکا ہوں

{ اسی سلسلہ بیان میں ارشاد ہوا کہ } لوگ بیعت بطور رسم ہوتے ہیں، بیعت کے معنی نہیں جانتے۔ بیعت اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کے ایک مُرید دریا میں ڈوب رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا: ”اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں۔“ اُن مرید نے عرض کی: ”یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کے ہاتھ میں دے چکا ہوں اب دوسرے کو نہ دوں گا۔“ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا۔

## زمانہ رسالت میں تجدیدِ بیعت

**عرض:** حضور کے زمانے میں بھی تجدیدِ بیعت ہوتی تھی؟

**ارشاد:** خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سَلَمَہُ ابْنِ اَسْوَع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ایک جلسہ میں تین بار بیعت لی۔ جہاد کو جا رہے تھے، پہلی بار فرمایا (تو) سَلَمَہُ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے بیعت کی۔ تھوڑی دیر بعد حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”سَلَمَہُ

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم بیعت نہ کرو گے؟“ عرض کی: ”حضور ابھی کر چکا ہوں!“ فرمایا: ”وَأَيْضًا، پھر بھی۔“ انہوں نے پھر بیعت کی۔ اخیر میں جب سب حضرات بیعت سے فارغ ہوئے، پھر ارشاد ہوا: ”سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم بیعت نہ کرو گے؟“ عرض کی: يَا رَسُولَ اللَّهِ! (عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) میں دوبار بیعت کر چکا۔ فرمایا: وَأَيْضًا پھر بھی۔ غرض ایک جلسہ میں سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے تین بار بیعت لی۔ (ملفوظات، صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة ذی قرد، الحدیث ۱۸۰۷، ص ۱۰۰)

اُن پر تا کید بیعت میں راز یہ تھا کہ وہ ہمیشہ پیادہ (یعنی پیدل) جہاد فرمایا کرتے تھے اور مجمع کفار کا تنہا مقابلہ کرنا ان کے نزدیک کچھ نہ تھا۔

### 400 کفار کا تنہا مقابلہ کرنے والے

ایک بار عبدالرحمن قاری کہ کافر تھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اُونٹوں پر آ پڑا، چرانے والے کو قتل کیا اور اونٹ لے گیا۔ اسے قراءت سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ قبیلہ بنی قارہ سے تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی پہاڑ پر جا کر ایک آواز تودی کہ يَا صَبَاحَا یعنی دشمن ہے، مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ کسی نے سنی یا نہیں، کوئی آتا ہے یا نہیں، تنہا اُن کافروں کا تعاقب (یعنی پیچھا) کیا وہ چار سو تھے اور یہ اکیلے، وہ سوار تھے اور یہ پیادہ (یعنی پیدل) مگر نبوی مدد ان کے ساتھ، اس محمدی شیر کے سامنے سے انہیں بھاگتے ہی بنی۔ اب یہ تعاقب میں ہیں اپنا رجز پڑھتے جاتے ہیں۔ ۳

أَنَا سَلْمَةُ ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ  
(میں سلمہ بن اکوع ہوں اور تمہاری ذلت و خواری کا دن ہے۔)

۱: خط کشیدہ عبارت نہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کا ارشاد ہے نہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توضیح، بلکہ یہ کسی اور کا تصرف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جو تفصیلی واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے وہ صحیح مسلم کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة ذی قرد وغیرہ، الحدیث ۱۸۰۷، صفحہ ۱۰۰ پر تفصیلاً موجود ہے۔ جس میں ”عبدالرحمن فزاری“ درج ہے نہ کہ ”عبدالرحمن قاری“۔ کتابت یا نقل کی غلطی سے ”فزاری“، ”قاری“ ہو گیا۔ قاری چونکہ قرآن کا علم رکھنے والے کو کہا جاتا تھا اور ایک کافر پر اس کا اطلاق غیر موزوں محسوس ہوا، اس لیے ناقل کو خط کشیدہ عبارت بڑھانی پڑی، صاحب ملفوظ اس سے برمی ہیں۔ (تحقیقات ص ۶۰ تا ۶۲ ملخصاً)

۲: یہ مدد طلب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ (فتح الباری، ج ۷، ص ۳۹۲)

۳: جنگ میں پڑھے جانے والے وہ فخریہ اشعار جن میں سپاہی کی بہادری اور اس کے حسب نسب کی تعریف ہوتی ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے شرح مسلم ج ۶، جز ۱۳، ص ۱۷۲ پر لکھا ہے کہ اپنی تعریف کیلئے اس قسم کا کلام جنگ کے دوران کہنا جس سے اس کی بہادری ظاہر ہو اور دشمن پر عرب طاری ہو، جائز ہے۔

ایک ہاتھ گھوڑے کی گونچوں (ٹخنے کے نیچے موٹے پٹھوں) پر مارتے وہ گرتا ہے سوار زمین پر آتا ہے، دوسرا ہاتھ اس پر پڑتا ہے وہ جہنم جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کو بھاگنا دشوار ہو گیا۔ گھوڑوں پر سے اپنے اسباب پھینکنے لگے کہ ہلکے ہو کر زیادہ بھاگیں۔ یہ اسباب سب ایک جگہ جمع فرماتے اور پھر وہی رجز پڑھتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے اور انہیں جہنم پہنچاتے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ کافر ایک پہاڑی پر ٹھہرے اُس کے قریب دوسری پہاڑی پر انہوں (یعنی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے آرام فرمایا۔ دن ہونے پر وہ (یعنی کفار) اتر کر چلے، وہ (یعنی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اُسی طرح اُن کے پیچھے اور وہی رجز وہی قتل یہاں تک کہ گرد اُٹھی۔ یہ قتل و تعاقب کرتے کرتے تھک گئے تھے، اندیشہ ہوا کہ مبادا (یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ) کفار کی مدد آئی ہو۔ جب دامن گرد پھٹا تکبیروں کی آوازیں آئیں اور دیکھا کہ حضرت ابو قتادہ مع بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھوڑوں پر تشریف لارہے ہیں۔ اب کیا تھا کفار کو گھیر لیا۔ (ملخصاً، صحیح مسلم، کتاب الجہاد و السیر، باب غزوة ذی قرد، الحدیث ۱۸۰۷، ص ۱۰۰)

ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”فارس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ کہا جاتا تھا۔ یعنی لشکرِ حضور کے سوار، جس طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”راجل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ یعنی لشکرِ اقدس کے پیادے۔

(ملخصاً، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، باب حرف الحاء، حارث بن ربیع سلمی، ج ۱، ص ۳۵۳)

ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بارگاہ رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں ”أَسَدٌ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ فرمایا: اللہ ورسول (عَزَّ وَجَلَّ و صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کے شیروں میں سے ایک شیر۔

اُن کو اس جہاد کی خبر اُن کے گھوڑے نے دی، تھان (یعنی اصطلب) پر بندھا ہوا چمکا (یعنی جوش میں آ کر بھڑکا)۔ اُنہوں نے چمکا را پھر چمکا۔ فرمایا: واللہ کہیں جہاد ہے۔ گھوڑا کس کر سوار ہوئے اب یہ تو معلوم نہیں کدھر جائیں؟ باگ چھوڑ دی اور کہا جدھر تو جانتا ہے چل، گھوڑا اڑا اور یہاں لے آیا۔

اس عبدالرحمن قاریؒ سے پہلے کسی لڑائی میں اُن سے وعدہ جنگ ہو لیا تھا یہ وقت اُس کے پورا ہونے کا آیا۔ وہ پہلوان تھا اس نے کشتی مانگی۔ انہوں نے قبول فرمائی، اس محمدی شیر نے خوکِ شیطان (یعنی شیطانی خنزیر) کو دے مارا، خنجر لے

کر اُس کے سینے پر سوار ہوئے۔ اُس نے کہا: ”میری بی بی کے لیے کون ہوگا؟“ فرمایا: ”نار (یعنی آگ)“ اور اُس کا گلا کاٹ دیا۔ سرکاری اونٹ اور تمام غنیمتیں اور وہ اَسباب کہ جا بجا کفار پھینکتے اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جمع فرماتے گئے تھے، سب لاکر حاضر بارگاہِ انور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کیا۔

## وَجَدَ كَا شَرَعِي حَكْم

**عرض:** مجلسِ سماع میں اگر مزامیر نہ ہوں (اور) ”سماع جائز“ ہو تو وجد والوں کا قص جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر وجد صادق (یعنی سچا) ہے اور حال غالب اور عقل مستور (یعنی زائل) اور اس عالم سے دُور تو اُس پر تو قلم ہی جاری نہیں ع

## کہ سلطان نگیرد خراج از خراب

(یعنی بادشاہ تباہ حال لوگوں سے خراج نہیں لیتا۔)

اور اگر بہ تکلف وجد کرتا ہے تو ”تَشَنِّي اور تَكْشُر“ یعنی لچکے توڑے کے ساتھ حرام ہے اور بغیر اس کے اگر ریا یا د اظہار کے لیے ہے تو جہنم کا مستحق ہے۔ اور اگر صادقین کے ساتھ تشبہ بہ نیتِ خالصہ مقصود ہے کہ بنتے بنتے بھی حقیقت بن جاتی ہے تو حَسَن و محمود ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ      جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، الحدیث ۴۰۳۱، ج ۴، ص ۶۲)

إِنَّ التَّشْبَهَ بِالْكَرَامِ فَلَا حَ      إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا

(اگر تم صادقین میں سے نہ ہو تو ان کی مشابہت ہی اختیار کر لو کیونکہ اچھوں کی مشابہت میں کامیابی ہے۔)

## تنہائی میں بھی ریا کاری ممکن ہے؟

**عرض:** اگر کوئی تنہا خشوع کے لیے نماز پڑھے اور عادت ڈالے تاکہ سب کے سامنے بھی خشوع ہو تو یہ ریا ہے یا کیا؟

**ارشاد:** یہ بھی ریا ہے کہ دل میں نیت غیر خدا ہے۔



## تم سب ٹھیک راستے پر ہو

یہاں ایک حدیث ”وہابی گش“ بیان کرتا ہوں کہ اس مسئلہ سے متعلق ہے، (سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی) عادت کریمہ تھی کہ کبھی شب میں اپنے اصحاب کرام کا تَفَقُّدِ احوال (یعنی معاینہ) فرماتے مثلاً ایک شب نماز تہجد میں صدیق اکبر پر گزر فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے، انہیں دیکھا کہ جا بجا سے متفرق آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہر ایک سے اس کے طریقے کا سبب دریافت فرمایا۔ صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) اسْمَعْتُ مَنْ نَا جَيْتُ“ میں جس سے مناجات کرتا ہوں اسے سنا لیتا ہوں یعنی اوروں سے کیا کام کہ آواز بلند کروں۔ فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) اَوْ قَطُّ الْوَسْنَانَ وَ اطْرُدُ الشَّيْطَانَ“ میں سوتوں کو جگا تا اور شیطان کو بھگا تا ہوں یعنی جہاں تک آواز پہنچے گی بھاگے گا اور تہجد والوں میں جس کی آنکھ نہ کھلی ہو، وہ جاگ کر پڑھے گا، اس لیے اس قدر زور سے پڑھتا ہوں۔ حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) كَلَامٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ اللَّهُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ“ پاکیزہ کلام ہے کہ اللہ اس کے بعض کو بعض سے ملاتا ہے، اس کا مطلب فقیر کی سمجھ میں یہ ہے گویا عرض کرتے ہیں کہ قرآن عظیم ایک لہلہا تا باغ ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول، قسم قسم کے میوے و درمثور (یعنی بکھرے موتیوں) کی طرح متفرق پھیلے ہوئے، کہیں حمد ہے، کہیں ثنا، کہیں ذکر، کہیں دُعا، کہیں خوف، کہیں رجا (یعنی امید)، کہیں نعتِ حبیبِ خدا (عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وغیرہا مطالب جدا جدا۔ جانب الہی (عَزَّوَجَلَّ) سے جس وقت جس طرح کی تجلی وارد ہوتی ہے اسی کے مناسب آیات متفرق مقامات سے جمع کر کے پڑھتا ہوں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”كُلُّكُمْ قَدْ اَصَابَ تَمَّ سَبُّ تَهِيكٍ پَرِ هُوَ مَكْرَاةٌ صَدِيقِ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم قدرے آواز بلند کرو، اور اے فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم قدرے پست، اور اے بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم سورت ختم کر کے

دوسری سورت کی طرف چلو۔ (ملخصاً، سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت، الحدیث ۱۳۲۹-۱۳۳۰، ج ۲، ص ۵۵)

## اور زیادہ بنا کر پڑھتا

اسی طرح ایک شب تہجد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھنا سنا۔ اُن کی آواز نہایت دلکش، اُن کا لہجہ کمال دلکش تھا۔ ارشاد ہوا: ”انہیں داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الحانوں سے ایک الحان ملا ہے۔“ صبح اُن کے پڑھنے کی تعریف فرمائی۔ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! (عَزَّوَجَلَّ وُصَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) اگر مجھے معلوم ہوتا کہ (حضور) سُن رہے ہیں تو اور زیادہ بنا کر پڑھتا۔“

(فتح الباری لابن حجر، کتاب فضائل القرآن، تحت الحدیث ۵۰۴۸، ج ۹، ص ۷۹)

میں کہتا ہوں یہ جگہ ہے کہ وہابیت کا زہرہ (یعنی پٹا) شق ہو (یعنی پھٹ) جائے۔ ریا حرام ہے بلکہ اسے شرک فرمایا۔

اگر روئے طاعت ترا در خداست

اگر جبرئیلت نہ بیند رواست

(یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اسے اگر جبریل امین بھی نہ دیکھیں تو درست ہے۔ ت)

اور ریا نہیں مگر غیر خدا کے لیے تَصَّعُّع (یعنی بناوٹ)۔ یہاں یہ صحابی خود حضور میں عرض کر رہے ہیں کہ میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے اور زیادہ بنا کر پڑھتا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تو ثابت ہوا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے بنانا غیر خدا کے لئے بنانا نہیں خدا ہی کے لیے ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا معاملہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہی کا معاملہ ہے۔

کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
يا رسول اللہ! میری توبہ یہ ہے کہ اپنے مال سے باہر آؤں،  
سب اللہ ورسول کے نام پر تصدق کر دوں۔

(صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب لاصدقة الا..... الخ، ج ۱، ص ۴۸۱)

اُمّ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں:

يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ  
يا رسول اللہ! میں اللہ اور رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں۔

(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب هل يرجع..... الخ، الحدیث ۵۱۸۱، ج ۳، ص ۴۵۶)

اس قسم کی بہت آیات و احادیث میری کتاب ”الْأَمْنُ وَالْعُلَى“<sup>۱</sup> میں ملیں گی جن سے ثابت ہوگا کہ حبیب کا معاملہ غیر خدا کا معاملہ نہیں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہی کا معاملہ ہے مگر وہابیہ کو عقل و ایمان نہیں۔

## پنج آیت کا جواز

بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مذکور سے ”پنج آیت“ کا بھی جواز ثابت ہوا کہ وہ متفرق مقام سے آیات پڑھتے تھے اور ارشاد ہوا، تم سب ٹھیک پر ہو اور آگے جو انہیں تعلیم فرمائی اس سے اتنا ثابت ہوا کہ نماز میں اولیٰ یوں ہے۔

## تَصَوُّرِ شَيْخ

**عرض:** حضور ”فَنَأْفِي الشَّيْخِ“ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟

**ارشاد:** یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اُس کے قلب کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکارِ رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے فیوض و انوار قلبِ شیخ پر فائز ہوتے اور اس سے چھلک کر میرے دل میں آرہے ہیں پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر و درو دیوار پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی اور پھر ہر حال اپنے ساتھ پاؤ گے۔

## پیر و مرشد کی تنبیہ

حافظ الحدیث سیدی احمد ساجلماسی کہیں تشریف لئے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ یہ امر اول تھی، بلا قصد تھی۔ دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی، اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں: احمد عالم ہو کر!!!

## مُرشدِ اپنے مُرید سے دُور نہیں

انہیں سیدی احمد ساجلماسی کی دو بیویاں تھیں، سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہمبستری کی، یہ نہیں چاہیے“۔ عرض کیا: ”حضور وہ اس وقت سوتی تھی۔“ فرمایا: ”سوتی نہ

۱: یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ کی جلد 30، صفحہ 359 پر ملاحظہ کیجئے۔

تھی سوتے میں جان ڈال لی تھی (یعنی سوتی بن گئی تھی)۔“ عرض کیا: حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا: ”جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟“ عرض کیا: ہاں، ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا: ”اس پر میں تھا۔“ (الابریز الفصل الثالث فی ذکر بعض الکرامات، ج ۱، ص ۸۴) تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ ۱

## بچوں کی بیعت

**عرض:** بچوں کی بیعت کس عمر میں ہو سکتی ہے؟

**ارشاد:** اگر ایک دن کا (بھی) بچہ ہو، ولی کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے۔ (ملخصاً، سبع سنابل، سنبلہ ہفتم، ص ۲۰۳)

## ”تار“ کے ذریعے چاند کا ثبوت

**عرض:** اثباتِ ہلال میں ”تار“ پر اعتماد ہو گا یا نہیں؟

**ارشاد:** میرا رسالہ ”اَزْ كَسَى الْاَهْلَالَ“<sup>۱</sup> ملاحظہ فرمائیے جس میں بدر کی طرح روشن کیا ہے کہ رویتِ ہلال میں تار اور خط کی خبر معتبر نہیں۔ لیکن گنگوہی صاحب نے معتبر مانی اور اپنے علم و فہم کی بانگی (یعنی نمونہ) دکھانے کو اس پر یہ ”استدلال مضحکہ اطفال“ تراشا (یعنی ایسی بے سرو پا دلیل گھڑی کہ اسے سن کر بچے بھی ہنس دیں) کہ ”تحریر معتبر ہے اور تحریر قلم سے ہو یا طویل بانس سے ہر طرح تحریر ہے۔“ تو گویا ان ”بزرگوار“ کے نزدیک تار بھیجنے والا اتنے لمبے بانس سے کچھ لکھ دیا کرتا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ ان کا یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے اور عقلاً و نقلاً باطل و مردود ہے۔ اول تو یہاں تحریر ہی کہاں؟ دُوم خط خود کب معتبر؟ تمام کتابوں میں تصریح ہے کہ: ”الْخَطُّ يَشْبَهُ الْخَطَّ“ (یعنی ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو جایا کرتا ہے۔ ت) (فتح القدیر، کتاب الشهادات، فصل ما يتحمله الشاهد۔ الخ، ج ۶، ص ۴۶۵) اور ”الْخَطُّ لَا يُعْمَلُ بِهِ“ (یعنی خط پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ت)

سوم آپ کے لکھے ”اس سینکڑوں میل کے طویل بانس“ سے وہ خبر بھیجنے والا نہیں لکھتا کہ اُس کا خط آپ کے نزدیک معتبر ہو بلکہ یہ ”شیطان کی آنت“ بانس، تار بابو (یعنی تار بھیجنے والے اہلکار) کے ہاتھ میں ہے جو محض مجہول اور اکثر کفار۔ اس کا نام

۱: ان دونوں حکایتوں کا تعلق کشف سے ہے، حدیث پاک میں ہے: ”مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ ﴿جامع ترمذی ج ۵ ص ۸۸﴾ یہ سب عالم غیب کی باتیں ہیں اور عالم غیب کی باتوں کو عالم شہادت پر قیاس کر کے بزرگان دین پر زبانِ اعتراض دراز کرنا یا وسوسوں میں مبتلا ہونا دانشمندی نہیں۔ (تحقیقات ص ۱۷۱ تا ۱۷۲ ملخصاً)

۲: یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ مخرجہ، ج ۱۰، ص ۳۵۹ پر موجود ہے۔

مفتی گری ہے! رع آدمیاں گم شدند (و ملکہ خدا خرا گرفت)

(یعنی آدمی کھو گئے اور نظام گدھوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ ت)

## قطب (ستارے) کی طرف پاؤں کرنا کیسا؟

**عرض:** حضور! قطب کی طرف پاؤں کرنے کی کیا ممانعت فرمائی گئی ہے؟

**ارشاد:** یہ مسئلہ جہلا میں بہت مشہور ہے۔ ”قطب“ عوام میں ایک ستارے کا نام ہے کہ قطب شمالی کے قریب ہے، تو تارے تو چاروں طرف ہیں کسی طرف پاؤں نہ کرے۔

## کبھی پاؤں نہ پھیلائے

(اسی تذکرے میں فرمایا) حضرت سیدی سری سقطی (علیہ رحمۃ اللہ القوی) مسجد میں پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے۔ غیب سے ندا آئی: ”کیا بادشاہوں کے حضور یوں ہی بیٹھے ہیں؟“ اُس وقت سے جو پاؤں سمیٹے تو تختے (یعنی تختہ غسل) ہی پر پھیلے، کبھی سوتے میں بھی نہ پھیلائے۔ (سیح سنابل، سنبلہ چہارم، ص ۱۳۱)

## لکھائی والا دسترخوان

**عرض:** دسترخوان پر اگر اشعار وغیرہ لکھے ہوں تو اس پر کھانا جائز ہے؟

**ارشاد:** ناجائز ہے۔

## اگر برتن میں آیات لکھی ہوں تو؟

**عرض:** اگر برتن میں آیات وغیرہ لکھی ہوں تو اس میں کھانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** اگر بغرض استشفاء (یعنی آیات کی برکت سے حصول شفا کے لیے) ہے تو حرج نہیں لیکن با وضو و نہ اجازت نہیں۔

## مسجد کے اندر وضو کرنا

**عرض:** اگر معتکف کسی معقول وجہ سے مسجد ہی میں وضو کرے تو اسے اجازت ہوگی؟

**ارشاد:** نہیں! مگر جب کہ وہ با احتیاط اس طرح وضو کرے کہ اُس کے وضو کی چھینٹ مسجد میں نہ گرے کہ اس کی سخت ممانعت

ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیصل (یعنی حوض کی دیوار) پر وضو کیا اور ویسے ہی ہاتھ جھٹکتے فرش مسجد میں پہنچ گئے، یہ ناجائز ہے۔

## لحاف پر وضو کر لیا

میں نے ایک بار بغیر برتن کے خاص مسجد میں وضو جائز طور پر کیا، وہ یوں کہ پانی موسلا دھار پڑ رہا تھا اور میں معتکف، جاڑوں کے دن تھے، میں نے توشک (یعنی روئی دار بستہ) بچھا کر اور اس پر لحاف ڈال کر وضو کر لیا۔ اس صورت میں ایک چھینٹ بھی مسجد کے فرش پر نہ پڑی، پانی جتنا وضو کا تھا توشک و لحاف نے جذب کر لیا۔

## مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ!

**عرض:** حضور! مدینہ طیبہ میں ایک نماز پچاس ہزار کا ثواب رکھتی ہے اور مکہ معظمہ میں ایک لاکھ کا، اس سے مکہ معظمہ کا افضل ہونا سمجھا جاتا ہے؟

**ارشاد:** جمہور حنفیہ کا یہی مسلک ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدینہ افضل اور یہی مذہب امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔

ایک صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا: مکہ معظمہ افضل ہے۔ فرمایا: کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے! انہوں نے کہا: واللہ! بیت اللہ و حرم اللہ۔ فرمایا: میں بیت اللہ اور حرم اللہ میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے! انہوں نے کہا: بخدا خانہ خدا و حرم خدا۔ فرمایا: میں خانہ خدا و حرم خدا میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے! وہ وہی کہتے رہے اور امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) یہی فرماتے رہے اور یہی میرا مسلک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل المدینہ، باب من راغب عن المدینہ، الحدیث ۱۸۷۵، ج ۱، ص ۶۱۸)

دوسری حدیث نص صریح ہے کہ فرمایا:

الْمَدِينَةُ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ  
(یعنی: مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ ت)

(فردوس الاختیار ج ۲ ص ۳۶۱ حدیث ۶۹۵۴)

! ملخصاً، المؤطا لامام مالک، کتاب الجامع ما جاء فی امر المدینہ، الحدیث ۱۷۰۰، ج ۲، ص ۳۹۶

## ثواب میں فرق کیوں؟

اور تَفَاوُتِ ثَوَابٍ (یعنی ثواب میں فرق) کا جواب باصواب (یعنی درست جواب) شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب دیا کہ ”مکہ میں کمیت زیادہ ہے اور مدینہ میں کیفیت“ (تاریخ مدینہ اردو ترجمہ ”جذب القلوب“ ص ۱۹) یعنی وہاں ”مقدار“ زیادہ ہے اور یہاں ”قدر“ اَفْزُول (یعنی زیادہ)۔ جسے یوں سمجھیں کہ لاکھ روپیہ زیادہ کہ پچاس ہزار اشرفیاں؟ گنتی میں وہ (یعنی لاکھ روپے) دو نے ہیں اور مالیت میں یہ (یعنی پچاس ہزار اشرفیاں) دس گنتی۔ مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی لاکھ نیکیاں ہیں یوں ہی ایک گناہ لاکھ گناہ ہیں اور وہاں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے جس طرح نیکی کے ارادے پر ثواب۔ مدینہ طیبہ میں نیکی کے ارادے پر ثواب اور گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں اور گناہ کرے تو ایک ہی گناہ اور نیکی کرے تو پچاس ہزار نیکیاں۔ عجب نہیں کہ حدیث میں ”خَيْرٌ لَّهُمْ“ کا اشارہ اسی طرف ہو کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے۔

### مَحَدِّثُ سُورَتِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوَالِي كَاذِكِرِ خَيْر

**مؤلف:** حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال شریف کا ذکر تھا، ان کے محاسن (یعنی خوبیوں) کا ذکر فرماتے ہوئے **ارشاد فرمایا:** ”قیامت قریب ہے، اچھے لوگ اٹھتے جاتے ہیں، جو جاتا ہے اپنا نائب نہیں چھوڑتا۔“ (پھر فرمایا) امام بخاری نے انتقال فرمایا انوے ہزار شاگرد محدث چھوڑے، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا اور ایک ہزار مجتہدین اپنے شاگرد چھوڑے۔ محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے اور مجتہد ہونا آخری منزل اور اب ہزار مرتے ہیں اور ایک بھی نہیں چھوڑتے۔

### امام بخاری (علیہ رحمۃ اللہ التوای) کا مبارک خواب

امام بخاری (علیہ رحمۃ اللہ التوای) نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مگس رانی کر رہا ہوں (یعنی جسم اطہر پر بیٹھنے والی کھیاں ہٹا رہا ہوں)، خواب دیکھ کر پریشان ہوئے کہ مکھی تو جسم اقدس پر بیٹھتی نہ تھی۔ علماء نے تعبیر فرمایا: ”بشارت ہو تمہیں کہ احادیث میں جو خلط (یعنی گڈ گڈ) ہو گیا ہے تم اسے پاک و صاف کرو گے۔“

(ہدی الساری مقدمہ فتح الباری، الفصل الاول، ج ۱، ص ۹)

### احادیث میں خلط کس نے کیا؟

**عرض:** حضور! احادیث میں خلط کس نے کر دیا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟

**ارشاد:** خدا ترسوں نے اکثر احادیث میں کچھ کچھ کر دیا ہے۔

## راویوں کا مذاق اڑانے والا

ایک مرتبہ ایک شخص نے مجلس وعظ میں بڑی لمبی چوڑی حدیث پڑھی جس کی شروع سند میں تھا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مُعِينٍ: احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے ہم سے حدیث بیان کی۔ اتفاق کی بات کہ یہ دونوں حضرات اُس وقت وہاں تشریف فرما تھے۔ باہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے رہ جاتے۔ جب وہ ختم کر چکا، یحییٰ بن معین (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے اشارہ سے اپنے پاس بلایا اور فرمایا: ”احمد یہ ہیں اور یحییٰ میں، ہم نے خواب میں بھی یہ حدیث جو تم نے پڑھی نہیں بیان کی۔“ بولا: ”میں سنا کرتا تھا کہ ابن حنبل و ابن معین کم عقل ہیں، آج مجھے اس کا یقین ہوا۔ ساٹھ (60) احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہیں جن سے میں حدیث روایت کرتا ہوں۔“ یہ تمسخر کرتا ہوا چلا گیا۔ (ملخصاً، الجامع لاحکام القرآن، ج ۱، ص ۷۷)

## جھوٹے شخص کی پشیمانی

{ اسی سلسلے میں فرمایا کہ } پہلی مرتبہ کی حاضری حرمین طہیین میں ایک کٹر وہابی نے خاص کعبہ معظمہ میں مجھ سے آکر کہا کہ آپ میلاد شریف میں قیام کرنے کے لیے بہت زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عرب شریف میں عام طور سے قیام ہوتا ہے، یہاں شیخ العلماء احمد زین دحلان قیام کو منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا شیخ العلماء کا دولت کدہ یہاں سے چند قدم ہے ابھی چلو ہم دریافت کرادیں۔ ہر چند اصرار کیا، زمین پکڑ گیا۔ مفتریوں (یعنی جھوٹے الزام لگانے والوں) کی یہ جرأت ہوتی ہے! میں نے کہا: ”کاش! مکہ معظمہ سے باہر جا کر بلکہ جہاز میں سوار ہو کر یہ افترا کیا (یعنی بہتان باندھا) ہوتا کہ تصدیق کے لیے واپس آنا دشوار ہوتا، شیخ العلماء کے زیر دیوار بیٹھ کر ایسا جیتا افترا!“ مگر اس ”حیادار“ کو کچھ اثر نہ ہوا، اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ حضرت شیخ العلماء خود قیام فرماتے ہیں، استحسان قیام (یعنی قیام کے مستحب ہونے کے بارے) میں اُن کے متعدد فتوے ہیں۔ فتاویٰ کے علاوہ ان کی کتاب مستطاب ”الدَّرُّ السَّنِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ“ میں اس کی جلیل تصریح ہے اور ”السِّيَرَةُ النَّبَوِيَّةُ“ میں اس سے بھی روشن تر۔

## بد مذہبوں کی زباناں درازیاں اور اعلیٰ حضرت کا طرزِ عمل

**عرض:** واقعی اگر (وہابیہ کا) منہ بند ہوا ہے تو حضور (یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ) ہی کی ذاتِ بابرکات سے، دل میں نامعلوم کیا کیا

۱: السِّيَرَةُ النَّبَوِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”جَرَبَتِ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ إِذَا سَمِعُوا ذِكْرَ وَضْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُونَ تَعْظِيمًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ“ یعنی عادت جاری ہوگئی ہے کہ لوگ جب ذکرِ ولادتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حضور اکرم و اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قیام بہتر اور مستحسن ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور بیشک امت کے بڑے بڑے علماء نے ایسا کیا جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ ۱۲



کہتے ہوں گے؟

**ارشاد:** اس کا کیا خوف! دل میں کیا، بر ملا فحش گالیاں دیتے ہیں۔ بعض خُبْنًا تَوْمُغَلَّطَاتٍ (یعنی گالیوں) سے بھرے ہوئے بیرنگ خطوط (یعنی وہ خطوط جن کا حصول پہلے ادا نہ کیا گیا ہو) بھیجتے ہیں۔ پھر ایک نہیں اللہُ اَعْلَمُ کتنے آتے ہیں؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس سے زیادہ میری ذات پر حملہ کریں، میں تو شکر کرتا ہوں کہ اللہُ عَزَّ وَجَلَّ نے مجھے دینِ حق کی سپر (یعنی ڈھال) بنایا کہ جتنی دیوہ مجھے کوستے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں اتنی دیر اللہُ ورسولِ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص سے باز رہتے ہیں۔ ادھر سے کبھی اُس کے جواب کا وہم بھی نہیں ہوتا اور نہ کچھ برا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عزت اُن کی عزت پر نثار ہی ہونے کے لیے ہے بلکہ اُن پر نثار ہونا ہی عزت ہے۔ قرآنِ عظیم میں ارشاد فرمایا:

وَلَتَسَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الَّذِي كَثِيرًا  
الْبَيْتِ تَمَّ مَشْرُكُونَ اور اگلے کتابیوں سے بہت کچھ  
براسنوگے۔

(پ ۴، ال عمران: ۱۸۶)

بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین و صحابہ و تابعین تو مخالفین کے سب و شتم (یعنی گالی گلوچ) سے بچے نہیں یہ درکنار جب اللہ واحد تھا اور اس کے پیارے حبیب و محبوب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹانا چاہی، انہیں عیب لگائے تو ”اور کوئی“، کس گنتی میں؟

## حق گوئی کی ایک پہچان

ایک صاحبِ ولایت نے حضرت محبوبِ الہی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضری کا منزلِ دُور دراز سے قصد فرمایا۔ راہ میں جس سے حضرت محبوبِ الہی (قدس اللہ سرہ العزیز) کا حال دریافت فرماتے لوگ تعریف ہی کرتے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا میری محنت ضائع ہوئی کہ یہ اگر حق گو ہوتے لوگ ضرور اُن کے بدگو ہوتے جب دہلی قریب رہی انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اب مذمتیں سنیں، کوئی کہتا: وہ دہلی کا مکار ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ انہوں نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ میری محنت وصول ہوئی۔

## حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا

حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہِ ربِّ العزت میں عرض کی: ”اللّٰہی (عَزَّوَجَلَّ) مجھے ایسا کر کہ کوئی مجھے برانہ کہے۔“ ارشادِ باری (عَزَّوَجَلَّ) ہوا: ”اے یحییٰ یہ میں نے اپنے لیے تو کیا نہیں، کوئی میرا شریک بناتا ہے، کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے کوئی میرے لیے بیٹھٹھہراتا ہے۔“

(ملخصًا کنز العمال، کتاب الفضائل، قسم الافعال، باب فضائل سائر الانبياء..... الخ الحدیث ۳۷ ۳۲ ۴، ج ۱، ص ۲۳۷)

لیکن نبی کی دعا خالی نہیں جاتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر برا کہنے والے موجود ہیں لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بھی برا کہنے والا نہیں۔ قادیانی سے بد زبان کو دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی توہینیں کرتا ہے یہاں تک کہ انہیں اور ان کی ماں صدیقہ بتول طاہرہ (یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو بخش گالیاں تک دیتا ہے، چار سو انبیاء کو صاف جھوٹا لکھا حتیٰ کہ دربارہٴ حدیبیہ (یعنی حدیبیہ کے بارے میں) خود شانِ اقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ناپاک حملہ کیا مگر یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف ہی کی۔

## سختی کے الزام کا جواب

{یہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ} اس پر بھی بعض احمق سختی کا الزام دیتے ہیں۔ اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو گالیاں دینا تو کوئی بات ہی نہ ہو، نہ وہ سختی ہے نہ بے تہذیبی، نہ کوئی بُری بات۔ ادھر سے اُن کی اس ناپاک حرکت پر کافر کہا اور بس! سختی و بے تہذیبی سب کچھ ہوگئی۔ ہاں ہاں! اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی شان میں جو گستاخی کرے گا اُسے ضرور کافر کہا جائے گا کسے باشد (چاہے کوئی بھی ہو) اور واللہ کہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ ورسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام بیان کرتا ہوں، میں تو ان کا چیرا سی ہوں، چیرا سی کا کام ہی سرکاری حکم نامہ پہنچانا ہے نہ کہ اپنی طرف سے کوئی حکم لگانا، اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے کرم سے اُمید کہ وہ قبول فرمائے آمین۔

## شعر کا علم

**عرض:** حضور! ”علم مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي  
لَهُ ط (پ ۲۳، سورۃ یس: ۶۹) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان کو شعر کہنانہ  
سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔

فرمایا گیا تو شعر کا علم نہ ہوا۔

**ارشاد:** جب علم کسی فن کی طرف نسبت کیا جائے تو اس کے معنی ”دانستن“ (یعنی جاننا) نہیں ہوتے بلکہ ”ملکہ و اقتدار“ (یعنی قدرت و مہارت) جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں گھوڑے پر چڑھنا جانتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کے ذہن میں ہے بلکہ یہ کہ قدرت رکھتا ہے یا یہ کہ گھوڑے پر چڑھنا نہیں جانتا تو یہ مطلب نہیں کہ جو اس کا مفہوم ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں کہ غیر کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو اس کا مفہوم اس نے ضرور جانا، باقی قدرت نہیں رکھتا۔ حدیث میں ارشاد ہوا:

عَلِّمُوا بَيْنَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالرَّمِيَّ  
اپنے بیٹوں کو تیرنا اور تیر اندازی سکھاؤ۔

(كشف الخفاء، الحدیث ۱۸۶۰، ج ۲، ص ۶۳)

کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کے مفہوموں کا ان کو تصور کرادو؟ بلکہ یہ کہ ان فنون کو ان کے قابو میں کر دو کہ تیر نشانے پر لگا سکیں اور دریا تیر سکیں۔ تو آئیہ کریمہ کے یہ معنی نہیں کہ ان کے اشعار حضور کے علم میں نہیں بلکہ یہ معنی کہ حضور کو ہم نے شعر گوئی پر قدرت نہیں دی اور نہ یہ حضور کے لائق۔ صحابہ قصائد عرض کرتے، کیا ان کے اشعار ہمارے حضور کے علم میں نہ آتے! بلکہ بعض بعض مواقع پر اصلاح فرمائی ہے۔ کعب بن زہیر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ نعتیہ میں عرض کیا۔

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنَّا زُيْسَتْصَاءُ بِهٖ

وَصَارِمٌ مِّنْ سِيُوْفِ الْهِنْدِ مَسْئُوْلٌ

(یعنی بیشک ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کافروں کے لئے) ہندی تلواروں میں سے ایک سوتی ہوئی تلوار ہیں۔ ت)

ارشاد ہوا: ”نار کی جگہ ”نور“ کہو اور سیوف الہند کی جگہ ”سُیُوفِ اللّٰہ“۔“

جب بعض اشعار دیگر اہل علم اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں آنا منافی آیہ کریمہ **وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ** نہ ہو تو جمع اشعار اولین و آخرین مکتوبات لوحِ مبین کو علم اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا محیط ہونا کیا منافی ہو سکتا ہے! ”جو ایجاب جزئی کسی سلبِ کلی کا نقیض نہیں اس کا ایجابِ کلی بھی یقیناً منافی نہیں“ البتہ ملکہ شعر گوئی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو عطا نہ ہو اور اس پر بھی ربُّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) نے دفعِ وہم فرما دیا کہ یہ کوئی خوبی نہ تھی جو ہم نے ان کو نہ دی بلکہ ”**وَمَا يَنْبَغِي لَهٗ**“ یہ ان کی شانِ رفیع کے لائق ہی نہیں تو ان کے حق میں منقصت (یعنی عیب) تھی اور وہ جمع نقائص سے مُعزَّہ (یعنی پاک) ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلکہ شعر گوئی بالائے طاق اگر نادرا کبھی دوسرے کا شعر پڑھتے تو اسے وزن سے ساقط فرما دیتے۔ ”عبداللہ بن رواحہ“ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر

سَتُبْدِي لَكَ الْآيَامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوِّدْ

(یعنی عنقریب تمہارے لئے وہ دن ظاہر ہوں گے جن سے تم بے خبر ہو اور تمہارے پاس وہ خبریں آئیں گی جن کا تم نے کوئی سامان تیار نہیں کیا ہے۔ ت)

کا مصرع دوم یوں پڑھتے ع

وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمْ تَزَوِّدْ بِالْأَخْبَارِ

اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر سے منزہ فرمایا ہے۔ شاعر نے یوں کہا ہے:

”وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوِّدْ“

## فلاسفہ کا رد

**عرض:** فلاسفہ کہتے ہیں کہ ”حُزْلاً يَتَحَزَّى“ باطل ہے۔ اگر باطل مانا جائے اور ”ہیولی“ اور ”صورت“ کی قدامت باطل کر دی جائے تو اسلام کے نزدیک اس میں کیا برائی؟

**ارشاد:** اگر حُزْلاً يَتَحَزَّى نہ مانا جائے تو ہیولی اور صورت کے قدم (یعنی قدیم ہونے) کا راستہ کھلے گا (اور) ان دلائل فلاسفہ کا اٹھانا پھر طویل و عریض مباحث چاہے گا، اس لیے ہمارے علمائے اسے سرے ہی سے رد فرما دیا

### كُزِبَهُ كُشْتَنَ رَوْزِ اَوَّلِ بَايَدِ

(برائی کو پہلے ہی دن ختم کر دینا چاہئے۔ ت)

دین اسلام میں ”ذات و صفات الہی“ کے سوا کوئی شے ”قدیم“ نہیں، ربُّ العزت فرماتا ہے:

بَدِئَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط  
نیاپیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا۔

(پ ۱، البقرہ: ۱۱۷)

اور حدیث میں ہے:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ  
ازل میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تھا اور اس کے

ساتھ کچھ نہ تھا۔

(ملتنقطاً، صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله، الحديث ۳۱۹۱، ج ۲، ص ۳۷۵)

غیر خدا کسی شے کو قدیم ماننا بالاجماع کفر ہے۔

(ملخصاً، البواقیت والجواهر، المبحث الثانی فی حدوث العالم، الجزء الاول، ص ۵۲)

## علم الہی

**عرض:** باری تعالیٰ (عَزَّوَجَلَّ) کا علم قبل مخلوقات فعلی تھا وہ کس صورت سے تھا؟

**ارشاد:** یہ لفظ آپ نے فلاسفہ کا کہا کہ وہ علم الہی (عَزَّوَجَلَّ) کو نفع و اِنْفَعَال کی طرف منقسم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک ”اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اِنْفَعَال (یعنی اثر قبول کرنے) سے پاک ہے اور علم الہی (عَزَّوَجَلَّ) صورت سے منزہ (یعنی پاک)، جیسے اس کی ذات کی گنہ (یعنی حقیقت) کوئی نہیں جان سکتا یوں ہی اس کی صفات کی۔“

فلاسفہ نے جو کہا کہ ”علم نام صورتِ حاصلہ عند العقل کا ہے“ غلط ہے۔ ان سُنُّہا (یعنی بے وقوفوں) نے اصل (یعنی جڑ) و فرع (یعنی شاخ) میں فرق نہ کیا۔ علم سے ہمارے ذہن میں معلوم کی صورت حاصل ہوتی ہے نہ کہ حصولِ صورت سے علم۔ ”علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آگئی مُتَكَشِّف (یعنی ظاہر) ہوگئی اور جس سے متعلق ہو گیا اس کی صورت ہمارے ذہن میں مُرْتَسِم (یعنی نقش) ہوگئی۔“ جب فلاسفہ اپنے علم کو نہ پہچان سکے علم الہی (عَزَّوَجَلَّ) کو کیا پہچانیں گے! حق سُبْحَانَهُ تَعَالَى ”ذہن“ و ”صورت“ و ”اِزْتِسَام“ و ”نورِ عَرْضِي“ سب سے مُنَزَّہ ہے، نہ اس کا علم ”حضور“ کا محتاج۔ اس کا علم ”حضورِ و حصولی“ دونوں سے مُنَزَّہ ہے۔ اس کا علم ”اس کی صفتِ قدیمہ قائمہ بالذات لازم نفسِ ذات“ ہے اور کیف سے منزہ، وہاں چون و چلوں و چرا و چساں کا دخل نہیں۔ ہم نہ اس کی ذات سے بحث کر سکتے ہیں نہ اس کی کسی صفت سے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا:

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا  
اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) كِي تَخْلُقُ فِي فِكْرِكُمْ وَأَنْتُمْ  
فِي اللَّهِ فَتَهْلِكُوا  
کی ذات میں فکر نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

(ملخصاً، کنز العمال، کتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الحدیث، ۵۷۰۲، ج ۳، ص ۴۷)

اس کی صفات میں فکر ذات ہی میں فکر ہے اور ادراکِ گنہ صفات بے ادراکِ گنہ ذات ممکن نہیں کہ اس کی صفات کو کسی مَوْطِن میں ذات سے جدائی محال اسی لیے انہیں ”لا عین ولا غیر“ کہا جاتا ہے اور گنہ ذات کا ادراک مخلوق کو محال کہ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْط ہے کوئی اسے محیط نہیں ہو سکتا، لا بجزم (یعنی یقیناً) گنہ صفات کا بھی ادراک محال، ”حق یہ ہے“۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ (اگرچہ فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ کچھ بھی دیں۔)

اپنی حقیقت تو جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کی کُنہ میں کلام کریں گے! انسان کی اس وقت تک حقیقت فلاسفہ کو معلوم نہیں، انسان کی تعریف کرتے ہیں ”حیوانِ ناطق“، حیوان کی تعریف کرتے ہیں ”جسمِ نامی حسّاس متحرک بِالْإِرَادَةِ“ (یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا) اور ناطق کی ”مذرکِ کلیات و جزئیات“ اگرچہ یہ بھی ان کے متاخرین کی رفوگری ہے۔ اُن سَفْہَا نے تو آوازوں پر ”حدود“ (یعنی تعریفات) رکھی تھیں، گھوڑا ”حیوانِ صاھل“، نہنہانے والا جانور، گدھا ”حیوانِ ناھق“، رینکنے والا جانور، انسان ”حیوانِ ناطق“ کلام کرنے والا جانور۔ انہوں (یعنی متاخرین فلاسفہ) نے ناطق کے معنی گھڑے ”مذرکِ کلیات و جزئیات“ جسے اصلاً زبانِ عرب مُسَاعِد نہیں (یعنی عربی زبان میں ناطق سرے سے اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا)۔ خیریوں ہی سہی، انسان نامِ بدن کا ہے یا نفسِ ناطقہ (یعنی روح) یا دونوں کے مجموع کا؟ اول (یعنی بدن) ناطق نہیں کہ ”ادراکِ کلیات“ شانِ نفس ہے نہ کارِ بدن، دوم (یعنی روح) حیوان نہیں کہ نفسِ ناطقہ نہ جسم ہے نہ نامی نہ ان کے نزدیک متحرک، سوم (یعنی جسم و روح کا مجموعہ) نہ حیوان ہے نہ ناطق کہ حیوان و لا حیوان کا مجموعہ ”لا حیوان“ ہوگا اور ناطق و لا ناطق کا ”لا ناطق“، غرض واقع میں کوئی شے ایسی نہیں جس پر حیوان و ناطق بمعنی مذکور دونوں صادق ہوں۔ یہ ہے ان کا خود اپنی حقیقت کے ادراک سے عجز ع

### تُوَازِ جَانِ زَنْدَہِ وَجَانِ رَا نَدَانِی

(یعنی تم جان سے زندہ ہو مگر جان کی حقیقت نہیں جانتے ہو۔ ت)

پھر کُنہ ذات و صفات میں کلام کیسا جہلِ شدید و ضلالِ تام ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان ”روح متعلق بالبدن“ کا نام ہے اور روح امرِ رب سے ہے، اس کی معرفت بے معرفتِ رب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے ضرور

اپنے رب (عَزَّوَجَلَّ) کو پہچان لیا۔

(کشف الخفاء، حرف المیم، ج ۲، ص ۲۳۴)

یعنی معرفتِ نفس اسی وقت حاصل ہوگی جب پہلے معرفتِ رب ہو لے۔ زندگی لوگ اسے اس پر حمل کرتے ہیں کہ نفس ہی رب ہے اور یہ کفرِ خالص ہے۔

## قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ روح

میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۵)

نہ کہ مَعَاذَ اللَّهِ ”رَبِّي“

## کیا رُوح اور جِسْم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟

**عرض:** حاشیہ خیالی<sup>۱</sup> پر مولوی عبدالحکیم نے لکھا کہ رُوح اور جِسْم میں اتحاد ذاتی اور تغایر اعتباری ہے۔

**ارشاد:** یہ کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا۔ رُوح یعنی نفسِ ناطقہ کو مادے سے مجرّد (یعنی خالی) جانتے ہیں یا نہیں؟ اور جسم مادی ہے تو کیسے اتحاد ہوگا؟ محال ہے۔ نہ شرعاً صحیح نہ عقلاً۔

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب میں

اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف

سُوجِي

(پ ۲۳، ص: ۷۲) کی روح پھونکوں۔

فرمایا تو معلوم ہوا کہ بدن اور رُوح اور ہے۔

**عرض:** تو حُلُول ہوا؟

**ارشاد:** ہاں مُتَكَلِّمِينَ بدن میں رُوح کا حُلُول مانتے ہی ہیں۔

## عَالَمِ اَمْرِ اور عَالَمِ خَلْق میں فرق

**عرض:** رُوح عالمِ امر سے ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔ ”عالمِ امر“ اور ”عالمِ خَلْق“ میں فرق ہے۔

(۱) عالمِ خَلْق مادے سے بتدریج (یعنی درجہ بہ درجہ) پیدا فرمایا جاتا ہے اور

(۲) عالمِ امر رُوح سے ”کُن“ سے

۱۔ یہ علم کلام کی مشہور و معتدّ اول درسی کتاب ”شرح عقائدِ تَسْوِيَةِ“ کے حاشیہ ”خیالی“ پر مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی متوفی ۱۰۶۷ھ کا حاشیہ ہے۔



لَهُ الْحَقُّ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ  
 رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ کنز الایمان: اسی کے ہاتھ ہے  
 پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے

(پ ۸، الاعراف: ۵۴) اللہ رب سارے جہان کا۔

روح ”عالم امر“ سے ہے محض ”کُن“ (یعنی ہو جا) سے بنی اور جسم ”عالم خلق“ سے کہ نُطْفَہ (پانی کی بوند یعنی مٹی) پھر عَاقِبَہ (یعنی خون کی پھٹک) پھر مُضْغَہ غَیْرُ مُخَلَّقَہ (گوشت کا غیر مصوّر لکڑا) پھر مُخَلَّقَہ (یعنی گوشت کا مصوّر لکڑا) ہوتا ہے۔

خَلَقْتُمْ أَطْوَارًا ﴿١٣﴾

ترجمہ کنز الایمان: حالانکہ اس نے

تمہیں طرح طرح بنایا۔ (پ ۲۹، نوح: ۱۴)

## مسئلہ جز لا یتجزی

**عرض:** اس مسئلہ جز لا یتجزی<sup>۱</sup> میں امام رازی اور (دیگر) علما نے بھی تَوَقُّف (یعنی سکوت) کیا ہے اور دلائل فلاسفہ اس کے ابطال پر قوی معلوم ہوتے ہیں؟

**ارشاد:** ”صَدْرًا“<sup>۲</sup> میں بہت جہتیں لکھیں جن میں نفس جز کو کوئی باطل نہیں کرتی، اتصال جز میں باطل کرتی ہیں۔ اتصال کو ہم بھی باطل مانتے ہیں جیسے فلاسفہ نقطے کا وجود مانتے ہیں اور ”تَنَالِی نِقْطَتَیْنِ“ (یعنی دو نقطوں کا لگا تار ہونا) محال جانتے ہیں۔ اُقْلِیْدَس<sup>۳</sup> نے جو ”أصول موضوعہ“ مانے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ نقطہ و خط و سطح موجود ہیں اور اَیْئُرُ أَبْهَرِی<sup>۴</sup> نے اپنی بعض کتب میں اس پر برہان (یعنی دلیل) قائم کی ہے جو ”شَرْحِ حِکْمَةِ الْعَیْنِ“<sup>۵</sup> میں مذکور ہے اور یہ ہی ان کے یہاں مذہبِ محققین و جمہور ہے بس تو اسی طرح سے اتصال کا ابطال لازم ہے نہ کہ نفس جز کا۔

۱: یعنی وہ جو ہر جو قابل اشارہ حسیہ ہو اور کسی تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ تقسیم قطعی کو، نہ کسری کو، نہ وہی کو اور نہ ہی فرضی کو۔ (تعلیم الحکمة، ص ۱۶)

۲: یہ فلسفہ کی مشہور دسی کتاب ”ہدایۃ الحکمتہ“ کی شرح ہے۔ اسکے مصنف علامہ صدر الدین شیرازی (المتوفی ۵۹۹ھ) ہیں۔

۳: یہ ایک یونانی حکیم کا نام ہے جس کے نام سے چیومیٹری کی بنیاد پڑی۔ اس کی کتاب ”اصول ہندسہ والحسب“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اشکال ریاضی اور ہندسے کا علم ہے۔

۴: امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ القوی کے مشہور شاگرد جن کی تصنیفات میں سے ”ایساغوجی“ اور ”ہدایۃ الحکمتہ“ متداول ہیں۔

۵: یہ علامہ نجم الدین ابوالحسن علی بن محمد المتوفی ۵۷۶ھ کی تالیف ”حکمتہ العین“ کی شرح ہے۔

## مقتول فلسفی

**عرض :** شیخ شہاب الدین مقتول کے مذہب کا کیا حال ہے؟

**ارشاد :** فلسفی خیالاتِ باطلہ اس کی طرف نسبت کئے گئے ہیں جس پر اسے قتل کیا گیا۔ وہ اپنی کتاب ”حکمة الاشراف“ میں اگرچہ ”مشائین“ کے خلاف چلاگر ”فلاسفہ اشرافیین“ کا مٹّیع (یعنی بیروکار) ہوا۔

## ایک ناپاک علم

کہتے ہیں ”سیسیا“ جو ایک نہایت ناپاک علم ہے اسے آتا تھا۔ قصاب سے دنبہ خریدا، دنبہ لے کر چلا اور قیمت نہ دی، قصاب پیچھے ہولیا، وہ مانگتا ہے، یہ چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ قصاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ ہاتھ اُکھڑ آیا۔ وہ بے چارہ ڈرا کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے، چھوڑ کر چلا گیا اور وہ درحقیقت ہاتھ نہ تھا بلکہ آستین تھی، اسے یہ فن آتا تھا۔ اسے لکھ کر حضرت جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

بد اکسانیکہ چنیں کارہا کنند و بد اعلمیکہ باواین کارہا آموزند

(یعنی بہت برے ہیں وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں..... بہت برا ہے وہ علم (سیسیا) جس کے ذریعے ایسے کام سیکھتے ہیں۔ ت)

## ایک مغالطے کا ازالہ

**عرض :** بعض متصوّف نے اس کی تعریف کی ہے۔

**ارشاد :** حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے اور وہ بے شک امام الائمہ ہیں۔ یہ بھی سہروردی تھا، زمانہ بھی حضرت سے قریب ہے، نسبت بھی ایک ہے، لقب بھی ایک ہے اس لئے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، اس کی کسی بات میں برکت نہ دی گئی۔ ۳۴، ۳۵ برس کی عمر میں مارا گیا۔

**عرض :** معقولیوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔

**ارشاد :** ہاں۔ ابن سینا کو ”شیخ الرئیس“ اور اسے ”شیخ الاشراف“ کہتے ہیں۔

(اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا) معقولیوں نے اپنے وصف میں سے ”نا“ گھٹا دیا۔ بے واسطہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تک وصول (یعنی رسائی) محال (یعنی ناممکن) ہے سوائے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے۔

## ایک ایمان افروز خواب

”نَفَحَاتُ الْأُنْسِ“ شریف میں ہے، ایک صاحب نے زیارت اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے مُشْتَرَف ہو کر عرض کی: غزالی کیسے ہیں؟ فرمایا: ”فَاَزَ مَقْصُودَه“ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ عرض کی: فخر الدین رازی کیسے ہیں؟ فرمایا: ”رَجُلٌ مُعَاتَبٌ“ ان پر ”عتاب“ ہے۔ مَعَاذَ اللّٰهِ ”عِقَاب“ نہ فرمایا۔ عِقَاب سزا ہے اور عِتَاب حصہ اِحْبَاب یعنی دوستوں سے محبت بھری خفگی) ہے۔ عرض کی: ابن سینا؟ فرمایا: بے میرے واسطے کے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تک پہنچنا چاہتا تھا، میں نے ایک دھول (یعنی چپت) لگائی کہ تَحْتِ الثَّرَى (یعنی زمین کے سب سے نچلے حصے) کو چلا گیا۔ (ملخصاً، نفاحات الانس مترجم، ص ۴۵۳، ۴۵۴)

یہ بعض صالحین کا خواب ہے۔

## ابن سینا کی توبہ کی روایت

اور امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”مِرَاةُ الْجَنَانِ“ میں ایک روایت یہ تحریر فرمائی کہ ابن سینا آخر عمر میں تائب ہو گیا تھا۔ (مرآة الجنان، السنة ثمان و عشرين و اربع مائة، ج ۳، ص ۴۰۳، ۴۰۴) موت سے کچھ مدت پہلے فیون کھانا چھوڑ دیا، باندی غلام سب آزاد کر دیے، رات دن نماز و تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اُس کے اس شعر نے کام دیا کہ۔

آنجا کہ عنایتے تو باشد باشد

ناکردہ چو کردہ کردہ چوں ناکردہ

(یعنی: جس گنہگار پر تیرا کرم ہو گیا تو اس کے گناہ ایسے ہونگے جیسے کئے ہی نہیں اور جو نیکیاں نہیں کرے گا وہ بھی درج ہوں گی۔ ت)

رحمت بے سبب کو متوجہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اسی برس کے بت پرست کو ایک آن (یعنی لمحے) میں مسلمان بلکہ ”قطبِ

شہر“ بلکہ ”ابدال“ سے بھی اعلیٰ ”بَدَلَاے سَبْعَ“ سے کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے (یعنی اگر تائب ہو کر فوت ہوا) تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مگر اُمت میں بڑا فتنہ چھوڑ گیا۔ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ت)

۱۔ یعنی فلاسفہ درحقیقت نامعقول (بے عقل) لوگ ہیں مگر لفظ ”نا“ ہٹا کر اپنے آپ کو معقولی کہلاتے ہیں۔

## واسطہ کی حاجت

**عرض:** وہابیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب معرفت حاصل ہوگئی تو واسطہ کی حاجت نہ رہی؟ تنفویۃ الایمان میں بھی ایک آدھ جگہ ایسا یاد ہوتا ہے۔

**ارشاد:** ایک جگہ نہیں ”تنفویۃ الایمان“ میں چار جگہ یہ لکھا، اللہ پرانتر اور اللہ کے رسولوں پرانتر اور رسالت کا انکار وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وہ واسطہ کے معنی اپیلچی (یعنی پیغام لانے والا) سمجھے ہیں، اپیلچی ہی مانتے ہیں، بس۔ اپیلچی سے جب پیام سن لیا، اب کیا کام رہا۔

**عرض:** ”اہلِ فِتْرَتِ“ (یعنی دو پیغمبروں کے وقفے کے زمانے والوں) کو واسطہ کہاں نصیب ہوا؟  
**ارشاد:** تو! آپ کا مقصود کیا ہے؟ انہیں ”وصول“ تو نہیں ہوا، بے نبی کے واسطے کے کبھی وصول ممکن نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عذاب ہو یا نہ ہو، یہ (یعنی اہل فترت کو عذاب ہونا نہ ہونا) مختلف فیہ (یعنی اختلافی مسئلہ) ہے۔

## اہلِ فترت کا ایک مبلغ

”دُقْس بن ساعدہ“ واصلین اور اہلِ فترت سے ہیں لیکن یہ بھی بلا ذریعہ نہیں، نصرانیت محمول (یعنی ختم) ہو چکی تھی اور اسلام ابھی آیا نہ تھا، وہ جو مشرکین تھے، ان کے سامنے وعظ کہتے اس میں تو حید بیان کرتے اور حشر وغیرہ کا بیان کرتے، آخر میں کہتے: ”اگر تم میری نہیں مانتے تو عنقریب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تشریف لاتے ہیں جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ روشن فرمائیں گے۔“

## شفاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تو بے واسطہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تک پہنچنے والے صرف ”محمد رسول اللہ“ ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہی سبب ہے کہ روزِ قیامت تمام انبیاء، اولیاء و علماء علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگی۔ بارگاہِ عزت (عَزَّوَجَلَّ) میں شفاعت فرمانے والے صرف حضور ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ولہذا جامع ترمذی کی حدیث میں ارشاد ہوا:

أَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ شَفَاعَتِ انبیاء کا صاحب میں ہوں اور یہ کچھ براہِ فخر نہیں فرماتا۔

(ملخصاً، مسند احمد، الحدیث ۲۱۳۱۳، ج ۸، ص ۵۳)

اسی طرف آیہ کریمہ اشارہ فرماتی ہے:

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٦﴾ (بفتح: ٢٦)

ہمیں بھی حکم ہوا کہ عرض کرو:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ ہمیں سیدھی راہ چلا۔

(ب ١، الفاتحة: ٥)

اور حضور کو بھی فرمایا:

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٦﴾ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے فتح مبین

اس لیے کی ہے کہ تمہیں سیدھی راہ

بتائیں۔ (بفتح: ٢٦)

صراطِ مستقیم دو طرح کی ہوتی ہے: ایک تو یہ کہ سیدھی چلی گئی ہے جس میں پیچ و خم نہیں مگر واسطے کی ضرورت ہے کہ بغیر واسطے نہیں پہنچ سکتا اور دوسری یہ کہ اٹھا اور سیدھا مقصود تک پہنچا۔ پہلی اور (یعنی دیگر) انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور دوسری صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔

مطلب یہ کہ اے محبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بس اٹھو اور مجھ تک چلے آؤ! تمہیں کسی توشل (یعنی وسیلہ اختیار کرنے) کی حاجت نہیں، سب کے لیے وسیلہ تم ہو، تمہارے لیے کون وسیلہ ہو! فلہذا حضور اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے اسمائے طیبہ سے ہے ”صاحب الوسیلۃ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واسطہ اگر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے بھی مانا جائے تو ”دور“ لازم آئے اس لئے کہ جو واسطہ ہوگا کامل ہوگا ناقص نہ ہوگا اور جب کامل ہوگا تو کمال وجود پر متفرع ہے اور وجود عالم حضور کے وجود اقدس پر موقوف۔ تو خلاصہ اعتقاد، شان رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں یہ ہے کہ ”مرتبہ وجود میں صرف اللہ عزوجل ہے باقی سب ظلال اور مرتبہ ایجاد میں صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں باقی سب عکس و پرتو۔“

توحیدیں دو ہیں: ایک توحید الٰہی کہ اللہ ایک ہے، ذات و صفات و اسماء و افعال و احکام و سلطنت کسی

بات میں اس کا کوئی شریک نہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ کنز الایمان: اللہ (عَزَّ وَجَلَّ)

کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔

(پ ۲۳، الصُّفَّت: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اس جیسا کوئی

نہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(پ ۲۵، الشوری: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: کیا اس کے نام کا

دوسرا جانتے ہو۔

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

(پ ۱۶، مریم: ۶۵)

ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ کے سوا

اور بھی کوئی خالق ہے۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

(پ ۲۲، فاطر: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اپنے علم

میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

(پ ۱۵، الکہف: ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور بادشاہی میں

کوئی اس کا شریک نہیں۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي

الْمُلْكِ

اور دوسری توحید رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کہ حضور اپنے جمیع صفات کمالیہ میں تمام عالم سے متفرد (یعنی یکتا) ہیں۔

مُنزَرَةً عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

(نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنے محاسن و کمالات میں شریک سے پاک ہیں ان کی ذات پاک میں حسن و خوبی کا جو جو ہر ہے وہ غیر منقسم

ہے۔ ت)

خلاصہ ایمان یہ ہے جو محقق دہلوی فرماتے ہیں۔

مَخَوَانُ أَوْ رَا خِدا از بهرِ حِفْظِ شرع و پاسِ دین

یگر ہر وصف کہ میخواهی اندرِ مدحشِ املا کن

(دین کی پاسداری اور شریعت کی حفاظت کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو خُدا نہ کہو اس کے علاوہ ان کے دوسرے اوصاف جو چاہو ان کی مدح و ثنا میں لکھو۔ ت)

اور ان سے پہلے حضرت امام محمد بوسیری قدس اللہ تعالیٰ سرہ الشریف فرما گئے۔

دَعُ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ      وَ احْكُمُ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَ احْتَكِمُ  
فَانْسَبُ اِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ      وَ اَنْسَبُ عَلٰى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ  
فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهٗ حَدٌّ      فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّ

(تصیّدہ بردہ شریف مترجم، ص ۲۷-۲۸)

اتنی بات تو چھوڑ دے جو نصاریٰ نے اپنے نبی کے بارے میں اِدْعَا کیا {یعنی خدا اور خدا کا بیٹا} اسے چھوڑ، باقی حضور کی مدح میں جو کچھ تیرے جی میں آئے کہہ اور مضبوطی سے حکم لگا۔ تو ان کی ذات پاک کی طرف جتنا شرف چاہے منسوب کر اور ان کے مرتبہ کریمہ کی طرف جتنی عظمت چاہے ثابت کر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل کی کوئی انتہائی نہیں کہ بیان کرنے والا، کیسا ہی گویا ہو، اسے بیان کر سکے۔

## ایک افترا

**عرض:** صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا سُلْطَانُهُ وَ رَسُوْلُهُ (یعنی: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اُس کے سلطان اور رسول ہیں۔ ت) کہتے تھے؟

**ارشاد:** اس آن سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ محض افترا اور محض بے بنیاد ہے۔

## ایک شعر کا مطلب

**عرض:** ”سکندر نامہ“ لے کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟

ا: یہ ”نظامی گنجوی“ کی فارسی شاعری کی کتاب ہے۔

تھی دست سلطان پشمینہ پوش غلامی خروپادشاہی فروش  
**ارشاد:** بادشاہِ دو عالم ہیں تمام جہاں ملک ہے مگر کسبل اوڑھتے اور متاعِ دنیا سے خالی ہاتھ رکھتے ہیں۔

## تین دینار باقی ہیں

ایک بار نماز کی اقامت ہوگئی، تکبیرِ تحریمہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دفعۃً (یعنی اچانک) صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو ارشاد ہوا: ”عَلَى رِسْلِكُمْ اِنِّي جَلَّةٌ مَّهْرٌ رَهْوَا“ کا شانہ اقدس میں تشریف لے گئے پھر برآمد ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”مجھے یاد آیا کہ آج تین دینار باقی ہیں میں ڈرا کہ رات گزرے اور وہ باقی رہیں لہذا جا کر انہیں تصدق (یعنی صدقہ) فرما آیا۔“  
 بندہ بارگاہِ عرض کرتا ہے۔

گل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا

اس حکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

نیز عرض رسا ہے۔

مالکِ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

لوگوں سے غلامی مانگتے اُس کے عوض سلطانی عطا فرماتے، جو ان کا بندہ در (یعنی غلام) ہو گیا ملکِ ابد کا تاجور (یعنی بادشاہ) ہو گیا۔  
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ

اے محبوب! تم فرما دو کہ میرے غلام ہو جاؤ

فَاتَّبِعُونِيْ يَحْبِبْكُمْ اللّٰهُ

اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تمہیں محبوب بنا لے گا۔

(پ ۳، ال عمران: ۳۱)

یعنی بندوں کو محبتِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) بننے کی چاہ ہے ”سرکاری غلامی وہ ہے کہ ہر بندہ در محبوب الہ (عَزَّوَجَلَّ) ہے۔“



## نماز کی حالت میں خدمت

**مؤلف:** ایک روز حاجی کفایت اللہ صاحب<sup>۱</sup> (علیہ رحمۃ اللہ الوہاب) بحالت نماز مگس رانی کرنے {یعنی نکھیاں اڑانے} لگے، سلام پھیرنے کے بعد،

**ارشاد فرمایا:** نماز کی حالت میں کوئی خدمت نہ کرنا چاہیے، وہ حالت عبدیت {یعنی بندگی کی حالت} ہے نہ مخدومیت {یعنی خدمت لینے کی}۔

## تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ

**عرض:** آمدنی کی قلت اور اہل و عیال کی کثرت، سخت گھٹت {یعنی تکلیف} ہے۔

**ارشاد:** ”یا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ“ ۵۰۰ بار اول و آخر ۱۱، ۱۱ بار دُرُودِ شَرِيفِ بَعْدَ نَمَازِ عِشَاءِ قَبْلَهُ رُوْبَا وَضَوْئِ سِرِّیْسِی جگہ کہ جہاں سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کرو۔

## وہابی کا جھوٹ

**مؤلف:** حاضرین میں وہابیہ مُلَاعَنَہ کے تَقْفِیَّہ {یعنی جھوٹ} کا ذکر تھا کہ ان خبیثاء نے تور و انفض کو بھی مات کر دیا {یعنی ہرا دیا}۔ وہ بھی ان سے تقیہ کرنا سیکھیں، جھوٹ فریب سے بہرو پیئے بن کر اپنا مطلب نکالتے ہیں۔

**ارشاد:** یہاں کا ایک سخت وہابی شخص گیا اور مدرسہ وہابیہ کے لیے چندہ مانگا۔ اُن صاحب نے ان کا نام پوچھا۔ بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تُو احمد رضا کا مخالف ہے میں تجھے چندہ نہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ ”حضرت میں تو اُن کے در کا کتا ہوں۔“ غرض کتابن کر پانسور و پیہ مار لایا۔

## ایک بہروپے کی حکایت

{اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بہروپے نے دھوکا دینا چاہا۔ بادشاہ نے فرمایا: ”اگر دھوکا

۱: یہ مجلہ ”بہاری پور“ کے رہنے والے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ربّ العزت کے بہت ہی جاں نثار اور خاص خادم تھے اور حضر، سفر میں برابر سایہ کی طرح ساتھ رہتے۔ ان کی قبر شریف بھی ان کی خواہش کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ربّ العزت کے قدموں میں بنائی گئی ہے۔ (حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، ص ۹۵)

دے دیا تو جو مانگے پائے گا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن حضرت عالمگیر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے جب دیکھا پہچان لیا۔ آخر مَدَّتِ مَدِیْد (یعنی طویل عرصے) کا بھلا وا دے کر صوفی زاہد عابد بن کر ایک پہاڑ کی گھو میں جا بیٹھا۔ رات دن عبادتِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میں مشغول رہتا۔ پہلے دہائیوں کا جہوم ہوا، پھر شہریوں، پھر امراء و وزراء سب آتے اور یہ کسی طرف التفات (یعنی توجہ) نہ کرتا۔ ہُدْہ ہُدْہ (یعنی آہستہ آہستہ) بادشاہ تک خبر پہنچی۔ سلطان کو اہل اللہ سے خاص محبت تھی، خود تشریف لے گئے۔ بہرہ پیسے نے دُور سے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آرہی ہے، گردن جھکالی اور مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ سلطان منتظر رہے۔ دیر کے بعد نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، سلطان موڈب بیٹھ گیا۔ اُن کا موڈب بیٹھنا تھا کہ بہرہ و پیا اٹھا اور جھک کر سلام کیا کہ جہاں پناہ! میں فلاں بہرہ و پیا ہوں۔ بادشاہ حُجَل (یعنی شرمندہ) ہوئے اور فرمایا: ”واقعی اس بار میں نے نہ پہچانا۔ اب مانگ جو مانگتا ہے۔“ اُس نے کہا: ”اب میں آپ سے کیا مانگوں! میں نے اُس (یعنی ربِّ عَزَّوَجَلَّ) کا نام جھوٹے طور پر لیا، اُس کا تو یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دروازے پر باادب حاضر ہوا۔ اب سچے طور پر اس کا نام لے دیکھوں۔“ یہ کہا اور کپڑے پھاڑ کر جنگل کو چلا گیا۔

## کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟

**عرض:** حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟

**ارشاد:** ہاں! مگر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) فرماتے ہیں کہ انہیں اجتہاد کی اجازت نہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تَلَقُّی جملہ احکام کریں گے (یعنی تمام احکام حاصل کریں گے) اور ان پر عمل فرمائیں گے۔

(ملخصاً الفتوحات المکیة، الباب السادس والستون وثلثمائة..... الخ، ج ۶، ص ۷۷)

## امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کس طریقے پر پڑھیں گے؟

**عرض:** نماز کس طریقے پر پڑھیں گے؟

ا: مجتہد کسے کہتے ہیں؟ یہ جاننے کے لئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کا رسالہ ”الفضل الموهبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی“ فتاویٰ رضویہ جلد 27 صفحہ 61 پر ملاحظہ کیجئے۔

**ارشاد :** طریقہ حنفیہ کے مطابق نہ یوں کہ مُقلدِ حنفی ہوں گے بلکہ یوں کہ سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح فرمائیں گے، اس دن اُٹھ جائے گا کہ اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو سب سے زیادہ پسند مذہبِ حنفی ہے۔ اگر وہ مجتہد ہیں تو جملہ (یعنی سب) مسائل میں اُن کا اجتہاد ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مطابق مذہبِ امامِ اعظم ہوگا۔

## ایک غلط فہمی کا ازالہ اور مذہبِ حنفی کی کاملیت

اسی خیال سے بعض اکابر کے قلم سے نکلا کہ وہ حنفی المذہب ہوں گے بلکہ یہی لفظ مَعَاذَ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت صادر ہو گیا حاشا کہ نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائے بلکہ وہی ہے کہ ان کے عمل مطابق عملِ مذہبِ حنفی ہوں گے جس سے مذہبِ حنفی کی سب سے کامل ترتیب (یعنی درستی) ثابت ہوگی۔ غرض اُن کے زمانے میں تمام مذاہب منقطع ہو جائیں گے اور صرف مسائلِ مذہبِ حنفی باقی رہیں گے ولہذا اکابر ائمہ کشف نے فرمایا ہے کہ ”چشمہ شریعت کبریٰ سے بہت نہریں نکلیں اور تھوڑی تھوڑی دُور جا کر خشک ہو گئیں مگر مذاہبِ اربعہ (یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ) کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دُور تک بہیں، آخر میں جا کر وہ تین نہریں بھی تھم گئیں اور صرف مذہبِ حنفی کی نہر اخیر تک جاری رہی۔“ یہ کشف اکابر ائمہ شافعیہ کا بیان ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

## موذّن کا اذان کہنے کے بعد مسجد سے باہر جانا کیسا؟

**عرض :** موذّن اذان کہنے کے بعد باہر مسجد کے جاسکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد :** اگر کوئی ضرورت درپیش ہو اور جماعت میں دیر ہو تو حرج نہیں ورنہ بلا ضرورت اجازت نہیں اور موذّن ہی نہیں ہر اس شخص کے لیے یہی حکم ہے جس نے ابھی اُس وقت کی نماز نہ پڑھی جس کی یہ اذان ہوئی اور اذان ہونے ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ مراد دخولِ وقت (یعنی وقت کا شروع ہونا) ہے۔ جو مسجد میں ہو اور کسی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور یہ دوسری مسجد کا مقیم جماعت (یعنی جماعت قائم کرنے والا) نہ ہو اُسے بغیر نماز پڑھے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں مگر یہ کہ کسی حاجت سے نکلے اور قبل جماعت واپسی کا ارادہ رکھے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة،..... الخ، ج ۲، ص ۶۱۲) ورنہ حدیث میں فرمایا ”وہ منافق

ہے۔“ (کنز العمال، کتاب الصلاة، قسم الاقوال، حدیث ۲۱۰۲۴، ج ۷، ص ۲۸۹)

## رافضیوں کی اذان

**مؤلف:** یہاں کچھ اذانِ روافض کا ذکر ہوا۔

**ارشاد فرمایا:** اذان میں ”أَشْهَدُ أَنْ عَالِيًا وَلِيَّ اللَّهِ“ ان کا الحاد (یعنی گمراہی) ہے اور خود ان کی معتبر کتابوں میں تصریح ہے کہ علی ضروری اللہ ہیں مگر اذان میں یہ مُسْتَزَاد (یعنی زائد) ہے، نیز تصریح ہے کہ ”حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ“ مُفَوِّضَةٌ لِعَنْتِهِمُ اللَّهُ کی ایجاد ہے۔ یہ سب ان کی کتبِ معتبرہ میں ہے نہ کہ ”تبراً“ (یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان پر لعن طعن) کہ بعض ملاعنہ اضافہ کرتے ہیں۔

### صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے کا انجام

{ اسی تذکرہ میں فرمایا { یہاں ایک عجیب حکایت سنی گئی، رافضیوں میں ایک مؤذّن اندھیرے سے جا کر اذان کہتا اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخی کیا کرتا۔ محلے میں کچھ غریب سنی رہتے تھے کہ خون جگر پیتے اور کچھ بس نہ چلتا۔ ایک روز چار جوان ”ھرچہ بادا باد“ (یعنی کچھ بھی ہو، دیکھی جائے گی۔ ت) کہہ کے مسجد کے اندر پہلے سے جا بیٹھے۔ حسبِ دستور وہ خبیث اپنے وقت پر آیا اور اذان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کچھ بکنا شروع کیا کہ ان چاروں میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے اور مار کر گرا دیا کہ خبیث تو ہمیں برا کہتا ہے! اس نے گھبرا کر کہا: حضرت! میں تو عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کہتا تھا۔ دوسرے جوان برآمد ہوئے اور مار کر بے دم کر دیا کہ مردود! تو مجھے برا کہے گا۔ اس نے سر اسیمہ ہو (یعنی گھبرا) کر کہا: حضرت! میں تو عثمان کو کہتا تھا۔ تیسرے صاحب تشریف لائے اور جتنا مارا گیا مارا کہ ناپاک! تو مجھے برا کہے گا۔ آخر جب بڑھے خبیث کو کچھ نہ بنی، چلا یا کہ ”مولا (یعنی باعلی رضی اللہ عنہ)! مدد کیجیے، دشمن مجھے مارے ڈالتے ہیں۔“ اس پر چوتھے صاحب ہاتھ میں اُسترا لیے ہوئے برآمد ہوئے اور جڑ سے اس کی ناک پونچھ لی کہ شیطان! تو ہمارے اکابر کو برا کہے گا۔

۱۔ رافضیوں کا وہ فرقہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سونپ رکھا ہے لہذا دنیا اور اس کی مخلوقات سب کی سب آپ کی پیدا کردہ ہیں۔ اس فرقے کے بعض لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی نظریہ ہے اور بعض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ (تحدّثنا عشریہ، مترجم، ص ۲۸)

اب چاروں صاحب تو چل دیئے۔ ”مجتہد صاحب“ درد کے مارے ناک پر رومال رکھے مسجد کے اندرونی گوشے میں جا چھپے۔ جب وقت زیادہ ہوا اور روافض نماز کے لیے آئے۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے: آج جناب قبلہ تشریف نہیں لائے، آج اذان نہیں فرمائی۔ جب کچھ روشنی ہوئی، دیکھا (کہ) جناب قبلہ ایک گوشہ میں سمٹے پڑے ہیں۔ کہا: ”حضرت! خیر ہے؟ قبلہ! خیر ہے؟“ کہا: ”خیر کیا ہے آج وہ تینوں دشمن آپڑے اور مارتے مارتے مُوُحُجھ (یعنی ادھ موا) کر دیا۔“ کہا: ”پھر آپ نے حضرت مولیٰ کو یاد نہ کیا؟“ وہ چپ ہو رہا۔ جب بار بار یہی کہے گئے، اس نے جھنجھلا کر ناک پر سے رومال پھینک دیا کہ وہ تینوں دشمن تو مار ہی کر چھوڑ گئے تھے، مولیٰ نے آخر جڑ سے پونچھ لی۔

مازیاراں چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

(ہم دوستوں سے مدد کی امید رکھتے تھے مگر ہم جو سمجھے وہ غلط تھا۔ ت)

## نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا چاہئے؟

**عرض:** حضور اگر نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا چاہیے؟

**ارشاد:** کوئی ضرورت نہیں۔ سلام، نماز پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب نماز ہی فاسد ہو گئی تو سلام کیسا!

## بیعت کے معنی

**عرض:** بیعت کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد:** بیعت کے معنی ”بک جانا“۔

## ایک مُرید کی اپنے پیر سے عقیدت

سبع سنابل شریف میں ہے: ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلا دے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، جلا دے کہنے لگا: اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا: ”تُو اپنا کام کر! میں نے قبلہ کو منہ کر لیا ہے۔“ اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادت ہے! اگر اس طرح صدق

عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا اور بالفرض وہ بھی نہ سہی تو حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معدنِ فیض (یعنی فیض کا مجموعہ) و منبعِ انوار (یعنی انوار کا سرچشمہ) ہیں ان سے فیض آئے گا۔ (بس) سلسلہ صحیح و متّصل (یعنی ملا ہوا) ہونا چاہیے۔

## دُکان اُلٹ دوں گا

ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا: ایک روپیہ دے! وہ نہ دیتا تھا۔ فقیر نے کہا: ”روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دکان اُلٹ دوں گا۔“ اس تھوڑی دیر میں بہت لوگ جمع ہو گئے۔ اتفاقاً ایک صاحبِ دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ مُعْتَقِد تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا: ”جلد روپیہ سے دے ورنہ دکان اُلٹ جائے گی۔“ لوگوں نے عرض کی: ”حضرت! یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟“ فرمایا: ”میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی؟ معلوم ہوا بالکل خالی ہے پھر اس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی پایا، اس کے شیخ کے شیخ کو دیکھا انہیں اہل اللہ سے پایا اور دیکھا کہ ”وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان اُلٹ دوں۔“ تو بات کیا تھی کہ شیخ کا دامن توت کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا۔

## قیامت تک آنے والے مریدین

ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر (یعنی رجسٹر) میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں۔ حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ مُنْتَهَائے نظر تک وسیع تھا اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے اور مجھ سے فرمایا: ”قَدْ وَهَبُوا لَكَ (یعنی) یہ سب تمہیں بخش دیئے گئے۔“ (بہجة الاسرار، ذکر فضل الصحابة، ص ۹۳)

## ایک اشکال اور اُس کا جواب

**عرض:** حضور! یہ تو جبراً روپیہ لینا ہوا۔ اُن ولی اللہ نے اگر اُس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی، ممکن تھا جیسے دفعِ ظلم

کے لیے رشوت دینا مگر اُس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے، اس ظلم کی تائید کیونکر روا (یعنی جائز) رکھی؟

**ارشاد:** شریعتِ مطہرہ کے دو حکم ہیں: ظاہر و باطن، قاضی و عامہ ناس (یعنی عام لوگ) اُن کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے، اُن پر اس کی پابندی لازم اگرچہ واقفِ حقیقتِ حال کے نزدیک حکم بالْعکس ہو۔

## حیرت انگیز مقدمہ قتل

اس کی نظیر زمانہ سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا، نانِ شبینہ (یعنی روٹی) کو محتاج، شب کو دُعا کیا کرتا کہ ”الہی (عَزَّوَجَلَّ) رزقِ حلال عطا فرما۔“ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اُس کے گھر میں گھس آئی۔ یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ یہ رزقِ حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اُس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی۔ وہ سرکارِ نبوت (علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) میں ناشی (یعنی فریادی) ہوا۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جانے دے! تُو مالدار ہے اس محتاج نے ایک گائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟“ وہ بگڑا اور کہا: ”یا نبی اللہ! میں حق چاہتا ہوں۔“ فرمایا: ”اگر حق چاہتا ہے تو گائے اُسی کی تھی۔“ وہ اور برہم ہوا۔ فرمایا: ”نہ صرف گائے (بلکہ) جتنا مال تیرے پاس ہے سب اُسی کا ہے۔“ وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا: ”تُو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے۔“ اب تو اُس کی بے تابی کی حد نہ تھی۔ فرمایا: ”اگر تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل۔“

اُس فقیر اور اُس گائے والے کو ہمراہ رکاب لے کر جنگل کو تشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، خَلْق کا ہجوم ساتھ ہولیا۔ ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ ”یہاں کھودو۔“ کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کُنْدَہ (یعنی لکھا) تھا، برآمد ہوا۔ نبی اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اُس درخت سے ارشاد فرمایا: ”شہادت (یعنی گواہی) ادا کر تُو نے کیا دیکھا؟“ پیر نے عرض کی: ”یا نبی اللہ! (علیہ السلام) یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اُس کا غلام تھا۔“ اس نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں مع خنجر (یعنی خنجر کے ساتھ) دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اُس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن (یعنی کم عمر) تھا، اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ”بے کس و بے زر“ ہی پایا اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ

کون تھا اور اُس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں؟ حکم باطن ثابت ہوا، غلام گردن مارا گیا (یعنی قتل کیا گیا) اور وہ تمام اموال وراثتاً فقیر کو ملے۔ (مثنوی شریف (مترجم)، دفتر سوم، ص ۴۳، ۴۴، ۴۵)

وہی یہاں بھی ممکن کہ دکان دار اس فقیر کے مُورث (یعنی جس کا یہ فقیر وارث ہے) کا مَدَّیُون (یعنی قرض دار) ہو، اگر چہ وہ فقیر بھی اُس سے واقف نہ ہو، نہ یہ دکان دار اسے پہچانتا ہو تو یہ جبراً دلانا جبر نہیں بلکہ ”حق بحق دار رسانیدن (یعنی حق دار کو اس کا حق پہنچانا ہے)۔“

## کسی کا مُرید ہوتے ہوئے دوسرے سے بیعت کرنا

**عرض:** کسی شیخ سے بیعت کر کے دوسرے سے رُجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر پہلے میں کچھ نقصان (یعنی کمی) ہو تو بیعت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں، البتہ تجدید کر سکتا ہے۔ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”میں کسی سلسلے کا آئے اس سے بیعت لے لیتا ہوں سوا غلامانِ قادری کے کہ بحر کو چھوڑ کر نہر کی طرف کوئی نہیں آتا۔“

## مسجد کی گھڑی

**مؤلف:** ایک شب مسجد کی گھڑی کوئی صاحب چرا کر لے گئے۔ اہل محلہ نے پولیس میں رپورٹ وغیرہ کی۔ اس پر

**ارشاد فرمایا:** ایک سال سلطان کی طرف سے کعبہ معظمہ میں نہایت بیش قیمت (یعنی قیمتی) سونے کی قنادیل لگانے کے لیے آئیں، ان میں سے ایک قنادیل غائب ہو گئی۔ شریف مکہ (یعنی مکہ کے گورنر) نے تحقیقات کی۔ پتہ چلا کہ خُدّامِ کعبہ کے سردار نے لی ہے۔ شریف کے سامنے پیشی ہوئی، اُن سے پوچھا گیا۔ وہ صاحب بولے: ”کعبہ غنی ہے اسے حاجت نہیں، مجھے حاجت تھی میں نے لے لی۔“ شریف نے درگزر فرمائی۔

(پھر فرمایا) مسجد کی کوئی شے لاکھ روپے کی چُرا لے شریعت ہاتھ نہ کاٹے گی بلکہ سزائے تازیانہ (یعنی کوڑوں کی سزا) کا حکم

ہے۔

۱: قنادیل کی جمع، ایک قسم کا فانوس جس میں چراغ جلا کر لٹکایا جاتا ہے۔



## منگل کے دن سینے کے لئے کپڑے کاٹنا کیسا؟

**مؤلف :** جبل پور! جانے کے چار روز باقی اور حضرت مدظلہ الاقدس کے واسطے کپڑے سلوانا تھے۔ سلطان حیدر خاں نے عرض کی درزی کو دے دیئے جائیں۔

۱: اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس کی تشریف آوری اور مسلمانانِ جبل پور کا شان دار استقبال:

مسلمانانِ جبل پور کا ٹھہرا اور بنگال ایک مدت سے اعلیٰ حضرت مدظلہ کی خدمت میں عرائض (یعنی درخواستیں) پیش کرتے رہے کہ حضور والا! ہمارے تیرہ وتار بلا د (یعنی تاریک شہر) کو اپنے قدم والا (یعنی تشریف آوری) سے منور فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے ہمیشہ عدم فرصت اور ضعف و علالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عذر فرمادیا مگر اس مرتبہ حضرت حامی سنت (یعنی سنت کی حمایت کرنے والے) ماجی بدعت (یعنی بدعت مٹانے والے) جناب مُستطاب (یعنی بابرکت ذات) مولانا مولوی محمد عبدالسلام صاحب جبل پوری کے (جو اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس کے خلیفہ اَزْخَد اور اس قطر (یعنی علاقے) میں دین و سنت کے قطب اَوْخَد ہیں) انتہائی اصرار سے وعدہ فرمایا۔ جس وقت عریضہ مولانا موصوف کا حاضر ہوا، کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: ”مولانا کے بے حد کلمات تواضع نے پہلو عذر کا چھوڑا ہی نہیں، اگر بالفرض کسی کے لبوں پر بھی دم ہو وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، ان کلمات کو سن کر یہی کہے گا کہ میں حاضر ہوں۔“ الغرض ۱۹ جمادی الآخر ۱۳۳۳ھ روزِ شنبہ (یعنی ہفتہ کے دن) ۵ بجے صبح کے میل سے عازمِ جبل پور ہوئے، باوجود اس کے کہ روانگی آخر شب میں تھی اس پر بھی بریلی کے اسٹیشن پر مُمْتَوِّ سَلْمٰنِیْن و مُمْتَقِدِّیْن کا کافی اجتماع تھا۔ ایک صاحب داخل سلسلہ بھی ہوئے، میل لکھنؤ پہنچا وہاں کے لوگوں کو پہلے سے اطلاع نہ تھی۔ اس پر بھی حضرات جنہیں کسی ذریعہ سے علم ہو چکا تھا، حاضر خدمت ہو کر حلقہ گوش (یعنی مرید) ہوئے، پھر میل پر تاب گڑھ پہنچا یہاں ہمارا سیکنڈ کلاس میل سے کاٹ کر الہ آباد آنے والی ریل میں لگا دیا گیا۔ ریل ساڑھے تین بجے الہ آباد پہنچی، وہاں چونکہ کافی وقت ملا بعض ہمراہیوں کا ارادہ ہوا کہ اپنے شہری احباب سے مل آئیں۔ ان کے شہر میں پہنچنے سے ساکنانِ شہر کو اعلیٰ حضرت مدظلہ کی تشریف آوری کی اطلاع ہوئی اور مسلمانوں کے گروہ جوق در جوق آئے اور دست بوس ہونے لگے۔ الہ آباد اسٹیشن پر نمازِ مغرب کی غرض سے اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس پلیٹ فارم پر اترے مشتاقانِ دیدار نے ہر چہار جانب (یعنی ہر طرف) سے ہجوم کیا اور نئے آنے والوں نے پروانہ وار گرنا شروع کیا۔ اس خوشنما منظر کو ایک یورپین کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے بھی موقع پا کر قدم بوسی کی عزت حاصل کی اور ادب کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہوا۔ صَوْلَتِ حَق (یعنی حق کا رعب) اسے کہتے ہیں کہ جذب (یعنی کشش) قلوب کے لئے کسی شوک و احتشام اور ظاہری دُصوم دھام کی ضرورت ہی نہ ہو۔ الہ آباد میں بعض سیٹھوں نے ایک موٹر کار اور ایک اعلیٰ درجہ کی ولایتی لینڈو تفریح کے لئے حاضر کی۔ ساڑھے سات بجے ریل الہ آباد سے روانہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس نے مع خُذَام یہاں سے بھی رِیُوْرُوْ سِکِنڈ کلاس میں سفر کیا۔ ساڑھے چار بجے ریل کٹنی پہنچی یہاں جناب مولوی حاجی عبدالرزاق صاحب کٹنی کے گروہ کثیر کے ساتھ موجود تھے جو جبل پور تک ہم رکاب (یعنی ساتھ) ہوئے اور خود جبل پور سے حامی سنت مولانا مولوی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم ایک بڑی استقبالی جماعت کو لئے ہوئے کٹنی اسٹیشن پر تشریف فرماتے جیسے ہی گاڑی کٹنی پر رکی زائرین نے گاڑی کو گھیر لیا جب تک گاڑی کھڑی رہی لوگ قدم بوس ہوتے رہے۔ کٹنی سے ہمارے ہمراہیوں میں بہت اضافہ ہو گیا ساڑھے سات بجے کے قریب جبل پور کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ =

= ہمارے ساتھی اس کے قُصُور (قصر کی جمع بمعنی محل) و منازل (منزل کی جمع بمعنی گھر) کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ان کی نظریں انتہائی شوق کے ساتھ اسٹیشن کی عمارت کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ یکا یک اسٹیشن جبل پور کی عمارت بھی ایک گم شدہ محبوب کی طرح سامنے آئی گئی پھر کیا تھا، اب تو اسٹیشن جتنا قریب ہوتا گیا جوشِ مسرت بڑھتا گیا۔ ریل جب پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو یہاں عجیب و غریب سماں نظر آیا۔ ریلوے اسٹیشن پر جوشِ مسلمانوں سے بالکل بھرا ہوا تھا۔ جب گاڑی رُکی تو بلاشبہ اس محبت کی طرح (جس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہوں اور محبوب کی دلکش صورت سامنے آگئی ہو) دیوانہ وار گاڑی پر جھک پڑے اور اس ”گل گلزارِ قادریت“ پر دل کھول کر پھولوں کی نچھاور کی۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ لوگ فوراً جوش میں زبان سے ”السلام علیکم یا امامِ اہلِ السُنَّة! السلام علیکم یا مُجَدِّدِ الْمَآءِ الْحَاضِرَةِ“ (یعنی اے اہل سنت کے امام، اے اس صدی کے مجدد، السلام علیکم) کے نعرے مار رہے تھے اور ان کی زبان حال کہہ رہی تھی۔

رواق منظرِ چشم من آشیانہ تُست کرم نما و فردا کہ خانہ خانہ تُست

(یعنی: میری آنکھ کی پہلی کے بالا خانے پر تیرا آشیانہ ہے، کرم فرما اور یہاں قیام کر کہ یہ گھر تیرا ہی گھر ہے۔ ت)

تمام جمع اپنی اپنی مسرتوں میں سرشار تھا اور یہاں ایک اور منظر تھا جس پر عوام کو تَنَبُّہ نہ ہوا (یعنی آگاہی نہ ہوئی) یہ موقع وہ تھا کہ کوئی شہرت پسند، جاہ دوست ہوتا تو پھولا نہ سماتا باچھیں کھلی ہوتیں، گردن بلند ہوتی، آنکھیں اپنی تعظیم کے نظارے سے مست ہوتیں، یہاں اس کے برعکس اس منظرِ جلیل کو دیکھ کر نظر جھکا لی، گردن نیچی کر لی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ اس لطیف منظر پر حاجی عبدالرزاق صاحب کی نظر گئی انہیں اذراک ہو اور ان کا جی بھر آیا۔ یہ اس شان کا پرتو (یعنی عکس) تھا کہ جب حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح فرمایا، اس شان سے اس میں داخل ہوئے کہ سرِ اقدس اپنے رب کے لئے تواضع میں سواری انور پر قریب ہجود پہنچا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

کثرتِ ہجوم کے خیال سے گاڑی پر فوراً چند آدمی بغرضِ تحفظ کھڑے ہو گئے کہ مجمع ادھر کا رخ نہ کرے اور بعض نوجوان پولیس کی شرکت میں اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس کے گزرنے کے لئے راستہ بنانے میں مصروف ہوئے۔ ہر چند کوشش کی گئی مگر اس مقصد میں ناکامی ہوئی۔ ناچار چند عقیدت کیش حلقہ باندھ کر کھڑے ہوئے اس طرح ”سوادِ ہند کا ماہِ کامل“ (یعنی اہلسنت کا چودھویں کا چاند) ہالہ میں آ گیا۔ اس وقت کا نظارہ کچھ ایسا دلکش تھا کہ اسٹیشن اسٹاف اور پولیس وغیرہ اپنے فرائض منصبی کو چھوڑ کر اس کے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مسافروں کو جب اس دلکش نظارہ کے دیکھنے کا کوئی موقع نہ ملا تو ٹیل پر چڑھ گئے اور وہاں سے دیکھا کیے۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا گاڑی تک جانا بہت دشواری سے ہوا۔ خدا جزائے خیر دے ان باہمت حضرات کو جنہوں نے اپنے بازوؤں پر اس مجمع کا سارا زور روکا اور خیر و خوبی کے ساتھ اپنے پیشوا کو لے جا کر ایک پُر تکلف گاڑی میں بٹھایا۔ یہاں عام مسلمانوں کو دست بوسی کا موقعہ دیا گیا، بہت دیر تک لوگ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق کی زیارت سے دارین کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ پھر یہ مجمع بڑے جوش و مسرت کے ساتھ اس ”قادری بزم کے دولہا“ کو اپنے جھرمٹ میں لئے ہوئے شہر کی جانب روانہ ہوا۔ جہاں تک سول آبادی ہے وہاں تک انگریز اور ان کی عورتیں بچے اپنے اپنے بنگلوں کے سامنے آکھڑے ہوئے، مجمع کو عموماً اور اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس کو خصوصاً تکلمی باندھے دیکھتے رہے پھر جب یہ مجمع شہر میں داخل ہوا تو شہر کے باشندے اپنے دروازوں، دکانوں اور چھتوں سے اس دلکش منظر کو دیکھتے رہے اور اعلیٰ حضرت قبلہ کی خدمت میں باادب سلام عرض کرتے رہے۔ =

= سگان شہر (یعنی شہر کے باسیوں) کی مجموعی حالت کہہ رہی تھی کہ ع اے آمدنت باعین آبادی ما (آپ کی تشریف آوری ہماری آبادی کا سبب ہے۔ ت)

اسٹیشن سے آہستہ آہستہ چل کر یہ مجمع تقریباً دو گھنٹے میں حضرت مولانا مولوی عبدالسلام صاحب مدظلہ کے دولت کدہ کے قریب پہنچا یہاں کوچہ کے موڑ پر ایک عالی شان دروازہ لگایا گیا تھا۔ یہ دروازہ علاوہ اور زیبائش کے بکثرت کتبوں سے مُرَّصَع (یعنی آراستہ) تھا جو میزبانوں کی انتہائی عقیدت اور معزز مہمانوں کی شان و شوکت و حشمت کا اظہار کر رہا تھا اور اس کوچہ کی موڑ سے حضرت مولانا کے مکان تک دورویہ (یعنی راستے کے دونوں طرف) کیلے کے بڑے بڑے درخت اور تین تین قطاروں میں قندیلیں نصب کی گئی تھیں جن پر منقبت آمیز مصرعے لکھے گئے تھے۔

پھر جب اس مکان میں داخلہ ہوا (جوشا ہنشاہ معظم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے نائب کے قیام کیلئے سجایا گیا تھا) تو معلوم ہوا کہ علمائے کرام کی قدر و قیمت وہی لوگ خوب جانتے ہیں جن کو خود بھی علم کی خدمت کرنے کا کافی موقع ملا ہے، مکان کی زیب و زینت اور آئینہ بندی قابل تعریف تھی۔ ہر چیز نہایت موزونیت کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھی گئی تھی۔ مکان کے تمام اندرونی و بیرونی حصوں میں ترکی قالینوں اور خوشنما سوزینوں کا فرش تھا اور دیوار و سقف (یعنی چھت) وزمین سب پیش قیمت کپڑوں سے ڈلہن بنے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت مدظلہ کے تشریف رکھتے ہی سب لوگ بیٹھ گئے۔ تمام حاضرین ساکت (یعنی خاموش) تھے مگر ہر شخص کے چہرے سے بے انتہا مسرت کے آثار نمایاں تھے جو مسلمانوں کی گئی ہوئی سطوت (یعنی شان و شوکت اور رعب و دبدبے) کی یاد دہانی کر رہے تھے اور اکابر ائمہ دین کے دربار عام کا پورا نقشہ کھینچ گیا تھا۔ مخرومنا و مولانا حضرت مولوی محمد عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم کی مسرتوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہ تھا، وہ ساکت (یعنی خاموش) مگر زبان حال دُرُفِشائ (یعنی یوں موتی بکھیر رہی تھی)۔

وہ خود تشریف فرما ہیں مرے گھر

بتا اے خوش نصیبی کیا کروں میں

کچھ دیر سکوت کا عالم رہا اس کے بعد جناب حکیم مولوی عبدالرحیم صاحب مذاق کھڑے ہوئے اور دست بستہ (یعنی ہاتھ باندھے) سلام عرض کر کے یہ نظم پڑھی:

کوئی تاج والے ہوں یا راج والے	ہیں اس در کے محتاج ہر کاج والے
ہے سرکار عالم کے محتاج کا در	یہاں بھیک لیتے ہیں خود راج والے
یہ وہ در ہے دولت ہے جس در کی لونڈی	جھڑکتے ہیں شاہوں کو محتاج والے
یہاں کی فقیری ہے ریشک امیری	یہیں آکے گھستتے ہیں سرتاج والے
تعلیٰ پہ ہیں سارے محتاج ان کے	کہ آخر تو حامی ہیں معراج والے
یہی ہیں وہ دامن کہ جس میں چھپیں گے	قیامت کے میدان میں لاج والے
خندگ نظر کا کوئی وار ادھر بھی	ہیں مدت سے مشتاق آماج والے
میں کچھ بھی سہی سلسلہ میرا دیکھو	میں جن کا ہوں اُنکے ہیں معراج والے
مذاق اب مجھے فکر فردا سے مطلب	بنالیں گے سب کام کل آج والے

= اس نظم کے بعد یکے بعد دیگرے چھ نظمیں اور چھ صاحبوں نے پڑھیں جو بخیاں طوالت چھوڑی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت قبلہ کی خدمتِ والا میں مُکَلَّفَت (یعنی تکلیف) سفر کے لحاظ سے عرض کی گئی کہ حضور والا اب آرام فرمائیں اور سب لوگ نیاز مندانہ سلام عرض کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ شاہنشاہ ہر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب کا پہلا اجلاس یوں ختم ہوا۔ ساکنانِ جبل پور کو ”دن عیدرات شبِ براءت“ تھی کہ بارہ برس کے بعد یہ نعمتِ عظمیٰ نصیب ہوئی تھی۔ ملاقات کے وقت مقرر تھے، صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک اور سہ پہر کو بعد نماز ظہر سے عصر تک اور پھر بعدِ عشاء کافی وقت دیا جاتا تھا، عصر سے بعد مغرب تک تفریح کا وقت تھا، گو حضور کا کبھی تفریح کی جانب میلان طبع نہ ہوا لیکن ساکنانِ جبل پور کی دل شکنی کا خیال فرماتے ہوئے ان کے اصرار سے منظور فرمایا تھا بعدِ عصر مسجد کے دروازے پر موٹر اور گاڑیوں کا روزانہ انتظام رہتا۔ ایک ماہ کامل جبل پور قیام رہا، اس دوران میں اکثر مقدمات کا جو باہمی خانہ جنگیوں کے باعث عرصے سے پڑے ہوئے تھے ایسا تَضْفِیہ (یعنی صلح کا فیصلہ) فرمایا کہ جن کا سلام و کلام قطعاً بند تھا، موتِ زیست (یعنی خوشی و غمی کے مواقع پر ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی ترکیب) پھوٹ چکی تھی باہم شیر و شکر ہو گئے۔ ایک روز صبح کے جلسے میں بمعروضِ منشی عبدالغفار صاحب دو صاحب ماسٹر محمد حیدر و محمد ادریس صاحبان (جن کا عرصہ سے نزاع (یعنی جھگڑا) تھا اور دونوں حلقہ بگوشان (یعنی مُریدان) اعلیٰ حضرت مدظلہ تھے) پیش ہوئے اولاً ماسٹر محمد حیدر صاحب کا بیان ہوا پھر محمد ادریس صاحب کا بیان سماعت فرما کر ارشادِ عالی ہوا: ”آپ صاحبوں کا کوئی مذہبی تَخَالُف (یعنی مخالفت) ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ دونوں صاحب آپس میں پیر بھائی ہیں نسلی رشتہ چھوٹ سکتا ہے لیکن اسلام و سنت اور اکابر سلسلہ سے عقیدت باقی ہے تو یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ دونوں حقیقی بھائی اور ایک گھر کے، تمہارا مذہب ایک، رشتہ ایک، آپ دونوں صاحب ایک ہو کر کام کیجئے کہ مخالفین کو دست اندازی کا موقع نہ ملے۔ خوب سمجھ لیجئے! آپ دونوں صاحبوں میں جو سبقت ملنے میں کرے گا جنت کی طرف سبقت کرے گا۔“ یہ فرمانا تھا کہ دونوں کے قلوب پر ایک برقی (یعنی بجلی کی طرح) اثر ہوا اور بیٹا بنانہ ایک دوسرے کے قدموں پر گر پڑے اور آپس میں نہایت صاف دلی کے ساتھ لپٹ گئے، جوشِ محبت کی یہ حالت ہوئی کہ اگر حاضرین میں سے سنبھال نہ لیتے تو دونوں حضرات اس مُعَانَقَہٗ قَلْبِی میں گر پڑتے۔ ”واقعی مقدس حضرات کی مٹھی میں قلوب ہوتے ہیں جس طرف چاہیں رجوع کر دیں۔“ مجھے اس وقت حضور پر نور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو اعلیٰ حضرت مدظلہ الاقدس کی زبان فیض ترجمان سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ حضور جامع مسجد میں تشریف لائے خادم جو ہمراہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آج خلافِ معمول اہل مسجد حضور کو دیکھ رہے ہیں لیکن نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ قیام حالانکہ ہمیشہ تشریف لاتے ہی تمام جماعت حضور کی طرف آتی اور دست بوسی و قدم بوسی سے مشرف ہوتی تھی۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ حضور سے بہت پیچھے رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی میں حضور کے قریب تو تھا۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آتے ہی حضور نے ان کی طرف رُوئے انور کیا اور فرمایا: ”یہ تمہیں نے تو چاہا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ربَّ عَزَّوَجَلَّ نے قلوب ہمارے ہاتھ میں رکھے ہیں جب چاہیں پھیر دیں اور جب چاہیں اپنی طرف کر لیں۔ (بہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ مرصعا..... الخ، ص ۹۹) =

**ارشاد:** آج منگل کا دن ہے جس کی نسبت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے کہ ”جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری (ہو) جائے گا۔“

## قبرستان میں جوتا پہن کر جانا کیسا؟

**عرض:** قبرستان میں جوتا پہن کر جانے کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** حدیث میں فرمایا: ”تلوار کی دھار پر پاؤں رکھنا مجھے اس سے آسان ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔“

(ملخصاً، کنز العمال، کتاب الموت، قسم الاقوال، ج ۱۵، الحدیث ۴۲۵۶۳، ص ۲۷۴)

دوسری حدیث میں فرمایا: ”اگر میں انگارے پر پاؤں رکھوں یہاں تک کہ وہ جوتے کا تٹا توڑ کر میرے تلوے تک

پہنچ جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔“

(ملتقطاً، سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی النهی عن المشی ... الخ، الحدیث ۱۵۶۷، ج ۲، ص ۲۵۰)

یہ وہ فرما رہے ہیں کہ واللہ اگر مسلمان کے سر اور سینے اور آنکھوں پر قدم اقدس رکھ دیں تو اسے دونوں جہان کا چین

بخش دیں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)۔

فتح القدیر اور طحطاوی اور رد المحتار میں ہے: ”الْمَرُورُ فِی سِکِّةٍ حَادِثَةٍ فِیْهَا حَرَامٌ قَبْرِسْتَانِ مِیْنِ جَوْنِیَارِ اسْتَنْکَلَا هُوَ اس

میں چلنا حرام ہے۔ (رد المحتار کتاب الصلاة، مطلب القول المرجع علی الفعل، ج ۱، ص ۶۱۲) کہ وہ ضرور قبروں پر ہوگا بخلاف راہ

قدیم کے کہ قبریں اسے چھوڑ کر بنائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب قبرستان میں جوتا پہنے

= اسی طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تصدیقاً ”ذریعہ قادریہ“ شریف میں اشارہ فرمایا ہے۔

غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ	بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا
حکم نافذ ہے ترا خامہ ترا سیف تری	دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا
جس کو لولا کر دے آتا ہو تو اٹا پھر جائے	جس کو چمکا رلے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا
کنجیاں دل کی خدانے تجھے دیں ایسی کر	کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا
دل پہ کندہ ہو ترا نام کہ وہ دُڈِ رَجِیْمِ	اُلٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا

نکلے فرمایا:

يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ الْوَقِيَّ سَبْتَيْكَ اے بال صاف کیے ہوئے جوتے والے اپنے جوتے کو پھینک۔

(صحیح ابن حبان، کتاب الجنائز، فصل فی زیارة القبور، الحدیث ۳۱۶۰، ج ۵، ص ۶۸)

(اور فرمایا:)

لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ نہ تو صاحبِ قبر کو ستا نہ وہ تجھے ستائے۔

(المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر عمارة بن حزم الانصاری، الحدیث ۶۵۶۱، ج ۴، ص ۷۷۱)

## نازک لمحات

ایک شخص کو دفن کر کے لوگ چلے گئے۔ منکر نکیر نے سوال شروع کیا، ایک شخص جو تا پہنے اس طرف سے نکلا۔ اُس کے جوتے کی آوازن کر مردہ اس طرف متوجہ ہوا اور قریب تھا کہ جو سوال منکر نکیر کر رہے تھے اُس کے جواب سے قاصر رہتا۔ مرنے کے بعد زندگی سے کہیں زائد اذراک ہو جاتا ہے۔

## مرد کے سنتے ہیں

غزوہ بدر شریف میں مسلمانوں نے کفار کی نعشیں جمع کر کے ایک کنوئیں میں پاٹ دیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی عادت کریمہ تھی جب کسی مقام کو فتح فرماتے تو وہاں تین دن قیام فرماتے تھے۔ یہاں سے تشریف لے جاتے وقت اس کنوئیں پر تشریف لے گئے جس میں کافروں کی لاشیں پڑی تھیں اور انہیں نام بنام آواز دے کر فرمایا: ”ہم نے تو پایا لیا جو ہم سے ہمارے رب (عَزَّوَجَلَّ) نے سچا وعدہ {یعنی نصرت کا} فرمایا تھا، کیوں تم نے بھی پایا جو سچا وعدہ {یعنی نارکا} تم سے تمہارے رب (عَزَّوَجَلَّ) نے کیا تھا؟“ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكَلَّمَ مِنْ أَحْسَادٍ لَّا أَرَوَّاحَ فِيهَا“ یا رسول اللہ! (عَزَّوَجَلَّ) صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کیا حضور بے جان جڑوں (یعنی جسموں) سے کلام فرماتے ہیں؟ فرمایا: ”مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ“ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر انہیں طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں۔

(ملتنقطاً، صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، الحدیث ۳۹۷۶، ج ۳، ص ۱۱)

تو کافر تک سنتے ہیں، مومن تو مومن ہے اور پھر اولیاء کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے۔

(پھر فرمایا) روح ایک پرند ہے اور جسم پیجرہ۔ پرند جس وقت تک پیجرے میں ہے اس کی پرواز اسی قدر ہے، جب پیجرے سے نکل جائے اس وقت اس کی قوت پرواز دیکھئے۔

## مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو

(فرمایا) اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفِي بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ      وہ، وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بد بخت نہیں ہوتا۔ (ت)

والہذا حدیث میں فرمایا:

أَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صَالِحِينَ      اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ (ت)

(کنز العمال، الحدیث ۴۲۳۶۴، ج ۱۵، ص ۲۵۴)

## گلاب کے پھول یا .....

میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا: ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتھنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمہ سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں، اب جو دیکھیں تو دو اژدھے اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھموڑ رہے ہیں، حیران ہوئے۔ کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا: وہاں بھی یہ اژدھا ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا، وہ اژدھے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھل گلاب کے پھول۔ اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو۔ وہیں لے جا کر رکھا پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔

## عذاب قبر اٹھ گیا

ایک بار حضرت سیدی اسمعیل حضرمی قدس سرہ العزیز کہ اچلہ (یعنی اکابر) اولیائے کرام سے ہیں۔ ایک قبرستان سے

گزرے۔ امام محبت الدین طبری کہ اکابر محدثین سے ہیں، ہمراہ رکاب (یعنی ساتھ) تھے۔ حضرت سیدی اسمعیل نے ان سے فرمایا: ”أَتُوْ مِنْ بِكَلَامِ الْمَوْتِي“ کیا اس پر آپ ایمان لاتے ہیں کہ مُردے زندوں سے کلام کرتے ہیں؟ عرض کی: ہاں۔ فرمایا: اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے: ”أَنَا مِنْ حَشَوِ الْجَنَّةِ“ میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، وہاں چالیس قبریں تھیں، آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی۔ اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا: ”تُو بھی انہیں میں سے ہے۔“ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی: حضرت! یہ کیا راز ہے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ فرمایا: ان قبور پر عذاب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں روتا رہا اور حضرت عزت (یعنی بارگاہِ خداوندی) میں میں نے ان کی شفاعت کی۔ مولیٰ تعالیٰ (عَزَّ وَجَلَّ) نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھالیا۔ ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا اس میں سے آواز آئی: ”يَا سَيِّدِي أَنَا مِنْهُمْ أَنَا فَلَانَةُ الْمُغْنِيَّةِ“ اے میرے آقا میں بھی تو انہیں میں ہوں فلاں ڈومنی (یعنی گانے والی) ہوں۔“ مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آگئی اور میں نے کہا: ”أَنْتِ مَعَهُمْ“ تو بھی انہیں میں ہے۔ اس پر سے بھی عذاب اٹھالیا گیا۔ (شرح الصدور، باب زیارة القبور، ص ۲۰۶) تو ”یہ حضرات سزا پر رحمت ہیں جس طرف گزر ہو رحمت ساتھ ہے۔“

## ندیوں کو کیسا سمجھنا چاہئے؟

**عرض:** ندوہ کے متعلق مسلمانوں کا کیا خیال ہونا چاہیے اور ندویوں کو کیسا سمجھنا چاہئے؟

**ارشاد:** ندوہ کھچڑی ہے۔ پہلے بعض اہل سنت بھی دھوکے سے اس میں شامل ہو گئے تھے جیسے مولوی محمد حسین صاحب الہ آبادی اور مولوی احمد حسن صاحب کانپوری اور مولوی عبدالوہاب صاحب لکھنوی، اس کی شناعتوں (یعنی برائیوں) پر اطلاع پا کر یہ لوگ علیحدہ ہو گئے۔ مولانا احمد حسن صاحب مرحوم (جلہ) ندوہ عظیم آباد کے بعد بریلی تشریف لائے۔ رمضان کا اخیر عشرہ تھا، میں اپنی مسجد میں معتکف تھا۔ میں نے خبر سن کر ان کو خط لکھا جس میں القاب یہ تھے: ”أَحْمَدَ السِّيْرَةَ حَسَنَ السَّرِيْرَةَ غَيْرَ شِرْكَةَ السَّنْدُوْرَةِ الْمُبِيْرَةَ“ اس میں احمد حسن ان کا نام بھی نکلا اور معنی یہ ہوئے کہ آپ کی خصلت محمود (یعنی اچھی عادت) اور طینت (یعنی طبیعت و جبلت) مسعود (یعنی مبارک) مگر ندوہ تباہ کن کی شرکت مردود۔ میری ان کی دوستی تھی، ان القاب کو دیکھ کر بہت ہنسے اور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”میں نے اس سے تو بہ کر لی ہے اور عین جلسہ میں مولوی محمد علی ناظم سے یہ کہہ کر



اٹھا ہوں کہ مولوی صاحب آپ اس مجمع کو دیکھتے ہیں، یہ سب جہنم میں جائے گا اور ان کے آگے میں اور آپ ہوں گے۔ یہ نہیں جانتا کہ پہلے آپ جائیں گے کہ پہلے میں۔“ لکھنؤ کے جلسے میں ابراہیم آری نے اپنے لکچر میں صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر مدارِ نجات رکھا، مولوی عبدالوہاب صاحب لکھنوی<sup>۱</sup> مع ہمارا ہیجان یہ فرما کر اٹھ آئے کہ یہاں سے تو رسالت بھی تشریف لے گئی۔ اسی طرح سنٹیوں میں سے جو مطلع ہوتا گیا جدا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس میں بد مذہب رہ گئے یا تو کھلے مرتدین جیسے رافضی وہابی وغیرہم یا وہ نام کے سُنی جوان کو اراکینِ دین بناتے اور ان سے اتحاد مناتے۔ ندوہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ”نیچری وہابی، قادیانی رافضی سب اہلِ قبلہ ہیں لہذا سب مسلمان ہیں۔ اہلِ قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے جیسے برٹش گورنمنٹ کہ اسے اس کی رِعْمِیَّت (یعنی رعایا) کے سب مذہب والے ایک سے۔“

ہم ایسے عقیدہ واہیہ (یعنی یہودہ عقیدے) سے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی پناہ مانگتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ قرآن عظیم فرماتا ہے:

کیا ہم مطیعوں کو مجرموں کے مثل کر دیں تمہیں کیا  
ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

أَفَجَعَلْنَا الْمُشْرِكِينَ كَالْمُؤْمِنِينَ ۗ كَلِمَةً  
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ (پ ۲۹، القلم: ۳۵-۳۶)

اور فرماتا ہے:

کیا ہم پر ہیہ زگاروں کو بدکاروں کی مانند کر دیں۔

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ (پ ۲۳، ص: ۲۸)

اور فرماتا ہے:

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ (پ ۴، ال عمران: ۱۱۳)

سب ایک سے نہیں۔

اور فرماتا ہے:

هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ (پ ۱۴، النحل: ۷۵)

کیا یہ سب برابر ہیں۔

۱۔ یہ صاحب مولوی عبدالباری فرنگی محلی کے والد ہیں۔ انہوں (یعنی مولوی عبدالوہاب صاحب) نے ندوہ سے گریز کی، اس (یعنی ندوہ) میں تو کلمہ گوئی شرط بھی تھی اور یہ (یعنی مولوی عبدالباری) ”سورج کمیٹی“ میں ہمہ تن مصروف جس میں ایک تو مشرکین سے اتحاد شرط اور ایک بڑے مشرک (یعنی گاندھی) کی سرداری ہے۔ ۱۲

اور فرماتا ہے:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ط  
دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ جنت  
وَالْأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ○  
والے ہی کامیاب ہوں گے۔

(پ ۲۸، الحشر: ۲۰)

قرآن عظیم میں اس مضمون کی بکثرت آیات ہیں۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) پر رافضی تبرا کہتے ہیں، ندوی کہتے ہیں: ”سنی اور شیعہ کا قطعیت میں اتفاق ہے، صرف ظنیات میں اختلاف ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہاڑ بنا کر کہاں تک نوبت پہنچائی ہے۔“ تو اب نہ صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی صحابیت قطعی ٹھہری نہ صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی خلافت راشدہ قطعی ہوئی نہ صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا جنتی ہونا قطعی رہا، سب ظنیات ہو گئے! روافض کا تبرا بکنا صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو گالیاں دینا ایک ذرا سی بات ہوئی! ”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“

## جنت کی بھرتی کے معنی

**عرض:** جنت کی بھرتی، کیا معنی؟

**ارشاد:** جنت بہت وسیع مکان ہے:

عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ط  
ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی

چوڑائی میں آجائیں۔ (پ ۴، ال عمران: ۱۳۳)

اس کی وسعت اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ہی جانتے ہیں۔ اس میں پہلے ارباب استحقاق بھیجے جائیں گے جنہوں نے اعمالِ صالحہ کئے اور اپنی حسنات (یعنی نیکیوں) کے سبب مستحق جنت ہوئے یعنی ”استحقاق تَفَضُّلِي“ نہ وجودی کہ کسی کو نہیں، مولیٰ تعالیٰ (عَزَّوَجَلَّ) اپنے بندوں کو اعمالِ صالحہ کی توفیق دیتا ہے پھر ان میں اعمالِ صالحہ پیدا فرماتا ہے پھر اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے پھر اپنی رحمت سے ان کے عوض جنت دے گا یہ سب اس کا فضل ہی فضل ہے۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے مخلوقوں میں آرام کر لیں گے جنت بہت زیادہ خالی رہے گی تو بے استحقاق والوں کو اپنے محض کرم سے اس میں بھرے گا۔

یہ جنت کی بھرتی ہے اور اب بھی بہت جگہ خالی رہے گی تو ربَّ عَزَّوَجَلَّ ان روحوں کو کہ دنیا میں نہ بھیجی گئیں جسم عطا فرما کر ان مکانوں میں بسائے گا یہ بہت آرام سے رہے، نہ دنیا کی صورت دیکھی نہ کوئی تکلیف سہی، نہ موت چکھی نہ کوئی عمل کیا، فقط اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) پر ایمان اور ہمیشہ کے لیے ”دَارِ الْجَنَان“ (یعنی جنت) فَسُبْحٰنَ وَاَسْبَغَ الرَّحْمَةَ!

## حدیث نجات کا مطلب

**عرض:** نیچری اس پر بہت زور دیتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ نجات کے لیے صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کافی ہے ”مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ“ کی کچھ حاجت نہیں اور اس پر حدیث ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (سنن ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فیمن یموت..... الخ، الحدیث ۲۶۴۷، ج ۴، ص ۲۹۰) سے سند لاتے ہیں۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟

**ارشاد:** حدیث ”حق“ ہے اور زعمِ خبیث (یعنی خبیث کا گمان) ”کفر“۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کلمہ طیبہ کا علم (یعنی نام) ہے جس سے پورا کلمہ مراد ہے۔ اگر کوئی کہے اَلْحَمْدُ سَاتِ بَارِكُوْا قُلْ هُوَ اللهُ گیارہ بار کہو، کیا اس سے صرف لفظ اَلْحَمْدُ یا لفظ قُلْ هُوَ اللهُ مراد ہوں گی! ہرگز نہیں بلکہ پوری سورتیں کہ اختصاراً جن کے نام یہ ہیں۔ کلمہ طیبہ کا اختصار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں ہو سکتا تھا کہ نفی محض بلا استثناء تو معاذ اللہ کلمہ کفر ہے۔ لا بجزم (یعنی نتیجہ ضرور) نصف کلمہ اس کا اختصار ہوا۔ یہ ایک ظاہر جواب ہے۔

اور میرے نزدیک تو حقیقت امر یہ ہے کہ بے شک صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نجات کا ضامن ہے اور اسی سے وہ ملعون قول کہ ”محمد رسول اللہ“ کی معاذ اللہ حاجت نہیں، کفرِ خالص ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے فقط الفاظ مراد نہیں بلکہ اس کے معنی کی تصدیق ”سچے دل سے ایمان لانا کہ جس ذات جامع جمع کمالات، مُنَزَّه (یعنی پاک) از جمیع عیوب و نقائص کا علم پاک (یعنی نام) واقع میں اللہ ہے جس نے سچی کتابیں اتاریں، سچے رسول بھیجے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو أَفْضَلُ الرُّسُلِ (یعنی سب رسولوں سے افضل) وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (یعنی سب سے آخری نبی) کیا، وہ جس کے کلام کا ایک ایک حرف یقینی قطعی حق ہے جس میں کذب یا سہو یا خطا کا اصلاً کسی طرح امکان نہیں“۔ جس نے اللہ کو اس طرح پہچانا اسی نے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کو جانا، اسی نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مانا اور جسے ضروریات دین سے کسی بات میں شک یا شبہ ہے اس نے نہ ہرگز اللہ کو جانا، نہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مانا۔ مثلاً جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ایمان کا دعویٰ رکھے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ ایسے کی توحید کی

گواہی دیتا ہے، ایسے کو اللہ سمجھا ہے جس نے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ بھیجا اور وہ ہرگز اللہ نہیں، اس نے اپنے خیال میں ایک باطل تصور جما کر اس کا نام اللہ رکھ لیا ہے۔ یہ اللہ پر مومن (یعنی ایمان لانے والا) نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مشرک (یعنی شرک کرنے والا) ہے۔ اللہ یقیناً وہ ہے جس نے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تو اللہ پر ایمان وہی لائے گا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس پر تمام ضروریات دین کو قیاس کر لو مثلاً جو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کا مہتر (یعنی اقرار کرنے والا) اور قیامت کا منکر ہے یقیناً اللہ کا منکر اور اس اقرار میں مشرک ہے تو ایسے کو اللہ ٹھہرایا جو قیامت نہ لائے گا حالانکہ اللہ وہ ہے کہ قیامت جس کا سچا وعدہ ہے وعلیٰ ہَذَا الْقِیَاسُ۔

اب بِفَضْلِہِ تَعَالٰی معنی بے تکلف صحیح ہو گئے لہذا اپنے رسالہ ”بَابُ الْعُقَايِدِ وَالْكَالَامِ“<sup>۱</sup> میں ثابت کیا ہے کہ ”کفر صرف جہل باللہ کا نام ہے“ جو اللہ کو صحیح طور پر جانتا مانتا ہے کافر نہیں ہو سکتا اور جو کافر ہے اللہ کو ہرگز نہیں جان سکتا اگرچہ کتنا ہی بڑا دعویٰ علم و معرفت کا کرے جیسے دیوبندیہ و ہابسیہ و مرزائیہ و اَمَثَالُهُمْ (یعنی انکی مثل دیگر کفار) خَدَلَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی (یعنی اللہ انہیں رسوا کرے)

## بد مذہبوں کے عالم سے ملنا کیسا؟

**عرض:** ان لوگوں کی نسبت کہ اگر بد مذہب عالم سے ملنے کو منع کیا جائے تو کہیں عالم عالم سب ایک ہیں؟

**ارشاد:** ان کا شمار بھی انہیں میں سے ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَّمُؤَلِّهْمُ مِنْكُمْ فَنَأْتِهِنَّ وَمَنْ يَمُؤَلِّهْمُ (پ ۶، المائدہ: ۵۱) تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہیں میں سے ہے۔

امیر المؤمنین مولیٰ علیؑ م اللہ تعالیٰ و جبرائیلؑ فرماتے ہیں: الْأَعْدَاءُ ثَلَاثَةٌ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّ صَدِيقِكَ وَصَدِيقُ عَدُوِّكَ (دشمن تین ہیں: ایک تیرا دشمن، ایک تیرے دوست کا دشمن اور ایک تیرے دشمن کا دوست)۔

یوں ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن تینوں قسم ہیں: ایک تو ابتداءً اُس کے دشمن، وہ کافران اصلی ہیں۔

فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔

(پ ۱، البقرہ: ۹۸)

۱: یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ شریف جدید جلد ۱۵ صفحہ ۵۲۹ میں ہے۔

دوسرے وہ کہ محبوبانِ خدا کے دشمن ہیں جیسے دیوبندیہ، مرزائیہ، وہابیہ، روافض۔ تیسرے وہ کہ ان دشمنوں میں کسی کے دوست ہیں۔ یہ سب اعداء اللہ (یعنی اللہ عزوجل کے دشمن) ہیں وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی۔

## اللہ عزوجل کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانئے

**عرض:** حضور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اُن کو اپنا دشمن جانیں؟

**ارشاد:** ہر مسلمان پر فرضِ اعظم ہے کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے سب دوستوں سے محبت رکھے اور اس کے سب دشمنوں سے عداوت رکھے۔ یہ ہمارا عین ایمان ہے۔

## کافروں سے کیسی عداوت رکھنی چاہئے؟

{ اسی تذکرہ میں فرمایا: بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی میں نے جب سے ہوش سنبھالا اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے سب دشمنوں سے دل میں سخت نفرت ہی پائی۔ ایک بار اپنے دہات (دیہات) کو گیا تھا، کوئی دیہی مقدمہ پیش آیا جس میں چوپال کے تمام ملازموں کو بدایوں جانا پڑا، میں تنہا رہا۔ اُس زمانے میں مَعَاذَ اللّٰهِ درِ دِلِج (یعنی بڑی انتہی کا درد) کے دورے ہو کر تے تھے۔ اس دن ظہر کے وقت سے درد شروع ہوا، اسی حالت میں جس طرح بنا، وضو کیا۔ اب نماز کو نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کی اور حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ مولیٰ عَزَّوَجَلَّ مُصَْٔمْر (یعنی پریشان) کی پکار سنتا ہے۔ میں نے سُنُّنوں کی نیت باندھی، درد بالکل نہ تھا۔ جب سلام پھیرا، اسی شدت سے تھا۔ فوراً اُٹھ کر فرضوں کی نیت باندھی، درد جاتا رہا۔ جب سلام پھیرا وہی حالت تھی۔ بعد کی سُنُّنیں پڑھیں، درد موقوف (یعنی ختم) اور سلام کے بعد پھر بدستور، میں نے کہا: اب عصر تک ہوتا رہ۔ پلنگ پر لیٹا کروٹیں لے رہا تھا کہ درد سے کسی پہلو قرار نہ تھا۔ اتنے میں سامنے سے اسی گاؤں کا ایک برہمن کہ { خبیث بزم خود قریب قریب توحید کا قائل اور براہِ مکرو فریب میرے خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف مائل بنتا تھا } گزرا، پھاٹک کھلا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر اندر آیا اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیا یہاں درد ہے؟ مجھے اس کا نجس ہاتھ بدن کو لگنے سے اتنی کراہت و نفرت پیدا ہوئی کہ درد کو بھول گیا اور یہ تکلیف اس سے بڑھ کر معلوم ہوئی کہ ایک کافر کا ہاتھ میرے پیٹ پر ہے۔ ایسی عداوت رکھنا چاہیے۔

## بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا کیسا؟

**عرض:** اکثر لوگ بد مذہبوں کے پاس جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کے لئے کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** حرام ہے اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ کامل اور دوستانہ ہو تو دین کے لیے زہرِ قاتل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ  
وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ  
انھیں اپنے سے دور کرو اور ان سے دور بھاگو وہ تمہیں گمراہ نہ  
کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔

(صحیح مسلم مقدمہ، باب النهی عن الرواية عن الضعفاء..... الخ، الحدیث ۷، ص ۹)

اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے، ”إِنَّهَا أَكْذَبُ شَيْءٍ إِذَا حَلَفَتْ فَكَيْفَ إِذَا وَعَدَتْ (نفس اگر کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے نہ کہ جب خالی وعدہ کرے۔) صحیح حدیث میں فرمایا: جب دجال نکلے گا، کچھ اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں گے کہ ہم تو اپنے دین پر مستقیم (یعنی قائم) ہیں، ہمیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ وہاں جا کر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں حلف سے کہتا ہوں جو جس قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔“ (ملفوظات، مستدرک علی الصحیحین، کتاب الهجرة، ذکر اسماء اهل الصفة، الحدیث ۴۳۰۰، ج ۳، ص ۵۰۶) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارا ایمان اور پھر حضور کا حلف (یعنی قسم) سے فرمانا۔ دوسری حدیث ہے: ”جو کافروں سے محبت رکھے گا وہ انہیں میں سے ہے۔“

## بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”شرح الصدور“ میں نقل فرماتے ہیں: ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کی نزع کا وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ کہا: نہیں کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا: یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو برا کہتے تھے، اب یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، ہرگز نہ پڑھنے دیں گے۔ (شرح الصدور بشرح حال الموتی و القبور، باب ما يقول الانسان..... الخ، ص ۳۸)

یہ نتیجہ ہے بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے کا۔ جب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدگویوں (یعنی بُرا کہنے والوں) سے میل جول کی یہ شامت ہے تو قادیانیوں اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے پاس نشست و برخاست (یعنی اٹھنے بیٹھنے) کی آفت کس قدر شدید ہوگی؟ ان کی بدگوئی صحابہ تک ہے ان کی انبیاء اور سید الانبیاء (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اور اللہ عزَّ وَجَلَّ تک۔

## اگر ملازم بد مذہب ہوتو؟

**عرض:** اگر ملازم ہے اور خوشامد میں لگا رہے؟

**ارشاد:** اتنا برتاؤ رکھو اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے دشمنوں سے جتنا اپنے دشمنوں سے رکھتے ہو۔

## سچے مجذوب کی پہچان

**عرض:** حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟

**ارشاد:** سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعتِ مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔

## مجذوب کی دُعا کا اثر

حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور مجاذیب (مجذوب کی جمع) سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے۔ میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ زنا نہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار قحط شدید پڑا۔ بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی آہ و زاری حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہا: مینہ بھیجے یا اپنا سہاگ لیجیے! یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں

ا: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں: حالتِ جذب میں مثل جنون عقل سلامت نہیں رہتی، اس وقت وہ مکلف نہیں، جو باوصف بقائے عقل و استطاعت قصد نماز یا روزہ ترک کرے ہرگز ولی اللہ نہیں ولی الشیطان ہے۔ (فتاویٰ رضویہ مجلد ۱۳ ص ۴۰۹) تفسیر نعیمی میں ہے: بعض اولیاء اللہ ہمیشہ اور بعض اولیاء کبھی کبھی حالتِ جذب میں عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں اس وقت ان پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ حُصُو رانور، شافع محشر، محبوب داورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں: رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ یعنی تین شخص مرفوع القلم ہیں سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور مجنون یہاں تک کہ ہوش میں آجائے۔ (ابوداؤد ج ۴ ص ۱۸۸ حدیث ۴۴۰۳) (تفسیر نعیمی ج ۱۱ ص ۳۹۷) حضرت علامہ عبد الرزاق مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ”فیض القدر“ میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: ”رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ“ مکلف نہ ہونے سے کننا یہ ہے کیونکہ تکلیف کتابت کو لازم ہے اسلئے اس کو کتابت سے تعبیر کیا گیا۔ (فیض القدر ج ۱ ص ۲۶) صدر الشریعہ، بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں: اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہوگی ہو، جیسے غشی والا تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے گا مگر یہ بھی سمجھو! جو اس قسم کا ہوگا، اُس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی، شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کریگا۔ (بہار شریعت ج ۱ ص ۲۶۶) حضرت علامہ عبد الرزاق مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ”فیض القدر“ میں تحریر فرماتے ہیں: الْمَجَادِبُ وَنَحْوِهِمُ الَّذِينَ يَبْدُو مِنْهُمْ مَا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ بِشَيْءٍ وَيَسَلِّمُ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ مجاذیب وغیرہ سے ایسی بات ظاہر ہو جو بظاہر شریعت کے مخالف ہو تو کسی چیز میں ان کے درپہ نہیں ہوا جائے گا، اور ان کے معاملے کو اللہ عزوجل کے طرف سونپا جائے گا۔ (فیض القدر ج ۳ ص ۵۴۷)

پہاڑ کی طرح اٹھیں اور جل تھل بھر دیئے۔ (القول الجلی فی ذکر آثار الولی، ص ۴۸۸)

## مجنوب کی نماز

ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کہ جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، انہیں دیکھ کر انہیں بالعموم (یعنی نیکی کا حکم) کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے۔ مردانہ لباس پہنئے اور نماز کو چلئے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں اور زیور اور زنا نہ لباس اُتار اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا: اللہ اکبر میرا خاندن حَی لَا یَمُوتُ (یعنی ایسا زندہ) ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔

اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صوفی ”صاحب تحقیق“ (ہے) اور ان کا مُقلد (یعنی نا سمجھ پیر و کار) زندیق (یعنی بے دین)۔

## سچے وجد کی پہچان

**عرض:** سچے وجد کی کیا پہچان ہے؟

**ارشاد:** یہ کہ فرائض و واجبات میں مُخل (یعنی رکاوٹ ڈالنے والا) نہ ہو۔

## حالت وجد میں بھی نماز قضا نہ ہوئی

حضرت سید ابوالحسنین احمد نوری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) پر وجد طاری ہوا، تین شبانہ روز (یعنی رات دن) گزر گئے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر (یعنی ہم زمانہ) تھے، کسی نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت عرض کی۔ فرمایا: نماز کا کیا حال ہے؟ عرض کی: نمازوں کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ان کا وجد سچا ہے۔ (ملخصاً، تذکرۃ الاولیاء، حصہ دوم، ذکر ابو الحسن نوری، باب جہل و ششم، ص ۴۲)

## احکام شریعت

{ اس کے بعد فرمایا { نماز، جب تک عقل باقی ہے، کسی وقت میں معاف نہیں۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب

الصلوٰۃ، ج ۲، ص ۶) رمضان شریف کے روزے حالت سفر میں یا مرض میں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اجازت ہے کہ قضا کرے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصوم فصل فی العوارض، ج ۳، ص ۴۶۲-۴۶۳-۴۶۵) اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب



پراور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے لیکن نماز سب پر بہر حال فرض ہے یہاں تک کہ کسی حاملہ عورت کے نصف بچہ پیدا ہو لیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو ابھی نساء (یعنی نفاس والی) نہیں حکم ہے کہ گڑھا کھودے یا دیگ پر بیٹھے اور اس طرح نماز پڑھے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی حکم وطی المستحاضۃ..... الخ، ج ۱، ص ۵۴۵) یا بیمار ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں (تو) دیوار یا عصا یا کسی شخص کے سہارے کھڑا ہو کر نماز ادا کر لے اور اگر اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تو جتنی دیر ممکن ہو قیام فرض ہے اگرچہ اسی قدر کہ تکبیر تحریر یہ کھڑے ہو کر کہہ لے اور بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھے۔ (حلی کبیر، الثانی: القیام، ص ۲۶۲)

## قَدَمَینِ مَبَارَکِ سُوجِ جَاتِے

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نماز کی کثرت فرماتے یہاں تک کہ پائے مبارک سُوج جاتے، صحابہ کرام (علیہم الرضوان) عرض کرتے: ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اس قدر کیوں تکلیف گوارا فرماتے ہیں؟ مولیٰ تعالیٰ نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو ہر طرح کی معافی عطا فرمائی ہے۔“ فرماتے: ”أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“ تو کیا میں کامل شکر گزار بندہ نہ ہوں! (صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی، الحدیث ۱۱۳۰، ج ۱، ص ۳۸۴)

یہاں تک کہ ربَّ عَزَّوَجَلَّ نے خود ہی کمالِ محبت ارشاد فرمایا:

طه ﴿١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

اے چودھویں رات کے چاند! ہم نے تم پر قرآن

الْقُرْآنِ لَتَسْتَفِي ﴿٢﴾ (پ ۱۶، طه: ۱، ۲)

اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔

عرض نماز مرتے وقت تک معاف نہیں۔ ربَّ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ

اے بندے اپنے رب (عَزَّوَجَلَّ) کی عبادت

الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ (الحجر: ۹۹)

کیے جا، یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔

## عقل جاتی رہی

ایک صاحبِ صالحین سے تھے، بہت ضعیف ہوئے۔ پنجگانہ مسجد کی حاضری نہ چھوڑتے۔ ایک شب عشاء کی حاضری میں گر پڑے، چوٹ آئی۔ بعد نماز عرض کی: الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) اب میں بہت ضعیف ہوا، بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو خدمت سے آزاد کر دیتے ہیں (لہذا) مجھے آزاد فرما۔ ان کی دعا قبول ہوئی مگر یوں کہ صبح اٹھے، تو مجنون تھے۔ یعنی ”جب تک عقل تکلفِ الٰہی باقی ہے، نماز معاف نہیں۔“

## مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

**عرض:** مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقیر رکھتے ہیں۔

**ارشاد:** حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ  
اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت  
رکھیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت پیدا کریں۔

(مسند امام احمد بن حنبل، الحدیث ۳۱۵۱، ج ۱، ص ۷۲۷)

## وَلَدُ الْحَرَامِ كَوِ اِمَامٍ بِنَانَا كَيْسَا؟

**عرض:** ولد الحرام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر اس سے علم و تقویٰ میں زیادہ یا اس کی مثل جماعت میں موجود ہو تو اسے امام بنانا نہ چاہیے۔ ہاں اگر یہی سب  
حاضرین سے علم و تقویٰ میں زائد ہو تو اسی کو امام بنایا جائے۔

(ملخصاً، ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب البدعة خمسة، ج ۲، ص ۳۵۸)

**عرض:** حضور! اس میں بچے کا کیا تصور ہے؟

**ارشاد:** شرع کو تکثیر (یعنی کثرت) جماعت کا بڑا لحاظ ہے۔ امام میں جب کوئی ایسی بات ہو جس سے قوم کو نفرت اور باعثِ تکلیل  
جماعت (یعنی جماعت میں کمی کا سبب) ہو، اس کی امامت ناپسند ہے، اگرچہ اس کا تصور نہ ہو و لہذا جس کے بدن پر برص (یعنی سفید کوڑھ)  
کے داغ بکثرت ہوں اس کی امامت مکروہ ہے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب فی امامة الامر، ج ۲، ص ۳۶۰) رغبت  
جماعت ہی کے لحاظ سے مستحب ہے کہ اور فضائل میں مساوات کے بعد امام خوب صورت و خوش گلو (یعنی خوش آواز) ہو۔ نماز کو  
لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے۔ عوام بے چارے کس گنتی میں، بعض بڑے بڑے عالم جو کہلاتے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔

## تیری رحمت کے طفیل

(پھر فرمایا) کہ عبادت محض لِسَوْجِهَةِ اللَّهِ (یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے) ہونا چاہیے، کبھی اپنے اعمال پر نازاں نہ ہو کہ کسی

کے عمر بھر کے اعمالِ خسنہ اُس کی کسی ایک (بھی) نعمت کا جو اُس نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے، بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اگلی اُمتوں میں ایک بندہ خدا بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر جہاں انسان کا گزرنہ تھا، رات دن عبادتِ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میں مشغول رہتے ربِّ عَزَّوَجَلَّ نے اس پہاڑ پر ان کے لئے انار کا ایک درخت اُگایا اور ایک شیریں چشمہ نکالا، انار کھاتے اور وہ پانی پیتے اور عبادت کرتے، چار سو برس اسی طرح گزارے۔

ظاہر ہے کہ جب انسان بالکل تنہا زندگی بسر کرے اور کوئی دوسرا نہ ہو تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے نہ چوری، نہ اور کوئی قصور کر سکتا ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو اور اکثر گناہ وہی ہیں۔ غرض جب ان کے نزع کا وقت آیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا: اتنی اجازت دیجئے کہ میں وضو تازہ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں قبضِ روح کر لینا۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہارے لیے اتنی اجازت لایا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی۔ دوسری رکعت کے سجدے میں انتقال ہوا۔ بدن ان کا سلامت ہے اب تک ویسے ہی سجدے میں ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی: ہم جب آسمان سے اترتے یا آسمان کو جاتے ہیں انہیں اسی طرح سر بسجود دیکھتے ہیں۔ یہ بندہ خدا جب قیامت کے روز حاضر ہوں گے عبادت کے سوانمہ اعمال میں کوئی گناہ تو ہوگا ہی نہیں، حساب و میزان کی کیا حاجت! ربِّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) ارشاد فرمائے گا:

اِذْهَبُوا بِعَبْدِي اِلَىٰ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي      میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔

ان کے منہ سے نکلے گا: ”اے میرے ربِّ (عَزَّوَجَلَّ) بلکہ میرے عمل سے“ یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے جن سے مستحق جنت ہوں۔ ارشاد ہوگا: ”لوٹاؤ اور میزان (یعنی ترازو) کھڑی کرو، اس کی چار سو برس کی عبادت ایک پلے میں اور ہماری نعمتوں سے، جو ہم نے اسے چار سو برس میں دیں، صرف آنکھ کی نعمت دوسرے میں رکھو۔“ وزن کیا جائے گا، ان کے چار سو برس کے اعمال سے ایک یہ نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا:

اِذْهَبُوا بِعَبْدِي اِلَىٰ نَارِي بِعَذَابِي      میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ میرے عذاب سے۔

اس پر گھبرا کر عرض کریں گے: ”نہیں اے ربِّ (عَزَّوَجَلَّ) میرے بلکہ تیری رحمت سے۔“ ارشاد ہوگا:

اَذْهَبُوا بِعَبْدِي الْيَسِيِّ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي ميرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔

(مستدرک علی الصحیحین، کتاب التوبۃ والایابۃ، الحدیث ۷۷۱۲، ج ۵، ص ۳۵۵)

قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کی پُرسش (یعنی پوچھ گچھ) ہوگی۔

(کنز العمال، کتاب الصلاة، قسم الاقوال، الاکمال، حدیث ۱۸۸۸۰، ج ۷، ص ۱۱۵)

## شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

{اس کے بعد کچھ اور واقعات حشر کا بیان فرمایا کہ} سب اولین و آخرین جمع ہوں گے اور اس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ بعض مسلمین بھی اپنے معاصی (یعنی گناہوں) پر مُعَذَّب کیے (یعنی عذاب دیے) جائیں گے (لیکن) کوئی مسلمان پوری سزا نہ پائے گا (بلکہ) سزا پوری ہونے سے پہلے ہی حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نجات دلوادے گی۔ سزا اگر پوری ہو لیتی تو نجات آپ ہی ہوتی شفاعت کا کیا اثر ہوتا لیکن شفاعت انہیں بخشوائے گی تو ثابت ہوا کہ سزا پوری نہ ہونے پائے گی۔

## ابراہیم

(پھر فرمایا) ایک بندہ حاضر ہوگا۔ ربُّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) کا حکم ہوگا، اس کا نامہ اعمال اُسے دیا جائے گا۔ وہ تُو مار (یعنی صحیفہ) حدِ نگاہ تک طویل اور سراپا گناہوں سے بھرا ہوگا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، اس میں صغائر و کبائر سب لکھے ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کرے گا اور کبائر (یعنی کبیرہ گناہوں) کو چھوڑتا جائے گا۔ ربُّ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا پڑھ لیا؟ کہے گا ہاں! سب پڑھ لیا۔ فرمائے گا: ”اے میرے فرشتو! اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھو۔“ اُس وقت چلا اُٹھے گا کہ الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میرے بڑے گناہ تو رہے ہی گئے ہیں، میں نے تو صرف صغائر (یعنی صغیرہ گناہ) پڑھے۔ (جامع ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب عشر، حدیث ۲۶۰۵، ج ۴، ص ۲۶۸) یہ سب صدقہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔

## رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

حدیث میں ہے: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

البتہ قریب ہے کہ تمہارا رب (عَزَّوَجَلَّ)

فَتَرْضَىٰ ۝ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۵)

تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

حضور شفیع المذنبین (یعنی گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذْ لَا أَرْضَىٰ وَوَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي  
 ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا  
 فِي النَّارِ  
 ایک امتی بھی نار میں رہا۔

(تفسیر کبیر، سورۃ الضحیٰ، تحت الایۃ ۵، ج ۱۱، ص ۱۹۴)

روزِ قیامت داروغہ دوزخ (حضرت مالک) علیہ الصلوٰۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں دیکھ کر عرض کر دیں گے:  
 ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اپنی امت میں غضبِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کا کوئی حصہ نہ چھوڑا۔“

(المستدرک للحاکم، کتاب الایمان، باب للانبیاء منابر من ذہب، ج ۱ ص ۲۴۲، حدیث ۲۲۸)

## دونوں کو جنت میں لے جاؤ

(پھر فرمایا) قیامت کے روز دو بندے دوزخ سے نکالے جائیں گے، ربِّ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”جو کچھ تمہیں پہنچا تمہارے اعمال کا بدلاتھا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم پھر جہنم میں چلے جاؤ۔“ ان میں سے ایک تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا آہستہ۔ حکم ہوگا: ”واپس لاؤ۔ اسِ شتابی (یعنی جلدی) اور آہستگی کا سبب پوچھو۔“ جلدی کرنے والا عرض کرے گا: ”اے ربِّ (عَزَّوَجَلَّ) میرے! نافرمانی کے سبب یہ کچھ دیکھ چکا تھا، کیا اب بھی نافرمانی کرتا!“ دوسرا عرض کرے گا: ”الہی (عَزَّوَجَلَّ) مجھے امید تھی کہ جہنم سے نکال کر مجھے پھر اس میں بھیجے گا۔“ حکم ہوگا: ”دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔“

(احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت، ج ۵، ص ۳۱۳)

## کیا عالم کی صحبت میں آدمی بگڑ جاتا ہے؟

عرض: بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی بگڑ جاتا ہے؟

ارشاد: حدیث میں تو یہ فرمایا ہے:

أَعْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجِبًّا  
 اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو یا متعلم یا عالم کی باتیں سننے  
 وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ  
 والا، یا عالم کا محبت اور پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔

(کشف الخفاء، الحدیث ۴۳۷، ج ۱، ص ۱۳۴)

## طلاق مُعَلَّظَہ کے بعد بغیر حلالہ رجوع کرنا کیسا؟

**عرض:** زید نے اپنی عورت کو طلاق مُعَلَّظَہ دے دی۔ علماء سے استئثنا پوچھا، حلالہ کا حکم ملا۔ اگر بغیر حلالہ رجعت کر لے؟

**ارشاد:** حرام قطعی ہے۔ جب عدت گزر لے اور مُطَلَّقَہ کا نکاح دوسرے شخص سے ہو اور وہ اس سے ہم بستر ہو پھر وہ طلاق دے اور پھر عدت گزرے۔ اس کے بعد زید سے نکاح ہو سکتا ہے، بغیر اس کے زنائے خالص ہوگا۔

(البحر الرائق شرح کنز الدقائق، کتاب الطلاق، فصل فیما تحل بہ المطلقۃ، ج ۴، ص ۹۴)

## حلالہ کے لئے ہم بستری شرط ہے

{ اسی سلسلے میں فرمایا { ایک صحابیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو ان کے شوہر نے مُعَلَّظَہ طلاق دے دی، ان (کی) بیوی نے

دوسرے سے نکاح کر لیا اور بلا ہم بستر ہوئے خدمتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں جا کر عرض کی کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اب میں پہلے سے نکاح کر سکتی ہوں؟ ارشاد فرمایا:

لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ      تم پہلے خاوند کے پاس اس وقت تک نہ جا سکو گی جب تک

وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ      دوسرے خاوند کا ذائقہ تم اور وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے۔

(صحیح بخاری، کتاب الطلاق، اذا طلقها ثلاثاً..... الخ، حدیث ۳۵۱۷، ج ۳، ص ۵۰۲)

تو ربُّ العزت نے یہ ”تازیانہ“ رکھا ہے کہ لوگ تین طلاقیں دینے سے خوف کریں اور اس سے باز رہیں لیکن پھر

بھی خیال نہیں کرتے، تین تو درکنار! جب دینے پر آتے ہیں تو بے شمار طلاقیں دیتے ہیں۔

## کیا بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اسے کندھا نہیں دے سکتا؟

**عرض:** حضور اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے شوہر کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، نہ وہ کندھا دے نہ منہ دیکھے؟

**ارشاد:** یہ مسئلہ جُہَلَاءَ میں بہت مشہور ہے اور بالکل بے اصل ہے۔ ہاں بے حائل اس کے جسم کو بے شک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ باقی کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور اگر موت ایسی جگہ آئے جہاں میاں بیوی کے سوا کوئی اور نہ ہو تو شوہر خود اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر میت کو تیمم کرائے لیکن عورت کو بلا کسی شرط کے اپنے شوہر مُردہ کو چھونے کی اجازت

ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب فی حدیث کل..... الخ، ج ۳، ص ۱۰۵)

## مرحوم شوہر کے روپے سے مسجد بنوانا کیسا؟

**عرض:** زید اگر فوت ہو گیا، منکوحوہ (یعنی اس کی بیوی) نے اس کے روپے سے مسجد بنوادی اور اس کے بہن بھائی کو محروم رکھا؟

**ارشاد:** اگر اس کا مہر اتنا تھا کہ زید کا متروکہ اس کے مہر میں مُسْتَعْرِق ہوتا یعنی زید کا سارا مال اس کا حق مہر ادا کرنے میں ہی خرچ ہو جاتا تو اختیار تھا اور نہ اپنے مہر و حصہ سے زائد ”غصب“ ہے۔

## پیر بھائی کی شیخ سے زیادہ رسائی پر رنج کرنا

**عرض:** اگر کسی مرید کی اپنے شیخ سے زیادہ رسائی ہو اس پر اس کے پیر بھائی رنج رکھیں؟

**ارشاد:** یہ حسد ہے جو لے جاتا ہے جہنم میں۔ ربُّ العزت تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ رُتَبہ دیا کہ تمام ملائکہ سے سجدہ کرایا، شیطان نے حسد کیا وہ جہنم میں گیا۔

دنیا میں اگر کسی کو اپنے سے زیادہ دیکھے (تو شکر بجالائے کہ مجھے اتنا بتلا نہ کیا اور دین میں دیکھے تو اُس کی دست بوتی کرے، اُسے مانے۔ کسی پر حسد کرنا رب العزت (عَزَّوَجَلَّ) پر اعتراض ہے کہ اسے کیوں زیادہ دیا اور مجھے کیوں کم رکھا۔

## تعزیه داری میں تماشا دیکھنے کے لئے جانا کیسا؟

**عرض:** تعزیه داری میں لہو و لعب (یعنی کھیل کود یا تماشا) سمجھ کر جائے تو کیسا ہے؟

**ارشاد:** نہیں چاہیے۔ ناجائز کام میں جس طرح جان مال سے مدد کرے گا یونہی سواد (یعنی گروہ) بڑھا کر بھی مددگار ہوگا۔ ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بندر نچانا حرام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ دُرِّ مختار و حاشیہ علامہ طحطاوی میں ان مسائل کی تصریح ہے۔ آجکل لوگ ان سے غافل ہیں۔ متقی لوگ جن کو شریعت کی احتیاط ہے، ناوائفی سے رچھچھ یا بندر کا تماشا یا مرغوں کی پالی (یعنی لڑائی) دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس سے گنہگار ہوتے ہیں۔

## بھلائی کے مجمع میں شرکت سے محرومی پر افسوس کا انعام

حدیث میں ارشاد ہے کہ ”اگر کوئی مجمع خیر کا ہو اور وہ نہ جانے پایا اور خبر ملنے پر اس نے افسوس کیا تو اتنا ہی ثواب

ملے گا جتنا حاضرین کو اور اگر مجمع شرک ہو اس نے اپنے نہ جانے پر افسوس کیا تو جو گناہ ان حاضرین پر ہوگا وہ اس پر بھی (ہوگا)۔“

## بزرگانِ دین کی تصاویر بطورِ تبرک لینا کیسا؟

**عرض:** بزرگانِ دین کی تصاویر بطورِ تبرک لینا کیسا ہے؟

**ارشاد:** کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل (علیہما الصلوٰۃ والسلام) و حضرت مریم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی تصاویر بنی تھیں کہ یہ تبرک ہیں، (چونکہ) ناجائز فعل تھا (اس لیے) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دستِ مبارک سے انہیں دھو دیا۔

(ملخصاً، صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ..... الخ، حدیث ۳۳۵۲، ج ۲، ص ۴۲۱)

## نمازِ فجر میں دُعاے قنوت پڑھنا

**عرض:** نمازِ فجر میں دُعاے قنوت پڑھنا کیا اثر رکھتا ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟

**ارشاد:** اگر مَعَاذَ اللّٰهِ کوئی نازلہ ہو اور سخت نازلہ عام بلا ہو اور سخت بلا (تو دُعاے قنوت پڑھیں)، اللہ پناہ میں رکھے۔

## قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ

طریقہ اس کا یہ ہے کہ دوسری رکعت میں اَلْحَمْدُ و سورۃ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام دُعاے قنوت پڑھے اور مقتدی

آہستہ آہستہ دُعا مانگیں یا آمین کہیں۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاۃ، مطلب فی القنوت..... الخ، ج ۲، ص ۵۴۱-۵۴۲)

## وضو کرنے کا مَسْنُونُ طریقہ

**عرض:** وضو کرنے کا مَسْنُونُ طریقہ کیا ہے؟

**ارشاد:** وضو کرنے جب بیٹھے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَامِ“ پڑھے۔ جو وضو

”بِسْمِ اللّٰهِ“ سے شروع کیا جاتا ہے تمام بدن کو پاک کر دیتا ہے، ورنہ جتنے پر پانی گزرے گا اتنا ہی پاک ہوگا۔

(سنن دار قطنی، کتاب الطہارت، باب التسمیۃ علی الوضوء، الحدیث ۲۲۸، ج ۱، ص ۱۰۸)

پھر دونوں ہاتھ پہنچوں (یعنی کلائیوں) تک تین تین بار اس طرح دھوئے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو اُلٹے ہاتھ سے پانی

ڈال کر تین بار پھر اُلٹے کو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈال کر تین بار اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھائیاں (یعنی دو انگلیوں کے

درمیان کی جگہیں) پانی پہننے سے نہ رہ جائیں۔ پھر تین بار کلی ایسی کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں



پانی پہنچ جائے کہ وضو میں اسی طرح کلی کرنا سنتِ مؤکدہ اور غسل میں فرض ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جلدی جلدی تین بار پیچ پیچ کر لیا یا ناک کی نوک پر تین مرتبہ پانی لگا لیا، ایسا کرنے سے وضو میں سنت ادا نہیں ہوتی۔ ایک آدھ بار ایسا کرنے سے تارکِ سنت اور عادت ڈالنے سے گناہگار و فاسق ہوتا ہے اور غسل میں فرض رہ جاتا ہے تو غسل تو ہوتا ہی نہیں کہ نرم بانسے تک پانی چڑھانا وضو میں سنتِ مؤکدہ اور غسل میں فرض ہے۔

داڑھی اگر ہے تو خوب تر کر لے کہ اگر ایک بال کی جڑ بھی خشک رہی اور پانی اس پر نہ بہا تو وضو نہ ہوگا اور منہ پر پانی لمبائی میں پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں کان کی ایک لُو سے دوسری لُو تک پانی بہائیں۔ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک اس طرح دھوئیں کہ پانی کی دھار کہنی تک برابر پڑتی چلی جائے، یہ نہ ہو کہ پہنچے سے تین بار پانی چھوڑ دیا اور وہ کہنی تک بہتا چلا گیا، اس طرح کہنی بلکہ کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا احتمال ہے۔ اس کا لحاظ ضروری ہے کہ ایک روگٹھا (یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں) بھی خشک نہ رہے، اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہو ابہ گیا اور بالائی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔

پھر سر کے بالوں کا مسح کرے۔ چہارم (یعنی چوتھائی) سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کا انگوٹھا اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر تین تین انگلیوں اور انہیں کے مقابل ہتھیلی کے حصوں سے پیشانی کی جانب سے گدی تک کھینچتا ہوا لے جائے پھر ہتھیلیوں کا باقی حصہ گدی سے پیشانی تک لائے اور کلمہ کی انگلیوں کے پیٹ سے کانوں کے پیٹ کا مسح کرے اور انگوٹھوں کے پیٹ سے کانوں کی پشت کا اور پشتِ دست سے گردن کے پچھلے حصہ کا۔ گلے پر ہاتھ نہ لائے کہ بدعت ہے۔

پھر دونوں پاؤں ٹخنوں کے اوپر تک دھوئے اور ہر عضو پہلے دایاں پھر بائیں دھوئے۔ کلی کرتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ الْهَيِّ مَدْفَرًا قُرْآنَ عَظِيمٍ كِتَابِ

وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ  
اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر۔

۱: داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں اور اگر کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۲۸۹)

ناک میں پانی ڈالتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ  
وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ  
الہی (عَزَّوَجَلَّ) مجھے جنت کی خوشبو سُنکھا  
اور دوزخ کی بدبو نہ سُنکھا۔

منہ دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ  
وُجُوهُهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُهُ  
الہی (عَزَّوَجَلَّ) میرا منہ اُجالا کر جس دن  
کچھ منہ اُجالے ہوں گے اور کچھ کالے۔

دہنا ہاتھ دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي يَمِينِي  
وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا  
الہی (عَزَّوَجَلَّ) میرا نامہ اعمال میرے سیدھے  
ہاتھ میں دے اور مجھ سے آسان حساب لے۔

بایاں ہاتھ دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي  
وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي  
الہی (عَزَّوَجَلَّ) میرا نامہ اعمال میرے اُلٹے  
ہاتھ میں نہ دینا نہ میری پیٹھ کے پیچھے سے۔

سر کا مسح کرتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ  
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ  
الہی (عَزَّوَجَلَّ) مجھے اپنے عرش کے نیچے سایہ  
دے جس دن سایہ نہیں مگر تیرے عرش کا۔

کانوں کا مسح کرتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ  
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  
الہی (عَزَّوَجَلَّ) مجھے ان میں کر جو کان لگا کر بات  
سننے ہیں پھر اس میں بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔

گردن کے مسح میں کہے:

اللَّهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ      الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میری گردن دوزخ سے آزاد فرما۔

سیدھا پاؤں دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ نَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ      الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میرے پاؤں صراط پر جما جس  
يَوْمَ تَزُلُّ الْاَقْدَامُ      دن قدم پھسلیں۔

اُلٹا دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعِيًّا      الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) میرا گناہ معاف کر اور میری کوشش  
مَشْكُورًا وَتَجَارَتِي لَنْ تَبُورَ      ٹھکانے لگا اور میری سوداگری ضائع نہ کر۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی مباحث ..... الخ، ج ۱، ص ۲۷۲)

اور ہر عضو دھونے کے بعد درود شریف پڑھے۔ ختم وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھے پھر کہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ      الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں  
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ      سے کر اور مجھے ستھرا ہونے والوں میں سے کر۔

(کنز العمال، کتاب الطہارت قسم الاقوال، الحدیث ۲۶۹۸۹، ج ۹، ص ۲۰۵)

جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیئے جائیں گے۔

(صحیح مسلم، کتاب الطہارت، باب الذکر المستحب، الحدیث ۲۳۴، ص ۱۴۴)

## وضو میں بے احتیاطی

{اسی سلسلہ میں فرمایا} ایک مرتبہ گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، ایک عالم میرے ساتھ تھے فجر کی نماز کے لیے انہوں

نے وضو کیا، بھوؤں سے چہرہ پر پانی ڈالا۔ جب ان سے کہا گیا تو فرمایا: جلدی کی وجہ سے (ایسا کیا) کہ (کہیں) وقت نہ (ختم ہو)

جائے۔ میں نے کہا کہ پھر تو بلا وضو ہی پڑھے گا! مجھے خیال رہا، ظہر کے وقت دیکھا انہوں نے اُس وقت بھی ایسا ہی کیا، میں

نے کہا: اب تو وقت نہ جاتا تھا! آجکل لوگوں کی عام طور سے یہی عادت ہے۔ غسل میں جس قدر احتیاط چاہیے، آج کل اُتنی

ہی بے احتیاطی ہے۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) معاف فرمائے۔

## نماز میں کی جانے والی غلطیوں کا بیان

(پھر فرمایا) نماز میں سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے سرے زمین پر لگتے ہیں حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ لگے، ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض اور سب کا سنت ہے۔ پھر صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں حالانکہ حکم ہے کہ جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہئے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے۔ سجدے سے ایک بالشت سر اٹھایا یا بہت ہو اذرا اٹھالیا اور وہیں دوسرا سجدہ ہو گیا۔ حالانکہ پورا سیدھا کھڑا ہونا اور بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر ۶۰ برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی۔

## اطمینان سے نماز پڑھ

ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوا اور بہت تیزی سے جلدی جلدی نماز پڑھی بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ فرمایا ”وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ واپس جا پھر پڑھ کہ تُو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر یہی ارشاد ہوا۔ آخر میں انہوں نے عرض کی: ”قسم اُس کی جس نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو حق کے ساتھ بھیجا مجھے ایسی ہی آتی ہے، حضور فرمائیں!“ فرمایا: ”رکوع و سجود باطمینان کر اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔“

(ملخصاً، صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب وجوب القراءة..... الخ، حدیث ۷۵۷، ج ۱، ص ۲۶۸)

## 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو؟

**عرض:** حضور جس میں ۹۹ باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی اُس کے لئے کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** کافر ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک سجدہ کرے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کو اور ۹۹ مہاد پو (یعنی ہندوں کے تین بڑے دیوتاؤں) کو تو مسلمان رہے گا۔ اگر ۹۹ سجدے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کو اور ایک بھی مہاد پو کو کیا تو کافر ہو جائے گا۔ گلاب میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا جائے وہ پاک رہے گا یا ناپاک؟

## غیب کی خبر

اتفاقاً ایک سفر میں کسی کا ناقہ گم ہو گیا (یعنی اونٹنی گم ہو گئی)۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: فلاں جنگل میں ہے، اس کی مہار (یعنی ٹیبل) پیڑ سے اٹک گئی ہے۔ زید بن لُصَیْتِ منافق نے کہا: محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کہتے ہیں کہ ناقہ فلاں جنگل میں ہے، حضور غیب کی خبر کیا جانیں!

(اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ، حرف الزاء، ج ۲، ص ۳۵۷، تفسیر طبری، سورۃ التوبۃ، تحت الایۃ ۶۵، ج ۶، حدیث ۱۶۹۳۳، ص ۴۱۰)

قُلْ يَا لِلّٰهِ وَاٰتِيْهِ وَاَسْأَلُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ  
 لَا تَعْتَنِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ  
 تم فرمادو، کیا اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اور اس کی آیتوں اور  
 اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ تم

(پ ۱۰، التوبہ: ۶۵، ۶۶) کافر ہو چکے، اپنے ایمان کے بعد۔

اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے ۹۹ نہ گنیں ایک گنی۔

## اصل مسئلہ

ارشاد علماء یوں ہے کہ ”کسی سے کوئی کلمہ صادر ہو جس کے سو معنی ہو سکتے ہوں، ۹۹ پر کفر لازم آتا ہو اور ایک پہلو اسلام کی طرف جاتا ہو (تو) اس کے کفر کا حکم نہ کریں گے جب تک معلوم نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلوئے کفر مراد لیا۔“

(منح الروض الازھر فی شرح الفقہ الاکبر، مطلب یجب معرفۃ مکفرات..... الخ، ص ۴۴۵)

مسئلہ تو یہ تھا اور بے دینوں نے کیا سے کیا کر لیا۔ اس کا بہت واضح و روشن بیان ہماری کتاب ”تمہید ایمان بآیات قرآن“ ص ۱۱۴، ۱۱۵ میں ہے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ”جو مطلقاً غیب کا منکر ہو وہ کافر ہو گیا۔“ جو لفظ اُس منافق نے کہے، جسے قرآن عظیم نے فرمایا ”تُو بہانے نہ بناؤ کافر ہو چکا“، یہی تو تھا کہ رسول غیب کیا جانے! بِعَيْنِهِ یہی ”تفویۃ الایمان“ میں لکھا کہ ”غیب کی باتیں اللہ جانے، رسول کو کیا خبر!“

## مرثیہ خوانی میں شریک ہونا کیسا؟

عرض: محرم کی مجالس میں جو مرثیہ خوانی وغیرہ ہوتی ہے سنا چاہیے یا نہیں؟

**ارشاد:** مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب لے جو عربی میں ہے وہ یا حسن میاں مرحوم میرے بھائی کی کتاب ”آئینہ قیمت“ لے میں صحیح روایات ہیں، انہیں سننا چاہیے، باقی غلط روایات کے پڑھنے سے نہ پڑھنا اور نہ سننا بہت بہتر ہے۔

## ان مجالس میں رقت آنا کیسا؟

**عرض:** اور ان مجالس میں رقت آنا کیسا؟

**ارشاد:** رقت آنے میں حرج نہیں، باقی رَفَضَہ (یعنی رافضیوں) کی سی حالت بنانا جائز نہیں کہ

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ

اسی میں شمار ہوگا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، الحدیث ۴۰۳۱، ج ۴، ص ۶۲)

نیز حق سبحانہ نے نعمتوں کے اعلان کو فرمایا اور مصیبت پر صبر کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول شریف یومِ دو شنبہ (یعنی پیر) کو ہے اور اسی میں وفات شریف ہے لہٰذا تو ائمہ نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ”غم پروری“ کا حکم شریعت نہیں دیتی۔

## شب معراج میں نعلین پاک اُتارنے کی روایت

**عرض:** یہ صحیح ہے کہ شبِ معراج مبارک جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرشِ بریں پر پہنچے نعلین پاک اُتارنا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”وادی اُیمن“ میں نعلین شریف اُتارنے کا حکم ہوا تھا، فوراً غیب سے ندا آئی: ”اے حبیب! تمہارے مع نعلین شریف رونق افروز ہونے سے عرش کی زینت و عزت زیادہ ہوگی؟“

**ارشاد:** یہ روایت محض باطل و موضوع ہے۔

۱: سیر الشہادتین

۲: یہ کتاب (مع تخریج) مکتبہ المدینہ نے شائع کی ہے، ہدیہ طلب کیجئے۔

۳: حضور سپد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف اور وفات اقدس کی تاریخ کی تحقیق کے لیے فتاویٰ رضویہ شریف جلد 26 صفحہ 405 پر رسالہ ”نُطْقُ الْهَلَالِ بَارِخِ وِلَادَةِ الْحَبِيبِ وَالْوَصَالِ“ ملاحظہ کیجئے۔

۴: کوہ طور کے پاس وہ جنگل جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر آگ کی تلاش میں نکلے۔

## براق کے متعلق ایک بے اصل روایت

**عرض :** شبِ معراج جب براق حاضر کیا گیا (تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) آبدیدہ (یعنی چشمانِ کرم سے آنسو جاری) ہوئے، حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سبب پوچھا۔ فرمایا: آج میں براق پر جا رہا ہوں کل قیامت کے دن میری اُمت بَرہْمَہ پا (یعنی نئے پاؤں) پل صراط کی راہ طے کرے گی۔ یہ تقاضائے محبت و شفقتِ اُمت کے موافق نہیں۔ ارشادِ باری (عَزَّوَجَلَّ) ہوا:

”یوں ہی ایک ایک براق بروزِ حشر تمہارے ہر اُمتی کی قبر پر بھیجیں گے۔“ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟

**ارشاد :** بالکل بے اصل ہے۔ ایسی ہی اور بھی بہت سی روایات بالکل بے اصل و بیہودہ ہیں۔ کیا کہا جائے!

## کھانے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا

**عرض :** کھانے کے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟

**ارشاد :** ہاں کافی ہے۔ بغیر بسم اللہ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ربُّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) نے اس سے فرمایا تھا:

وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ  
وَالْأَوْلَادِ

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۶۴)

جو بغیر بسم اللہ کھائے پیے اُس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے (صحیح مسلم، کتاب الاشریہ، باب اداب الطعام..... الخ، الحدیث ۲۰۱۷، ص ۱۱۱۶) اور بغیر بسم اللہ عورت کے پاس جائے، اس کی اولاد میں شیطان کا ساجھا (یعنی حصہ) ہوتا ہے۔ حدیث میں ایسوں کو ”مُغْرَبِينَ“ فرمایا جو انسان و شیطان کے مجموعی نطفے سے بنتے ہیں۔ (کنز العمال، کتاب النکاح، الحدیث ۴۴۸۹۲، ج ۱۶، ص ۱۵۱) اگر کھانے کی ابتداء میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آجائے فوراً ”بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ“ پڑھ لے کہ شیطان اسی وقت تے کر دیتا ہے (سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمہ، باب التسمیہ علی الطعام، الحدیث ۳۷۶۶، ۳۷۶۷، ج ۳، ص ۴۸۷) اور بِفَضْلِهِ میں بھوکا ہی مارتا ہوں۔ یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور چھالیہ منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف۔ ہاں! حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا (کہ) طحطاوی میں اس سے ممانعت لکھی ہے۔ (طحطاوی علی الدر المختار، مقدمہ، ج ۱، ص ۵) وہ خبیث اگر اس میں شریک ہوتا ہو تو ضرر (یعنی نقصان) ہی پاتا ہوگا کہ عمر بھر کا بھوکا پیاسا، اس پر دھوئیں سے کچھ جلنا۔ بھوک پیاس میں حقہ بہت بُرا معلوم ہوتا ہے۔ (پھر فرمایا) شیطان ہر وقت تمہاری گھات میں ہے، اس سے غافل کسی وقت نہ ہو!

## بَد گمانی حرام ہے

**عرض:** بدگمانی کیا حرام ہے؟

**ارشاد:** بے شک۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا  
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ  
الظَّنِّ إِثْمٌ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۲)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے  
بچو بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔

اور حدیث صحیح میں فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ      گمان سے دور رہو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الادب، باب یا ایہا الذین امنوا..... الخ، الحدیث ۶۰۶۶، ج ۴، ص ۱۱۷)

## بعض گمان گناہ ہیں

ایک مرتبہ امام جمعہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک گدڑی پہنے مدینہ طیبہ سے کعبہ معظمہ کو تشریف لیے جاتے تھے اور ہاتھ میں صرف ایک تاملوٹ (یعنی ڈوگا)۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا (تو) دل میں خیال کیا کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بار (یعنی بوجھ) ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی آنا تھا کہ امام نے فرمایا: ”شقیق! بچو گمانوں سے (کہ) بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔“ نام بتانے اور وسوسہ دلی پر آگا ہی سے نہایت عقیدت ہوگئی اور امام کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک ٹیلے پر پہنچ کر امام نے اس سے تھوڑا ریت لے کر تاملوٹ میں گھول کر پیا اور شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی پینے کو فرمایا۔ انہیں انکار کا چارہ نہ ہوا۔ جب پیا تو ایسے نفیس لذیذ خوشبودار ستوتو تھے کہ عمر بھر میں نہ دیکھے، نہ سنے۔ (عیون الحکایات، حکایت نمبر ۱۳۱، ص ۱۵۰/۱۴۹ ملخصاً)

## یہ تمہارے دکھانے کو ہے

ایک روز شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد حرام شریف میں دیکھا کہ وہی صاحب پیش بہا (یعنی تبتق) لباس پہنے درس دے رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا: یہ کون بزرگ ہیں؟ کسی نے کہا: ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب



تَخْلِيَهٗ هُوَا (یعنی تنہائی میں ملاقات ہوئی)، انہوں نے عرض کیا: حضرت یہ کیا بات ہے کہ راہ میں آپ کو ایک گڈڑی پہنے دیکھا تھا اور اس وقت یہ لباس دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے دامن مبارک اٹھایا کہ وہی گڈڑی نیچے زیب تن ہے اور فرمایا کہ وہ تمہارے دکھانے کو ہے اور یہ گڈڑی اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے لیے۔ (تذکرۃ الاولیاء ذکر امام جعفر صادق صفحہ ۲۲ ملخصاً)

## سیاہ خضاب

**عرض :** حضور ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ریش (یعنی داڑھی) مبارک میں خضاب تھا۔

**ارشاد:** خضاب سیاہ یا اس کی مثل حرام ہے۔ (اشعة اللمعات، کتاب اللباس، باب الترجل، فصل الف، ج ۳، ص ۶۰۹)

صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے:

عَبْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ  
اس سپیدی کو بدل دو اور سیاہی کے پاس نہ جاؤ۔

(صحیح مسلم، کتاب الزینة، باب استحباب الخضاب الشیب بصفرة، الحدیث ۲۱۰۲، ص ۱۱۶)

سنن نسائی شریف کی حدیث میں ہے:

يَأْتِي نَاسٌ يَخْضَبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ  
کچھ لوگ آئیں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے جیسے جنگلی  
الْحَمَامِ لَا يُرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ  
کبوتروں کے نیلگوں پونے وہ جنت کی بونہ سونگھیں گے۔

(سنن نسائی، کتاب الزینة، باب النهی عن الخضاب بالسواد، ج ۸، ص ۱۳۸)

تیسری حدیث میں ہے:

مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا منہ کالا کرے گا۔

(مجمع الزوائد، کتاب اللباس، باب ما جاء في الشيب، حدیث ۸۸۱۴، ج ۵، ص ۲۹۳)

چوتھی حدیث میں ہے:

الْصُّفْرَةُ خِضَابُ الْمُؤْمِنِ وَالْحُمْرَةُ خِضَابُ  
زرد خضاب مومن کا ہے اور سرخ خضاب مسلم  
الْمُسْلِمِ وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْكَافِرِ  
کا اور سیاہ خضاب کافر کا۔

(مجمع الزوائد، کتاب اللباس، باب ما جاء في الشيب، حدیث ۸۸۱۵، ج ۵، ص ۲۹۳)

پانچویں حدیث میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُغْضُ الشَّيْخَ الْعَرَبِيَّ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) دُشْمَنٌ رُكِّهْتَ هَبْ بَدْهَ كُوَيْ كُوَيْ

(کنز العمال، کتاب الزینة والتجمل، قسم الاقوال، الحدیث ۱۷۳۳۱، ج ۶، ص ۲۸۴)

چھٹی حدیث میں ہے:

أَوَّلُ مَنْ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ سب میں پہلے جس نے سیاہ خضاب کیا فرعون تھا۔

(فردوس الاخبار للذیلمی، باب الف، حدیث ۴۷، ج ۱، ص ۳۵)

دیکھو فرعون کا ہے (یعنی کس) میں ڈوبا؟ نیل میں، یہ لوگ بھی نیل میں ڈوبتے ہیں۔ ”سیاہ خضاب صرف مجاہدین کو جائز ہے۔“ (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الحظر والاباحہ، ج ۹، ص ۶۹۶) جیسے جنگ میں رجز (یعنی میدان جنگ میں پڑھے جانے والے وہ فخریہ اشعار جس میں سپاہی اپنی بہادری اور اپنے حسب نسب کی تعریف کرتا ہے) پڑھنا اور خود ستائی (یعنی اپنی تعریف کرنا) ان کو جائز ہے، اگر کڑ کر چلنا ان کو جائز ہے۔ ریشمی بنانے کا ڈیزیز (یعنی موٹا) لباس ان کو پہننا جائز ہے۔ چالیس دن سے زیادہ لمبیں اور چہرے کے بال اور ناخن بڑھانا ان کو جائز ہے۔ اوروں کو یہ سب باتیں حرام ہیں۔ فوجی قانون عام قانون سے جدا ہوتا ہے، اس میں سیاہ خضاب داخل ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد تھے انہیں جائز تھا (لیکن تم کو حرام ہے۔

## جاہل کا مرید بننا

**عرض:** جاہل فقیر کا مرید ہونا شیطان کا مرید ہونا ہے؟

**ارشاد:** بلاشبہ۔

## مرد کا بال بڑھانا

**عرض:** اکثر بال بڑھانے والے لوگ حضرت ”گیسودراز“ کو دلیل لاتے ہیں۔

**ارشاد:** جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث صحیحہ میں ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت

پیدا کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء..... الخ، حدیث ۵۸۸۵، ج ۴،

ص ۷۳) اور تشبیہ کے لیے ہر بات میں پوری وضوح بنانا ضرور نہیں (صرف) ایک ہی بات میں مشابہت کافی ہے۔

## کندھے پر کمان لٹکانے والی

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو ملاحظہ فرمایا کہ مردوں کی طرح کندھے پر کمان لٹکائے جا رہی ہے۔ اس پر بھی یہی فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت جو مردوں سے تشبہ کریں۔

(المعجم الاوسط، باب العین من اسمہ علی، حدیث ۴۰۰۳، ج ۳، ص ۱۰۶)

## مردانہ جوتے پہننے والی

اُمّ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو مردانہ جوتا پہنتی تھی، اس پر بھی یہی حدیث روایت فرمائی کہ مردوں سے تشبہ کرنے والیاں ملعون ہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لباس النساء، حدیث ۴۰۹۹، ج ۴، ص ۸۴)

جب صرف جوتے یا کمان لٹکانے میں مشابہت موجِب لعنت ہے تو عورتوں کے سے بال بڑھانا اس سے سخت تر موجِب لعنت ہوگا کہ وہ ایک خارجی چیز ہے اور یہ خاص جزو بدن تو شانوں (یعنی کندھوں) سے نیچے گیسو (یعنی زلفیں) رکھنا حکمِ احادیثِ صحیحہ ضرور موجِب لعنت ہے اور چوٹی گندھوانا اور زیادہ، اس میں مبالغہ ڈالنا اور اس سے سخت تر۔

## دراز گیسو رکھنے کا راز

حضرت سیدی محمد گیسو دراز قدس سرہ نے تشبہ نہ کیا تھا، ایک گیسو محفوظ رکھا تھا اور اس کے لیے ایک وجہ خاص تھی کہ اکابرِ علم و اجلہ (یعنی بلندرتبہ) سادات سے تھے، جوانی کی عمر تھی۔ سادات کی طرح شانوں تک دو گیسو رکھتے تھے کہ اس قدر شرعاً جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار سرِ راہ بیٹھے تھے (کہ) حضرت نصیر الدین محمود چراغِ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سواری نکلی۔ انہوں نے اٹھ کر زانوئے مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا: ”سید فروترک!“ (یعنی) سید اور نیچے بوسہ دو۔ انہوں نے پائے مبارک پر بوسہ لیا۔ فرمایا: ”سید فروترک!“ انہوں نے گھوڑے کے سُم پر بوسہ دیا۔ ایک گیسو کہ رکاب مبارک میں الجھ گیا تھا وہیں الجھار ہا اور رکاب سے سُم تک بڑھ گیا۔ حضرت نے فرمایا: ”سید فروترک!“ انہوں نے ہٹ کر زمین پر بوسہ دیا۔ گیسو رکاب مبارک سے جدا کر کے حضرت تشریف لے گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے جلیل سید (اور) اتنے بڑے

عالم نے زانو پر بوسہ دیا اور حضرت راضی نہ ہوئے، اور نیچے بوسہ دینے کو حکم فرمایا، انہوں نے پائے مبارک کو بوسہ دیا، اور نیچے کو حکم فرمایا، گھوڑے کے سم پر بوسہ دیا، اور نیچے کو حکم فرمایا یہاں تک کہ زمین پر بوسہ دیا۔ یہ اعتراض حضرت سید کیسودراز نے سنا (تو) فرمایا: لوگ نہیں جانتے کہ میرے شیخ نے ان چار بوسوں میں کیا عطا فرمایا؟ جب میں نے زانوئے مبارک پر بوسہ دیا، ”عالمِ ناسوت“ منکشف ہو گیا۔ جب پائے اقدس پر بوسہ دیا، ”عالمِ ملکوت“ منکشف ہوا۔ جب گھوڑے کے سم پر بوسہ دیا، ”عالمِ جبروت“ منکشف تھا۔ جب زمین پر بوسہ دیا، ”عالمِ لاہوت“ کا انکشاف ہو گیا۔ (سبع سنابل، سنبلہ دوم، ص ۶۸، ۶۹)

اس ایک کیسو کو کہ ایسی جلیل نعمت کا یادگار تھا اور اسے ایسی تجلی رحمت نے بڑھایا تھا نہ ترشویا۔ اسے تشبہ سے کیا علاقہ (یعنی تعلق) عورتوں کا ایک کیسو بڑا نہیں ہوتا، نہ اتنا دراز (یعنی لمبا) اور (نہ) اس کے محفوظ رکھنے میں یہ راز۔

## پیشانی کے بال محفوظ رکھے

اس کی سند ابو مَحْدُوْرَه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل ہے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف شریف فتح فرمایا۔ اذان ہوئی، بچوں نے اس کی نقل کی، اُن میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے آپ کو بلایا اور سر پر دست مبارک رکھا اور ان کو موڈن مقرر فرمایا۔ برکت کے لیے پیشانی کے ان بالوں کو جن پر دست اقدس رکھا گیا تھا، محفوظ رکھا۔ جس وقت بال کھولے جاتے تو زمین پر آجاتے تھے۔

(ملخصًا کنز العمال، کتاب الصلاة، فصل فی الاذان، الحدیث ۲۳۱۹۵، ۲۳۱۹۶، ج ۸، ص ۱۶۳)

اسے بھی تشبہ سے کچھ علاقہ نہیں۔ عورتیں فقط پیشانی کے بال نہیں بڑھاتیں اور ان (یعنی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا محفوظ رکھنا اس برکت کے لیے تھا۔

## کم اصل سے وفا نہیں

**عرض:** حضور! مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یہ ارشاد ہے کہ ”اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔“

**ارشاد:** حضور (یعنی مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا یہ ارشاد نہیں مگر یہ بات ہے ضرور کہ ”اصل طیب میں اخلاقِ فاضلہ (یعنی اچھی عادات و اطوار) ہوتے ہیں اور رذیل (یعنی نیچ) اس کا عکس (یعنی اُلٹ) ہے۔“ اسی واسطے عہدِ ماضی میں سلاطینِ اسلام رذیلوں کو

ضرورت سے زیادہ علم نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اب دیکھو ناسیوں (یعنی جاموں) اور منہاروں (یعنی ٹریاں بنانے اور بیچنے والوں) نے علم پڑھ کر کیا کیا فتنے پھیلا رکھے ہیں! بعض منہار تو سپرد اور ابن شیر خدا بن بیٹھے۔

## روافض میں شادی کرنا ناجائز ہے

**عرض:** روافض میں شادی کرنا کیسا ہے؟ آج کل عجب قصہ ہے کوئی رافضی کسی کاموں ہے اور کسی کا سالہ، کوئی کچھ کوئی کچھ!  
**ارشاد:** ناجائز ہے۔ ایمان دلوں سے ہٹ گیا ہے اور اللہ ورسول (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کی محبت جاتی رہی ہے۔  
رَبُّ الْعِزَّةِ (عَزَّوَجَلَّ) ارشاد فرماتا ہے:

وَأَمَّا يُسِيبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا  
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَع  
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ (ب، ۷، الانعام: ۶۸)

تجھے اگر شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر  
ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ  
وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ  
ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ  
تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔

(صحیح مسلم، مقدمہ باب النهی عن رواية الضعفاء..... الخ، حدیث ۷، ص ۹)

خاص رافضیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے:

يَأْتِي قَوْمٌ لَهُمْ نَبْزٌ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ لَا يَشْهَدُونَ  
جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلْفِ  
فَلَا تَحَالِسُوهُمْ وَلَا تَوَاكَلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ  
وَلَا تَنَاصِحُوهُمْ وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِذَا  
مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ  
ایک قوم آنے والی ہے، ان کا ایک بد لقب ہوگا، انہیں  
رافضی کہا جائے گا۔ نہ جمعہ میں آئیں گے نہ جماعت میں  
اور سلف صالح کو برا کہیں گے۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا  
! نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ شادی بیاہت کرنا، بیمار پڑیں  
تو پوچھنے نہ جانا، مرجائیں تو جنازے پر نہ جانا۔

## شکار کرنے چلے تھے شکار ہو بیٹھے

”عمران بن حطّان رقاشی“ اکابر علمائے محدّثین سے تھا، اس کی ایک بیچا زاد بہن خارجیہ تھی، اس سے نکاح کر لیا۔ علمائے کرام نے سن کر طعنہ زنی کی۔ کہا: ”میں نے تو اس لئے نکاح کر لیا ہے کہ اس کو اپنے مذہب پر لے آؤں گا۔“ ایک سال نہ گزرا تھا کہ خود خارجی ہو گیا۔ (الاصابة فی تمييز الصحابة، حرف العين، ج ۵، ص ۲۳۳)۔

شد غلام کہہ آب جو آرد      آب جو آمد و غلام ببرد

(ایک غلام نہر کا پانی لانے کو گیا نہر کا پانی بھر آیا تو غلام کو بہا لے گیا۔)

ع شکار کرنے چلے تھے شکار ہو بیٹھے

یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ رافضی یا رافضیہ جس سے شادی کی جائے بعض اگلے روافض کی طرح صرف بد مذہب ہو، دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو۔ آجکل کے روافض تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مُرْتَدِّ ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑ الوی جملہ (یعنی سب) مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان! محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد و لڈ الرّنا۔ عالمگیریہ میں ظہیر یہ سے ہے: ”أَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ“ (یعنی ان کے احکام مرتدین کی مثل ہیں) (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، مطلب موجبات الکفر، ج ۲، ص ۲۶۴) اسی میں ہے، ”لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً وَلَا مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً أَصْلِيَّةً وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ مَعَ أَحَدٍ“ (یعنی مرتد مرد کا نکاح مرتدہ عورت سے جائز ہے نہ مسلمان عورت سے اور نہ ہی کافرہ اصلیہ سے، اسی طرح مرتدہ عورت کا نکاح بھی کسی سے جائز نہیں۔)

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب النکاح، الباب الثالث، القسم السابع، ج ۱، ص ۲۸۲)

## تہذیب یا تخریب؟

**عرض:** حضور صلح کل والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تہذیب کے خلاف ہے اگر کوئی اپنے پاس ملنے آئے اور اس سے نہ ملا جائے؟

**ارشاد:** تہذیب سے اگر تہذیبِ نیچری مراد ہے کہ وہ تہذیب نہیں تخریب ہے۔ اور اگر تہذیبِ اسلامی مقصود تو جن سے ہم نے تہذیب سیکھی وہی منع فرماتے ہیں۔

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْكُمْ  
وَلَا يُفْتِنُوْكُمْ  
ان سے دور بھاگو اور ان کو اپنے سے دُور کرو کہیں وہ تم  
کو گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔

(صحیح مسلم مقدمہ، باب النهی عن رواية الضعفاء..... الخ، حدیث ۷، ص ۹)

## بد مذہبی کی بُو

حضرت عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازِ مغرب پڑھ کر مسجد سے تشریف لائے تھے کہ ایک شخص نے آواز دی: ”کون ہے کہ مسافر کو کھانا دے؟“ امیر المؤمنین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خادم سے ارشاد فرمایا: ”اسے ہمراہ لے آؤ۔“ وہ آیا (تو) اسے کھانا منگا کر دیا۔ مسافر نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لفظ اس کی زبان سے ایسا نکلا جس سے بد مذہبی کی بُو آتی تھی، فوراً کھانا سامنے سے اُٹھوا لیا اور اسے نکال دیا۔ (ملخصا کنز العمال، کتاب العلم، قسم الافعال، الحدیث ۲۹۳۸۴، ج ۱۰، ص ۱۱۷)

## اجتماعی توبہ

**مؤلف:** یہ واقعہ ۲۸ رجب ۱۳۳۷ھ بروز جمعہ قریب عصر کا ہے، اس جلسے میں بعض وہ لوگ بھی تھے جو بد مذہبوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، حضور پُر نور (یعنی سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے یہ گراں بہا نصائح (یعنی قیمتی نصیحتیں) سُن کر دل ہی دل میں اپنے اوپر نظرِیں اور ملامت کر رہے تھے اور کبھی کبھی کسی گوشے سے توبہ و استغفار کی آواز بھی آجاتی تھی، اسی وقت ایک صاحب نے کھڑے ہو کر دوسرے صاحب سے کہا کہ ”آپ کو اکثر اوقات بد مذہبوں کی صحبت میں دیکھا گیا ہے، مناسب ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خوش قسمتی سے تشریف فرما ہیں، توبہ کر لیجئے۔“ یہ سنتے ہی وہ قدموں پر آ کر گرے اور صدقِ دل سے تائب ہوئے۔ اس پر

**ارشاد فرمایا:** بھائیو! یہ وقت نزولِ رحمتِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کا ہے، سب حضرات اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جن کے خفیہ ہوں وہ خفیہ اور جن کے علانیہ ہوں وہ علانیہ کہ

إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً: جب تو کوئی گناہ کرے تو فوراً توبہ کر، مخفی کی مخفی اور آشکارا کی آشکارا۔

(کنز العمال، کتاب التوبہ، قسم الاقوال، حدیث ۱۰۱۷۶، ج ۴، ۸۷)

سچے دل سے توبہ کریں کہ رب عَزَّوَجَلَّ ایسی ہی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فقیر دعا کرتا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ آپ حضرات کو استقامت عطا فرمائے جو داڑھی منڈاتے یا کترواتے ہوں یا چڑھاتے یا سیاہ خضاب لگاتے ہوں وہ اور ایسے ہی جو علانیہ گناہ کرتے ہوں انہیں علانیہ توبہ کرنا چاہیے اور جو گناہ پوشیدہ طور پر کیے ان سے پوشیدہ کہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے۔ (ردالمحتار علی الدرالمختار، کتاب الصلاة، مطلب اذا اسلم المرتد..... الخ، ج ۲، ص ۶۵۰) حضور پر نور کے ان چند فقرات میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہی جانے کیا اثر تھا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ گویا وہ اپنے گناہوں کے دفتر آنسوؤں سے دھو رہے تھے اور بیتابانہ پروانہ وار اس ”شمعِ اُجمنِ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ پر نثار ہونے دوڑتے اور قدموں پر گر کر اپنے خفیہ و علانیہ آثام (یعنی گناہوں) سے توبہ کر رہے تھے، عجب سماں تھا۔ حضور پر نور خود بھی نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ان کے لئے دعائے مغفرت میں مصروف تھے۔ جب سب لوگ تائب ہو چکے (تو) حضور نے (اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ ”آج مجھے فائدہ معلوم ہوا کہ تیرا جبل پورا آنا اور اتنے دنوں قیام کرنا یوں ہوا۔“

(پھر فرمایا کہ) مناسب ہوگا اگر تائبین (یعنی توبہ کرنے والوں) کی فہرست تیار کر لی جائے کہ ”دیکھا جائے کون کون توبہ پر مستقیم (یعنی قائم) رہتا ہے؟“ اس وقت کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے، جس قدر موجود تھے ان کی فہرست درج ذیل ہے۔ ملاحظہ ہو:

### فہرست تائبین

نمبر شمار	سامعے گرامی	پتہ	جس بات سے توبہ کی
۱	اکبر خاں صاحب	لارڈ گنج	خضاب سیاہ
۲	قاسم بھائی صاحب	//	حلقِ لُحیّہ (یعنی داڑھی منڈانا)



۳	دادا بھائی صاحب	//	//
۴	سیٹھ عبدالکریم صاحب	//	//
۵	عمر بھائی صاحب	//	//
۶	عبدالشکور صاحب	//	//
۷	حافظ عبدالحمید صاحب	کمانیہ پھاٹک	//
۸	عبدالغنی صاحب	گلہائی	//
۹	بابو عبدالشکور صاحب	اپر نیکنج	//
۱۰	حبیب اللہ صاحب	محلہ کھٹک	//
۱۱	محمد ادریس صاحب	صدر بازار	//
۱۲	اللہ بخش صاحب	تمربائی	//
۱۳	عزیز محمد صاحب	محلہ کھٹک	//
۱۴	عزیز الدین صاحب	//	//
۱۵	عبدالجبار صاحب	کمانیہ پھاٹک	//
۱۶	عظیم الدین صاحب	محلہ کھٹک	//
۱۷	نظام الدین صاحب	بھرتی پور	//
۱۸	ولی محمد صاحب	لارڈکنج	//
۱۹	سلیمان خاں صاحب	پل اومتی	//
۲۰	اولاد حسین صاحب	پھوٹا تالاب	//
۲۱	محمد غوث صاحب	دلہائی	//

۲۲	تراب خاں صاحب	دلہائی	//
۲۳	حبیب اللہ صاحب	پھوٹا تالاب	//
۲۴	محمد حنیف صاحب	پیشکاری	//
۲۵	منشی رعایت علی صاحب	بھان تلیا	خضاب
۲۶	منشی عبدالرحیم صاحب	//	عَلَقِ الْحَيِّ
۲۷	احمد بھائی صاحب	کوٹوالی بازار	//
۲۸	موسیٰ بھائی صاحب	//	//

### ان حضرات نے اپنے خفیہ معاصی سے توبہ فرمائی

نمبر شمار	اسمائے گرامی	پتہ	جس بات سے توبہ کی
۱	مولوی محمد شفیع احمد صاحب بیسپور	بیسپور	خفیہ معاصی
۲	عبدالمجید صاحب	.	//
۳	شیخ باقر صاحب	.	//
۴	ایوب علی صاحب	.	//
۵	عبدالرحمن صاحب	.	//
۶	محمد ذاکر صاحب	.	//
۷	عبدالکریم صاحب	.	//
۸	عظیم الدین صاحب	.	//
۹	محمد حسین خان صاحب	.	//
۱۰	عبدالصمد خان صاحب	.	//

//	.	محمد عثمان خان صاحب	۱۱
//	.	عبدالرحیم خان صاحب	۱۲
//	.	نور خاں صاحب	۱۳
//	.	غلام محمد خان صاحب	۱۴
//	.	عبدالسیحان صاحب	۱۵
//	.	خان محمد صاحب	۱۶
//	.	محمد فاروق صاحب	۱۷
//	.	قاضی قاسم میاں صاحب	۱۸
//	.	محمد حسین صاحب	۱۹
//	.	اللہ بخش صاحب	۲۰
//	.	ملائم خاں صاحب	۲۱
//	.	غلام حیدر صاحب	۲۲
//	.	عبدالغفار صاحب	۲۳
//	.	محمد جان صاحب	۲۴
//	.	محمد رمضان صاحب	۲۵
//	.	رستم خان صاحب	۲۶
//	.	حکیم عبدالرحیم صاحب مذاق	۲۷
//	.	ملا محمد خان صاحب	۲۸
//	.	محمد اسحاق صاحب	۲۹

//	.	لعل محمد صاحب	۳۰
//	.	مقبول شاہ صاحب	۳۱
//	.	عبدالستار صاحب	۳۲
//	.	قناعت علی صاحب	۳۳
//	.	علی محمد صاحب	۳۴
//	.	حاجی کفایت اللہ صاحب	۳۵
//	.	مولوی عبدالباقی برہان الحق صاحب صاحبزادہ	۳۶
		مولانا مولوی شاہ محمد عبدالسلام صاحب جبلپوری	
//	.	میر عبدالکریم۔	۳۷
//	.	مولوی محمد زاہد صاحب برادرزادہ مولوی شاہ محمد	۳۸
		عبدالسلام صاحب	
//	.	محمد فضل حق صاحب برادرزادہ مولانا موصوف	۳۹
//	.	ظہور الحق صاحب برادرزادہ مولانا موصوف	۴۰
//	.	ماسٹر حبیب اللہ صاحب	۴۱
//	.	عبدالرشید صاحب	۴۲
//	.	عبدالمجید صاحب	۴۳
//	.	حسین استاد صاحب	۴۴
//	.	عبدالغفور صاحب	۴۵
//	.	محمد عثمان صاحب	۴۶

- ۴۷ . جناب حافظ عبدالشکور صاحب برادر مولانا موصوف //
- ۴۸ . مولانا مولوی شاہ محمد عبدالسلام صاحب خلفیہ //  
اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ مَتَّعَ اللَّهُ  
الْمُسْلِمِينَ بِطَوْلِ بَقَائِهِ (یعنی اللہ تعالیٰ ان کی  
درازی عمر کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے)
- ۴۹ . فیروز خاں صاحب //
- ۵۰ . احمد خاں صاحب ولد غلام حسین خاں صاحب //
- ۵۱ . حافظ کریم بخشش صاحب //
- ۵۲ . شیخ حاتم علی صاحب ملازم جاپان کمپنی //  
(توبہ کرتے وقت بیعت بھی ہوئے)
- ۵۳ . شیخ بہادر صاحب مؤذن //
- ۵۴ . محمد تقی صاحب //
- ۵۵ . منو خاں صاحب //
- ۵۶ . خدا بخش صاحب //
- ۵۷ . مدار صاحب //
- ۵۸ . رحمت علی صاحب //
- ۵۹ . عبدالقدیر صاحب عرف بنے صاحب برہانپوری //
- ۶۰ . امیر خاں صاحب //
- ۶۱ . محمد بشیر الدین صاحب موضع پوٹری ضلع دموہ //

//	.	محمد ابراہیم صاحب	۶۲
//	.	شیخ لعل محمد صاحب ماسٹر	۶۳
//	.	بدیع الرحمن صاحب	۶۴
//	.	شیخ امیر صاحب	۶۵
//	.	شیخ محبوب صاحب	۶۶
//	.	عبدالرحمن صاحب	۶۷
//	.	عبدالرحیم صاحب پل اوتی	۶۸
//	.	عبدالشکور صاحب امام مسجد پل اوتی	۷۹

جو لوگ حاضر جلسہ نہ تھے انہیں بعد کو اطلاع ہوئی، وہ سب حاضر ہو کر تائب ہوتے گئے۔ دوسرے دن وقتِ ظہر جبل پور سے روانگی تھی لوگ اسٹیشن تک آئے اور تائب ہوئے ان سب حضرات کے نام لکھنے سے رہ گئے ہیں۔

## سونے کی انگوٹھی

بعد عصر ایک صاحب انگشتری طلائی (یعنی سونے کی انگوٹھی) پہنے حاضر ہوئے۔

**ارشاد فرمایا:** مرد کو سونا پہننا حرام ہے۔ صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم کی، اس کی

اجازت ہے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب العظرو الاباحۃ، ج ۹، ص ۵۹۶)

جو سونے یا تانبے یا لوہے یا پیتل کی انگوٹھی یا چاندی کی ساڑھے چار ماشے سے زیادہ وزن کی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ

سب مل کر ساڑھے چار ماشے سے کم ہوں پہنے اُس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔<sup>۱</sup>

## داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟

**عرض:** داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟

۱: یعنی جس کا اعادہ کرنا واجب ہو، جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس کے بجالانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کیلئے وہ عمل

دوبارہ بجالانا اعادہ کہلاتا ہے۔ (ملخصاً در مختار مع رد المحتار، ج ۲، ص ۶۲۹)



جسے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) مٹائے وہ کیونکر بڑھ سکتا ہے! حدیث میں ہے:

مَنْ أَكَلَ دِرْهَمَ رِبْوٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ رِبْوٌ  
جس نے دائنتہ (یعنی معلوم ہونے کے باوجود) ایک درم سود کا کھایا  
فَكَانَ مَّا زَنَىٰ بِأُمِّهِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً  
گویا اس نے چھتیس (36) بار اپنی ماں سے زنا کیا۔

درم تقریباً ساڑھے چار آنے کا ہوتا ہے تو فی دھیلا ایک بار ماں سے زنا ہوا۔

## ادویات پی کر بال سیاہ ہو جائیں تو؟

**عرض:** حضور! اگر ادویات پی کر بال سیاہ ہو جائیں تو یہ بھی خضاب کے حکم میں ہے؟

**ارشاد:** اس میں کچھ حرج نہیں۔ دوا کھانے سے سپید بال سیاہ نہ ہو جائیں گے بلکہ قوت وہ پیدا ہوگی کہ آئندہ سیاہ نکلیں گے تو کوئی دھوکا نہ دیا گیا نہ خلق اللہ کی تبدیل کی گئی۔

## ایمان کی حفاظت کے اوراد

ایک روز بعد فراغ نمازِ عشا لوگ دست بوس ہو رہے تھے اس مجمع میں سے ایک صاحب نے خدمتِ بابرکت میں عرض کیا: ”حضور! میں ضلع ہوشنگ آباد کا رہنے والا ہوں مجھے حضور کی جبل پور تشریف آوری کی ریل میں خبر ملی لہذا ڈاک سے صرف دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں کہ خداوندِ کریم (عَزَّوَجَلَّ) ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے۔“ حضور نے دُعا فرمائی اور **ارشاد فرمایا:** اکتالیس بار صبح کو ”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“ اول و آخر درود شریف نیز سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کیجئے ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ اسی پر ہو، اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور تین بار صبح اور تین بار شام اس دعا کا وز درکھیں:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ  
اے اللہ عزوجل ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ تیرے ساتھ  
شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ  
کسی چیز کو شریک کریں جسے ہم جانتے ہیں اور ہم تجھ سے مغفرت  
طلب کرتے ہیں اس سے جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔

(مسند احمد بن حنبل، الحدیث ۱۹۶۲۵، ج ۷، ص ۱۴۶)



## جبل پور کا سفر

**مؤلف :** شہر جبل پور ایک کوہستانی مقام (یعنی پہاڑی علاقہ) ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ممالک متوسط میں واقع ہے۔ نہایت خوشنما صاف شفاف ہے۔ قدرت نے ایسا دل فریب مقام بنا دیا ہے کہ سیر سے جی نہیں بھرتا۔ شہر کی موزونیت کے علاوہ وہاں چند عجیب مقامات بھی ہیں۔ جن میں ”بھیرا گھاٹ“ جو شہر سے تیرہ میل کے فاصلے پر ہے نہایت عجیب و پر فضا منظر ہے، ”دریائے زربدا“ نے میلوں پہاڑ کاٹا ہے، یہاں ایک مقام پر پانی جمع ہو کر ایک ایسے درہ میں گرتا ہے جو تقریباً دو بانس نیچا ہے، اس مقام کا نام ”دھواں دھار“ ہے اول تو پانی کا زور پھر اتنی موٹی دھار ہو کر گرنا اور نیچے پتھروں سے ٹکرا کر اوپر اڑنا ایک عجیب لطف دیتا ہے دُور سے اس کے گرنے کی آواز مستمُوع ہوتی (یعنی سنائی دیتی) ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریل گاڑی نہایت زور سے پل پر جا رہی ہے، پانی جو ٹکرا کر اڑتا ہے بالکل دھواں معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام ”دھواں دھار“ رکھا ہے۔ وہاں کے مُخلصین نے حضور پُر نور سے اس عجیب مقام کی سیر کی درخواست کی جو بعد اصرارِ بسیاری (یعنی بہت زیادہ اصرار کے بعد) منظور ہوگئی، دھواں دھار جاتے ہوئے ”چونسٹھ جوگنی“ ملی {یہ ایک مندر پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس کی چار دیواری چونسٹھ در کی مشہور ہے مگر درحقیقت چوراسی ہیں۔ ہر در میں ایک بُت پتھر کا ترشا ہوا ہے، حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح فرما کر تمام بُتوں کو کاٹا ہے، کسی کی ناک نڈارد (یعنی نہیں) ہے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کو دو پارہ (یعنی دو ٹکڑے) فرما دیا ہے۔ یہ مقام جب اس زمانے میں کہ ہر جگہ جانے کے لئے کشادہ سڑکیں تعمیر ہوگئی ہیں، ہنوز (یعنی ابھی تک) دشوار گزار مقام ہے اور سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں نہ معلوم کس درجہ مہیب ہوگا۔ اور ایک یہی مقام نہیں بلکہ اکثر اس قسم کے تاریخی مقامات دیکھے گئے کہ باوجود اپنے دشوار گزار ہونے کے اگر ان میں کوئی بُت بغرض عبادت رکھا گیا ہے تو سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بُت شکنی کا اثر ضرور لیے ہوئے ہے۔ }

### بتوں کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا

اس (یعنی چونسٹھ جوگنی) کی سیر بھی ہوئی، حضور نے حسبِ عادت کریمہ (یعنی اپنی مبارک عادت کے مطابق) اَصنام (یعنی بُتوں) کو دیکھ کر ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اِلَهاً وَّاحِدًا لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ“ پڑھا کہ حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت فرمائی کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اُس وقت یہ

(یعنی مذکورہ بالا) دعا پڑھے (تو)

أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ دُنْيَا فِي جَنَّةٍ مُشْرِكٍ مَرْدٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ عَوْرَتِي فِي  
الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ان سب کی گنتی کے برابر ثواب پائے۔

اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ العالی نے حاضرین آستانہ کو بھی یہ دعا تعلیم فرمادی ہے کہ مندروں کے گھنٹے اور سنگھ کی آواز اور گرجا وغیرہ کی عمارت کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔

### خُلُوصِ نِيَّتِ كَا اَثْر

جبل پور میں بکثرت کفار ہیں اور بڑے مالدار ہیں۔ قریب زمانہ میں بعض ہنود (یعنی ہندوؤں) نے ان شکستہ جُتوں کی مرمت کرادی تھی، گورنمنٹ کو خبر ہوئی پھر بدستور ٹروا دیے اور پتھر پر کندہ کرا کے ایک کتبہ دروازے پر لگا دیا ہے کہ ”جو کوئی اس یادگار کو بد لے یا گاڑے گا، جیل خانے بھیجا جائے گا اور پانچ ہزار روپیہ جرمانہ ہوگا۔“ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یہ سلطان عالمگیر کا خلوص نیت ہے۔ اَنَارَ اللّٰہُ بُرْهَانَهُ وَ اَدْخَلَهُ جَنَّاتِهِ (یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دلیل روشن فرمائے اور انہیں اپنی جنت میں داخل فرمائے)

### پہاڑوں کو کلمہ پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟

غرض وہاں سے فارغ ہو کر دُھواں دھار کی سیر کی گئی۔ پھر دو پہر کو آرام فرمانے کے بعد کشتی پر اس درّہ کی سیر فرمائی، یہ درّہ پانی نے سنگِ مرمر کے پہاڑ کاٹ کر پیدا کیا ہے اونچی اونچی چوٹی کی پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے، یہ راستہ پانی نے پہاڑوں کو کاٹ کر حاصل کیا ہے، دُور تک دورو یہ (یعنی دونوں طرف) سنگِ مرمر کے پہاڑ سر بفلگ (یعنی بہت بلند) دیواروں کی طرح چلے گئے ہیں، کئی میل کے سفر میں صرف ایک جگہ کنارہ دیکھا جو غالباً (8) گز چوڑا تھا۔ اس ہیئت ناک منظر کا نام برادر مکرم مولانا مولوی حسنین رضا خان صاحب (یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھتیجے) نے فسی البدیہہ (یعنی بے ساختہ) ”دہانِ مرگ“ (یعنی موت کا دہانہ) رکھا، کشتی نہایت تیز جا رہی تھی، لوگ آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے، اس پر ارشاد فرمایا: ”اِن پہاڑوں کو کلمہ شہادت پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے!“

## مٹی کے ڈھیلوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنانے کا انعام

(پھر فرمایا) ایک صاحب کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو سات ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے، اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ بعد انتقال ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے چلے، اُن ساتوں ڈھیلوں نے سات پہاڑ بن کر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیئے اور کہا: ”ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں۔“ انہوں نے نجات پائی۔ تو جب ڈھیلے پہاڑ بن کر حائل ہو گئے تو یہ تو پہاڑ ہیں۔

## وجہ فضیلت

حدیث میں ہے: ”شام کو ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے: کیا تیرے پاس آج کوئی ایسا گزرا جس نے ذکرِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کیا؟ وہ کہتا ہے: نہ۔ یہ کہتا ہے: میرے پاس تو ایسا شخص گزرا جس نے ذکرِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھ پر (اسے) فضیلت ہے۔“

**مؤلف:** یہ سنتے ہی سب لوگ باوا زبند کلمہ شہادت پڑھنے لگے، مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی۔

## دونوں خطبوں کے درمیان سنتیں پڑھنا

**عرض:** حضور دونوں خطبوں کے درمیان سنتیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** جس وقت امام خطبہ پڑھنے کے لیے چلے اسی وقت سے کوئی نماز جائز نہیں ”اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ“ (جب امام خطبہ کے لئے نکلے تو اس وقت نماز و کلام منع ہے۔ ت)

البتہ وہ جو صاحبِ ترتیب ہے اور اس کی نماز فجر نہیں ہوئی تو وہ خطبے کی حالت میں بھی آپ ہی ادا کرے گا کہ اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو جمعہ بھی جاتا ہے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الجمعة، ج ۳، ص ۳۸) جس کی پانچ نمازوں سے زائد قضا نہ ہوں وہ صاحبِ ترتیب ہے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب قضی الفوات، ج ۲، ص ۶۳۸) اسے

اگر اپنی قضا نماز یاد ہے اور دوسری نماز کے وقت میں اتنی وسعت ہے کہ قضا پڑھ کر وقتی پڑھے (تو) اُس پر فرض ہے کہ ایسا ہی کرے ورنہ یہ وقتی نماز بھی باطل ہوگی۔

و با سے بھاگنے اور ضرورت کے لئے آنے جانے میں فرق ہے

**عرض :** اگر وبائی بیماری کی وجہ سے سب ہمسائے مکان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور کسی حاملہ عورت کے ایام حمل پورے ہو چکے ہوں تو اس کا شوہر بہ خیال تنہائی دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد :** نیت اگر اس کی یہی ہے (تو) کوئی حرج نہیں۔ و با سے بھاگنے پڑھکانا جہنم میں ہے۔ ویسے اپنی ضرورت کے لئے جانے آنے کی ممانعت نہیں۔

### مزامیر کے ساتھ گانا سننے والا

**عرض :** خاندانِ قادر یہ میں جو شخص بیعت ہو اور وہ مرتکب ہو مزامیر کے ساتھ گانا سننے کا۔  
**ارشاد :** ناسق ہے۔

### مزارات پر عورتوں کا جانا

**عرض :** حضورِ جمیر شریف میں خواجہ صاحب (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے مزار پر عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد :** غنیہ میں ہے: ”یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی طرف سے اور کس قدر صاحبِ قبر کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔“ (غنیۃ الممتلی، فصل فی الجنائز، ص ۵۹۴) سوائے روضہ انور (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں وہاں کی حاضری البتہ سُنَّتِ جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے اور قرآنِ عظیم نے اسے مغفرتِ ذنوب (یعنی گناہوں کی بخشش) کا تریاق بتایا:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ  
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ  
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٣٧﴾

(پ ۵، النساء: ۶۴)

خود حدیث میں ارشاد ہوا:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي  
جو میرے مزارِ کریم کی زیارت کو حاضر ہوا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

(شعب الایمان، فضل الحج و العمرة، باب فی المناسک، الحدیث ۴۱۵۹، ج ۳، ص ۴۹۰)

دوسری حدیث میں ہے:

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي  
جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا بے شک اس نے مجھ پر جفا کی۔

(المقاصد الحسنة، حرف الميم، حدیث ۱۱۱۰، ص ۴۱۶)

ایک تو یہ ادائے واجب، دوسرے قبولِ توبہ، تیسرے دولتِ شفاعت حاصل ہونا، چوتھے سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے ساتھ معاذ اللہ جفا سے بچنا،

یہ عظیم اہم امور ایسے ہیں جنہوں نے سب سرکاری غلاموں اور سرکاری کنیزوں پر خاک بوسی آستانِ عرش نشان (یعنی روضہ رسول کی حاضری) لازم کر دی۔ بخلاف دیگر قبور و مزارات کہ وہاں ایسی تاکیدیں مفقود (یعنی غائب) اور احتمالِ مفسدہ (یعنی فساد و فتنہ انگیزی کا اندیشہ) موجود، اگر عزیزوں کی قبریں ہیں (تو) بے صبری کرے گی (اور) اولیا کے مزار ہیں تو مُحْتَمَل (یعنی اندیشہ ہے) کہ بے تمیزی سے بے ادبی کرے یا جہالت سے تعظیم میں اِفْرَاط (یعنی زیادتی) جیسا کہ معلوم و مشاہد ہے لہذا ان کے لیے طریقہٴ اسلام احترام ہی ہے۔

بدر یادر منافع بے شمار است

اگر خواہی سلامت برکنار است

(دریا کے اندر منافع بہت موجود ہیں لیکن (اگر) سلامتی مقصود ہے تو وہ کنارے پر ہے)

## مسجد کا ٹیمپ

**عرض :** کسی مسجد میں مٹی کا تیل جلایا جاتا تھا، اس کا لمپ اگر فروخت کیا جائے تو اس کی قیمت اس شخص کو جس نے یہ انتظام کیا تھا دی جائے گی یا مسجد کے صرف میں داخل ہوگی اور اس کی قیمت بازار کے نرخ سے لگائی جائے گی یا اصلی؟

**ارشاد :** اوّل تو مسجد میں کسی بدبودار تیل کے جلانے کی اجازت نہیں (ملخصصار دالمختار علی الدرالمختار، کتاب الصلاة، باب فی الغرس المسجد، ج ۲، ۵۲۶) نہ کہ مٹی کا تیل۔ ہاں اگر اس کی بدبو کسی مصالحہ سے دور کر دی جائے تو جرم نہیں اور وہ جب تک ثابت و قابل استعمال ہے مسجد کا مال ہے اگر فروخت کی حاجت ہو تو بازار کے نرخ پر فروخت کرنا چاہئے۔

## احکام مسجد

(۱) جب مسجد میں قدم رکھو تو پہلے سیدھا پھرا لٹا اور واپسی پر اس کا عکس۔

(عمدة القاری، کتاب الصلاة، باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، ج ۳، ص ۴۲۳)

(۲) مسجد میں آتے وقت اعتکاف کی نیت

بِسْمِ اللّٰهِ دَخَلْتُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ      اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے میں داخل ہوا اور اسی پر  
وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ      بھروسہ کرتا ہوں اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔

کر لو کہ اس عبادت کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے لیے روزہ شرط نہیں، نہ کسی معین وقت تک بیٹھنا لازم، جب تک ٹھہرو گے معتکف رہو گے، جب باہر آئے اعتکاف ختم ہو گیا اور اس کے سبب مسجد میں پانی پینا یا مثلاً پان کھانا بھی جائز ہوگا۔

(ملخصصار دالمختار علی الدرالمختار، کتاب الصلاة، مطلب فی غرس المسجد، ج ۲، ص ۵۲۵)

(۳) بغیر نیت اعتکاف کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں۔

(ملخصصار دالمختار علی الدرالمختار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة..... الخ، ج ۲، ص ۵۲۵)

بہت مساجد میں دستور ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں لوگ نمازیوں کے لیے افطاری بھیجتے ہیں۔ وہ بلا نیت اعتکاف وہیں بے تکلف کھاتے پیتے اور فرش خراب کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔

(۴) مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت سیدھا قدم بڑھایا جائے حتیٰ کہ اگر صرف نیچھی ہو اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھو اور جب وہاں سے ہٹو تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھو یا خطیب جب منبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو سیدھا قدم اُتارے۔

(۵) وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک چھینٹ پانی کی فرش مسجد پر نہ گرے۔

(بدائع الصنائع، کتاب الاعتکاف، بیان ما یفسدہ..... الخ، ج ۲، ص ۲۸۴)

(۶) مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔

(۷) مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کرو کہ آہستہ آواز نکلے، اسی طرح کھانسی

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَكْرَهُ الْعُطْسَةَ الشَّدِيدَةَ فِي الْمَسْجِدِ  
چھینک کو ناپسند فرماتے۔

(ملخصا شعب الايمان للبيهقي، فصل في خفض الصوت بالعطاس، حديث ۹۳۵۶، ج ۷، ص ۳۲)

## ذکار کو روکنا چاہئے

اسی طرح ذکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتیٰ الامکان آواز دبائی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو خصوصاً مجلس میں یا کسی معظّم کے سامنے کہ بے تہذیبی ہے۔ حدیث میں ہے: ایک شخص نے دربارِ اقدس میں ذکار لی (تو) فرمایا:

كَفِّ عَنَّا حَشِيَّاتَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ  
شَبَعًا فِي الدُّنْيَا جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
ہم سے اپنی ذکار دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے  
تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔

(ملنقطا، کنز العمال، کتاب الاخلاق، قسم الاقوال، حدیث ۶۲۱۸، ج ۳، ص ۸۷)

## جماہی کو روکنے

اور جماہی میں آواز نکلنا تو کہیں نہ چاہیے اگرچہ غیر مسجد میں تھا ہو کہ وہ شیطان کا تہقہہ ہے۔ جماہی جب آئے حتیٰ الامکان منہ بند رکھو، منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے۔ یوں نہ رُکے تو اوپر کے دانوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لو

اور یوں بھی نہ رُکے تو حتی الامکان (منہ) کم کھولو اور اُلٹا ہاتھ اُلٹی طرف سے منہ پر رکھ لو یونہی نماز میں بھی مگر حالتِ قیام میں سیدھا ہاتھ اُلٹی طرف سے رکھو کہ اُلٹا ہاتھ رکھنے میں دونوں ہاتھ اپنی مسنون جگہ سے بدلیں گے اور سیدھا رکھنے میں صرف یہ ہی بضرورت بدلا، اُلٹا اپنی محلِ سُنت پر ثابت رہا۔ جماعی روکنے کا ایک مجرب طریقہ یہ ہے کہ جب جماعی آنے کو ہونو را تصور کرے کہ حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کبھی نہ آئی (ردالمحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۴۹۸، ۴۹۹) کہ یہ مثل احتلام شیطان کی طرف سے ہے اور وہ دخلِ شیطان سے معصوم۔

## چھینک اچھی چیز ہے

چھینک اچھی چیز ہے۔ اسے بدشگونی جاننا مشرکین ہند کا ناپاک عقیدہ ہے۔ حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا:  
لَعَطْسَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ حَدِيثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاهِدٍ عَدْلٍ بات کے وقت چھینک عادل گواہ ہے۔

(ملخصاً کنز العمال، کتاب الصحبة، قسم الاقوال، حدیث ۲۵۷۷۰، ج ۹، ص ۹۹)

یعنی جو کچھ بیان کیا جاتا ہو جس کا صدق و کذب معلوم نہیں اور اس وقت کسی کو چھینک آئے تو وہ اس بات کے صدق پر دلیل ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ دعا کے وقت چھینک ہونا دلیلِ قبول ہے۔

(ملخصاً کنز العمال، کتاب الصحبة، قسم الاقوال، حدیث ۲۵۵۳۳، ۲۵۵۳۴، ج ۹، ص ۶۹، ۷۰)

## چھینک آنے پر حمدِ الہی مسنون ہے

لہذا چھینک پر حمدِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) بجالانا مسنون ہوا، بہت لوگ صرف اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہتے ہیں۔ پورا کلمہ کہنا چاہیے، اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حدیث میں ہے جو چھینک پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے فرشتہ کہتا ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی اس کلمہ کو پورا کر دیتا ہے اور جو کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرشتہ کہتا ہے يَرْحَمُكَ اللّٰہ، اللّٰہ (عَزَّوَجَلَّ) تجھ پر رحم کرے۔ (کنز العمال، کتاب الصحبة، قسم الافعال، حدیث ۲۵۷۶۴، ج ۹، ص ۹۹) تو کتنی بڑی دولت ہے کہ معصوم فرشتے کی زبان سے دعائے رحمت (ملے)۔ یہ (یعنی چھینکنے والے کے صرف "الحمد للہ" کہنے پر جواب میں "رب العالمین" کہنا) ملائکہ کے لئے ہے۔ آدمی پر واجب ہے کہ جب چھینکنے



والا مسلمان حمد الہی (عَزَّوَجَلَّ) بجالائے اگرچہ صرف الْحَمْدُ لِلَّهِ کہے یہ (یعنی غنہ والا) يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے پھر اسے (یعنی چھینکنے والے کو) مستحب کہ اس (یعنی جواب دینے والے) سے کہے يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی تسمیت العاطس، ج ۵، ص ۳۲۶) اور چھینک پر افضل واکمل صیغہ حمد کا یہ ہے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ مِنْ حَالٍ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ۔“ اسے امام شمس الدین سخاوی نے ”الْقَوْلُ الْبَدِيعُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الشَّفِيعِ“ میں ذکر کیا۔

(ملخصاً، القول البدیع، الباب الخامس فی الصلاة عليه..... الخ، ص ۴۲۴)

## ذبح میں ذکر سرکارِ صلوات کرنا

یہاں ایک حدیث زبان زد ہے:

مَوْطِنَانِ لَا أُذْكَرُ فِيهِمَا الْعَطَسَةُ وَالذَّبْحُ      دو جگہ میرا ذکر نہ کیا جائے یعنی چھینک اور ذبح۔

آجگہ علمائے اس پر اعتماد کر کے ان دونوں مقاموں کو ذکرِ اقدس حضورِ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مستثنیٰ فرما دیا مگر تحقیق یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں۔

چھینک کے وقت ذکر شریف کا صیغہ یہ ہے اور ذبح میں بھی مَعَاذَ اللَّهِ بطورِ شرکت نام لینا جائز نہیں، بطورِ برکت میں اصلاً مضا لقتہ نہیں مثلاً

”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ“

بلکہ فتاویٰ امام آجلیں قاضی خاں میں اس کا جواز بھی مُصَرَّحٌ کہ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

(فتاویٰ قاضی خان، کتاب الاضحیۃ، ج ۴، ص ۳۳۵)

خود حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بے کی ذبح میں فرمایا:

”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ“

(اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور ان کے اہل بیت کی جانب سے قبول فرما۔)

(مسند ابی یعلیٰ موصلی، مسند جابر، الحدیث ۱۷۸۶، ۲۷۹۵، ج ۲، ص ۱۹۵)

دوسرے کی ذبح میں فرمایا : بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَّمْ يُضَحِّحْ مِنْ اُمَّتِي  
یہ میری اور اُس کی طرف سے جس نے میری اُمت سے قربانی نہ کی۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الضحایا، باب فی الشاة یضحی بہا، حدیث ۲۸۱۰، ج ۳، ص ۱۳۱)

### رحمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مسلمانو! اپنے نبی رءوف ورحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو! حدیث میں ارشاد ہے:

اِسْتَفْرَهُوْا ضَحَايَاكُمْ فَاِنَّهَا  
فربہ و تروتازہ قربانیاں کرو کہ وہ پل صراط  
مَطَايَاكُمْ عَلٰی الصِّرَاطِ  
پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔

(كشف الخفاء، حرف الهمزة مع السين، الحدیث ۳۳۷، ج ۱، ص ۱۰۷)

حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری اُمت میں کروڑوں وہ ہوں گے جو قربانی سے عاجز ہوں گے یا ان پر واجب نہ ہونے کے سبب قربانی نہ کریں گے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے نہ چاہا کہ وہ صراط پر بے سواری کے رہ جائیں ان کی طرف سے خود قربانی فرمادی کہ اگر وہ اپنی جان بھی قربان کرتے تو ان کے دست مبارک کی فضیلت کو نہ پہنچتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و صحبہ و بارک وسلم۔

کمر بستن بکار امتِ خود ایس چنیں باید

ببیس در نام او گنجیدن میم مشدد را

(یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے کام میں کمر بستہ اور رحمت کناں رہے اسی لیے ان کے نام پاک میں میم مشدد ہے۔)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیش قیمت مینڈھا قربان کرنا

میں ہمیشہ سے روزِ عید ایک اعلیٰ درجے کا بیش قیمت (یعنی قیمتی) مینڈھا اپنے سرکارِ عالم مدارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف

سے کیا کرتا ہوں اور روزِ وصالِ حضرت والد ماجد قدس سرہ سے ایک مینڈھا ان کی طرف سے اور اب اس سنتِ کریمہ کے اتباع سے یہ نیت کر لی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تابقائے زندگی اپنے ان اہلسنت بھائیوں کی طرف سے کیا کروں گا، جنہوں نے قربانی نہ کی خواہ گزر گئے ہوں یا موجود ہوں یا آئندہ آئیں۔

## بدمذہب کی چھینک کا جواب نہ دیں

ہاں، کلام کا سلسلہ کہاں پہنچا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی مسلمان چھینک کر حمدِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) بجالائے تو ہر سننے والا یُرْحَمُكَ اللہ کہے۔ اس قید کا فائدہ یہ تھا کہ اگر وہابی یا رافضی یا دیوبندی یا نیچری یا قادیانی یا صوفی بننے والا غرض کوئی کلمہ گو مرتد چھینک کر لاکھ بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اُسے یُرْحَمُكَ اللہ کہنا جائز نہیں۔

## کان، دانت اور پیٹ کے درد سے محفوظ رہنے کا نسخہ

ایک فائدہ یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ حدیث میں ہے:

مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ آمِنَ  
 جَوْحَيْنِکَ وَالْأَلِیَّ سَیْءَ سَبَقَ سَبَقَ  
 الشَّوْصِ وَاللَّوْصِ وَالْعَلْوِصِ  
 وہ کان اور دانت اور پیٹ کے درد سے محفوظ رہے گا۔

(المقاصد الحسنة، حرف المیم، حدیث ۱۱۳۰، ص ۴۲۰)

## نماز میں آنے والی چھینک شیطان کی طرف سے ہے

غرض چھینک محبوب چیز ہے مگر وہ کہ نماز میں آئے حدیث میں اسے بھی شیطان کی طرف سے شمار فرمایا ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء ان العطاس..... الخ، حدیث ۲۷۵۷، ج ۴، ص ۳۴۴)

## اتفاقی چھینک اور زکام کی چھینک میں فرق ہے

یہ سارا بیان اتفاقی چھینک کی نسبت ہے۔ زکام کی چھینکیں کوئی چیز نہیں مگر آواز پست کرنا ان میں بھی تہذیب ہے

اور مسجد میں اس کی زیادہ تاکید۔

(۸) مسجد میں دنیا کی کوئی بات نہ کی جائے۔ (در مختار، کتاب الصلاة، مطلب فی الغرس المسجد، ج ۲، ص ۵۲۷)

ہاں اگر کوئی دینی بات کسی سے کہنا ہو تو قریب جا کر آہستہ سے کہنا چاہیے نہ یہ کہ ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے، راہگیر سے جو سڑک پر کھڑا ہوا ہے چلا کر باتیں کر رہے ہیں یا کوئی باہر سے پکار رہا ہے اور یہ اس کا جواب بلند آواز سے دے رہے ہیں۔

(۹) تمسخر ویسے ہی ممنوع اور مسجد میں سخت ناجائز یا ہنسنا منع ہے قبر میں تاریکی لاتا ہے (کنز العمال، کتاب الصلاة، الحدیث ۲۰۸۲۲، ج ۷، ص ۲۷۲) ہاں موقع سے تبسم میں حرج نہیں۔

(۱۰) فرش مسجد میں کوئی شے پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ موسم گرما میں لوگ پنکھا جھلتے جھلتے پھینک دیتے ہیں یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں اس کی ممانعت ہے غرض مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(۱۱) مسجد میں حدّث (یعنی ہوا خارج کرنا) منع ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب فی احکام المسجد، ج ۲، ص ۵۱۷) ضرورت ہو تو باہر چلا جائے لہذا معتکف کو چاہیے کہ ایام اعتکاف میں تھوڑا کھائے پیٹ ہلکا رکھے کہ قضائے حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ریح کی حاجت نہ ہو، وہ اس کے لیے باہر نہ جاسکے گا۔

(۱۲) قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا نا تو ہر جگہ منع ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، اذا دخل المستنجی، ج ۱، ص ۶۰۸)

## پاؤں سمیٹ لئے

مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے کہ خلاف آداب دربار ہے۔ حضرت سری سقطی قدس سرہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا لیا گوشہ مسجد سے ہاتف نے آواز دی: ”بادشاہوں کے حضور میں یونہی بیٹھے ہیں!“ معاً پاؤں سمیٹے اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے۔ (سبع سنابل، سنبلہ چہارم، ص ۱۳۱)

(۱۳) استعمالی جوتا اگر پاس ہو مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے ادبی ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، مطلب فی احکام المسجد، ج ۲، ص ۵۱۸)

ادب و توہین کا راز عرف و عادت پر ہے ہاں بالکل نیا جوتا پہن سکتا ہے اور اُسے پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے جب کہ نچھ اتنا سخت نہ ہو کہ سجدے میں انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ بچھنے دے۔ بحر الرائق میں ہے امیر المؤمنین مولیٰ علی کرّم اللہ وجہہ لکریم

جوتے کے دو جوڑے رکھتے استعمالی پہن کر دروازہ مسجد تک جاتے، دوسرا غیر استعمالی پہن کر مسجد میں قدم رکھتے۔

(بحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، ج ۲، ص ۶۱)

(۱۴) مسجد میں یہاں کے کسی کافر کو آنے دینا سخت ناجائز اور مسجد کی بے حرمتی ہے۔ فقہ میں جواز ہے تو ذمی کے لیے۔ (رد المحتار علی الدرالمختار، کتاب الحظر و الاباحہ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۳۷) اور یہاں کے کافر ذمی نہیں۔ کیسا شدید ظلم ہے (کہ) وہ تم کو بھنگی کی طرح سمجھیں، جس چیز کو تمہارا ہاتھ لگ جائے اُسے ناپاک جانیں، سو دایں تو دور سے ڈال دیں، پیسے لیں تو الگ رکھو لیں، حالانکہ ان کی نجاست پر قرآن کریم شاہد ہے (اور تم ان نجسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دو! کہ اپنے ناپاک پاؤں تمہاری ماتھا رکھنے کی جگہ رکھیں! اپنے گندے بدنوں سے تمہارے رب (عَزَّوَجَلَّ) کے دربار میں آئیں! اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہدایت فرمائے!

” نعت “

اے شافعِ اُمّ شہِ ذی جاہ لے خبر  
دریا کا جوش، ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا  
میں ڈوبا تو کہاں ہے مرے شاہ لے خبر  
اے خضر لے خبر، مری اے ماہ لے خبر  
ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر  
گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر  
ٹوٹا ہے کوہِ غم میں پرکاہ لے خبر  
تکتا ہے بے کسی میں تری راہ لے خبر  
میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر  
اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر  
مولیٰ پڑی ہے آفتِ جانکاہ لے خبر  
کوثر کے شاہ کثّرہ اللہ لے خبر  
اے شافعِ اُمّ شہِ ذی جاہ لے خبر  
دریا کا جوش، ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا  
میں ڈوبا تو کہاں ہے مرے شاہ لے خبر  
اے خضر لے خبر، مری اے ماہ لے خبر  
ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر  
گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر  
ٹوٹا ہے کوہِ غم میں پرکاہ لے خبر  
تکتا ہے بے کسی میں تری راہ لے خبر  
میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر  
اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر  
مولیٰ پڑی ہے آفتِ جانکاہ لے خبر  
کوثر کے شاہ کثّرہ اللہ لے خبر  
اے شافعِ اُمّ شہِ ذی جاہ لے خبر

مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا  
تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر

(اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ ملفوظات حصہ سوم }

## بخار کو کوسنا کیسا؟

بعد عصر کسی صاحب نے ایک مریض کا ذکر کرتے ہوئے (اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت سے) عرض کیا کہ بے حد

بخار ہے۔ اس پر

**ارشاد فرمایا:** بے حد بخار کے تو یہ معنی ہیں کہ اس کی انتہا ہی نہیں! کبھی اترے گا ہی نہیں! کوستے تو آپ خود ہیں۔

## بخار کا روحانی علاج

{ پھر فرمایا: } "سُورَةُ مُجَادَلَةَ" جو اٹھائیسویں پارہ کی پہلی سورت ہے بعد عصر تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیے۔

## عمامے پر زری کا کام کروانا کیسا؟

**عرض:** عمامہ کے دونوں سرے کا مندار (یعنی سونے یا چاندی کے کام والے) ہوں تو کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** اس میں رائج یہ ہے کہ اگر چار انگل سے زائد ہے تو ممنوع ہے۔

(در مختار و رد المحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۱)

## تانبے یا لوہے کی انگوٹھی کا حکم

**عرض:** حضور! تانبے یا لوہے کی انگوٹھی کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** مرد و عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ (در مختار و رد المحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۹۴)

## تانبے کی انگوٹھی مکروہ کیوں؟

**عرض:** اس کی کیا وجہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی جائز رکھی جائے جو اس سے بیش بہا (یعنی زیادہ قیمتی) ہے اور تانبے وغیرہ کی

مکروہ؟

**ارشاد:** چاندی کی انگوٹھی تذکیرِ آخرت (یعنی آخرت کی یاد دلانے) کے لیے جائز رکھی گئی ہے کہ سونا چاندی جنتیوں کا زیور ہے، تانبے وغیرہ کا وہاں کیا کام!

## دوزخیوں کا زیور

{پھر فرمایا:} ایک صاحب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اُن کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی ارشاد فرمایا:

”مَالِيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ“  
کیا بات ہے کہ مجھے تم سے بت کی بو آتی ہے!

اُنہوں نے اتار کر پھینک دی۔ دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا:

”مَالِيْ اَرَى عَلَيْكَ حَلِيَةَ اَهْلِ النَّارِ“  
کیا ہوا کہ میں تم پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں!

اُنہوں نے اتار کر پھینک دی اور عرض کیا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ ارشاد فرمایا:

”اتَّخِذْهُ مِنْ وَّرَقٍ وَلَا تَتِمَّهُ مِثْقَالًا“  
چاندی کی بناؤ اور ایک مثقال {یعنی ساڑھے چار ماشے} پوری نہ کرو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الخاتم، باب ماجاء فی خاتم الحديد، الحدیث ۴۲۲۳، ج ۴، ص ۱۲۲)

## ٹوپیا یا کپڑے پر سونے چاندی کا کام کروانا کیسا؟

**عرض:** ٹوپیا یا کپڑے وغیرہ میں سچّا (یعنی خالص سونے یا چاندی کا) کام ہو تو کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** اگر چار انگل تک ہے تو حرج نہیں اور اگر چند بوٹیاں (یعنی پھول، پتی وغیرہ) اور ہر ایک چار انگل سے زیادہ نہیں اور

دُور سے دیکھنے میں فضل (یعنی الگ الگ) معلوم ہوتا ہو جب بھی کوئی حرج نہیں اگر چہ جمع کرنے سے چار انگل سے زیادہ

ہو جائیں ہاں اگر بوٹی چار انگل سے زیادہ ہے یا مُعَرَّق (یعنی سونے چاندی سے لپا ہوا) ہے کہ دور سے فضل (یعنی الگ الگ) نہ

معلوم ہوتا ہو تو ناجائز۔ (ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۲ ملخصاً)

## انگوٹھی کونسی انگلی میں پہنیں؟

**عرض:** انگوٹھی کون سی انگلی میں پہننا چاہیے؟

**ارشاد:** بائیں ہاتھ میں بھی آیا ہے اور داہنے میں بھی، داہنے ہاتھ کی بِنَصْر {وہ انگلی جو چھنگلیا کے پاس ہے} میں پہنے۔

## انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء جانا

**عرض:** اپنا نام اگر انگوٹھی میں کندہ (یعنی لکھا ہوا) ہو تو بیٹ الخلاء میں جا سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** نام اگر ایسا زیادہ مُعَظَّم (یعنی تعظیم والا) نہ ہو جب بھی حروف کی تعظیم تو چاہیے اور اگر مُتَبَرِّک نام ہو تو پہن کر جانا ناجائز ہے، ہاں! جیب میں رکھ لے تو حرج نہیں۔

## نگینے پر کلمہ پاک لکھوانا

**عرض:** نگینہ پر ”کلمہ طیبہ“ کندہ (یعنی نقش) کرانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** تَبَرُّکاً (یعنی برکت کیلئے) جائز ہے اور مہر کی حیثیت سے حرام۔

## اللہ ”صاحب“ کہنا کیسا؟

**عرض:** اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** جائز ہے۔ حدیث میں ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ      اے اللہ سفر کا ساتھی تو ہے، اہل و عیال  
وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ      اور مال کا خیال رکھنے والا بھی تو ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب ما یقول اذا سافر، الحدیث ۲۵۹۸، ج ۳، ص ۴۸ ملخصاً)

اور سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو قرآنِ عظیم میں صاحب فرمایا گیا ہے:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى      ترجمہ کنز الایمان: تمہارے صاحب  
نہ نیکے نہ بے راہ چلے۔      (۲۷، النعۃ: ۲)

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ○      ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے  
صاحب مجنون نہیں۔      (پ ۳۰، التکویر: ۲۲)

لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا مُحَاوَرَة ہے اور حُضُورِ اَقْدَسِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً ہمارے ”صاحب“ ہیں



مگر نام پاک کے ساتھ ”صاحب“ کہنا آریہ و پادریوں کا محاورہ ہے، اس لیے نہ چاہیے۔  
 {پھر فرمایا: { آریہ پادری، وہابیہ سب ایک سے ہیں۔

## مردوں کو مخمل کپڑا پہننا کیسا؟

**عرض:** مخملؑ مردوں کو جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر اس پر ریشم کا رُو اسؑ بچھا ہوا ہے تو ناجائز ہے ورنہ نہیں۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس مایکرہ..... الخ، ج ۵، ص ۳۳۱)

## ریشم کا حکم

**عرض:** جُصُور! ریشم کا بھی یہی حکم ہے کہ چار انگل سے زیادہ ناجائز ہے؟

**ارشاد:** ہاں اگر ”تَبَع مُسْتَقِل“ ہو تو چار انگل تک جائز ہے۔ مثلاً ٹوپی کی گوٹ (یعنی لیس) جائز ہے لیکن راپورؑ جیسی ٹوپی کہ بعض چار انگل کی بھی نہیں ہوتی اگر ریشم کی ہوں تو ناجائز ہے کہ وہ خود مُسْتَقِل ہیں تَبَع مُسْتَقِل نہیں۔ ایسے ہی تعویذ کہ بعض ایک انگل کے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن چونکہ مُسْتَقِل ہیں اس لیے اگر ریشم کے ہوں تو ناجائز۔

## تانے پیتل کے تعویذ

**عرض:** تانے پیتل کے تعویذوں کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** مرد و عورت دونوں کو مکروہ اور سونے چاندی کے مرد کو حرام، عورت کو جائز۔

## چاندی اور سونے کی گھڑی

**عرض:** چاندی اور سونے کی گھڑی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** رکھ سکتا ہے البتہ اس میں وقت نہیں دیکھ سکتا کہ حرام ہے۔ اس طرح آرسیؑ پہننے میں عورت کے لیے کوئی حرج نہیں اور اس میں منہ دیکھنا حرام۔

۱: ایک کافر قوم۔ ۲: ایک نہایت ملائم روئیں دار کپڑا۔ ۳: ریشم کے چھوٹے چھوٹے ریشے۔ ۴: ہند کا ایک علاقہ۔

۵: سونے چاندی کا زبور جس میں شیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔

{ پھر فرمایا: } چاندی سونا صرف پہننا عورت کے لیے حلال ہے۔ باقی طُرُق استعمال (یعنی استعمال کے طریقے) اس کے لیے بھی حرام ہیں، (درمختار و ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۶۴) ہاں کھانا دونوں کے لیے جائز ہے ورق چاندی سونے کے کھائیں یا ریزہ ریزہ (یعنی ٹکڑے ٹکڑے) کر کے یا کُشتہ بنا کر (یعنی اچھی طرح گُوٹ کر)۔

## ناپاک پانی سے اُگے ہوئے درخت کا پھل کھانا

**عرض:** جو درخت جُحس پانی سے سنبھا گیا ہو اس کے پھل کھانا جائز ہیں؟

**ارشاد:** جائز ہے۔

## گائے کو چوری کا چارا کھلانا

**عرض:** جس گائے کو عُصَب یا سَرَقہ (یعنی چوری) وغیرہ کا بھوسہ دیا جائے اس کا دودھ پینا کیسا ہے؟

**ارشاد:** دودھ حرام نہ ہوگا۔

## تمہارے لئے جائز نہیں

{ پھر فرمایا } ہاں! تَوْرُع (یعنی پرہیزگاری) ایک بڑی چیز ہے۔ ایک نبی امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا: ”میں اپنی چھت پر سیتی ہوں روشنی اتنی نہیں کہ سوئی میں سے اگڑورا (یعنی دھاگا) نکل جائے تو ڈال سکوں، بادشاہ کی سواری نکلتی ہے اس کی روشنی میں ڈورا ڈال سکتی ہوں یا نہیں؟ کہ وہ روشنی ظالم کی ہے اس کے روپے میں حلال و حرام سب ہے۔“ آپ نے ان سے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ فرمایا: ”میں بہن ہوں بشرحانی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی۔“ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”وَرَع (یعنی تقویٰ) تمہارے گھر سے پیدا ہوا تمہارے لیے اس روشنی میں ڈورا ڈالنا جائز نہیں۔“

(الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ۱۴۸)

## مَقْرُوض کی دیوار کا سایہ

{ پھر فرمایا: } ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ ہزاروں روپے لوگوں پر قرض تھے۔ تقاضے (یعنی واپس طلب کرنے) کے واسطے دو پہر کو تشریف لے جایا کرتے اور مقروض (یعنی قرض دار) کی دیوار کے سائے سے علیحدہ کھڑے ہوتے کہ یہ قرض سے نفع (یعنی فائدہ) حاصل کرنے میں داخل نہ ہو جائے۔ (الخیرات الحسان مترجم، ص ۱۴۴)

## میں نے دس ہزار معاف کئے

ایک شخص پر حُضُور (یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دس ہزار آتے تھے وعدہ گزرے مُدَّت ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لیے جاتے تھے سامنے سے وہ آتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے ایک گلی میں ہو گیا۔ قسمت کی بات کہ وہ گلی دوسری طرف سے سُر بستہ (یعنی بند) تھی۔ امام وہیں تشریف لے گئے۔ فرمایا: ”کیوں، تم ادھر کیسے آ گئے!“ سبب بتایا کہ میں حُضُور کا مقروض (یعنی قرض دار) ہوں وعدہ گزر گیا میں ڈرا کہ حُضُور تقاضا فرمائیں گے اور میرے پاس اس وقت موجود نہیں اس لیے میں اس طرف آ گیا۔ فرمایا: ”دس ہزار بھی ایسی چیز ہیں کہ کسی مسلمان کا قلب (یعنی دل) پریشان کیا جائے میں نے مُعاف کئے۔“ (الخبیرات الحسان مترجم، ص ۱۳۶ ملخصاً)

## عرس میں ناجائز کام ہوتے ہوں تو!

**عرض:** حُضُور! بزرگان دین کے اعراس میں مَرِّ امیر ہوتے ہیں جب تک مَرِّ امیر (یعنی آلات موسیقی) ہوں اس وقت تک نہ جائے اور مَرِّ امیر کے بعد ”قُل“ میں شریک ہونے کے واسطے جاسکتا ہے یا نہیں؟  
**ارشاد:** جاسکتا ہے۔

## برائی میں الگ رہو، بھلائی میں شریک ہو جاؤ

امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب بلو ایوں نے بلوہ (یعنی ہنگامہ) کیا، تمام مدینہ منورہ میں ان کا شور تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، نماز بھی وہی پڑھاتے تھے۔ سوال ہوا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب برائی کریں تو ان سے علیحدہ رہو اور جب بھلائی کریں تو ان کے شریک ہو۔ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب امامة المفتون والمبتدع، حدیث ۶۹۵، ج ۱، ص ۲۵۰ ملخصاً)

## سجادہ نشین بد مذہب ہوتو؟

**عرض:** حُضُور! اگر صاحب سجادہ (یعنی کسی صاحب مزار بزرگ کا جانشین) بد مذہب ہو؟  
**ارشاد:** اگر آپ صاحب سجادہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو نہ جائیے اور صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو جائیے۔

۱: عرس کی جمع ۲: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کرنے والے۔

## واقعہ پہلے کا ہے یا بعد کا؟

**عرض:** جُصُور! بعض احادیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ”جاؤ ہمارا ایک بندہ فلاں پہاڑ پر ہے، اس سے علم حاصل کرو۔“ یہ واقعہ تو ریتِ مُقَدَّس سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟

**ارشاد:** تو ریتِ مُقَدَّس سے بہت پیشتر {یعنی بہت پہلے} کا واقعہ ہے۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

**عرض:** اگر اس کو تو ریتِ مُقَدَّس سے بعد کا مانا جائے تو یہ اعتراض لازم آئے گا کہ تو ریت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا  
عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا  
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
لِّعَالَمٍ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے موسیٰ کو  
کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر  
جو نیکو کار ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور  
رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر  
(پ ۸، الانعام: ۱۵۴) ایمان لائیں۔

جب تو ریت ”تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ“ (یعنی ہر شئی کی وضاحت) ہے تو دوسرے سے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت؟

**ارشاد:** کوئی اعتراض نہیں۔ تو ریت کا ”تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ“ ہونا فرمایا ہے اس تَفْصِيلِ کا باقی رہنا کہیں نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب تو ریت لے کر آئے یہاں دیکھا کہ لوگ گوسالہ (یعنی بچھڑا) کے آگے سجدہ کرتے اور اس کی پُرسُوش (یعنی پوجا) کرتے ہیں۔ آپ کی شانِ جَلَال (یعنی عظمتِ رُعب و دبدبہ) کی یہ حالت تھی کہ جس وقت جَلَالِ طاری ہوتا آدھ گز آگ کا شعلہ گلا ہباز رک سے اُپر کواٹھتا۔ جَلَال میں آ کر اُلواحِ تو ریت (یعنی تو ریت کی تختیاں) پھینک دیں وہ ٹوٹ گئیں۔

(تفسیر الطبری، سورة الاعراف، تحت الاية ۱۵۰، ج ۶، ص ۶۵ ملخصاً)

ان میرے خیال میں پیشتر کی جگہ بعد ہونا چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ”وَأَنَّ عَلِيَّ عَلِمَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ“ (صحیح البخاری، الحدیث ۴۷۲۵، ج ۳، ص ۲۶۵) (اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سے آپ کو ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ ت) سے اس کی طرف اشارہ ہے نیز ”قَامَ مُوسَى حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ“ (بخاری کتاب التفسیر، باب فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَائِهِ..... الخ، الحدیث ۴۷۲۷، ج ۳، ص ۲۶۹) (حضرت موسیٰ علیہ السلام) بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ ت) بھی اسی کو چاہتا ہے۔ ۱۲

امام مجاہد تلمیذ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ“ اُرُگئی صرف احکام باقی رہ گئے۔ (تفسیر الطبری، سورۃ الاعراف، تحت الایۃ ۱۵۰، ج ۶، ص ۶۸ ملخصاً)

## شانِ محبوبیت

**عرض:** حُضُور! اَلْوَا حِ تَوْرِيْتِ تُو كَلَامِ خُدَا هِيْ اَنْ كَسَا تَهْ حَضْرَتِ مَوْسَى عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِيْ يِهْ بَرْتَا وَا كَسِ طَرَحِ كِيَا؟  
**ارشاد:** حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی ہیں اور آپ کے بڑے بھائی اور نبی کی تعظیم فرض ہے ان کے ساتھ تو آپ نے جلال کے وقت یہ کیا۔

أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُكُ إِلَيْهِ ط ان کا سر اور داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے۔

(۹، الاعراف: ۱۵۰)

جانے دیجئے یہ تو آپ کے بڑے بھائی تھے، شبِ معراج میں حُضُور اَقْدَسِ صَلِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْ مُلَا حَظَّ فَرَمَا يَا كُوْنِيْ شَخْصَ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ كِي حُضُور بَلَنْدِ آواز سے کلام کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”اے جبریل! (علیہ السلام) یہ کون شخص ہیں؟“ عرض کی: ”موسیٰ (علیہ السلام) ہیں۔“ فرمایا: ”کیا اپنے رب (عَزَّ وَجَلَّ) پر تیزی کرتے ہیں!“ عرض کیا:  
إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَرَفَ لَهُ حِدَّتَهُ ان کا رب (عَزَّ وَجَلَّ) جانتا ہے کہ ان کا مزاج تیز ہے۔

(عمدة القاری، کتاب مناقب الانصار، باب المعراج، ج ۱، ص ۶۰۵)

خیر ان کو بھی جانے دیجئے وہ جو رب (عَزَّ وَجَلَّ) سے عرض کی ہے:

إِنْ هِيَ إِلَّا أَوْتُنْتُكَ ط یہ سب تیرے ہی فتنے ہیں۔

(۹، الاعراف: ۱۵۰)

یہاں کیا کہیے گا! اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا جُو الْفَاظِ شَانَ جَلَالِ فِيْ اَرْشَادِ كَرُگِيْ هِيْ دَوْسِرَا كِيْ تُو گَرْدَنِ مَارِيْ جَائِيْ۔ اَنْدَهْوَن (یعنی گمراہوں) نے صرف شانِ عبیدیت دیکھی شانِ محبوبیت سے آنکھیں پھوٹ گئیں۔

## خبرِ واحد پر اعتماد

**عرض:** حُضُور! یہ امام مجاہد کا قول ہے اور وہ بھی خبرِ اَحَادٍ ہے؟

اِنِّ يَعْْنِيْ اَحَادٌ، وَاحِدُ كِي جَمْعُ هِيْ، اَوْ رَخْبَرِ وَاحِدَا سِيْ كِيْتِيْ هِيْ جَسْ فِيْ مِتْوَاتِرُ كِي شَرَاظَ نِيْ پَائِيْ جَائِيْ۔ (نزہۃ النظر، ص ۲۱)



ہے۔ نبیوت کہتے ہی ہیں علم غیب دینے کو۔ امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ ”شفاء شریف“ میں فرماتے ہیں:

”النَّبِيُّ هِيَ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْغَيْبِ“ نبیوت غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے۔

(کتاب الشفاء، باب الرابع، فصل اعلم ان الله..... الخ، جز اول، ص ۲۵۰)

امام ابن حجر مکی ”مدخل“ میں اور امام قسطلانی ”مواہب اللدنیة“ میں فرماتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّةَ بِالْهَمْزَةِ مَأخُودَةٌ مِنَ النَّبَاءِ وَهُوَ

نَبَاتٌ نَبَأٌ سَاءٌ سَاءٌ مَأخُودٌ بِمَعْنَى خَبَرٍ لِعَنِ اللَّهِ

الْخَبِيرُ أَيْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ

تعالیٰ نے آپ کو غیب پر اطلاع دی۔ (ت)

(المواهب اللدنیة، المقصد الثاني، الفصل الاول، ج ۱، ص ۳۸۳)

## غیب کی تعریف کیا ہے؟

**عرض:** اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم غیب کی تعریف کرتے ہیں: ”وہ علم جو بلا واسطہ ہو۔“ اور اس معنی سے علم غیب کا مطلقاً منکر ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** علم بلا واسطہ کے ساتھ غیب کو خاص کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن فرماتا ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ نبی غیب

بتانے میں بخیل نہیں۔ (پ ۳۰، التکویر: ۲۴)

کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم بلا واسطہ کے بتانے پر بخیل نہیں ہیں! یہ تو کفر ہو جائے گا جو شخص ذرہ برابر غیر خدا کے لیے علم بلا واسطہ مانے کا فر ہے اگر کوئی انسان کے معنی پاگل کے گڑھ لے تو وہ خود پاگل ہے۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) فرماتا ہے:

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

ترجمہ کنز الایمان: غیب کا جاننے والا تو

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے

پسندیدہ رسولوں کے۔ (پ ۲۹، الجن: ۲۶، ۲۷)

کیا بلا واسطہ اپنے رسولوں کو علم دیتا ہے!

## معانی کا الفاظ سے تعلق

**عرض:** اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

## وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم

خود اس کے نگہبان ہیں۔ (پ ۱۴، الحجر: ۹)

قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا جب اس کے الفاظ محفوظ ہوئے تو معانی کی حفاظت ضرور کہ معانی الفاظ سے مُنْفَك (یعنی جدا) نہیں ہو سکتے اور معانی قرآن عَظِيم کی صفت ”تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ“ ہے تو قرآن عظیم ہی سے ”تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ“ کا دوام ثابت ہو گیا۔

**ارشاد:** قرآن عظیم کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا اگرچہ معانی ان الفاظ کیساتھ ہیں لیکن ان معانی کا علم میں ہونا کیا ضرور؟ نبی کلام الہی (عَزَّوَجَلَّ) کے سمجھنے میں بیان الہی (عَزَّوَجَلَّ) کا محتاج ہوتا ہے:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

ترجمہ کنز الایمان: پھر بیشک اس کی

باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ (پ ۲۹، القیمة: ۱۹)

اور یہ ممکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان ہو اور ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝“

قرآن کریم نے جہاں اگلی کتابوں کو منسوخ فرمایا ہے وہاں خود قرآن کریم کی بعض آیتوں نے بھی بعض کو منسوخ فرمایا ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ اول:- تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں۔ دوم:- صرف تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو۔ جیسے آیت رجم وہ یہ ہے الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سوم:- صرف حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو جیسے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝۔

المفاتیح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وَالْمَنْسُوخُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا التَّلَاوَةُ وَالْحُكْمُ مَعًا وَهُوَ مَا نَسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ بِالْإِنْسَاءِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّ سُورَةَ الْأَحْزَابِ كَانَتْ تَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَمِنْهَا الْحُكْمُ دُونَ التَّلَاوَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ وَمِنْهَا التَّلَاوَةُ دُونَ الْحُكْمِ كَأَيَّةِ الرَّجْمِ وَهِيَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

منسوخ کی کئی قسمیں ہیں۔ (1) ایک یہ کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں۔ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھلا کر منسوخ کیا گیا۔ یہاں تک کہ مروی ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ (2) ایک یہ کہ حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو جیسے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝۔ (3) ایک یہ کہ تلاوت منسوخ ہو نہ کہ حکم جیسے آیت رجم۔ ان تینوں قسموں کے نسخ کو سورہ بقرہ کی آیت مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا فِيهَا میں بیان کیا گیا ہے۔ ”انساء“ نسخ ہی کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ ملا جیون قدس سرہ فرماتے ہیں فَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ نَسَخَ مَنْسُوخٌ أَحَدُهُمَا فَقَطُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ نُنسِهَا مَنْسُوخٌ التَّلَاوَةُ وَالْحُكْمُ جَمِيعًا وَإِنَّمَا عَادَاهَا مَعَ دُخُولِهِ فِي الْمَنْسُوخِ إِظْهَارًا لِكَمَالِهِ حَيْثُ فِي النَّسْخِ لَا يَبْقَى مِنْهُ أَثَرٌ فِي اللَّفْظِ وَلَا فِي الْمَعْنَى

پس نسخ سے مراد صرف مَنْسُوخٌ التَّلَاوَةُ یا صرف مَنْسُوخٌ الْحُكْمُ ہے۔ اَوْ نُنسِهَا سے مَنْسُوخٌ التَّلَاوَةُ مراد ہے۔ باوجود کہ یہ منسوخ میں داخل ہے اس کا اعادہ اس کے کمال نسخ کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں، نہ لفظ میں نہ معنی میں =



## ایک علمی سوال

**عرض:** ” مَا شَاءَ اللَّهُ “ و ” مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ “ میں ہے اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ) فرماتا ہے:

سُنْفِرُنْكَ فَلَا تَنْسَى ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ ط  
ہم تم کو پڑھادیں گے پھر تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے۔

( پ ۳۰، الاعلیٰ: ۷۰۶ )

= حضرت ملا علی قاری اور ملا احمد جیون دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نُسْنِبَهَا سے مراد وہ آیات ہیں جن کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہیں جیسے سورۃ احزاب کے بارے میں گزر چکا کہ وہ سورۃ بقرہ کے برابر تھی اور سورۃ طلاق کے بارے میں بھی وارد ہے کہ یہ سورۃ بقرہ سے بھی بڑی تھی۔

نبیہتی شریف میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نماز تہجد کے لئے اٹھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورۃ ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی۔ صبح کو دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ انھوں نے بتایا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ دونوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ” آج شب وہ سورت اٹھالی گئی۔ اُس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گیا۔ جن کا غدوں پر لکھی تھی اُن پر نقش تک باقی نہیں۔“

مع ہذا بعض حضرات کو بعض منسوخ التلاوة والحکم کے الفاظ یاد بھی تھے جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ آیت تھی عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ۔ اس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منسوخ التلاوة والحکم کی دو قسمیں ہیں بعض ذہنوں میں محفوظ ہیں اور بعض بالکل محو ہو گئیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مُنَزَّلٌ مِنَ اللَّهِ کا ایک حصہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور تمام امت کے ذہنوں سے اس طرح اٹھالیا گیا کہ وہ کسی کو بالکل یاد نہ رہا حتیٰ کہ جن کا غدوں پر لکھا تھا ان پر نقش تک باقی نہ رہا۔ قرآن کریم کا یہ حصہ مُصْحَفٌ مِثْلُ مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ موجود نہیں۔ اس لئے اِنَّهَا لَلْحُفُوْنُ ۝ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہرگز نہیں کہ جتنا قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ سب کا سب مصحف میں ما بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ محفوظ ہے اور رہے گا۔ اس کا ذکر خود قرآن کریم اور احادیث کو جھٹلانا ہے۔ اِنَّهَا لَلْحُفُوْنُ ۝ سے مراد یہ ہے کہ ”نسخ“ اور ”انساء“ کے بعد جو کچھ بچا جس کی تحدید اور ترتیب حسب ارشادِ ربانی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی فرمادی تھی جو مختلف اشیاء پر مکتوب اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سینوں میں محفوظ تھا۔ جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک صحیفہ میں جمع کیا گیا۔ اور جس کی کثیر نقلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا داسلامیہ میں بھجوائیں جو بعد صدیق سے لے کر آج تک مصحف میں ما بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ موجود ہے۔ وہ پورا پورا محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اس میں کسی قسم کا تَغْيِرٌ وَتَبْدُلٌ، تَرْوِيْمٌ وَتَنْسِيْحٌ، اَزْدِيَادٌ وَنَقْصٌ، تَقْدُمٌ وَتَاخُرٌ راہ نہیں پاسکتا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حیات ظاہری میں حسب منشاءِ ربانی بعض آیتوں کے نسیان کو قرآن کے محفوظ ہونے کے

منافی سمجھنا اپنی دیانت اور اپنے دین سے ہاتھ دھونا ہے۔ (تحقیقات، ص ۳ تا ۷۵)

اس سے لازم آتا ہے کہ ”مَا شَاءَ اللَّهُ“ کا علم حضور کو نہ رہا حالانکہ وہ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ میں سے ہے۔

**ارشاد:** ”مَا شَاءَ اللَّهُ“ کس کی نسبت فرمایا گیا ہے؟ آیاتِ الٰہی کی نسبت کلام ہے اور آیاتِ الٰہی صِفَتِ الٰہی ہے اور وہ تدریم ہے ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ میں داخل نہیں ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ تو ان حوادث کا نام ہے جو اَوَّلِ رُوز سے آخِرِ رُوز تک ہوئے اور ہوں گے۔

## سَمَدَ هِن سے نکاح

**عرض:** سَمَدُ هِن (یعنی اپنے بیٹے کی ساس، یا بیٹی کی ساس) کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب النکاح، القسم الثانی، ج ۱، ص ۲۷۷)

## قرآن پاک کہاں رکھے؟

**عرض:** خورجی (یعنی تھیلا) جو گھوڑے کی زین میں لٹکی رہتی ہے اس میں قرآن شریف رکھا ہو ایسی حالت میں سوار ہو سکتا ہے؟

**ارشاد:** اگر گلے میں نہیں لٹکا سکتا ہے اور خورجی (یعنی تھیلے) میں رکھنے پر مجبور محض (یعنی بے بس) ہے تو جائز ہے۔

## سنت فجر میں تَحِيَّةُ الْوُضُوْءِ يَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ كِي نَيْتِ كَرْنَا

**عرض:** بعد طُلُوعِ فُجْرِ كِ سُنَّتِ الْفَجْرِ مِيں تَحِيَّةُ الْوُضُوْءِ اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ كِ مِيَّتِ جَائِزِ هِي يَانِهِيں؟

**ارشاد:** نہيں، كِه بعد طُلُوعِ فُجْرِ سِوَا سُنَّتِ فُجْرِ كِ اور كوئِي نَفْلِ پڑھنا ناجائز ہے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الاول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۵۲) ہاں بغیر مِيَّتِ كِ ”تَحِيَّةُ الْوُضُوْءِ“ و ”تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ“ سُنَّتِ فُجْرِ هِي سِي ادا ہو جائیں گی۔

## ايك رُوحَانِي عِلَاج

**عرض:** جُحُور! ۱۳ سال ميں ميري اہليہ (يعني بيوي) كِ چار لڑكے اور دولڑكياں پيدا ہوئے جن ميں سے پانچ اولاد ميں انتقال كر گئیں۔ كسي كِ عمر ۳ سال، كسي كِ دو سال، كسي كِ ايک سال ہوئی اور سب كو ايک ہی بيماري لاحق ہوئی يعني پسلي اور اُمُّ الصَّبِيَّانِ كِ فِي الْحَالِ صرف ايک لڑكي تين ساله حيات ہے جُحُورُ دُعا فرمائیں اور ان امراض كِ واسطے كوئِي عمل جو

۱: وضو كِ بعد اعضاء خشك ہونے سے پہلے دو ركعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اسے تَحِيَّةُ الْوُضُوْءِ كِ ہتے ہيں۔ (بہار شريعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۶۷۵)

۲: جو شخص مسجد ميں آئے اسے دو ركعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتر یہ ہے كہ چار پڑھے، اسے تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ كِ ہتے ہيں۔ (بہار شريعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۶۷۴)

۳: بچوں كِ ايک بيماري جس سے اعضاء ميں جھٹكے لگتے ہيں۔

مناسب ہو ارشاد فرمائیں۔

**ارشاد:** مولیٰ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے! اب جو تحمل ہو اُسے دو مہینے نہ گزرنے پائیں کہ یہاں اِطْلَاع دیتے اور وجہ اور ان کی والدہ کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس وقت سے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی بندوبست کیا جائے۔ اپنے گھر میں پابندی نماز کی تاکید شدید رکھئے اور پانچوں نمازوں کے بعد ”آیۃ الکرسی“ ایک ایک بار ضرور پڑھا کریں اور علاوہ نمازوں کے ایک بار صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے اور سوتے وقت۔ جن دنوں میں عورتوں کو نماز کا حکم نہیں ان میں بھی ان تین وقت کی ”آیۃ الکرسی“ نہ چھوٹے مگر ان دنوں میں آیت قرآن مجید کی تہیت سے نہ پڑھیں بلکہ اس تہیت سے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور جن دنوں میں نماز کا حکم ہے ان میں اس کا بھی التزام رکھیں کہ تینوں ”قُل“ (یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، اور سورۃ الناس)۔ تین تین بار صُبح و شام اور سوتے وقت پڑھیں۔ صُبح سے مراد یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلنے سے سورج نکلنے تک اور شام سے مراد یہ ہے کہ دوپہر ڈھلے سے غروب آفتاب تک اور سوتے وقت اس طور پر پڑھیں کہ چت لیٹ (یعنی سیدھا لیٹ) کر دونوں ہاتھ دُعا کی طرح پھیلا کر ایک ایک باریتوں ”قُل“ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کر کے (یعنی پھونک کر) سارا منہ اور سینہ اور پیٹ اور پاؤں آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے سارے بدن پر ہاتھ پھیریں، دو بارہ ایسے ہی، سہ بارہ (یعنی تیسری بار) ایسے ہی اور جن دنوں میں عورتوں کو نماز کا حکم نہیں ان میں آپ اسی طرح پڑھ کر تین بار ان کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا کیجئے، بڑا چراغ یہاں ایک صاحب بناتے ہیں وہ بنا لیجئے اور ایامِ تحمل میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جس ترکیب سے بتایا جائے روشن کیجئے اور یہ لڑکی جو موجود ہے اس کو اگر ناسازی لاحق (یعنی بیماری لگی) ہو تو اس کے لیے بھی روشن کیجئے وہ چراغِ بِلَاذْنِہِ تَعَالٰی سَخَّرْ وَاَسِیْبْ وَمَرَضْ (یعنی جادو، جن بھوت کا اثر اور بیماری) تینوں کے دفع میں مُجْرَبْ (یعنی آزمودہ) ہے۔ بچہ جو پیدا ہو پیدا ہوتے ہی معاً (یعنی فوراً) سب سے پہلے اس کے کانوں میں ۷ بار اذانیں دی جائیں ۴ بار اذان سیدھے کان میں اور تین بار تکبیر بائیں میں، اس میں ہر گز دیر نہ کی جائے۔ دیر کرنے میں شیطان کا دَخْل ہوتا ہے۔ چالیس روز تک بچہ کو کسی اناج (یعنی غلّہ) سے تول کر خیرات کیا جائے، پھر سال بھر تک ہر مہینے پر، پھر دو برس کی عمر تک ہر دو مہینے پر،

تیسرے سال ہر تین مہینے پر، چوتھے سال ہر چار مہینے پر، پانچویں سال بھی چار مہینے پر، چھٹے سال ہر چھ مہینے پر، ساتویں سال سے سالانہ۔ یہ تول اس لڑکی کے لیے بھی کیجئے، چوتھے سال میں ہے تو ہر چار مہینے پر تولیے، مکان میں سات دن تک مغرب کے وقت سات سات بار اذان باواز بلند کہی جائے اور تین شب (یعنی رات) کسی صحیح خواں (یعنی درست مخارج کیساتھ پڑھنے والے) سے پوری ”سُورَةُ بَقْرَةَ“ ایسی آواز سے تلاوت کرائی جائے کہ مکان کے ہر گوشہ (یعنی کونے) میں پہنچے، شب کو مکان کا دروازہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہہ کر بند کیا جائے اور صبح کو ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہہ کر کھولا جائے، جب پاخانہ (یعنی بیت الخلاء) کو جائیں اس کے دروازہ سے باہر

”بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ  
الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ“ جنوں (نروادہ) سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔  
اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، میں ناپاک

پڑھ کر بایاں پیر پہلے رکھ کر جائیں اور جب نکلیں تو داہنا پاؤں پہلے نکالیں اور ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کہیں اور کپڑے بدلنے یا نہانے کے لیے جب کپڑے اتاریں پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہہ لیں اور قزبت (یعنی ہمبستری) کے وقت نہایت اہتمام کے ساتھ یاد رکھیے کہ شروع فعل (یعنی ابتدا کرنے) کے وقت آپ اور وہ دونوں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہیں۔ ان باتوں کا التزام رہے گا تو اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تعالیٰ کوئی خلل نہ ہونے پائے گا۔

## بڑا چراغ روشن کرنے کی ترکیب

**عرض:** حضور! بڑا چراغ روشن کرنے کی کیا ترکیب ہے؟

**ارشاد:** (۱) چراغ مُعَلَّقٌ (یعنی لٹکا یا ہوا) روشن کیا جائے گا کسی چھینکے یا قندیل میں۔

(۲) روشن کرتے وقت لو (یعنی شعلے) کے پاس سونے کا چھلہ یا انگٹھی یا بالی ڈال دیا کریں چلہ ختم ہونے پر وہ مساکین مسلمین (یعنی مسلمان غریبوں) پر تصدق (یعنی صدقہ) کریں۔

۱: وہ جالی یا لٹکن جو کھانا وغیرہ رکھنے کے واسطے چھت میں لٹکا دیتے ہیں۔

۲: ایک قسم کا فانوس جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں۔

(۳) چراغ باؤضونمازی آدمی روشن کرے اگرچہ عورت ہو اور مرد بہتر ہے۔

(۴) مرض ہلکا ہو تو چراغ روز ڈیڑھ گھنٹہ روشن ہو اور سخت ہو تو دو گھنٹے تین گھنٹے اور بہت سخت ہو تو شب بھر۔

(۵) مریض اس کی روشنی میں بیٹھے خواہ لیٹے مگر منہ اسی کی طرف رکھے اور اکثر اوقات اس کی لو کو دیکھے۔

(۶) جتنی دیر تک جلانا (یعنی چراغ روشن کرنا) منظور ہو اسی حساب سے اعلیٰ درجہ کا پھلّائیل (پُھ - لے - ل) (یعنی خوشبودار

تیل) اس میں ڈالیں اور اسے ڈال کر چراغ کے سب طرف پھیرالیں کہ تمام نقوش پر دورہ کر آئے پھر چھکا کر (یعنی ترچھا) رکھ دیں اور جس طرف بتی کا نشان ہے ”بِسْمِ اللّٰہ“ کہہ کر اس طرف روشن کریں۔

(۷) اگر مرض نہایت شدید ہو تو چاروں گوشوں میں چار بتیاں جلائیں اور چراغ سیدھا رکھیں اور ہر لو (یعنی شعلے) کے پاس سونا رکھیں۔

(۸) جس مکان میں یہ چراغ روشن ہو وہاں نہ کوئی تصویر ہو نہ کُتّا آنے پائے نہ سوائے مریضہ کے کوئی عورت خنیض یا نفاس والی یا کوئی ناپاک مرد یا عورت۔

(۹) اس جگہ بیٹھ کر سب ذکر الہی (عَزَّوَجَلَّ) درود شریف میں مشغول رہیں جو بات ضرورت کی ہو بقدر ضرورت آہستگی سے کہہ دیں، چچکلش (یعنی جھگڑا) نہ کریں، نہ کوئی لغو بے ہودہ بات وہاں ہونے پائے۔

(۱۰) جتنی عورتیں وہاں بیٹھیں یا آئیں جائیں سب سنگین کپڑے (یعنی موٹے کپڑے) پہنے ہوں نماز کی طرح سوا منہ کی ٹنگلی یا ہتھیلیوں کے سر کا کوئی بال یا گلے یا کلائی یا بازو یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ اصلاً نہ کھلنے پائے۔

(۱۱) چراغ پہلے دن جس وقت روشن ہو وہ گھنٹہ منٹ یا درکھیں کہ کسی دن اس سے زیادہ دیر روشن کرنے میں نہ ہونے پائے اس کے مُوکلّٰم اپنی حاضری کا وہی وقت مُہرّ رکھ لیتے ہیں جس وقت پہلے دن روشن ہوا تھا پھر اگر کسی دن آئے اور چراغ اس وقت روشن نہ پایا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے لہذا چاہیے کہ پہلے دن قصداً (یعنی جان بوجھ کر) کچھ دیر کر کے روشن کریں کہ اگر کسی دن اتفاقاً دیر ہو جائے تو اس وقت سے زیادہ دیر نہ ہونے پائے مگر پہلے دن اتنی دیر بھی نہ کریں کہ کسی دن چراغ روشن ہو کر اُس

یا یعنی جن وغیرہ۔

وقت کے آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔

(۱۲) جب چراغ بڑھانے (یعنی بچھانے) کا وقت آئے کوئی باؤضو شخص بڑھائے اور اس وقت یہ کہے ”اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ

رُجِعُوا مَا جُورِئِنِ“

(۱۳) روز نیا پھٹلے ڈالیں کل کا بچا ہوا آج مریض کے سر اور بدن پر مل دیں۔

(۱۴) جس کے لیے چراغ روشن ہوا ہو اس کے سوا اور مریض بھی بہ نیتِ شفا (یعنی صحت یابی کی نیت سے) ان شرائط کی پابندی

سے بیٹھ سکتے ہیں۔

## دماغی علاج کا وظیفہ

**عرض:** ایک صاحب کی لڑکی بلا ناغہ کچھ عرصہ سے ”سُورَةُ مُزَّمِّلٍ“ شریف پڑھا کرتی تھی بلکہ قریب نصف کے (یعنی آدھی سے تھوڑی کم) حفظ بھی تھی ان صاحبزادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔

**ارشاد:** ”لَا حَوْلَ“ شریف ۶۰ بار ”اَلْحَمْدُ“ شریف اور ”آیَةُ الْكُرْسِيِّ“ شریف ایک ایک بار، تینوں ”قُل“ تین بار پانی پر دم کر کے پلائیے۔

## قرآنی وظیفے سے طبیعت خراب ہونا

**عرض:** کیا آیات قرآنی بھی یہ اثر رکھتی ہیں؟

**ارشاد:** جو قیود (یعنی شرائط) عامل بتاتے ہیں ان کی پابندی نہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے۔

سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمبل اوڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟

**عرض:** جُحُورِ اَقْدَسِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمبل اوڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہاں! حدیث شریف سے ثابت ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الفضائل..... الخ، باب فضائل عائشة، حدیث ۳۷۷۵، ج ۲، ص ۵۵۲)

## نبی کریم ﷺ کا لباس مبارک

**عرض:** پیراہن اقدس میں کیا کیا کپڑے ہیں؟

**ارشاد:** ردا (یعنی چادر)، تہبند، عمامہ یہ تو عام طور سے ہوتا تھا اور کبھی قمیص اور ٹوپی، پاجامہ ایک بار خریدنا لکھا ہے۔ پہننے کی روایت نہیں۔ (مدارج النبوة، باب یازدہم، ج ۱، ص ۷۳ ملخصاً) عورتیں بھی تہبند ہی باندھتی تھیں۔

## پاجامہ پہننے والیوں کے لئے دعا

ایک بار حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تشریف لیے جاتے تھے راہ میں ایک بی بی (یعنی عورت) کا پاؤں پھسلا روئے مبارک اس طرف سے پھیر لیا۔ صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے عرض کیا: حضور! وہ پاجامہ پہنے ہوئے ہے۔ ارشاد فرمایا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُتَسِرِّوَاتٍ“ اے اللہ بخش دے ان عورتوں کو جو پاجامہ پہنتی ہیں۔

(کنز العمال، کتاب المعیشتہ والعادات، باب ادب اللباس، حدیث ۴۱۸۳۱، ج ۱۰، ص ۱۹۷)

اور غالباً پاجامہ تنگ تھا اس واسطے کہ اگر ڈھیلا ہوتا تو اس میں بھی تہبند کی طرح گھل جانے کا احتمال ہو سکتا تھا۔

## چربی والی موم بتی مسجد میں جلانا

**عرض:** موم بتی جس میں چربی پڑتی ہے مسجد میں جلانا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر مسلمان کی بنائی ہوئی ہے تو جائز ہے ورنہ مسجد ہی میں نہیں ویسے بھی جلانا نہ چاہیے۔

## جرمن کی موم بتی کا حکم

**عرض:** یہ جو جرمن وغیرہ غیر ولائیوں (یعنی غیر ملکوں) سے آتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** ان کا بھی وہی حکم ہے، اس واسطے کہ چربی اور گوشت کا ایک حکم ہے اگر چہ گائے ہو یا بکری۔ کسی مسلمان سے کوئی ہندو یا نصرانی چربی لے گیا اور تھوڑی دیر میں واپس لائے اور کہے یہ وہی چربی ہے جو ابھی ابھی تم سے لے گیا ہوں اس کا لینا حرام ہے۔

”النَّصْرَانِي لَا ذَبِيحَةَ لَهُ“ نصرانی ذبح نہیں کرتے۔ بخلاف یہودیوں کے کہ ان کے یہاں اب تک ذبح کرنے کا

اہتمام ہے۔ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ”اَلْيَهُودِي لَا يَأْكُلُ اِلَّا مِنْ ذَبِيْحَةِ الْيَهُودِي اَوِ الْمُسْلِمِ“ (یہودی اپنا یا

مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔) (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الحظروالاباحہ، ج ۴، ص ۳۶۳ ملخصاً)

نصرانی ویہودی کافر دونوں ہیں کہ ایک محبوبانِ خدا (عَزَّوَجَلَّ) کی محبت میں اور دوسرے عداوت میں کافر ہوئے۔

قرآن عظیم میں یہودیوں کو ”مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ“ اور نصاریٰ کو ”ضَالِّينَ“ فرمایا۔ (تفسیر الطبری، سورة الفاتحة، تحت الاية ۷،

الحديث ۲۱۴/۲۰۰، ج ۱، ص ۱۱۱/۱۱۴) یہی وجہ ہے کہ آج رومن زمین پر کوئی یہودی ایک گاؤں کا بھی حاکم نہیں بخلاف

نصاری کے کہ ان کی سلطنت ظاہر ہے اور بعینہ یہی مثال روافض و وہابیہ کی ہے کہ روافض مثل نصاریٰ کے محبت میں کافر

ہوئے اور وہابیہ مثل یہود کے عداوت میں۔

## مسافر امام کے پیچھے ایک رکعت ملی تو؟

**عرض:** امام مسافر کے پیچھے مُقْتَدِرِی مَقِیْمِ کو ایک رکعت ملی تو بقیہ نماز میں قراءت کس طرح کرے؟

**ارشاد:** پہلے دو رکعت مثل لاحق لے کے بغیر قراءت بقدر سُورَةِ فَاتِحَةٍ قِیَامِ کر کے قعدہ کرے اور پچھلی رکعت میں قراءت

کرے۔ (در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الامارة، ج ۲، ص ۴۱۴ ملخصاً)

۱: فقیہ اعظم ہند شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آیت مذکورہ میں ذَلَلْتُ وَمَسْكَنْتُ کی ضرب یہود پر مطلق بیان کی گئی ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ مُقَيَّد ہے لہذا یہ آیت اُس کی تفسیر ہو جائے گی۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے

صُورَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰلَةُ اِذْ مَا ثَقَفُوا اِلَّا اِلْحٰبًا مِنَ اللّٰهِ وَحٰبِلًا مِنَ النَّاسِ ترجمہ کنز الایمان: ان پر جمادی گئی خواری جہاں ہوں اماں نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور

آدمیوں کی ڈور سے۔ (پ ۴، ال عمران ۱۱۲) چونکہ قرآن پاک کا اصول ہے کہ اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا (قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی

ہیں) لہذا اب مطلب یہ ہوا کہ یہود لاکھ سر پگیں، لاکھ کوشش کریں، ہاتھ پیر ماریں، از خود اپنے بل بوتے پر قہر خداوندی کی چھاپ ہرگز نہیں مٹا

سکتے۔ ہاں! اگر توفیق ایزدی دستگیری فرمائے اور مومن بن کر اللہ کی رسی پکڑ لیں تو یہ ذلت و رسوائی کا داغ مٹ سکتا ہے۔ اگر شقاوت اَزَلِی

انہیں یہ سعادت حاصل نہ کرنے دے تو دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے دست نگر ہو کر ان کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال لیں تو یہ داغ

دور ہو سکتا ہے۔ لہذا اب آیت پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ان کی موجودہ سلطنت قرآنی بیان ”وَ حٰبِلًا مِنَ النَّاسِ“ (پ ۴، ال عمران ۱۱۲)

کے بمصداق ”غیروں“ کی بیساکھیوں کے سہارے ہے۔ (مقالات شارح بخاری، ج ۱، ص ۱۲۳)

۲: لاحق اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جو پہلی رکعت میں امام کی اقتداء کرے مگر اقتداء کے بعد اس کی کل یا بعض رکعتیں فوت ہو گئیں چاہے کسی عذر

کی وجہ سے فوت ہوں یا بغیر عذر کے۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۳، ص ۵۸۸)



## جماعتِ ثانیہ قائم ہونے کے وقت سنتیں پڑھنا

**عرض :** جماعتِ ثانیہ جس وقت شروع ہو سُنّتِ ظہر اس وقت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یا فُجْر کی سُنّتِ جماعتِ ثانیہ کے قعدہ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں یا کیا؟

**ارشاد :** جماعتِ ثانیہ فقط جائز ہے۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الامامة، مطلب فی تکرار الجماعة، ج ۲، ص ۳۴۲ ملخصاً) اس کے لیے سُنّتیں نہ چھوڑے۔ اصل نماز جماعتِ اولیٰ ہے جس کے لیے حدیث میں ارشاد ہے کہ: ”اگر مکانوں میں بچے اور عورتیں نہ ہوتیں تو جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے مکانوں کو جلوادیتا۔“

(المسند لامام احمد بن حنبل، الحدیث ۴، ۸۸۰، ج ۳، ص ۲۹۶ ملخصاً)

## جماعتِ اولیٰ کی اہمیت

ایک مرتبہ مولوی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ما رہرہ مُطہرہ میں اِتِّفَاقاً مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ جب میں مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچا حضرت میاں صاحب قبلہ نماز پڑھ کر تشریف لارہے تھے، ارشاد فرمایا: ”عبدالقادر نماز تو ہو گئی، تو اصل نماز جماعتِ اولیٰ ہی ہے۔“

## نمازِ جنازہ میں تین صفیں بنانے کا طریقہ

**عرض :** نمازِ جنازہ میں تو تین صف کرنے کی فضیلت ہے اس کی ترکیب ”ذَرْمُخْتَارُو کبیری“ میں یہ لکھی ہے کہ پہلی صف میں تین، دوسری میں دو، اور تیسری میں ایک آدمی کھڑا ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر صف میں دو دو کھڑے ہو سکتے تھے۔

**ارشاد :** اَقَلّ درجہ صف کامل کا تین آدمی ہیں اور اس واسطے صفِ اوّل کی تکمیل کر دی گئی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کے برابر دو آدمیوں کا کھڑا ہونا منکر وہ تشریحی ہے اور تین کا منکر وہ تحریمی کیونکہ صف کامل ہو گئی اور اس صورت میں امام کا صف میں کھڑا ہونا ہو گیا اور پنج وقتہ نماز میں بھی، بعض صورتوں میں تنہا صف میں کھڑا ہونا ناجائز نہیں ہے مثلاً دو مرد اور ایک عورت ہے تو عورت کچھلی صف میں تنہا کھڑی ہوگی۔

۱: اس مسئلے کی مزید تفصیل جاننے کے لئے فتاویٰ رضویہ مخرجہ جلد 7 ص 54 کا مطالعہ کیجئے۔

## ایامِ وبا میں بکرا ذبح کرنا

**عرض:** ایامِ وبا میں بعض جگہ دستور ہے کہ بکرے کے دانے کان میں ”سُورَةُ يَسِين“، شریف اور بائیں میں ”سُورَةُ مُزَّمِّل“، شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں اور شہر کے ارد گرد پھرا کر چوراہے پر ذبح کرتے ہیں اور اس کی کھال دوسری زمین میں دفن کر دیتے ہیں یہ کیسا ہے؟

**ارشاد:** کھال دفن کرنا حرام ہے۔ کہ اضاعتِ مال (یعنی مال کی بربادی) ہے اور چوراہے (یعنی چوک) پر لے جا کر ذبح کرنا جہالت اور بے کار بات ہے، اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے نام پر ذبح کر کے مساکین کو تقسیم کر دے۔

## خطبہ نکاح میں رُخ کدھر کرے؟

**عرض:** کیا خطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر قبلہ رُو پڑھنا چاہیے؟

**ارشاد:** ہاں! کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور قبلہ رُو ہونا کچھ ضرور نہیں سا معین کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ خطبہ جمعہ بھی تو قبلہ کی جانب پشت کر کے پڑھا جانا مشروع ہے۔

## استاذ کا بچوں سے کام لینا

**عرض:** مُعَلِّم کی اگر تنخواہ مُقَرَّر نہ ہو تو بچوں سے کام لے سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر والدین کو ناگوار نہ ہو اور بچہ کو تکلیف نہ ہو تو حرج نہیں تنخواہ مُقَرَّر نہ ہو یا نہ ہو۔

## اُمرد کا میلاد پڑھنا کیسا؟

**عرض:** میلادِ خواں (یعنی میلاد پڑھنے والے) کے ساتھ اگر اُمرد شامل ہوں یہ کیسا ہے؟

**ارشاد:** نہیں چاہیے۔

## دولہا کے اُبتن ملنا

**عرض:** نوشہ (یعنی دولہا) کے اُبتن ملنا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** خوشبو ہے، جائز ہے۔

ازوہ نوم عمر لڑکا، جس کو دیکھ کر شہوت آئے۔ ۲: ایک خوشبودار مسالا جو جسم کو صاف اور ملائم بنانے کیلئے ملا جاتا ہے۔

## قصر کرے گا یا نہیں؟

**عرض:** اگر بیسپور سے بدایوں جانا ہے اور راستے میں بریلی اُترا تو قصر کرے گا یا نہیں؟  
**ارشاد:** اس صورت میں قصر نہیں کہ سفر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

## وطنِ اصلی یا اقامت

**عرض:** ایک شخص بریلی کا ساکن (یعنی رہائشی) مراد آباد میں دکان کھولے اور ہمیشہ وہاں تجارت کا ارادہ ہو اور کبھی کبھی اپنے اہل و عیال کو بھی لے جایا کرے اس صورت میں مراد آباد وطنِ اصلی ہو گا یا وطنِ اقامت؟  
**ارشاد:** وطنِ اصلی نہ ہوگا، ہاں! اگر وہاں نکاح کر لے تو ہو جائے گا۔

## وہابی سے نکاح پڑھوانا

**عرض:** اگر وہابی نکاح پڑھائے گا ہو جائے گا یا نہیں؟  
**ارشاد:** نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ اس واسطے نکاح نام باہمی ایجاب و قبول ہے۔ اگرچہ باہمن (یعنی پنڈت) پڑھادے چونکہ وہابی سے پڑھوانے میں اُس کی تعظیم ہوتی ہے جو حرام ہے، لہذا احتراز لازم ہے۔

## ولیمہ کب کرے؟

**عرض:** ولیمہ نکاح کی سنت ہے یا زفاف (یعنی ہم بستری) کی اور نابالغ کا نکاح ہو تو ولیمہ کب اور کس دن کرے؟  
**ارشاد:** ولیمہ زفاف شبِ عروسی کی سنت ہے اور نابالغ بھی بعد زفاف کے ولیمہ کرے اور ولیمہ شبِ زفاف کی صبح کو کرے۔

۱۔ چار رکعت والے فرض کو دو پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۴، ص ۴۳۳)

۲۔ وطنِ اصلی: وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ رہتے ہیں یا وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ وطنِ اقامت: وہ جگہ ہے کہ مسافر نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۴، ص ۵۰)

۳۔ مثلاً ایک کہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا دوسرا کہے میں نے قبول کیا یہ نکاح کے رکن ہیں پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، نکاح کا بیان، حصہ ۷، ص ۶، ۷)

## نکاح کے بعد چھوہارے لٹانا

**عرض:** نکاح کے بعد جو چھوہارے لٹانے کا جو رواج ہے یہ کہیں ثابت ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** حدیث شریف میں لُوٹنے کا حکم ہے اور لٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ حدیث دارقطنی و بیہقی و طحاوی

سے مروی ہے۔ (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، باب ما جاء النشار..... الخ، الحديث ٤٦٨٢ / ١٤٦٨٣ / ١، ج ٧، ص ٤٦٩)

## وَسْمَهُ سے تیار کیا ہوا سیاہ خضاب

**عرض:** خضاب سیاہ اگر وَسْمَهُ سے ہو؟

**ارشاد:** وَسْمَهُ لے سے ہو یا تَمَمَهُ سے! سیاہ خضاب حرام ہے۔ (اشعة اللمعات، كتاب اللباس، باب الترحل، ج ٣، ص ٦١٩)

## سیاہ خضاب کب جائز ہے؟

**عرض:** کوئی صورت بھی اس کے جواز کی ہے؟

**ارشاد:** ہاں جہاد کی حالت میں جائز ہے۔ (رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة، ج ٩، ص ٦٩٦)

## شادی کرنے کے لئے سیاہ خضاب لگانا

**عرض:** اگر جوان عورت سے مرد ضعیف (یعنی بوڑھا شخص) نکاح کرنا چاہے تو خضاب سیاہ کر سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** بوڑھا نیل سینگ کاٹنے سے پچھرا نہیں ہو سکتا۔

## کیا امام حسین سیاہ خضاب لگاتے تھے؟

**عرض:** بعض کُتُب میں ہے کہ وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وَسْمَهُ کا خضاب تھا۔

**ارشاد:** حضرت امام حَسَن و حُسَيْن و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم خضاب وَسْمَهُ کا کیا کرتے تھے کہ یہ سب حضرات مجاہدین تھے۔

## مُتَقِيم کا قَصْر پڑھنا

**عرض:** نماز قصر نہ تھی اور قصر پڑھی تو اعادہ ہو گا یا نہیں؟

ا: نیل کے پتے جن سے خضاب تیار کیا جاتا ہے۔

۲: اس مسئلہ کی تفصیل جاننے کے لئے فتاویٰ رضویہ ج 23، ص 495 پر موجود رسالہ ”حَاكُ الْعَيْبِ فِي حُرْمَةِ تَسْوِيدِ الشَّيْبِ“ کا مطالعہ کیجئے۔

**ارشاد:** ضرور اعادہ ہوگا کہ سرے سے نماز ہی نہ ہوئی۔

## مسجد کی زمین بیچنا

**عرض:** ایک گاؤں میں مسجد بالکل ویرانہ میں ہے اس کے متصل ایک گمبھاڑ (یعنی مٹی کے برتن بنانے والے) کا مکان ہے مسجد مذکور میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اردگرد لوگ کوڑا وغیرہ ڈالتے ہیں وہ گمبھاڑ زمین مسجد کو خریدنا چاہتا ہے آیا اس کی بیع (یعنی خرید و فروخت) ہو سکتی ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** حرام ہے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف، الباب الحادی العشر فی المسجد، ج ۲، ص ۵۷) اگر چہ زمین کے برابر سونا دے مسجد کے لیے جو لوگ ایسا کریں ان کی نسبت قرآن عظیم فرماتا ہے:

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے اور  
آخرت میں بڑا عذاب۔

(پ ۶، المائدہ: ۴۱)

## نماز جنازہ میں جلدی کرنا

**عرض:** نماز جنازہ کی تعجیل (یعنی جلدی کرنے) سے کیا مراد ہے؟

**ارشاد:** غسل و کفن بغیر تو نماز پڑھ سکتے ہی نہیں، ہاں! اس کے بعد تاخیر نہ کرے۔ بعض لوگ شبِ جمعہ (یعنی جمعہ کی رات) جس کا انتقال ہوا میت کو تا نماز جمعہ رکھے رہتے ہیں کہ آدمیوں کی نمازِ جمعہ میں کثرت ہو جائے، یہ ناجائز ہے اور اس کی تصریح کتبِ فقہ میں موجود ہے۔ اور اگر قبرتیار ہونے سے پیشتر کسی عذر سے تاخیر کی جائے تو حرج نہیں۔

## قبرستان میں چیونٹیوں کو مٹھائی ڈالنا

**عرض:** برودہ (یعنی میت) کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چیونٹیوں کے ڈالنے کے لیے لے جانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علمائے کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے اور چیونٹیوں کو اس میت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ محض جہالت ہے۔ اور یہ نیت نہ بھی ہو تو بھی بجائے اس کے مساکین صالحین (یعنی نیک و پارسا غریبوں) پر تقسیم کرنا بہتر ہے۔

{ پھر فرمایا: { مکان پر جس قدر چاہیں خیرات کریں قبرستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت بچے اور عورتیں وغیرہ غل (یعنی شورہنگامہ) چماتے اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے پھرتے ہیں۔

## ساس کو بشہوت ہاتھ لگانا

**عرض:** معمولی چھینٹ (یعنی نیل بوٹے دار کپڑا) جس کے پاجامے عورتوں کے ہوتے ہیں خوشدامن (یعنی ساس) کا پاجامہ ایسی چھینٹ (یعنی نیل بوٹے دار کپڑے) کا ہو اس پر سے اس کے جسم کو ہاتھ بشہوت لگائے تو کیا حکم ہے؟  
**ارشاد:** اگر ایسا کپڑا ہے کہ حرارت جسم کی نہ معلوم ہو جب تو نہیں ورنہ حُرْمَتِ مَصَاهِرَتِ ثَابِت ہو جائے گی۔

(در مختار وردالمختار، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، ج ۴، ص ۱۱۴)

## نورِ نبی کی تمنا میں انتقال کرنے والیاں

**عرض:** یہ جو مولود شریف کی بعض کُٹب میں لکھا ہے کہ جس رات حضرت آمنہ خاتون (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) حاملہ ہوئیں دوسو عورتیں رشک و حسد سے مرگئیں یہ صحیح ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اس کی صحت معلوم نہیں البتہ چند عورتوں کا بہ تمنائے نورِ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرجانا ثابت ہے۔

## اسقاط کا کفارہ

**عرض:** اسقاط کی حالت میں چند سیرگندم اور قرآنِ عظیم دیا جاتا ہے اس میں کُل کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟  
**ارشاد:** جس قدر بدیہ قرآنِ عظیم کا بازار میں ہے اتنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔

## ثمن کا اعتبار ہوگا یا قیمت کا؟

**عرض:** ثمن کے اندر عاقِدِ ثَمَنِ (یعنی معاملے کے دونوں فریق) مختار ہیں جتنا چاہیں طے کر لیں؟  
**ارشاد:** یہاں کہ صدقہ دیا جا رہا ہے وہی بازار کے بھاؤ (یعنی قیمت) کا اعتبار ہوگا۔

۱: مصاہرت عورت سے نکاح حرام ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اس کے ثبوت کی چند صورتیں ہیں، تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت حصہ نمبر 7، صفحہ نمبر 22 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ فرمائیے۔

۲: وہ رقم جو فقراء و مساکین کو میت کے ذمے فرائض و واجبات کے فدیہ کے طور پر وارثوں کی طرف سے دی جائے۔ (ملخصاً، فتاویٰ رضویہ مجزبہ، ج 8، ص 162)  
۳: عقدر یعنی سودے میں جو چیز معین نہ ہو وہ ثمن ہے (بہار شریعت، ج 4، حصہ 11، ص 16)

## خُطْبہ کے وقت عصا ہاتھ میں لینا

**عرض :** خطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں لینا سنت ہے یا کیا؟

**ارشاد:** اختلاف ہے علماء کا بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے اور بعض مکڑ وہ بتاتے ہیں۔

(درمختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، باب حکم المرقی بین ید الخطیب، ج ۳، ص ۴۵)

## سُنّت و مکروہ میں تعارض ہوتو؟

**عرض :** سُنّت و مکڑ وہ میں تعارض ہوتو کیا کرنا چاہیے؟

**ارشاد:** ترک اولیٰ ہے۔ جامع الرّموز میں مُحیط سے نقل کیا ہے کہ (وقتِ خطبہ عصا ہاتھ میں لینا) سُنّت ہے اور مُحیط ہی میں

ہے کہ مکڑ وہ ہے اسی کو ہندِ یہ میں نقل کیا ہے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، باب سادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۴۸)

## دیہات میں جمعہ

**عرض :** دیہات میں جمعہ نہ پڑھنے کے مسائل و رسائل علما نے لکھے ہیں اس سے اہل دیہات بہت پریشان ہیں۔

**ارشاد:** مذہبِ حنفی میں جمعہ و عیدین جائز نہیں (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، باب سادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۴۵) لیکن

جہاں قائم ہے وہاں منع نہ کیا جائے اور جہاں نہیں ہے وہاں قائم نہ کیا جائے۔ آخر شافعی مذہب پر تو ہو ہی جائے گا۔ ایسی

صورت میں جہلاء جمعہ تو ظہر بھی چھوڑ دیں گے۔

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ٱلْمَدَنِيَّةُ إِذَا أَصَلَّتْ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے

بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔

(پ ۳۰، العلق: ۱۰۰۹)

سے خوف کرنا چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے منقول ہے کہ ایک شخص کو طُلوع آفتاب کے وقت نفل پڑھتے ہوئے

دیکھ کر منع نہ فرمایا جب وہ پڑھ چکا تو مسئلہ تعلیم فرما دیا۔ (روح المعانی، جز ۳، ص ۲۰، ۵۶۸ باختصار)

## حُضُورِ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي قَسْمِ كِهَانَا

**عرض :** حُضُورِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی قسم کھا کر خلاف کرنے سے کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الایمان، الباب الاول..... الخ، ج ۲، ص ۵۱)

**عرض:** حُضُور کی قسم کھانا جائز ہے؟

**ارشاد:** نہیں۔

**عرض:** کیا بے ادبی ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔

## گلے میں تانبے یا پیتل کا خلال ٹکانا

**عرض:** خلال (یعنی دانت کریدنے کا آلہ) تانبے پیتل کا گلے میں لٹکانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** ناجائز ہے کیونکہ یہ تعلیق (یعنی پہننے) کے حکم میں ہے۔ ویسے جائز ہے اور سونے چاندی کا حرام ہے بلکہ عورتوں کو بھی ایسے ہی سونے چاندی کے خُزُوف (یعنی برتنوں) میں کھانا ناجائز ہے اور گھڑی کی چین بھی عام ازیں کہ چاندی کی ہو یا پیتل کی، ہاں! ڈورا باندھ سکتا ہے۔

## اجنبیہ جوان عورت کے سلام کا جواب

**عرض:** جوان غیر محرم عورت کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟

**ارشاد:** دل میں جواب دے۔ (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی التسیح، ج ۴، ص ۳۷۷)

## نامحرم کو سلام بھیجنا

**عرض:** اگر چہ غائبانہ نامحرم کو سلام کہلائے؟

**ارشاد:** یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ع

بساکیں "آفت" از گفتار خیزد

(کبھی کبھی بات چیت سے بھی آفت برپا ہوتی ہے۔ ت)

## سنت فجر کب پڑھے؟

**عرض:** سُنْتُ الْفَجْرِ أَوَّلَ وَقْتِ پڑھے یا مُتَّصِلَ فَرُضُونَ کے؟ (یعنی فرضوں سے کچھ پہلے)



**ارشاد:** اوّل وقت پڑھنا اوّلیٰ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان سوتا ہے شیطان تین گزہ لگا دیتا ہے جب صبح اُٹھتے ہی وہ ربّ عزّوجلّ کا نام لیتا ہے تو ایک گزہ گھل جاتی ہے اور وضو کے بعد دوسری اور جب سُنّتوں کی نیت باندھی تیسری بھی گھل جاتی ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب عقد الشیطان، حدیث ۱۱۴۲، ج ۱، ص ۳۸۷ ملخصاً) لہذا اوّل وقت سُنّتیں پڑھنا اوّلیٰ ہے۔

## سنت پڑھے بغیر نمازِ ظہر کی امامت کروانا

**عرض:** ظہر کے وقت بغیر سنت پڑھے امامت کرسکتا ہے؟

**ارشاد:** بلاغذرنہ چاہیے۔

## جمعہ کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب پڑھے؟

**عرض:** سنت جمعہ اگر خطبہ شروع ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو بعد نماز جمعہ پڑھے یا نہیں؟

**ارشاد:** پڑھے اور ضرور پڑھے۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب ادراک الفریضة، مطلب هل الاساءة..... الخ، ج ۲، ص ۶۱۹)

## کبوتروں کو دانہ دینے کے لئے پیسے کاٹنا

**عرض:** بعض جگہ دستور ہے کہ مسلمان ہندو کی آڑھت لے میں مال فروخت کرتا ہے اور اس صورت میں ہندو کو کمیشن دینا پڑتا ہے اور وہ لوگ کمیشن کے ساتھ چار آنے (یعنی ہندوستان کا ایک پرانا سکہ) سینکڑوں (یعنی ایک سو پر) اس بات کا لیتے ہیں کہ اس رقم کا اناج خرید کر کبوتروں کو ڈالا جائے گا یہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر جانوروں کے لیے لیس کچھ حرج نہیں، البتہ بت وغیرہ کے لئے ناجائز ہے۔

## دستِ غیب و کیمیا

**عرض:** ”دستِ غیب“ و ”کیمیا“ حاصل کرنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** ”دستِ غیب“ (یعنی بغیر کسی ظاہری ذریعے کے حاصل ہونے والی رقم) کے لیے دعا کرنا محالِ عادی کے لیے دعا کرنا ہے جو مشلِ محالِ عقلی و ذاتی کے حرام ہے اور ”کیمیا“ (یعنی رنگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنانے کا گر) تَبْخِیجِ مال (یعنی مال کو ضائع

ازدکان یا کوٹھی جہاں سوداگروں کا مال کمیشن لے کر بیچا جاتا ہے۔

کرنا) ہے اور یہ حرام ہے آج تک کہیں ثابت نہیں ہوا کہ کسی نے بنالی ہو۔ کَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ {جیسے کوئی دونوں ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف بیٹھا ہو اور وہ پانی یوں اُسے پہنچنے والا نہیں {دَسْتِ غَيْبٍ جَوْ قَرَّانٍ عَظِيمٍ میں ارشاد ہے اس کی طرف لوگوں کو توجہ ہی نہیں کہ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ (عَزَّوَجَلَّ) سے ڈرے اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اُسے

(پ ۲۸، الطلاق: ۳، ۲) وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

”يَتَّقِ اللَّهَ“ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے) پر عمل نہیں ورنہ حقیقتاً سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔

## دُعا کی برکت

میرے ایک دوست مدینہ طیبہ کے رہنے والے اُن کا مدینہ منورہ سے بھیجا ہوا ایک خط اتوار کے روز مجھے ملا جس میں پچاس روپے کی طلب تھی۔ بدھ کے روز یہاں سے ڈاک جاتی تھی جو ہفتہ کو ڈاک کے جہاز میں روانہ ہو جاتی تھی۔ پیر کے دن تو مجھے خیال ہی نہ رہا منگل کے روز یاد آیا، دیکھا تو اپنے پاس پانچ پیسے بھی نہیں۔ وہ دن بھی ختم ہوا۔ نماز مغرب پڑھ کر، اور یہ فکر کہ کل بدھ ہے اور ابھی تک روپے کی کوئی سبیل نہیں ہوئی، میں نے سرکار میں عرض کیا کہ حُضُور ہی میں بھیجنا میں عطا فرمائے جائیں کہ باہر سے حسنین میاں {اعلیٰ حضرت مدظلہ کے بھتیجے} نے آواز دی ”سیٹھ ابراہیم بمبئی سے ملنے آئے ہیں۔“ میں باہر آیا اور ملاقات کی، چلتے وقت اکیاون روپے انہوں نے دیئے حالانکہ ضرورت صرف پچاس روپے کی تھی۔ یہ اکیاون روپے یوں تھے کہ ایک روپیہ فیس منی آرڈر کا بھی تو دینا پڑتا، غرض صبح کو فوراً منی آرڈر کر دیا۔

مُؤَافٍ: یہ ہے ”يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط“ (اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو)

## خلاف شریعت بات کی تاویل

عرض: بعض اکابر اولیائے کرام سے کچھ کلمات ایسے صادر ہوئے جو بظاہر خلاف شریعت ہیں اس میں ان کو معذور رکھا جاتا ہے اور ان کلمات کی تاویل کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس زمانہ میں ایسے الفاظ کہے اس کو معذور کیوں نہیں رکھا جاتا؟

ارشاد: اگر اس کی ولایت ثابت ہو جائے تو اس کو بھی معذور رکھا جائے گا۔

## ثبوت ولایت کا طریقہ

**عرض:** ثبوت ولایت کا کیا طریقہ ہے؟

**ارشاد:** اطباق ائمہ کا، علماء کا، جمہور کا، سوادِ اعظم کا۔ سوادِ اعظم (یعنی اہلسنت) جس کو ولی مان رہا ہے وہ بے شک ولی ہے۔ اور اگر یہ شرط نہ لگائی جائے بلکہ جس کسی کو بھی خلاف شریعت الفاظ بکتے سنئے اس کو معذور رکھیے تو ہر شرابی، ہر بھنگو (یعنی بھنگ پینے والا) جو چاہے گا بک دے گا اور کہہ دے گا کہ ہم نے حالتِ سُکر (یعنی نشے کی حالت) میں ایسا کہا، شریعت بالکل معذور ہو جائے گی۔

## سورتوں کو اُلٹا پڑھنا

**عرض:** بعض وظائف میں آیات اور سورتوں کا معلوس (یعنی اُلٹا) کر کے پڑھنا لکھا ہے۔

**ارشاد:** حرام اور اشد حرام، کبیرہ اور سخت کبیرہ قریب کفر ہے۔ یہ تو درکنار سورتوں کی صرف ترتیب بدل کر پڑھنا اس کی نسبت تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”کیا ایسا کرنے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اس کے قلب کو اُلٹ دے۔“ نہ کہ آیات کو بالکل معلوس کر کے مہمل (یعنی بے معنی) بنا دینا۔

## غیر مُستند وظائف

**عرض:** حضور! پھر صوفیائے کرام کے وظائف میں یہ اعمال کیونکر داخل ہوئے؟

**ارشاد:** احادیث جن کے ”منقول عنہ“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان میں کس قدر موضوعات ہیں!

{ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ } جاہلوں میں اسمائے حسنیٰ کی قوت بڑھانے کے واسطے ایک طریقہ یہ رکھا گیا ہے۔ کہ مثلاً یا عَزِيزُ تَعَزَّزْتُ فِي عِزَّتِكَ وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتِكَ يَا عَظِيمُ تَعَظَّمْتُ فِي عَظَمَتِكَ وَالْعَظَمَةُ فِي عَظَمَةِ عَظَمَتِكَ (اے سب پر غالب! تو اپنی بڑائی میں مضبوط ہے، اور بڑائی تو تیری طاقت کی مضبوطی میں ہے۔ اے سب سے عظیم! تو اپنی شان و عظمت پر فخر فرماتا ہے اور اصل شان و شوکت تو تیرے وقار کی بڑائی میں ہے۔) خیر یہاں تک تو صحیح تھا، آگے اس کے یہ ہے: يَا مُذِلُّ تَذَلَّلْتُ فِي ذِلَّتِكَ وَالذَّلَّةُ فِي ذِلَّةِ ذِلَّتِكَ يَا خَافِضُ تَخَفَّضْتُ فِي خَفْضَتِكَ وَالْخَفْضُ فِي خَفْضِ خَفْضَتِكَ۔ (اے نڈل تو نے اپنے کمزور ہونے میں عاجزی اختیار کی اور ذلیل ہونا تو تیری وقعت کے حقیر ہونے میں ہے۔ اے آسودہ حال! تو اپنی آسودگی میں آسودہ ہے

اور آسودگی تو تیری آسودہ حالی کی آسودگی میں ہے۔) اب کہیے کہ یہ کفر ہوا یا نہیں؟ لیکن وہ کافر نہ ہوئے، اس واسطے کہ ان کو شیطان نے بہکادیا ان کو اس عربی عبارت کا ترجمہ نہیں معلوم۔ {پھر فرمایا: } صوفیائے کرام فرماتے ہیں:

”صوفی بے علم مسخرہ شیطان است“

(بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ ت)

## بغیر فقہ کے عابد بننے والا

حدیث میں ارشاد ہوا: ”الْمُتَعَبِدُ بِغَيْرِ فِقْهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ“ (کنز العمال، کتاب العلم، الباب الاول فی الترغیب

فیہ، حدیث ۲۸۷۰۵، ج ۱۰، ص ۶۱) بغیر فقہ کے عابد بننے والا، عابد نہ فرمایا بلکہ عابد بننے والا فرمایا یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔

## دیدارِ الہی کا دعویٰ کرنے والا

ایک صاحب اُولیائے کرام میں سے تھے فَدَسْنَا اللّٰهَ تَعَالٰی بِاسْرَارِهِمْ۔ انہوں نے ایک صاحب ریاضت و مجاہدہ کا شہرہ سنا۔ ان کے بڑے بڑے دعاوے سننے میں آئے ان کو بلایا اور فرمایا: ”یہ کیا دعویٰ ہے جو میں نے سنے؟“ عرض کی: مجھے دیدار الہی روز ہوتا ہے ان آنکھوں سے، سمندر پر خدا کا عرش بچھتا ہے اور اس پر خدا جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اب اگر ان کو علم ہوتا تو پہلے ہی سمجھ لیتے کہ دیدار الہی (عَزَّوَجَلَّ) دنیا میں بحالتِ بیداری ان آنکھوں سے مُحال ہے سوائے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے (السنبراس شرح شرح العقائد ص ۱۶۹) اور حُضُورِ کُوبھی، ”فَوْقَ السَّمَوَاتِ وَالْعُرْشِ“ {دنیا نام ہے سماء و ارض کا} دیدار ہوا، خیر اُن بزرگ نے ایک عالم صاحب کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ وہ حدیث پڑھو جس میں حُضُورِ اَقْدَس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی: بے شک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اِنَّ اِبْلِيسَ لَيَضَعُ عَرَشَهُ عَلٰى الْبَحْرِ“ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔

(کنز العمال، کتاب الایمان والاسلام، الحدیث ۱۲۸۶، ج ۱، ص ۱۴۰)

انہوں نے جب یہ سنا تو سمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خدا سمجھتا رہا، اُسی کی عبادت کرتا رہا، اُسی کو سجدے کرتا رہا

کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلے گئے پھر ان کا پتہ نہ چلا۔

## شیطانی لگام

سیدی ابوالحسن جو سقّی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں حضرت سیدی ابوالحسن علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ خلیفہ ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے اپنے ایک مُرد کو رمضان شریف میں چلے میں بٹھایا، ایک دن انہوں نے رونا شروع کیا آپ تشریف لائے اور فرمایا: ”کیوں روتے ہو؟“ عرض کیا: ”حضرت شبِ قدر میری نظروں میں ہے، شجر و حجر اور دیوار و درجہ میں ہیں، نور پھیلا ہوا ہے میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، ایک لوہے کی سلاخ حلق سے سینے تک ہے جس سے میں سجدہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے روتا ہوں۔“ فرمایا: ”اے فرزند! وہ سلاخ نہیں وہ تیرے جو میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے اور یہ سب شیطان کا کرشمہ ہے شبِ قدر وغیرہ کچھ نہیں۔“ عرض کی: حضور! میری تشنگی کے لیے کوئی دلیل ارشاد ہو۔ فرمایا: ”اچھا دونوں ہاتھ پھیلا کر تدریجاً (یعنی آہستہ آہستہ) سمیٹو۔“ سمیٹنا شروع کیا جتنا سمیٹتے تھے اتنی ہی روشنی مُبدل بہ ظلمت (یعنی روشنی اندھیرے میں تبدیل) ہوتی جاتی تھی یہاں تک کہ دونوں ہاتھ مل گئے بالکل اندھیرا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں سے شور و غل ہونے لگا، حضرت مجھے چھوڑیے میں جاتا ہوں تب ان مُرد کی تشنگی ہوئی۔

{ پھر فرمایا: } ”بغیر علم کے صوفی کو شیطان کپے تاگے کی لگام ڈالتا ہے۔“

## شیطان کا تخت

ایک حدیث میں ہے: بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں۔ ابلیس کا تخت بچھتا ہے، شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے: اس نے اتنے زنا کرائے۔ سب کی سُنیں کسی نے کہا: اس نے آج فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا۔ سنتے ہی تخت پر سے اُچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا: اَنْتَ تَوْنِے کام کیا، تو نے کام کیا، اور شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی! ابلیس بولا: تمہیں نہیں معلوم، جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتاؤ! وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے مگر وہ عالم نہیں اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کو قبل طُوعِ آفتاب شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور شیاطین مخفی (یعنی پوشیدہ) رہے اور یہ انسان کی شکل بن کر

رستہ پر کھڑا ہو گیا، عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد نمازِ فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں ابلیس کھڑا ہی تھا۔ سلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے؟ عابد صاحب نے فرمایا: ”جلد پوچھو مجھے نماز کو جانا ہے۔“ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکال کر پوچھا: اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان ”سملوات و ارض“ (یعنی آسمان وزمین) کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ عابد صاحب نے سوچا اور کہا: ”کہاں آسمان وزمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی!“ بولا: ”بس یہی پوچھنا تھا، تشریف لے جائیے۔“ اور شیاطین سے کہا: ”دیکھو میں نے اس کی راہ ماری اس کو اللہ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں عبادت کس کام کی۔“

طلوع آفتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ”پوچھو! جلدی پوچھو نماز کا وقت کم ہے۔“ اس نے وہی سوال کیا۔ فرمایا: ”مَلْعُونٌ تَوَابِلِيسٍ مَعْلُومٌ ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی ہے ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں آسمان وزمین داخل کر دے۔“

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ

(پ ۱، البقرة: ۱۰۹) ہر چیز پر قادر ہے۔

عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے بولا: دیکھا! یہ علم ہی کی برکت ہے۔

## عورتوں کی مسواک

عرض: عورتوں کے لیے مسواک کیسی ہے؟

ارشاد: اُن کے لیے اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنّت ہے لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں۔ ان کے دانت اور مسوڑھے بہ نسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں مَسّی (یعنی ایک قسم کا نمجن) کافی ہے۔

## بِيعَانَهُ صَبْطُ كَرْنَا

عرض: بِيَعَانَهُ کی نسبت کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** بیعائے (یعنی کل رقم کا کچھ حصہ جو تکمیلِ معاملہ سے پہلے بطور پیشگی دیا جائے) آج کل تو یوں ہوتا ہے کہ اگر خریدار بعد بیعائے دینے کے نہ لے تو بیعائے ضبط اور یہ قطعاً حرام ہے۔

## مرنے کے بعد مصنوعی دانت نکالنا

**عرض:** مرنے کے بعد مصنوعی دانت نکالنا چاہئیں یا نہیں؟

**ارشاد:** نکال لینا چاہیے اگر کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے ٹوٹے ہوئے دانت کفن میں رکھ دیئے جائیں۔

## فرضوں کی جماعت میں نفل پڑھنے والے کا کھڑا ہونا

**عرض:** ایک صف فرض پڑھ رہی ہے، درمیان میں ایک شخص بہ نیت نفل ہے۔ ان کی نماز میں کوئی خرابی ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** کوئی حرج نہیں۔

**عرض:** کیا قطعِ صف نہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔

**عرض:** حالانکہ اُس کی نماز اور ہے اور اُن کی اور!

**ارشاد:** اُس کی نماز اور نہیں، فرض مشتمل ہے مطلق نماز کو اور مطلق نماز نفل بھی ہے، نفل ہر نماز میں داخل ہے ہاں اگر وہ لوگ آج کی ظہر پڑھ رہے ہوں اور یہ کل کی ظہر کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کی نماز نہ ہوگی کہ اس کی نماز اور ہے اور امام کی اور۔ کل کی ظہر آج کی ظہر میں داخل نہیں۔

## دو آدمیوں کا جماعت کروانا

**عرض:** ایک شخص وضو کر رہا تھا اور دو آدمی با وضو تھے یہ خیال کر کے کہ وہ وضو کر کے شامل ہو جائے گا۔ ایک شخص امام بن کر آگے کھڑا ہو گیا اور دوسرا تنہا پیچھے لیکن وہ وضو کر کے شامل ہی نہ ہوا۔ اب ان دونوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟

**ارشاد:** نماز تو ہوگئی لیکن امام اور مقتدی دونوں نے غلطی کی اور خلافِ سنت کیا، چاہئے تھا امام اور مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوتے۔ جب وہ وضو کر کے آتا مقتدی پیچھے ہٹ آتا یا امام آگے بڑھ جاتا۔

{ پھر فرمایا: { اس غلطی میں عوام تو عوام علماء مُبتلا ہیں۔ حالتِ موجودہ کا اعتبار ہے غیب کا کیا علم ممکن ہے کہ وہ وضو کرتے ہی میں مرجائے اور کوئی عذر پیش آجائے۔

## دو عورتوں کے بیچ میں سے نکلنا

**عرض:** دو عورتوں کے بیچ (یعنی درمیان) میں سے نکلنے کی مُمانعت کی کیا وجہ ہے؟

**ارشاد:** دو عورتوں کے بیچ میں سے نکلنے کو منع فرمایا۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی مشی النساء..... الخ، الحدیث ۵۲۷۳، ج ۴، ص ۷۰) عورتوں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا۔

{ پھر فرمایا: { ایک عورت تین مردوں کی نماز فاسد کرتی ہے۔ ایک وہ جو داہنی طرف ہو، ایک وہ جو بائیں طرف ہو اور ایک وہ جو پیچھے ہو اور دو عورتیں کم سے کم چار کی دوداہنے بائیں اور دو وہ جو اُن کے پیچھے ہیں اور تین عورتیں دوداہنے بائیں مردوں کی نماز فاسد کرتی ہیں اور اپنے پیچھے ہر صف میں سے تین تین آدمیوں کی جو اُن کے محاذات (یعنی سیدھ) میں ہوں۔ اور اگر چار عورتیں ہیں تو دو مردوں کی تو دائیں بائیں نماز فاسد کریں گی اور ان کے پیچھے اگر لاکھ صفیں ہوں تو سب کی نماز فاسد اگرچہ محاذات نہ ہو۔ آخر کچھ تو اثر ہے جو اتنی نمازیں فاسد ہوتی ہیں اسی وجہ سے دو عورتوں کے درمیان نکلنے سے منع فرمایا۔

## جماعت میں عورت کا شامل ہونا

**عرض:** کچھ مرد آگے ہیں ان کے پیچھے عورتیں اور ان کے پیچھے ایک دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوں، اُن کی نماز کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** اگر دیوار اتنی نیچی ہے کہ سینہ یا سر دکھائی دے جب بھی محاذات ہے اور مردوں کی نماز فاسد۔

**عرض:** اگرچہ عورتیں ضعیفہ ہوں؟

**ارشاد:** ضعیفہ (یعنی بوڑھی) ہوں یا قویہ (یعنی جوان) عورتوں کو مسجد میں جانا ہی منع ہے۔

## عورتوں کے لئے نماز کی بہتر جگہ

حدیث میں ارشاد فرمایا: ”عورت کی نماز اپنے تہہ خانہ میں بہتر ہے کوٹھڑی میں نماز پڑھنے سے اور اس کی کوٹھڑی



میں نماز بہتر ہے، دالان میں نماز پڑھنے سے اور اس کی نماز دالان میں بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنے سے۔“

(کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ، الفصل فی حکم خروج النساء، حدیث ۲۰۸۶۵، ج ۷، ص ۲۷۶ ملخصاً)

{ پھر فرمایا: مسجد اور جماعت کی حاضری عورتوں کو مُعاف ہے بلکہ ممنوع ہے۔

(در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الامامة، ج ۲، ص ۳۶۷، فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، ج ۱، ص ۳۷۶)

## مرد کہاں کھڑے ہوں؟

**عرض:** ایک صف مردوں کی پوری کھڑی ہے اور ان کے پیچھے عورتیں ہیں اب اور مرد بعد میں آنے والے کہاں کھڑے ہوں؟

**ارشاد:** اگر یہاں جگہ نہیں تو نماز باطل ہوگی، دوسری مسجد میں پڑھیں۔

## امام کوئی آیت بھول جائے تو!

**عرض:** اگر امام نے دو آیتیں پڑھیں اور بھول کر اور جگہ کی ایک آیت پڑھ دی تو نماز ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** ہوگی۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاۃ، الفصل الخامس فی زلة القاری، ج ۱، ص ۸۰ ملخصاً)

## طوائف کا روپیہ مسجد میں لگانا

**عرض:** رنڈیوں (یعنی طوائفوں) کا روپیہ مسجد کی خدمت میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں، مسجد کے لیے مال حلال طیب ہو۔

## صفوں کے درمیان اونچی دیوار ہوتی؟

**عرض:** اگر دیوار اس قدر اونچی ہو کہ عورتوں کے سر دکھائی نہیں دیتے تو اب امام کا رکوع و سجود بھی ان لوگوں پر جو دیوار کے

پیچھے ہیں مخفی (یعنی پوشیدہ) ہو جائے گا تو اِقْتِدَا (یعنی امام کے پیچھے نماز) کیوں کر صحیح ہوگی؟

**ارشاد:** آواز پہنچے گی۔

## قرض وصول کرنے کے اخراجات لینا

**عرض:** قرض وصول کرنے میں جو خرچ ہو وہ مقروض (یعنی قرض دار سے) لے سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ایک کُجَبہ (یعنی ذرا سا بھی) نہیں لے سکتا۔

## اولیائے کرام کی شان

**مؤلف :** دوسری بار کی حاضری میں جو انعامات سرکار سے پائے ان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”وہ خود اپنے مہمانوں کی مدد فرماتے ہیں اور حُضُور تو حُضُور ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حُضُور کی اُمت کے اُولیائے کرام کی بھی یہی شان ہے۔“ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے۔ مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ الربانی الیترام (یعنی پابندی) کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے۔ اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے، کئی رتوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں۔ مجلس تین دن ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہوگئی، یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے۔ اس دفعہ آخری دن پہنچے جو اُولیائے کرام مزار مبارک پر مُراقب (یعنی مراقبہ کرنے والے) تھے، انہوں نے فرمایا: کہاں تھے دو روز سے؟ حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں: عبدالوہاب آیا؟ عبدالوہاب آیا؟ (الطبقات الکبریٰ للشعرانی، ج ۱، ص ۲۵۸ ملخصاً) انہوں نے فرمایا: ”کیا حُضُور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟“ انہوں نے فرمایا: اطلاع کیسی؟ حُضُور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر اس کا ایک ٹکڑا سی کا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال فرمائے گا۔

{پھر فرمایا:} ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی، اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی۔ حدیث میں ہے: جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے یہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی کس قدر، قدر و منزلت ہے اتنی ہی اس کی اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے یہاں ہے۔ (کنز العمال، کتاب الاذکار، باب الاول فی الذکر وفضیلته، حدیث ۱۸۷۳، ج ۱، ص ۲۲۲ ملخصاً) حضرت سیدی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابر اولیائے کرام میں سے ہیں، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا اس مجمع میں چلے آتے تھے ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا: النَّظْرَةُ الْاُولٰی لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيَّ پہلی نظر تیرے لئے ہے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ ۲، ص ۲۶۹۔ باب النظر الی المخطوبۃ) خیر! نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا: عبدالوہاب! وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی: ہاں! اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہئے، ارشاد فرمایا: اچھا! ہم نے تم کو وہ کنیز ہیہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہیہ فرماتے ہیں! معاً وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار

اقدس کی نذر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نذر کر دی۔ ارشاد فرمایا: عبدالوہاب! اب دیر کا ہے کی؟ فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

## حیاتِ انبیاء اور حیاتِ اولیاء میں فرق

**عرض:** انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی حیاتِ برزخیہ میں کیا فرق ہے؟

**ارشاد:** انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ حقیقی حسی دُنیاوی ہے۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ ودفنہ، الحدیث ۱۶۳۷، ج ۲، ص ۲۹۱) ان پر تصدیق وَعَدَّةُ الْاٰلِیَہِہِ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیاتِ عطا فرمادی جاتی ہے۔ (ملخصاً حاشیۃ الصواہب، پ ۳، ال عمران تحت الاية: ۱۸۵، ج ۱، ص ۳۴۰) اس حیات پر وہی احکامِ دنیویہ ہیں۔ ان کا ترکہ بانٹنا نہ جائے گا، ان کی اُڑ واج کو نکاح حرام نیز اُڑ واجِ مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبورِ مطہرہ میں ازواجِ مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شبِ باشی فرماتے ہیں۔ (زرقانی علی المواہب، النوع الثانی فی وصفہ تعالیٰ، ج ۸، ص ۳۵۸) علماء، شہداء کی حیاتِ برزخیہ (یعنی عالمِ برزخ کی زندگی) اگرچہ حیاتِ دنیویہ (یعنی دنیوی زندگی) سے افضل و اعلیٰ ہے مگر اس پر احکامِ دنیویہ جاری نہیں۔ اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا، ان کی اُڑ واجِ عدت کریں گی۔

(زرقانی علی المواہب اللدنیۃ، النوع الرابع، ج ۷، ص ۳۶۴، ۳۶۵)

## قبر والا آنے والے کو پہچانتا ہے

اور حیاتِ برزخیہ کا ثبوت تو عوام کے لیے بھی ہے۔ حدیث میں ہے مثل مؤمن کی اس طائر (یعنی پرند) کی طرح جو فقس (یعنی بنجرے) میں ہے کہ جب تک وہ فقس میں ہے اس کی اُڑان (یعنی پرواز) اسی تک ہے اور جب اس سے آزاد ہوا

۱: اس حکایت میں تاجر نے خادم مزار کو اور خادم مزار نے حضرت سیدی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کنیز شرعی کہہ کرنا (یعنی تحفہ دینا) شرعاً درست ہے، بخاری شریف میں ہے: ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک کنیز آزاد کر دی تھی، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو فرمایا: کاش تم اپنے ماموں کو بہہ کر دیتیں تو زیادہ ثواب ملتا۔ (بخاری ج ۲، ص ۱۳۳ حدیث ۲۵۹۲) نیز لوٹنی (کنیز) سے بغیر نکاح کئے ہم بستر کی کرنا قرآن پاک کی رو سے جائز ہے، قرآن پاک میں ہے: وَ الْاٰلِیْنَہُمْ لَفُرُوْجِہُمْ حَفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰی اٰزْوَاجِہِمۡ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ فَاِنَّہُمْ غَیْرُ مُلْؤِمِیْنَ ۝ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔ (پ: ۱۲۹، المعارج: ۳۰) مگر یاد رہے کہ فی زمانہ کنیز شرعی دستیاب نہیں ہے۔ (ماخوذ من ”معارف رضا“، ص ۱۱۹، سالنامہ، صفر المظفر ۱۴۲۸ھ، مارچ ۲۰۰۸ء)

تو اس کی اڑان کتنی ہوگی۔ (کشف الخفاء، الحدیث ۱۳۱۶، ج ۱، ص ۳۶۳ ملخصاً) بعد مرنے کے سَمْع، بَصْر، اِذْرَاک (یعنی دیکھنا، سنا اور سمجھنا) عام لوگوں کا یہاں تک کہ کُفَّار کا زائد ہو جاتا ہے اور یہ تمام اہل سُنَّت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو خلاف کرے گمراہ ہے کہ جس کسی کی قبر پر آدمی جاتا ہے اگر صاحبِ قبر اس کو پہچانتا تھا تو اس کو پہچانتا ہے اور اس سے تسکینی پاتا ہے اس کی آواز بلکہ اس کی پہنچل (یعنی قدموں کی آہٹ) سنتا ہے اور اگر نہیں پہچانتا تھا تو اتنا ضرور جانتا ہے کہ ایک مسلمان میری قبر پر آیا ہے۔ (کنز العمال، کتاب الموت، الحدیث ۴۲۳۷۲/۴۲۵۴۹، ج ۱۵، ص ۲۷۲/۲۵۴ ملخصاً) اگر کسی زندہ شخص کو اتنے من مٹی میں دبا دیا جائے تو اس کے اوپر اگر توپ بھی چھوڑی جائے جب بھی نہ سنے گا۔ تو ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد سَمْع و بَصْر و اِذْرَاک بڑھ جاتا ہے۔

## بچے کی زبان پر شیطان کا بولنا

**عرض:** جُصُور! بعض جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا اور تمام نشانیاں ظاہر کرتا ہے؟  
**ارشاد:** "الْشَّيْطَانُ يُنْطِقُ عَلٰی لِسَانِهِ" (شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے۔) اس کا شیطان اس بچہ کے شیطان سے پوچھ رکھتا ہے وہی بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوں کہ اوہویہ تو آواگون! ہو گیا۔ مسلمان کا ہمزاد مُقَيَّد کر لیا جاتا ہے اور کافر کا نُحُوت ہو جاتا ہے۔

## فرشتے ایصالِ ثواب کرتے ہیں

جب کام کے واسطے لوگ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ان کے ساتھ کراماً کا تبیین<sup>۳</sup> اور شیطین ہوتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے کراماً کا تبیین عرض کرتے ہیں کہ اے رب (عَزَّوَجَلَّ) ہمارا کام ختم ہو گیا، وہ شخص دارِ اعمال (یعنی دنیا) سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ رب عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے آسمان بھرے ہیں عبادت کرنے والوں سے کچھ حاجت تمہاری نہیں۔ عرض کرتے ہیں: الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) ہمیں زمین میں جگہ دے۔ ارشاد ہوتا ہے: میری زمینیں بھری ہیں عبادت کرنے والوں سے تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں: "الٰہی (عَزَّوَجَلَّ) پھر ہم کیا کریں؟" ارشاد ہوتا ہے: "میرے بندے کی قبر کے سر ہانے قیامت تک کھڑے رہو اور تَسْبِيح و تَقْدِيْس کرتے رہو، اس کا ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔" (شعب الایمان، باب فی صبر المصاب، فصل فی ذکر مافی الازواج..... الخ، الحدیث ۹۹۳۱، ج ۷، ص ۱۸۴ ملخصاً)

۱: ہندوؤں کا عقیدہ کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے اور یہ باطل ہے۔

۲: وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔

۳: وہ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔

## اچھی باتوں کا فائدہ اور بری باتوں کا نقصان

﴿پھر فرمایا: { اچھی باتیں مثلاً ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ ان کا اُخروی نفع تو یہ ہے کہ

ہر کلمہ سے ایک پیڑ (یعنی درخت) جنت میں لگایا جاتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، الحدیث ۳۸۰۷، ج ۴، ص ۲۵۲) اسی کو فرمایا جاتا ہے:

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ○ ترجمہ کنز الایمان: اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب

(پ ۱۵، الکہف: ۴۶) تمہارے رب کے یہاں بہتر ثواب اور وہ اُمید میں سب سے بھلی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے:

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ○ ترجمہ کنز الایمان: اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے

رب کے ہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام۔ (پ ۱۶، المریم: ۷۶)

اور فی الحال ان کا نفع یہ ہے کہ وہ کلمات منہ سے نکل کر ہوا میں مجتمع (یعنی جمع) رہتے ہیں قیامت تک تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ کریں گے اور اپنے قابل کے واسطے مَعْظَمَات مانگیں گے۔ اسی طرح کلمات کُفْر منہ سے نکل کر ہوا میں مجتمع رہتے ہیں، قیامت تک تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ کریں گے اور اپنے قابل پر لُغْت کرتے رہیں گے۔

## اوپنی جگہ پر قرآن پاک رکھا ہو تو اس طرف پاؤں کر سکتے ہیں؟

**عرض:** ایسی الماری جو چھت سے لگی ہوئی ہے اُس کے اوپر کے درجے (یعنی حصے) میں قرآن شریف رکھا ہے اب اس کی طرف پیر کر کے سو سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** جب پاؤں کے محاذات (یعنی برابر کے مقام) سے بہت بلند ہے تو حرج نہیں۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکرہیہ، ج ۵، ص ۳۲۲)

## شراب بیچنے والے کو چیز فروخت کرنا

**عرض:** شراب بیچنے والے کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر شراب بیچنے والا مسلمان ہے اور اس کے پاس سوائے شراب کی آمدنی کے اور کچھ نہیں تو اسے کوئی چیز بیچنا حرام ہے۔ اور اگر کافر ہے یا اس کے پاس سوائے اس کے اور بھی آمدنی ہے تو جائز ہے۔ (ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحہ، فصل فی

البيع، ج ۹، ص ۶۳۵ ملخصاً) کفار کے لیے شراب اور خنزیرا لیسے ہیں جیسے ہمارے لیے سرکہ اور بکری ”كَالْحِجْلِ وَالشَّاةِ لَنَا“

(الهدایة، کتاب البيوع، الجزء الثالث، ص ۷۸ ملخصاً)

یعنی جب کہ وہ قیمت اسی مال حرام سے دے اور اگر اس نے کسی سے مال حلال قرض لیا ہے اور مال حلال کے عوض اس سے کچھ خریدتا ہے تو بیچنے میں حرج نہ ہوگا۔ ۱۲ مؤلف غفرلہ

## طوائف کو مکان کرایہ پر دینا

**عرض:** رنڈی (یعنی طوائف) کو مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اس کا اس مکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں، رہنے کے واسطے مکان کرایہ پر دینا کوئی گناہ نہیں، باقی رہا اس کا زنا کرنا یہ اُس کا فعل ہے اس کے واسطے مکان کرایہ پر نہیں دیا گیا۔<sup>۱</sup>

## کیا علاج کرنا سنت ہے؟

**عرض:** علاج کرنا سنت ہے یا نہ کرنا؟

**ارشاد:** دونوں سنت ہے، یہ بھی ارشاد ہوا ہے:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضَعُ  
دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً

علاج کرو اے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے بندو! کہ جس نے  
مرض اتارا ہے اس نے ہر مرض کی دوا بھی اتاری ہے۔

(کنز العمال، کتاب الطب، الباب الاول فی الطب، حدیث ۲۸۰۷۲/۲۸۰۸۹، ج ۱۰، ص ۴/۳ ملتقطاً)

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عادت کریمہ اکثر یہی رہی ہے کہ ان کی اُمت کے لیے سنت ہو اور اکابر صدیقین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ”علاج نہ کرنا“ رہی ہے۔

## انگریزی دوائیوں کا حکم

**عرض:** انگریزی دوائیاں جائز ہیں یا نہیں؟

**ارشاد:** ان کے یہاں جس قدر رقیق (یعنی تیلی) دوائیں ہیں سب میں عموماً شراب ہوتی ہے سب نجس و حرام ہیں۔<sup>۲</sup>

۱: یہاں بھی وہی ہے کہ اگر رنڈی کے پاس سوا اس ناپاک کمائی کے اور مال نہیں جس سے کرایہ ادا کرے تو وہ مال زنا نہ لینا چاہیے اور اگر اور ہو خواہ یوں کہ مال حلال قرض لے کر دے تو حرج نہیں۔<sup>۳</sup> مؤلف غفرلہ

۲: اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت کے زمانے میں الکل سے بنی انگریزی ادویات کا استعمال عام نہیں تھا اس لئے ان کے نجس و حرام ہونے کا حکم ارشاد فرمایا جبکہ موجودہ زمانے میں ان کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے اب ان سے بچنا بہت دشوار ہے چنانچہ ہند کی مجلس شرعی کے فیصل بورڈ نے ان ادویات کے استعمال کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عہد میں انگریزی دواؤں کا استعمال ”عموم بلوئی“ کی حد تک پہنچ چکا ہے لہذا انگریزی دواؤں کے استعمال کی بھی ”عموم بلوئی“ کی وجہ سے حرج دور کرنے کے لئے اجازت ہے البتہ یہ اجازت صرف انہیں صورتوں کے ساتھ خاص ہے جن میں ”ابتلاء عام“ اور ”حرج“ متحقق ہو۔ (صحیفہ فقہ اسلامی، ص ۳۰)

## تیر سے ہلاک ہونے والے جانور کا گوشت کھانا

**عرض:** اَکْبَرِ سَمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَکْبَرُ کہہ کر جانور کے تیر مارا اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے بغیر ذبح کئے مر گیا اب اس کا کھانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** جائز ہے خواہ کہیں لگ جائے۔ (در مختار وردالمختار، کتاب الصيد، ج ۱۰، ص ۶۴ ملخصاً)

{ پھر فرمایا: { اگر تکبیر کہہ کر بندوق (یعنی گولی) ماری اور ذبح کرنے سے پیشتر مر گیا تو حرام ہے اس واسطے بندوق

میں توڑ ہے کاٹ نہیں اور تیر میں کاٹ ہے۔ (ردالمختار، کتاب الصيد، ج ۱۰، ص ۶۹ ملخصاً)

## کیا اصحابِ کھف کا کتا جنت میں جائے گا؟

**عرض:** سنا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلی اور اصحابِ کھف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کتا جنت میں جائے گا اور یہ صحیح ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلی کے لیے ثابت نہیں اور اصحابِ کھف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کتا، بلعم باعور کی شکل بن کر جنت میں جائے گا اور وہ اُس کتے کی شکل ہو کر دوزخ میں پڑے گا۔ اسی کو فرمایا گیا ہے:

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحَدَّثَ  
عَلَيْهِ يَلْهَثُ ۚ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ط  
ترجمہ کنز الایمان: تو اس کا حال کتے  
کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان  
نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۶)

ہم نے اس کو اپنی آیتیں دیں تو وہ نکل گیا اُن سے، اور گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے سبب بلند فرما لیتے لیکن وہ تو زمین پکڑ گیا اور اُس سے نہ اٹھا گیا، اس نے اپنی خواہش کا اتباع کیا (یعنی پیروی کی)۔ تو اس کی مثل کتے کی مثل ہے اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو ہانپے یہ ان لوگوں کی مثل ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تلذیب کی (یعنی جھٹلایا)۔

{ پھر فرمایا: { اُس (یعنی اصحابِ کھف کے کتے) نے محبوبانِ خدا (عَزَّوَجَلَّ) کا ساتھ دیا اللّٰهُ (عَزَّوَجَلَّ) نے اس کو انسان

بنا کر جنت عطا فرمائی اور اس (یعنی بلعم باعور) نے محبوبانِ خدا سے عداوت (یعنی دشمنی) کی۔

## نبی کے لئے بد دعا کرنے والے کا انجام

(بلعم باعور) بنی اسرائیل میں بہت بڑا عالم تھا۔ مُسْتَجَابُ الدَّعَوَاتِ تھا (یعنی اس کی دعا قبول ہوتی تھی) لوگوں نے اس کو بہت سامال دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے بد دعا کرے۔ خبیث لالچ میں آ گیا اور بد دعا کرنی چاہی جو الفاظ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے کہنا چاہتا تھا، اپنے لئے نکلتے تھے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے اس کو ہلاک کر دیا۔

(تفسیر الطبری، الاعراف تحت الاية ۱۷۶، الحدیث ۱۵۴۳، ج ۶، ص ۱۲۳)

## ستونِ حنّانہ کی تدفین

اور اُسٹن حنّانہ شریف<sup>۱</sup> میں علماء کا اختلاف ہے ایک روایت آئی ہے کہ حُضُور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”اگر تو چاہے تو تیرے باغ کے اندر تجھے پھر لگا دیا جائے تجھ میں پھل پھول آئیں یا جنت کا ایک پیڑ ہو جنت کے لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں۔“ (سنن الدارمی، باب ما اکرم اللہ النبی بحنین المنبر، الحدیث ۳۲، ج ۱، ص ۲۹) اس نے عرض کیا: ”دنیا دار الفناء“ (یعنی فنا ہونے والی) ہے۔ میں نے دار الفناء پر دار البقاء (یعنی آخرت) کو اختیار کیا۔“ (مثنوی شریف مترجم، دفتر اول، ص ۵۴) حُضُور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس کو منبر کے نیچے دفن فرما دیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی، باب ذکر المنبر..... الخ، ج ۲، ص ۶۰) حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

آن ستوں رادفن کرد اندر زمیں      تاچو مردم حشر یا بد روز دیں

تا بدانی ہر کرا یزداں بخواند      از ہمہ کار جہاں بیکار ماند

(یعنی اُس ستون کو زمین میں دفن کر دیا گیا اور انسانوں کی طرح قیامت میں اٹھایا جائیگا، یہ اس لئے کہا کہ تو سمجھ جائے کہ جو خدا کا ہو گیا دنیا کے کاموں کے لئے بیکار ہو گیا۔ ت) (مثنوی شریف، دفتر اول، ص ۵۴ مترجم)

۱: کھجور کا وہ خشک تنا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے منبر بنایا گیا تو وہ کھجور کا خشک تنا اوٹنی کی طرح رو پڑا۔ ہجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنی۔ آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اسے سینے سے لگایا اور فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! اگر میں اسے یونہی چھوڑ دیتا تو یہ قیامت تک

روتار ہتا۔ (ماخوذ از دلائل النبوة، ج ۲، ص ۵۵۶ تا ۵۵۸)



## امام سِری رِکعتوں میں تَعَوُّذ پڑھے یا نہیں؟

**عرض:** سِرِّیَّتِیْنِ<sup>۱</sup> میں جب امام اَلْحَمْد شریف پڑھے تو تَعَوُّذ اور امین کہے یا نہیں؟

**ارشاد:** تَعَوُّذ نہ کرے ہاں بِسْمِ اللّٰہ پڑھ کر شروع کرے اور ختم پر امین کہے اور اگر مُقْتَدِر یوں کے کانوں تک آواز پہنچ جائے تو وہ بھی امین کہیں۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲، ص ۲۳۳)

## کیا بعض مرض مُتَعَدِّی ہوتے ہیں؟

**عرض:** حُضُور! بعض مرض مُتَعَدِّی (یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والے) بھی ہوتے ہیں؟

**ارشاد:** نہیں حدیث میں ارشاد ہوا: ”لَا عَدُوٰی“ (بیماری اڑ کر نہیں لگتی)۔

(صحیح البخاری، کتاب الطب، باب لاعدوی، حدیث ۵۷۷۶، ج ۴، ص ۴۲)

## جُذَامی سے بھاگنے کا حکم کیوں؟

**عرض:** پھر جُذَامی<sup>۲</sup> سے بھاگنے کا کیوں حکم دیا گیا؟

**ارشاد:** وہ حکم ضَعِیْفُ الْاِیْمَان (یعنی کمزور ایمان والے) کے واسطے ہے کہ اگر وہ اس کے پاس بیٹھے اور تقدیر الہی (عَزَّوَجَلَّ) سے کچھ ہو جائے تو شیطان بہکا دے گا کہ یہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہو گیا اگر نہ بیٹھتا تو نہ ہوتا تقدیر الہی (عَزَّوَجَلَّ) کو بھول جائے گا۔<sup>۳</sup>

## طَاعُون سے بھاگنے کی ممانعت

**عرض:** پھر طَاعُون سے بھاگنے کی ممانعت کیوں؟

**ارشاد:** اس کے لیے حدیث میں صاف ارشاد ہے:

”الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ“

طَاعُون سے بھاگنے والا ایسا ہی ہے جیسا

جہاد میں کُفَّار کو پیٹھ دے کر بھاگنے والا۔

اس پر بھی یہ ارشاد ہوا کہ جہاں طَاعُون ہو وہاں بلا ضرورت نہ جاؤ۔ (المسند لامام احمد بن حنبل، الحدیث ۲۴۵۸۱، ج ۹، ص ۳۶۵)

۱: فرض کی چھلی وہ دو رکعتیں جن میں قراءت خفی ہوتی ہے ۱۲ مؤلف غفرلہ

۲: جُذَام فسادِ خون کی ایک موذی بیماری ہے۔ اسے کوڑھ بھی کہتے ہیں۔

۳: اس مسئلہ کی تفصیل جاننے کے لئے فتاویٰ رضویہ ج ۲۴، ص ۲۱۵ پر موجود رسالہ ”الْحَقُّ الْمُحْتَلٰی فِي حُكْمِ الْمُبْتَلٰی“ کا مطالعہ کیجئے۔

## کیا مردے سنتے ہیں؟

**عرض:** اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَا انْكَارِ سَمَاعِ مَوْتَى (یعنی مردوں کے سننے کے انکار) سے رُجُوع ثابت ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔ وہ جو فرما رہی ہیں حق فرما رہی ہیں وہ مردوں کے سننے کا انکار فرماتی ہیں مردے کون ہیں جسم، رُوح مردہ نہیں اور بے شک جسم نہیں سنتا، سنتی رُوح ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ کے حُضُور میں سیدنا عمر فاروق اَعْظَمُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی حدیث بیان کی گئی کہ حُضُورِ اَقْدَسِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ“ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں۔ (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ماجا فی عذاب القبر، الحدیث ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۶۲، ۴) اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے فرمایا: ”اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) رَحِمَ فَرَمَاءَ اِمْرِئِ الْمُؤْمِنِينَ بِرَحُورِ اَقْدَسِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ فرمایا: ”اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ“ بے شک وہ جانتے ہیں۔ ”اِمْرِئِ الْمُؤْمِنِينَ كَوْسَهُو هُوَا انْهَوْنَ نے فرمایا: ”مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ“ تو خود اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ مردوں کے علم کا اقرار فرماتی ہیں، سَمَاعِ سے بے شک انکار فرماتی ہیں اور وہ بھی اس کے ان معنوں سے جو عُرف میں شائع ہیں۔ سَمَاعِ کے عُرفی معنی ان آلات (یعنی کانوں) کے ذریعہ سے سُننا اور یہ یقیناً بعد مرنے کے رُوح کے لیے نہیں رُوح کو جسم مثالی دیا جاتا ہے اس جسم کے کانوں سے سُنتی ہے۔ پھر اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ کا ان آیتوں سے اِسْتِزْلَال اور بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارے

سنائے نہیں سنتے مردے۔ (پ ۲۰، النمل: ۸۰)

اور

وَمَا أَنْتَ بِسَمِيعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ

ترجمہ کنز الایمان: اور تم نہیں سنائے

والے انھیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۲)

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، الحدیث ۳۹۷۹، ج ۳، ص ۱۲)

مَوْتَى کون ہیں؟ اَجْسَام! قُبُور میں کون ہیں؟ وہی اَجْسَام! تو پھر اَجْسَام ہی کے سُننے سے انکار ہوا اور وہ یقیناً حق ہے۔



تیسرے ”عِلْمَ مَا فِي الْعَدِّ“ کے بارہ میں اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا قول ہے کہ جو یہ کہے کہ ”مُحْضُو رُوْعِلْمَ مَا فِي الْعَدِّ تَهَا“ وہ جھوٹا ہے۔ اس سے مطلق علم کا انکار نکالنا محض جہالت ہے علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مُصَاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے اس کی تَصْرِيْحِ حَاشِيَةِ كَشَافِ پَرِپَرِ مِيرِ سَيِّدِ شَرِيفِ رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ نَعْمَ كَرْدِي ہے اور یہ یقیناً حق ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔

## آیت قرآنی پر ایک نحوی سوال

عرض:

وَلَقَدْ سَأَلْنَا نُزُلَةَ الْاُخْرَى لَعْنَةً  
ترجمہ کنز الایمان: اور انھوں نے تو وہ جلوہ  
سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى ○ (پ ۲۷، النجم: ۱۳، ۱۴)

میں عِنْدَ كَس سے طرف ہے۔

**ارشاد:** ”سَأَلْنَا“ کی ضمیر فاعل سے اور جن لوگوں نے اس سے مراد رُوَيْتِ جِبْرِيلِ لِي ہے وہ ”سَأَلْنَا“ کی ضمیر مفعول سے مانتے ہیں۔

{ پھر فرمایا: بعض اس پوری سورت کو جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق مانتے ہیں اور اَرْحَجَ وَ اَرْحَجَ اور نَزَلَ قُرْآنًا سے اَوْفَقَ وہی ہے جو تَمْبُورِ صَحَابَہِ کَرَامِ و تَابِعِينَ عِظَامِ و اَرْحَجَ اَعْلَامِ کا مذہب ہے۔ کہ یہ تمام ضمیریں رَبِّ الْعَزَّةِ جَل جلال کی طرف راجع۔ (تفسیر کبیر، پ ۲۷، النجم تحت الایة ۱۳، ج ۱۰، ص ۲۴۳)

ارشاد ہوتا ہے:

فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِي مَا اَوْحَىٰ  
ترجمہ کنز الایمان: اب وحی فرمائی

اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ (پ ۲۷، النجم: ۱۰)

ظاہر آیت چاہتی ہے اس بات کو کہ یہ ضمیریں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی طرف راجع ہوں ورنہ اختلاط ہو جائے گا کہ ”اَوْحَىٰ“ کی ضمیریں دونوں جگہ جبریل (علیہ السلام) کی طرف راجع ہوں گی۔ اور ’عَبْدِي‘ کی ضمیر بیچ میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ)



## خَلَوَاتِ نَشِیْنِی كَا حَكْم

**مؤلف:** مولوی عبدالکریم صاحب رضوی چٹوڑی نے عَزَلَتْ نَشِیْنِی (یعنی خلوت نشینی) کے متعلق کچھ عرض کیا اس پر

**ارشاد فرمایا:** آدمی تین قسم کے ہیں (1) مُفِیْد (2) مُسْتَفِیْد (3) مُنْفَرِد۔

مفید وہ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، مستفید وہ کہ خود دوسرے سے فائدہ حاصل کرے، منفرد وہ کہ دوسرے سے فائدہ لینے کی اسے حاجت نہ ہو اور نہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ مفید اور مستفید کو عَزَلَتْ گزینی حرام ہے اور منفرد کو جائز بلکہ واجب۔ امام ابن سیرین کا واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ جو پہاڑ پر گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے تھے وہ خود فائدہ حاصل کیے ہوئے تھے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ان میں قابلیت نہ تھی ان کو گوشہ نشینی جائز تھی اور امام ابن سیرین پر عَزَلَتْ حرام تھی۔“

## نسبت کی بہاریں

{ پھر فرمایا: } امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا: آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا: ”جنت عطا کی گئی نہ علم کے سبب بلکہ حُضُورِ اَقْدَسِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی (یعنی نگہبان) کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیئے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے“

مانیں نہ مانیں! یہ ان کا کام۔ سرکار نے فرمایا کہ بھونکے جاؤ بس اس قدر نسبت کافی ہے۔ لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے کسی ریاضت کی ضرورت نہیں۔

## ریاضت کی حقیقت

{ پھر فرمایا: } اور اسی میں ریاضت کیا تھوڑی ہے جو شخص عَزَلَتْ نشین ہو گیا! نہ اس کے قلب کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ اس کی آنکھوں کو نہ اس کے کانوں کو! اس سے کہئے جس نے اُوکھلی<sup>۱</sup> میں سردیا ہے اور چاروں طرف سے مُوسل<sup>۲</sup> کی مار پڑ رہی ہے۔ کئی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھ کو کبھی دیکھا نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا اور روزانہ صبح کو اُٹھ کر

۱: لکڑی کا ایک برتن جس میں دھان وغیرہ گوتے ہیں۔ ۲: کوٹنے کا آلہ۔

پہلے مجھے کوسے (یعنی برا بھلا کہتے) ہوں گے اور پھر اور کام کرتے ہوں گے اور بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی نکلیں گے جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا اور نہ میں نے ان کو دیکھا اور روزِ صبح اُٹھ کر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔

{ پھر فرمایا: } گا لیاں جو چھاپتے ہیں اخباروں میں اور اشتہاروں میں، وہ اخبار و اشتہار تو ردی میں جلن کر خا کسٹر (یعنی راکھ) ہو جاتے ہیں لیکن وہ چٹکیاں جو اُن کے دلوں میں لی گئی ہیں وہ قبروں میں ساتھ جائیں گی اور اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی حشر میں رسوا کریں گی۔

## حق گوئی کرنے والوں کو بُرا بھلا بھی کہا جاتا ہے

صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کو تیرہ سو برس سے زائد ہوئے اس وقت تک تمبرے (یعنی بُرا بھلا کہے جانے) سے انہیں نجات نہیں، یہ کیوں اس لیے کہ غاشیہ اٹھایا حق کا اپنے کندھوں پر اور دور مٹایا اہل باطل کا ”رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ تَرَكَهُ الْحَقُّ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَدِيقٍ“ اللہ رحمت کرے عمر پر کہ حق گوئی نے اسے ایسا کر دیا کہ اس کا کوئی دوست نہ رہا۔

(کتاب التمهید لابن عبداللہ، ج ۵، ص ۱۲۲ ملخصاً)

**عرض:** یہ دعا کرنا کہ اللہ وہابیوں کو ہدایت کرے جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** وہابیہ کے لئے دعا فضول ہے ثُمَّ لَا يَعُودُونَ ان کے لئے آپکا ہے وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا اور جو ہدایت پا جائے وہ وہابی نہ تھا ہو چلا تھا کفار وہاں جا کر کہیں گے ہمیں واپس دنیا میں بھیج کہ تجھ پر ایمان لائیں فرمایا ہے، وَلَا تُؤَدُّوا لِعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنهُ (الانعام، ۲۸) اگر انہیں پھر بھیجا جائے تو وہی کریں گے جس سے پہلے منع کیا گیا تھا۔

## صَبْرٌ اور شُكْرٌ

**مَوَاقِف:** پنج شنبہ (یعنی جمعرات) کے دن بعد عصر حسب معمول خط بنانے کے واسطے حجام حاضر ہوا اس کے ہاتھوں میں بدبو تھی، ناپسند فرما کر دھونے کے لیے ارشاد فرمایا۔ { پھر فرمایا: } یہ بھی بے صبری و ناشگری ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ تشریف لیے جارہے تھے راستہ میں نہایت لطیف خوشبو آئی تمام لوگوں نے قصداً اسے سونگھا اور آپ نے ناک بند کر لی۔ آگے چل کر ایک نہایت تیز بدبو آئی سب نے ناک بند کر لی مگر آپ کھولے رہے لوگوں نے سب پوچھا، ارشاد فرمایا: ”وہ نعمت تھی میں نے خوف کیا کہ شاید میں اس کا شکر یہ ادا نہ کر سکوں اور یہ بلا تھی اس پر میں نے صبر کیا۔“

## داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟

**عرض:** داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** ”نَسَائِي“ شریف میں ہے:

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى  
 اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيٌّ مِنْهُ  
 جو شخص داڑھی چڑھائے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
 اس سے بیزار ہیں۔

(سنن نسائی، کتاب الزینة، باب عقد اللحية، ج ۸، ص ۳۶ ملتقطاً)

## بینائی تیز کرنے کا نسخہ

**عرض:** حضور! میری آنکھوں کی روشنی بہت کم ہے؟

**ارشاد:** (1) ”آيَةُ الْكُرْسِيِّ“ شریف یاد کر لیجئے ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھئے نماز پنجگانہ کی پابندی رکھئے اور عورتیں کہ جن دنوں میں انہیں نماز کا حکم نہیں وہ بھی پانچوں وقت ”آيَةُ الْكُرْسِيِّ“ اس نیت سے کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی تعریف ہے نہ اس نیت سے کہ کلام اللہ ہے پڑھ لیا کریں اور جب اس کلمہ پر پہنچیں ”وَلَا يُؤَدُّهَا حَفْظُهُمَا“ دنوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر اس کلمہ کو گیارہ بار کہیں پھر دنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔

(2) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نور نور نور نور

سفید چینی کی تشتتری (یعنی پیٹ) پر اسے اسی طرح لکھیں کہ واؤ اور میم کے سر کھلے رہیں آب زمزم شریف اور نہ ملے تو آب باراں (یعنی بارش کا پانی) اور نہ ملے تو آب جاری اور نہ ملے تو آب تازہ سے دھو کر دو سو چھین باراں پر یا نور پڑھ کر دم کریں اول و آخر تین تین بار یہ درود شریف ”اللَّهُمَّ يَا نُورُ يَا نُورَ النَّوْرِ صَلَّى عَلَيَّ نُورِكَ الْمُنِيرِ وَاللَّهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ“ یہ پانی آنکھوں پر لگائیں اور باقی پی لیں۔ (3) ٹھلیا کے تعویذوں کا چلہ کریں۔

{ پھر فرمایا: } یہ عمل ایسے قوی التاثیر (یعنی زبردست اثر والے) ہیں کہ اگر صدق اعتقاد (یعنی سچا یقین) ہو تو اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى گئی ہوئی آنکھیں واپس آ جائیں۔

## بچا ہوا پانی پھینکنا

**مؤلف:** ایک صاحب نے پانی پی کر بچا ہوا پھینک دیا اس پر



**ارشاد فرمایا:** پھینکنا نہ چاہیے۔ کسی برتن میں ڈال دیتے، اس وقت تو پانی اُفراط (یعنی کثرت) سے ہے، اس ایک گھونٹ پانی کی قدر نہیں۔ جنگل میں جہاں پانی نہ ہو وہاں اس کی قدر معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ایک انسان کی جان بچ جائے۔

## ساری سُلطَنَت کی قیمت ایک گلاس پانی

حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ علماء دوست تھے۔ دربار میں علماء کا مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ پانی پینے کے واسطے منگایا، منہ تک لے گئے تھے، پینا چاہتے تھے کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا: ”اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ! ذررا ٹھہریے! میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔“ فوراً خلیفہ نے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے فرمایا: ”اگر آپ جنگل میں ہوں اور پانی میسر نہ ہو اور پیاس کی شدت ہو تو اتنا پانی کس قدر قیمت دے کر خریدیں گے؟“ فرمایا: ”وَاللّٰهُ! آدھی سلطنت دے کر۔“ فرمایا: ”بس پی لیجئے!“ جب خلیفہ نے پی لیا، انہوں نے فرمایا: ”اب اگر یہ پانی نکلنا چاہے اور نہ نکل سکے تو کس قدر قیمت دے کر اس کا نکنا مول (یعنی خرید) لیں گے“ کہا: ”وَاللّٰهُ! پوری سلطنت دے کر۔“ ارشاد فرمایا: ”بس آپ کی سلطنت کی یہ حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ ایک چُلُو پانی پر آدھی بک جائے اور دوسری بار پوری اس پر جتنا چاہے تکبر کر لیجئے!“

(تاریخ الخلفاء، ص ۲۹۳ ملخصاً)

## سبز رنگ کا جوتا پہننا کیسا؟

**عرض:** سبز رنگ کا جوتا پہننا کیسا ہے؟

**ارشاد:** جائز ہے۔

کیا غوثِ پاک کا چہرہ مبارک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رُخِ انور کے مشابہ تھا؟

**عرض:** حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک شکلِ اقدس (یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے ملتی تھی یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔

## ایک شعر کا مطلب

**عرض:** پھر اس شعر کا کیا مطلب ہے؟

نَقْشَهُ شَاهِ مَدِينَةٍ صَافٍ آتَا بِهِ نَظْرًا  
جَبَّ تَصَوُّرٌ فِي جَمَاتِهِ هِيَ سِرَابُ غَوَاثِ كَا

**ارشاد:** اس کے یہ معنی ہیں کہ جمالِ غوثیت آئینہ ہے جمالِ اقدس کا، اُس میں وہ شہیہ مبارک دکھائی دے گی۔

{ پھر فرمایا: } امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینہ تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مُشَابِہ تھی اور امام

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے سے ناخن پاء (یعنی پاؤں کے ناخن) تک (سنن الترمذی، کتاب المناقب، مناقب الحسن والحسین، الحدیث ۳۸۰،

ج ۵، ص ۳۰) اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک حُضُورِ اَقْدَس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مُشَابِہ ہوں گے۔

## حضرت امیر معاویہ کا انداز ادب

ایک صحابی حضرت عائشہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت (یعنی صورت) کچھ کچھ سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے

ملتی تھی جب وہ تشریف لاتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت سے سرِ وَقْد (یعنی تعظیماً سیدھے) کھڑے ہو جاتے۔

## جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی

{ پھر فرمایا: } اور یہ تو ظاہری شہادت ہے ورنہ فِي الْحَقِيقَةِ وَذَاتِ اَقْدَس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تو شہیہ سے

مُنَزَّہ اور پاک بنائی گئی ہے کوئی ان کے فضائل میں شریک نہیں۔ امام محمد بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بُرْدَہ شریف میں عرض

کرتے ہیں: ع

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

سارے جہاں میں آپ کی خوبیوں میں کوئی شریک نہیں، آپ کی ذات مقدسہ میں حسن کا جو ہر تقسیم نہ ہوگا۔ (قصیدہ بردہ شریف، ص ۲۶ مترجم)

اِنْجِسَّتْ كِي اِصْطِلَاحٍ فِي جَوْهَرِ اُسْ جُزْءٍ كَوْنِهِ هِيَ جِسْمٌ كِي تَقْسِيمُ مَحَالٍ هُوَ۔ یعنی حُضُور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے حُسن

میں سے کسی کو حصہ نہیں ملا۔

## جمعہ پڑھانا کس کا حق ہے؟

**عرض:** جمعہ پڑھانا کس کا حق ہے؟

**ارشاد:** سلطانِ اسلام یا اس کے نائب یا اس کے ماڈون {اجازت یافتہ} کا۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ج ۱، ص ۱۴۵ ملخصاً)

**عرض:** جہاں سلطانِ اسلام نہ ہو وہاں کیا عالمِ دین اس کا قائم مقام مانا جائے گا؟

**ارشاد:** وہاں عالمِ دین ہی سلطانِ اسلام ہے وہ ہو یا اس کا نائب یا اس کا ماڈون۔

## تعدے میں بھول کر الحمد شریف پڑھ لی تو؟

**عرض:** بجائے ”التَّحِيَّاتِ“ کے ”الْحَمْدُ“ شریف پڑھ گیا اب کیا کرے؟

**ارشاد:** سوائے قیام کے، تلاوتِ قرآن نہ رکوع میں جائز ہے نہ سجدہ میں، نہ قعدہ میں، بھول کر پڑھ گیا تو سجدہ سہو

کرے۔ (النہر الفائق، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ج ۱، ص ۳۲۴)

## محض زبان سے کلمہ کفر بکنے والے کا حکم

**عرض:** جس طرح ایمان کا تعلق قلب سے ہے کہ بغیر تَضَدِّ قَلْبِي (یعنی دل کی گواہی کے بغیر) زبانی کلمہ گوئی (یعنی محض زبان سے کلمہ پڑھنا) کارآمد نہیں۔ اسی طرح صرف کلمہ کفر بکنے سے بھی کفر نہ ہونا چاہیے جب تک کہ دل سے اس کا اقرار نہ کرے!

**ارشاد:** زبان سے بلا اِکْرَاهِ اُس کا کلمہ کفر بکننا صَرَّاحَةً اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، ایمان ہوتا

تو بلا اِکْرَاهِ ایسے لفظ نہ بکتا،

إِلَّا مَنْ أَكْرَاهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

ترجمہ کنز الایمان: سوا اس کے جو مجبور کیا

جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو۔ (پ ۱۴، النحل: ۱۰۶)

فرمایا گیا ہے: صرف صورتِ اِکْرَاهِ کا اِسْتِثْنَاءُ ہے۔ حدیث میں ایمان کی تعریف آئی ہے کہ دوبارہ کافر ہونے کو آگ میں

ڈالے جانے سے بدتر جانے۔ (صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب من کرہ ان یعود فی الکفر..... الخ، الحدیث ۲۱، ج ۱، ص ۱۹) اگر

ایسا جانتا ہرگز بلا اکراہ نہ بکتا۔

## نماز کے سجدہ میں سجدہ شکر کی نیت کرنا

**عرض:** سجدہ شکر کی نیت نماز کے سجدہ میں کر لی تو کچھ حرج تو نہیں؟

**ارشاد:** کوئی حرج نہیں اور بہتر یہ کہ نماز سے علیحدہ کرے۔

## سجدہ شکر کا شرعی حکم

**عرض:** ”نور الإيضاح“ میں ہے:

”سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ“ امام اعظم کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے

(نور الايضاح، فصل فی سجدة الشکر، ص ۱۲۷)

**ارشاد:** اس میں امام سے تین قول مقبول ہیں، ایک تو یہی کہ مکروہ ہے، اور ایک لَيْسَ بِشَيْءٍ ﴿سجدہ شکر کچھ نہیں ہے۔﴾

اور صحیح یہ کہ مُسْتَحَبَّہ ہے۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، ج ۲، ص ۷۲۰)

## طلوع آفتاب یا غروب کے وقت نمازِ جنازہ پڑھنا

**عرض:** جنازہ کی نماز طلوع یا غروب کے وقت پڑھ سکتا ہے؟

**ارشاد:** جنازہ اگر آ یا خاص طلوع یا غروب کے وقت یا نمازِ عصر کے بعد تو پڑھ سکتا ہے اور اگر پہلے سے لایا ہو رکھا ہے تو

جب تک آفتاب بلند نہ ہو یا غروب نہ ہو لے نہ پڑھے۔ (حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلاة، فصل فی اوقات المکروه، ص ۱۸۷)

## مرنے کے لئے خوشی سے تیار رہنیے

**عرض:** ایک مرتبہ ارشادِ عالی ہوا تھا کہ مرنے کے لیے خوشی سے تیار رہے حضور جو مجرم (یعنی گنہگار) ہے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟

**ارشاد:** گناہ چھوڑے تو بہ کرے اور خوشی سے موت کے لیے تیار رہے، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتا رہے اور موت کے لیے

خوش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے!

## توبہ کرنے والے سے اللہ عزوجل خوش ہوتا ہے

{ پھر فرمایا: } اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کا بندہ جب توبہ لاتا ہے رب (عَزَّوَجَلَّ) کے حضور تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا

وہ شخص جس کی اُوٹنی مِع زَاورِ اہ کے (یعنی سامان سفر کے ساتھ) گم گئی اس کے مل جانے پر خوش ہو۔

(ماخوذ از صیح مسلم، کتاب التوبۃ، باب فی الحَض علی التوبۃ..... الخ، الحدیث ۲۷۴۴، ص ۱۴۶۸)

## زِنا کی توبہ

**عرض:** حُضور! اگر کوئی شخص ایسے مقام پر زِنا کرے جہاں اِقَامتِ حُدُود (یعنی شرعی سزاؤں کا باضابطہ نظام) نہ ہو وہاں توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی یا نہیں؟

**ارشاد:** جس گناہ میں صرف ”حَقُّ اللّٰہ“ (یعنی اللہ کا حق) ہو ”حَقُّ الْعَبْد“ (یعنی بندہ کا حق) نہ ہو وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا اور بعض وہ ہیں جن میں ”حَقُّ الْعَبْد“ بھی شامل ہوتا ہے تو جب تک اس سے معاف نہ کرائے تو صرف توبہ سے معاف نہ ہوں گے۔

## زِنا کی معافی کس سے مانگے؟

**عرض:** زِنا میں وہ کون کون ہیں جن کا حق شامل ہوتا ہے؟

**ارشاد:** بعض وقت عورت کا بھی حق ہوتا ہے جب کہ اس سے جُبْرًا (یعنی زبردستی) زِنا کیا جائے اور اس کا باپ، بھائی، شوہر جس جس کو اس خبر سے عار (یعنی شرم) لاحق ہوگی اُن سب کا حق ہے۔ علماء میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ صاف لفظوں میں ان سے معافی مانگے کہ ”میں نے یہ کام کیا ہے، معافی چاہتا ہوں۔“ اور بعض نے کہا: یوں کہہ سکتا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا تمہارا حق میرے ذمّہ ہے معاف کر دو لیکن یہ قول مَرْجُوح ہے اور مُفْتٰی کو جائز نہیں کہ قول مَرْجُوح پر فتویٰ دے اور نہ قاضی حکم دے سکتا ہے۔ فقہائے کرام تَصْرِيح فرماتے ہیں:

الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلًا وَخَرَفًا الْإِجْمَاعِ قَوْلِ مَرْجُوحٍ بِرَفْتَوٰی اَوْ حُكْمِ دِيْنَا جِهَالًا اَوْ اِجْمَاعِ كِي مَخَالَفَتِ هِے۔

(در مختار، مطلب اذا تعارض تصحيح، ج ۱، ص ۱۷۵)

## معافی مانگنے کا عجیب واقعہ

{ پھر فرمایا: } اس بربلی میں غدر (یعنی 1857ء کی جنگ آزادی) سے پہلے ایک صاحب نے عجیب شان سے توبہ کی

کہ نہ ایسا کہیں دیکھا نہ سنا! کسی عورت کے ساتھ ان سے گناہ سَرَزَد (یعنی واقع) ہوا بعد کو نادم (یعنی شرمندہ) ہوئے ایک گڑھا

قد آدم (یعنی آدمی کے برابر) اکیلے مکان میں آ کر کھودا اور اس عورت کے شوہر کو وہاں لا کر اس گڑھے میں کودے، تلو اور اس کو دی، اس وقت کہا: ”یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے خواہ قتل کر کے مجھ کو اسی گڑھے میں دفن کر دے کسی کو خبر بھی نہ ہوگی یا (پھر) اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے واسطے معاف کر دے۔“ اُس کی زبان سے کچھ نہ نکلا اور معاف ہی کرنا پڑا۔

## مکان رہن رکھنا

**عرض:** اگر قرضدار ہے اور میعاد پوری ہو چکی ہے اور ڈر یہ ہے کہ قرض خواہ قید کرادے گا اور مکان کوئی لیتا نہیں ہے، ایسی حالت میں دخلی رہن کرنا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر حاجت صحیح ہے اور سچے دل سے بچنا چاہتا ہے اور کوئی نہیں لیتا تو اجازت ہے۔

{ پھر فرمایا: } مگر ایسی صورت بہت کم ہوگی دس کا مال نو میں فروخت کرے گا ہر کوئی لے گا اور رہن میں یہ حالت ہوتی ہے کہ ہزار کا مال چار سو میں۔

## خلال کرنا سنت ہے

**عرض:** خلال کرنا سنت ہے؟

**ارشاد:** ہاں تینکے سے کرنا سنت ہے۔

کیا جھوٹ بولنے، غیبت کرنے سے وضو ٹوٹے گا؟

**عرض:** وضو کی حالت میں جھوٹ بولا یا غیبت کی یا فُشش بکا تو وضو میں کوئی خرابی تو نہیں آتی؟

**ارشاد:** مُسْتَحَب یہ ہے کہ پھر وضو کر لے اگر نماز اسی وضو سے پڑھ لی خُلا فِ مُسْتَحَب کیا۔

(البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۳۵)

## دوا میں اُفیون شامل ہوتا!

**عرض:** اگر دوا میں اُفیون اس قدر پڑی ہو کہ نشہ نہ لائے تو جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ اس کا کوئی اثر واقع نہ ہوتا ہو اور اس کی عادت نہ پڑے اور آئندہ بھی کوئی بات ظاہر نہ ہو تو جائز ہے۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

**عرض:** حدیث شریف میں آیا ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے نشہ لانے والی  
وَمُفْتِرٍ اور فتور پیدا کرنے والی ہر ایک چیز منع فرمائی ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الاشریہ، باب النهی عن المسکر، الحدیث ۳۶۸۶، ج ۳، ص ۴۶۱)

اور ایون مُفْتِر (یعنی عقل کو خراب کرنے والی) ہے تو چاہیے کہ حرام ہو!

**ارشاد:** ہاں اگر حدِ تَفْتِیر کو پہنچے گی تو حرام ہے۔

## شراب اگر نشہ نہ لائے تو جائز ہے؟

**عرض:** تو حضور شراب کا بھی جب تک حدِ اسکار (یعنی نشے کی حد) کو نہ پہنچے یہی حکم ہونا چاہیے!

**ارشاد:** وہ تو حرام لَعْنِیۃً (یعنی بالذات حرام) ہے مثل پیشاب کے نُحْس (یعنی ناپاک) ہے اپنی نجاست کے سبب حرام ہے نہ (کہ) اسکار (یعنی نشے) کے سبب۔ اگر (اس کا) ایک قطرہ کوئیں میں پڑ جائے سارا کنواں نُحْس ہو جائے گا۔

(ردالمحتار و درمختار، کتاب الاشریۃ، ج ۱۰، ص ۳۳)

## امام ضامن کا پیسہ

**عرض:** امام ضامن کا جو پیسہ باندھا جاتا ہے اس کی کوئی اصل ہے؟

**ارشاد:** کچھ نہیں۔

## امام ضامن کس کا لقب ہے؟

**عرض:** حُضُور! یہ کسی صاحبِ کالقب ہے؟

**ارشاد:** ہاں امام علی رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔

گردوغبار کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہہ نکلے تو!

**عرض:** اگر مٹی آنکھ میں پڑ جائے اور پانی نکلے تو ناقضِ وضو (یعنی وضو توڑنے والی) ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** یہ وہ پانی نہیں جس سے وضو ٹوٹے، ہاں دکھتی آنکھ سے اگر پانی نکلے ناقض وضو ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۰)

## نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے

**عرض:** حضور! یہ مشہور ہے ”الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ“ (ولایت نبوت سے افضل ہے)

**ارشاد:** یوں نہیں بلکہ یوں ہے ”وَلَايَةُ النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ نَبُوَّتِهِ“، نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، کتاب المناسک، تحت الحدیث ۲۷۳۰، ج ۵، ص ۱۱۳)

ولایت کی توجہ الی اللہ ہے اور نبوت کی توجہ الی الخلق ہے۔

## ولی کی ولایت نبی کی ولایت کے کروڑوں حصے کو بھی نہیں پہنچتی

**عرض:** حضور! ولی کی ولایت بھی متوجہ الی اللہ ہوتی ہے۔

**ارشاد:** ہاں مگر اس کی توجہ الی اللہ، نبی کی توجہ الی الخلق کے کروڑوں حصے کو نہیں پہنچتی۔

## عرس کا دن خاص کرنے میں حکمت

**عرض:** حضور بزرگان دین کے اعراس کی تعیین (یعنی عرس کا دن مقرر کرنے) میں بھی کوئی مصلحت ہے؟

**ارشاد:** ہاں اولیائے کرام کی اَرْوَاحِ طَّيِّبَةٍ کو ان کے وصال شریف کے دن قبورِ کبریہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے اَخَذَ بَرَکَاتِ کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

## عرس میں ناجائز کام ہوں تو صاحبِ مزار کو تکلیف ہوتی ہے

**عرض:** جُضُّور! بزرگان دین کے اعراس میں جو افعال ناجائز ہوتے ہیں ان سے ان حضرات کو تکلیف ہوتی ہے؟

**ارشاد:** بلاشبہ اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے بھی توجہ کم فرمادی ورنہ پہلے جس قدر قبوض ہوتے تھے وہ اب کہاں!

## مزار شریف پر پائنتی کی طرف سے حاضر ہونا

**عرض:** یہ حکم جو فرمایا گیا ہے کہ مزار شریف پر پائنتی کی طرف (پاؤں کی جانب) سے حاضر ہو، ورنہ صاحبِ قبر کو سراٹھا کر دیکھنا



پڑے گا تو کیا عالم بَرَزَخ میں بھی اُو لیا ئے کرام کو سُر اُٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟

**ارشاد:** ہاں عوام کو بلکہ عامہ اُو لیا ئے کرام کو بھی اس کی ضرورت ہے اور یہ تو شانِ نبُو ت میں سے ہے کہ آگے پیچھے یکساں دیکھنا۔

## سرکارِ علیہ وسلم آگے پیچھے یکساں دیکھتے تھے

بعض صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے جوئے مسلمان ہوئے تھے، نماز میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سُبُکَّت

کی، بعد نماز کے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا نِيْ اَرَى

کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ قبلہ کو ہے میں ایسا

مِنْ خَلْفِيْ كَمَا اَرَى مِنْ اَمَامِيْ

ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں جیسا آگے۔

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الخشوع فی الصلاة، الحدیث ۷۴۱، ج ۱، ص ۲۶۲ و المعجم الاوسط، الحدیث ۴۹۶۶، ج ۳، ص ۴۰۸)

## ہندو کے پھوڑوں کا علاج

**مؤلف:** حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ پر فرمایا کہ حضرت خواجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مزار سے بہت کچھ مُیُوض و برکات حاصل ہوتے ہیں، مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہندو جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا ”کھواجہ اگن (یعنی اے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلن) لگی ہے۔“ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔

## 5 روپے، 1 گھنٹے میں، ایک ہی شخص سے

{ پھر فرمایا: } بھاگلپور سے ایک صاحب ہر سال اجیر شریف حاضر ہوا کرتے۔ ایک وہابی رئیس سے ملاقات

تھی۔ اس نے کہا: میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو بے کار اتنا روپیہ صرف کرتے ہو! انہوں نے کہا: چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو پھر تم کو اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ ساتھ میں آیا دیکھا کہ ایک فقیر سوٹا (یعنی موٹی لکڑی) لیے روضہ شریف کا طواف

کر رہا (یعنی چکر لگا رہا) ہے اور یہ صدا لگا رہا ہے: ”خواجہ! پانچ روپیہ لوں گا اور ایک گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔“ جب اس وہابی کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا ایک گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا، جیب سے پانچ روپیہ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھے اور کہا: ”لومیاں! تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ کیا دیں گے! لو ہم دیتے ہیں۔“ فقیر نے وہ روپے تو جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا: ”خواجہ تو رے بلہاری جاؤں (یعنی اے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ پر قربان جاؤں) دلوائے بھی تو کیسے خبیث منکر سے!“

{ پھر فرمایا: } یمن میں حضرت سید احمد بن علوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار شریف ایسا ہی مشہور ہے۔

## قرب قیامت کی علامات

**عرض:** حُضُورِ قُرْبِ قِيَامَتِ كِي عِلَامَاتِ اَحَادِيثِ صِحْحَةٍ سِي ثَابِتِ هِيْنَ؟

**ارشاد:** ان کے بارے میں صحیح حدیثیں لے بھی آئی ہیں اور حَسَنٌ وَضَعِيفٌ وَمَوْضُوعٌ عَلٰی بِهِيْ مَكْرُوْدِ جَبَالِ كَا نُزُوْجِ اِمَامِ مَهْدِيْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ كَا ظَهْوَرِ حَضْرَتِ عَيْسٰی عَلِيْہِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ كَا نُزُوْلِ، آفتاب کا مغرب سے طُلُوع، یہ سب احادیثِ متواترہ سے ثابت ہے۔ جس رُوْزِ آفتابِ مغرب سے نکلے گا وہی وقت در تُوْبہ (یعنی توبہ کا دروازہ) بند ہونے کا ہوگا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربہا، الحدیث ۴۰۷۰، ج ۴، ص ۳۹۶)

انہیں آیام (یعنی دنوں) میں ”دَابَّةُ الْاَرْضِ“ (یعنی ایک جانور ہے) کعبہ مُعَظَّمہ کے قُرْبِ میں زمین سے نکلے گا اور گھوڑے کی طرح پھری لے کر غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ نکلے گا اور اسی طرح پھری لے کر غائب ہو جائے گا، تیسری مرتبہ جب نکلے گا، تو دہنے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا ہوگا۔ اور بائیں ہاتھ میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

اصحیح: وہ حدیث جس کی سند میں اتصال ہو اس کے راوی عادل اور تائم الضبط ہوں اور وہ حدیث غیر شاذ و غیر مُعَلَّل ہو۔ (نزہۃ النظر، ص ۳۰)

۲: حسن: وہ حدیث جس کے راوی کے صرف ضبط (یعنی محفوظ کرنے کی صفت) میں کمی ہو اور حدیث صحیح کی باقی شرائط پائی جاتی ہوں۔ ضعیف: وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔ (نزہۃ النظر، ص ۳۰، ۳۱) موضوع: وہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی بات جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ (نزہۃ النظر، ص ۶۸، ۶۹)

۳: حدیث متواترہ سے مراد وہ خبر ہے جسے اتنے کثیر راوی روایت کریں جن کے ٹھوٹ پر اتفاق کرنے کو عقلِ انسانی محال قرار دے۔ پھر یہ کثرتِ سند کی ابتدا سے انتہا تک مسلسل برقرار رہے اور اس کا مرجع امر جس ہو یعنی امر مشاہد ہو یا امر منموع وغیرہ۔ (نزہۃ النظر، ص ۱۰۹، ۱۱۰)

آنکَشْتَرِي (یعنی انگوشی) ہوگی جو علم الہی (عَزَّوَجَلَّ) میں مسلمان ہوگا اس کی پیشانی پر عَصَا سے نورانی نشان کر دے گا اور جو کافر ہوگا آنکَشْتَرِي سے کالا داغ لگا دے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الفتن، باب من کره الخروج في الفتن، الحدیث ۱۷۹، ج ۸،

ص ۶۱۹) (جامع الترمذی، کتاب التفسیر، من سورة النمل، الحدیث ۳۱۹۸، ج ۵، ص ۱۳۰ ملخصاً)

حدیث شریف میں آیا ہے: ایک دسترخوان پر چند آدمی بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوں گے یہ کہے گا کہ وہ کافر ہے وہ کہے گا کہ یہ مسلمان۔ (جامع الترمذی، کتاب التفسیر، من سورة النمل، الحدیث ۳۱۹۸، ج ۵، ص ۱۳۰) پھر نہ کوئی مسلمان کافر ہو سکے گا اور نہ کافر مسلمان۔

## قیامت کی تین قسمیں

{ پھر فرمایا: } قیامت تین قسم کی ہے:

قیامت صغریٰ: یہ موت ہے۔ ”مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ“ جو مر گیا اس کی قیامت ہوگی۔

دوسری قیامت وُسطیٰ: وہ یہ کہ ایک قُرُن (یعنی ایک زمانہ) کے تمام لوگ فنا ہو جائیں اور دوسرے قُرُن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔

تیسری قیامت کبریٰ: وہ یہ کہ آسمان وزمین سب فنا ہو جائیں گے۔

## قیامت سے پہلے یہود و نصاریٰ کی باہمی عداوت

عرض: قرآن شریف میں آیا ہے:

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے

دن وہ اُن پر گواہ ہوگا۔ (پ ۶، النساء: ۱۵۹)

اور یہ بھی آیا ہے:

وَأَقْبَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ کنزالایمان: اور اُن میں ہم نے

قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیز ڈال دیا۔ (پ ۶، المائدہ: ۶۴)

جب سب یہود و نصاریٰ قبل قیامت ایمان لے آئیں گے تو عدوات (یعنی دشمنی) کس طرح ہوگی۔  
**ارشاد:** کتابوں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔

(ماخوذ از تفسیر الطبری، النساء، تحت الآیة ۱۵۸، ج ۴، ص ۳۵۶ تا ۳۶۰)

پھر زمانہ بدلے گا، خیر سے شر کی طرف، اسلام سے کفر کی طرف، یہود و نصاریٰ باقی نہ رہے ہوں گے، سب مسلمان ہو گئے ہوں گے لیکن جو ان کی نسلیں ہوں گی ان میں یہود بھی ہوں گے نصاریٰ بھی ہوں گے، ہنود (یعنی ہندو) بھی ہوں گے غرض سب طرح کے کافر ہوں گے، ان کے آپس میں قیامت تک دشمنی و عدوات ہوگی۔

## ایک آیت کی تفسیر

**عرض:** یہ آیہ کریمہ عام ہے یا خاص؟ ”وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ“ الْخُ

**ارشاد:** اس آیت کی دو تفسیریں ہیں:

اگر مَوْتَهُ کی ضمیر عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف پھیری جائے تو یہ آیت ان سب کے واسطے ہوگی جو ان کے زمانہ میں ہوں گے۔ اب پہلے جو ہیں وہ کفر پر مرتے ہیں اسی طرح جو بعد میں ہوں گے وہ بھی کفر پر مرتے ہیں گے، ہاں! آپ کے زمانہ میں جو کتابی ہوں گے، ان میں سے وہ جو تلوار سے بچ رہے ہوں گے کوئی ایسا نہ ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مَوْتَهُ کی ضمیر کتابی کی طرف پھرتی ہے اب یہ آیت عام ہوگی کوئی کتابی نہیں مرتا مگر مرتے وقت جب اُس کو عذاب دکھایا جاتا ہے، پردے اٹھادیئے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا یا اس عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر جس نے بشارت (یعنی خوش خبری) دی تھی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لیکن یہ ایسے وقت کا ایمان ہوگا جب کہ نفع نہ دے گا، ایمان یاس (یعنی ناامیدی کا ایمان) بے کار ہے۔ جب نار (یعنی جہنم کی آگ) سامنے ملا نہ عذاب (یعنی عذاب کے فرشتے) سامنے اس وقت کا ایمان مفید نہیں۔ (تفسیر الطبری، النساء، تحت الآیة ۱۵۹، ج ۴، ص ۳۵۷، ۳۵۸، ملخصاً)

اِنَّ: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۗ تَرْجَمَهُ كَنْزُ الْإِيمَانِ: کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ (ب، النساء: ۱۵۹)

جب فرعون ڈوبنے لگا بولا:

أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا  
مِنَ السُّلْبِينَ ○ (پ ۱۱، یونس: ۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود  
نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔

فرمایا گیا:

أَلَّنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ

اب ایمان لاتا ہے اور اس کے پہلے نافرمان تھا

(پ ۱۱، یونس: ۹۱)

## کافر کی توبہ یاس مقبول نہیں

**عرض:** حضور قرآن شریف میں آیا ہے:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ  
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَّنْ

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ توبہ ان کی  
نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں  
تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو  
کہے اب میں نے توبہ کی۔

(پ ۴، النساء: ۱۸)

{سائل کی یہ عرض ختم نہ ہوئی تھی {ختم ہونے سے پہلے ہی ارشاد فرمایا:

وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا

ترجمہ کنزالایمان: اور نہ ان کی جو  
کافر ہیں۔

(پ ۴، النساء: ۱۸)

{پھر فرمایا: {مسلمان کی توبہ یاس (یعنی ناامیدی کی توبہ) کے مقبول ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ مقبول

ہے اور کفار کی توبہ یاس یقیناً مردود و نامقبول ہے۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف فرما ہیں

**عرض:** (قرآن پاک میں ہے)

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں ایک  
وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ  
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○

(پ ۱، البقرة: ۳۶)

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص زمین سے سوا کہیں نہ جائے گا اور یہ خطاب تمام بنی آدم (یعنی انسان) کو عام ہے تو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر تشریف فرما نہ ہوں۔

**ارشاد:** بے شک یہ عام ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص کو زمین پر قرار (یعنی ٹھہرنا) ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرار زمین ہی پر ہے زمین سے کوئی جدا نہ ہوگا اور اگر یہ معنی لیے جائیں کہ زمین سے کوئی کسی وقت جدا نہ ہوگا تو معراجِ جسدی (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم کے ساتھ معراج پر جانے) سے بھی انکار کرنا پڑے گا اور چاہیے کہ سمنڈر پر چلنا محال ہو کہ اس وقت بھی زمین پر قرار نہیں ہوتا لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ سمنڈر پر تھوڑی دیر کے واسطے چلا جانا زمین پر قرار ہونے کے مُنافی نہیں۔

## ہزار برس کا ایک دن

**عرض:** لیکن عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تو کتنی صدیوں سے آسمان پر تشریف فرما ہیں اُن کا مُسْتَقَرٌّ (یعنی ٹھہرنا) تو آسمان ہی پر ہو گیا۔

**ارشاد:** وہ ایسے عالم میں ہیں جہاں ہزار برس کا ایک دن ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تمہارے

وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ

رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم

سَنَةٍ وَمِمَّا تَعُدُّونَ ○

(پ ۱۷، الحج: ۴۷) لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔

تو شاید ایک دن گزرا ہوگا، دوسرے دن کے کچھ حصے میں اتر آئیں گے۔

۱۔ یونہی ہوئی جہاز پر اڑنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تخت کا ہوا پر جانا بعض اولیائے کرام کا اپنی کرامت سے ہوا پر چلنا، ۱۲ مؤلف غفرلہ

## سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک مناجات کا حکم

**عرض:** ایک مناجات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اس میں یہ الفاظ ہیں (اَبْنُ مُوسَى ابْنُ عِيسَى ابْنُ يَحْيَى ابْنُ نُوحٍ)۔

**ارشاد:** یہ نسبت جھوٹ ہے اور اس کا ورد بھی اچھا نہیں۔ کوئی شخص صدیق تخلص رکھتا ہوگا جس کو عز بی عبارت بھی لکھنا نہ آتی تھی۔

## تفسیر کا ایک سوال

**عرض:** قرآن عظیم میں فرمایا:

يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ  
اِلَىٰ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الْذِّمَنِ كَفَرُوا  
ترجمہ کنزالایمان: اے عیسیٰ میں تجھے پوری  
عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا  
(پ ۳، ال عمران: ۵۵)

”تَوْفَى“ کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد:** اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ حَيْنَ مَوْتِهَا  
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا  
اللّٰهُ (عَزَّوَجَلَّ) لے لیتا ہے جانوں کو  
ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو جو  
نہیں مریں اُن کے سونے کے وقت۔  
(پ ۲۴، الزمر: ۴۲)

ایک لفظ ”تَوْفَى“ کا معنی دونوں کے واسطے فرمایا گیا۔ ”تَوْفَى“ منام (یعنی نیند) کو بھی شامل ہے اور موت کو بھی۔

(تفسیر الطبری، ال عمران، تحت الآیة ۵۵، ج ۳، ص ۲۸۸، ۲۸۹)

تو اب معنی یہ ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں تم کو سلا دینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تم

ان شاعر کا وہ مختصر نام جسے وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے۔

کو کافروں سے اور فرض کیا جائے ”تَوَفَّى“ کے معنی اگر موت ہی کے ہیں تو یہ کہاں سے نکلا کہ تم کو وفات دینے والا ہوں تم کو پھر اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ”ف“ نہیں، ”ثم“ نہیں ”و“ ہے اور وہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا صرف جمع کے لیے آتا ہے اور ”ک“ خطاب جو رَافِعُک میں ہے وہ نہ صرف رُوح سے خطاب ہے اور نہ صرف جسم سے، بلکہ رُوح مَعَ الْجَسَدِ (یعنی جسم کے ساتھ رُوح) مخاطب ہے اگر صرف رُوح مراد ہوتی تو رَافِعُک نہ فرمایا جاتا بلکہ رَافِعُ رُوحِک۔

اسی طرح علمائے کرام نے معراجِ جَسَدِی کو فرمایا ہے کہ فرمایا گیا ہے ”أَسْرَى بِرُوحِ عَبْدِهِ“ فرمایا جاتا۔ (تفسیر الطبری، پ ۱۵، بنی اسرائیل تحت الاية، ج ۸، ص ۱۶)

## متولی کی اجازت کے بغیر مسجد میں وعظ کہنا

**عرض:** بغیر اجازتِ مُتَوَلَّى کے مسجد میں وعظ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ خصوصاً اس حالت میں جب کہ مُتَوَلَّى کا حکم ہو کہ بغیر میری اجازت کے کوئی وعظ نہ کہے۔

**ارشاد:** مُتَوَلَّى اگر عالمِ دین ہے اور یہ روک اس وجہ سے ہے کہ پہلے وہ وَعَاظَ (یعنی بیان کرنے والے) کے عقائد جانچ (یعنی معلوم کر) لے، سُنِّي صِحْحُ الْعَقِيدِہ پائے تو وعظ کی اجازت دے، ایسی حالت میں بغیر اس کی اجازت کے وعظ کہنا جائز نہیں اور اگر ایسا نہیں تو مُتَوَلَّى روکنے کا مجاز نہیں (یعنی اختیار نہیں رکھتا)۔

## اپنی زندگی میں اپنے لئے ایصالِ ثواب کرنا

**عرض:** زید اپنی زندگی میں اپنے لیے ایصالِ ثواب کر سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہاں کر سکتا ہے۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، فصل صلاة الجنائز، مطلب في القراءة..... الخ، ج ۳، ص ۱۸۰) محتاجوں کو چھپا کر دے۔ یہ جو عام رواج ہے کہ کھانا پکایا جاتا ہے اور تمام اَعْيَاءٌ اور بزرگوار کی دعوت ہوتی ہے ایسا نہ کرنا چاہیے۔

## صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے

{ پھر فرمایا: } چھپا کر دینا محتاجوں کو اعلیٰ و افضل ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا:

۱۔ جائیداد موقوفہ کا انتظام کرنے والا۔ ۲۔ غنی کی جمع



صَدَقَةُ السِّرِّ تَطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ  
مُجْهَپَا كَرِصَدَقَةُ دِينَارِبُ الْعَرَضَاتِ جَلَالِ كَعِ غَضَبِ كُوْثُخُنْدَا  
و تَدْفِعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ  
کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔

(المعجم الكبير، الحديث ۱۰۱۸ جلد ۱۹، ص ۴۲۱، صحيح ابن حبان، كتاب الزكوة، باب صدقة التطوع، الحديث ۳۲۹۸، ج ۵، ص ۱۳۱ ملتقطاً)

## زندگی میں صدقہ کرنا موت کے بعد صدقہ کرنے سے افضل ہے

{ پھر فرمایا: } زندگی میں اپنے واسطے صدقہ کرنا بعد موت کے صدقہ سے افضل ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص

نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل صدقہ کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرمایا:

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمَلُ  
أَفْضَلُ صَدَقَةٍ يَهَبُ كَتَوْتَصَدَّقُ (یعنی صدقہ) کرے اس حال میں کہ تو  
الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا  
تندرست ہو اور مال پر حریص، خواہش مند سے دولت کی تمنا رکھتا ہو۔ اور  
بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ  
محتاجی سے ڈرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب دم گلے میں آئے اس وقت کہے کہ فلاں  
كَذَا إِلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ  
کو اتنا فلاں کو اتنا کہ اب تو فلاں کے لیے ہو ہی چکا۔

(صحيح البخارى، كتاب الوصايا، باب صدقة عند الموت، الحديث ۲۷۴۸، ج ۲، ص ۲۳۴)

## قبرستان میں جانے کا طریقہ

**عرض:** حکم یہ ہے کہ قبر کی پابنتی سے حاضر ہو قبرستان میں جب کہ قبور کا اختلاط ہے کیونکر ہوگا؟

**ارشاد:** سب سے پہلے قبرستان کی پابنتی جانب سے آئے اور اسی پابنتی کنارے پر کھڑا ہو کر سلام کہے اور جو کچھ چاہے عام ایصالِ ثواب کرے کسی کو سر اٹھانے کی حاجت نہ ہوگی اور اگر کسی خاص کے پاس جانا ہے تو ایسے راستے سے جائے جو اس قبر کی پابنتی کی جانب کو آیا ہو بشرطیکہ کوئی قبر درمیان میں نہ پڑے ورنہ ناجائز ہوگا۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں زیارت کے واسطے قبروں کو پھانڈ (یعنی پھلانگ) کر جانا حرام ہے۔

(رد المحتار، كتاب الصلاة، ج ۳، ص ۱۸۴)

## قبرستان میں ننگے پاؤں جانا

**عرض:** حضور! یہ حکم ہے کہ قبرستان میں اگر دفن کرنے جائے تو جوتے اتار لے اور اہل قبور کے واسطے استغفار کرتا چلے اگر

راستہ میں ببول کے کانٹے وغیرہ پڑے ہوں تو کیا کرے؟

**ارشاد:** شریعتِ مطہرہ کا عام قاعدہ ہے کہ کسی کام کو منع فرماتی ہے کسی مصلحت سے اور جب بندہ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے فوراً اپنی ممانعت اٹھا لیتی ہے خمر (یعنی شراب) و خنزیر سے بڑھ کر کون سی چیز حرام فرمائی گئی! مگر ساتھ ہی مُضْمَر (یعنی اضطراری حالت والے) کا استثناء فرما دیا جنگل میں ہے پیاس کی شدت ہے شراب موجود ہے پانی کہیں نہیں ہے نہ کوئی اور چیز ہے جس سے پیاس بجھ سکے اب اگر شراب نہ پئے تو پیاس کی وجہ سے مر جائے گا یا نوالہ اٹکا اور سوائے شراب کے کوئی ایسی چیز نہیں جس سے نوالہ اتر جائے اگر نہ پئے تو دم گھٹ کر مر جائے گا، ایسی حالت میں اگر اُس نے شراب نہ پی اور مر گیا گنہگار ہوا، حرام موت مرایا مثلاً بھوک کی شدت ہے اب اگر کچھ نہ کھائے تو مر جائے گا اور سوائے خنزیر کے گوشت کے کچھ موجود نہیں اگر اس نے نہ کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا حرام موت مرے گا۔ (الاشباہ والنظائر، الفن الاول، القاعدة الخامسة الضرریزال، ص ۷۳ ملخصاً)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ

عرض:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ

ترجمہ کنز الایمان: اور ہے یہ کہ انھوں

شِبِّهَ لَهُمْ

نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ

ان کیلئے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ (پ ۶، النساء: ۱۵۷)

اس کے کیا معنی ہیں شبیہ بنا دی گئی ان کے واسطے یا شبہ ڈال دیا گیا۔

**ارشاد:** عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہیں میں سے ایک کافر پر ڈال کر شبہ (یعنی شک) ڈال دیا گیا۔ جب اُس خبیث پر سپیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شبیہ آگئی انہیں آسمان پر اٹھالیا گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں تمہارا وہی ہوں سب کہتے ہم تجھ کو جانتے ہیں تو وہی مکار ہے جس نے لوگوں میں فتنہ ڈال دیا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔

(حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی البیضاوی، تحت الآیة ۱۵۷، ج ۳، ص ۴۴)

ایک خاردار درخت جسے کیکر کہتے ہیں۔

آگے فرمایا جاتا ہے:

وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ  
شَكٌّ مِنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ  
إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۗ وَمَا قَلِيلُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ  
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ وَكَانَ  
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ کے بارہ میں  
اختلاف کیا ان کی طرف سے شک میں پڑے ہیں اور  
ان کو کوئی علم نہیں سوائے وہم کی پیروی کرنے کے اور  
انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان  
کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ) غالب حکمت

(پ ۶، النساء: ۱۵۸، ۱۵۷) والا ہے۔

یہود و نصاریٰ جو اختلاف کرتے ہیں کوئی بات یقین سے نہیں کہتے۔ اپنے اُوہام کے مُتَّبِع (یعنی پیروی کرنے والے) ہیں اس وقت کے نصاریٰ بھی کر رہے ہیں سوائے مُہمَلات (یعنی لغو باتوں) کے ان کے پاس اور کیا ہے اور انہیں پر کیا مُخَصَّر عام کُفَّار کو یہی فرمایا:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ  
وہ سوائے اپنی خواہش نفسانی اور ظن کے کسی اور  
کا اتِّبَاع نہیں کرتے۔ (پ ۲۷، النجم: ۲۳)

بلکہ تمام کُفَّار اسلام کی حَقَّانِيَّت (یعنی سچائی) پر یقین رکھتے چلے آئے ہیں عِنَاداً (یعنی دشمنی کی وجہ سے) اس کے مُنْكَر ہیں۔

## ایک آیت کی تاویل

عرض:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۗ

ترجمہ: کنتز الایمان: اور تمہیں حاجت

مندر پایا پھر غنی کر دیا۔ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۸۰)

اس کے معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کثیر اُمّت والا پایا کہ شفاعت کا وعدہ فرما کر آپ کو بے پروا کر دیا؟

ارشاد: کہہ سکتے ہیں کہ تاویل کے درجے میں ہوگی۔

۱: وہم کی جمع

## تاویل کا جواز

**عرض:** تاویل کہاں تک جائز ہے؟

**ارشاد:** جہاں تک لفظ مُحْتَمَل (یعنی احتمال رکھتا) ہو۔ { پھر فرمایا: }

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ السَّاعَةِ الْاُولَىٰ ۗ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک کچھلی

تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۴)

کی تفسیر ظاہر یہی ہے کہ آخرت آپ کے واسطے دنیا سے بہتر ہے اور میں ہمیشہ اس کی یہی تاویل کرتا ہوں ”وَالسَّاعَةُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ السَّاعَةِ الْاُولٰی“ کہ جو ساعت آتی ہے وہ گزر جانے والی ساعت سے آپ کے لیے افضل ہے۔

## لکڑی کا جوتا

**عرض:** کھڑاؤں (یعنی لکڑی کا جوتا) پہننا کیسا ہے؟

**ارشاد:** صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وضو کھڑاویں پہننا کرتے۔

(بہجة الاسرار، فصل ذکر فصول من كلامه..... الخ، ص ۱۳۲)

## خطبے میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر خیر

**عرض:** خطبے میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر زمانہ اول میں نہ تھا؟

**ارشاد:** زمانہ اول میں ثابت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ذکر خطبے میں کیا، بعد آپ کے ذکر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ اس کی خبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی سخت ناراض ہوئے کہ تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میرے بعد کیوں کیا؟ مجھ سے پہلے چاہیے تھا۔ ذکر کرنے پر ناراضی نہ فرمائی۔

۱: تاویل کا لغوی معنی لوٹانا ہے اور اصطلاح شرع میں ”ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا

ہو اور وہ احتمال کتاب و سنت کے موافق بھی ہو“ (التعريفات للحرجاني، ص ۳۸)

## خطبے میں سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکرِ مبارک

**عرض:** ”رَعْمًا لِأُنُوفِ الْوَهَابِيَّةِ وَالرَّافِضِيَّةِ“<sup>۱</sup> خطبے میں سرکارِ حضورِ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیسا ہے؟  
**ارشاد:** جائز و مستحسن ہے اور میرے تو اکثر خطبوں میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، ہاں التزام (یعنی باقاعدگی) سے نہیں۔

## خطبے میں عالمِ دین کے لئے دعا کرنا

**عرض:** جب کہ عالمِ دین حقیقۃً سلطانِ اسلام ہے اور ”وَأُولَئِكَ مَرْمُتُهُمْ“ سے علمائے دین ہی مراد ہیں تو جس جگہ بادشاہِ اسلام نہ ہو وہاں خطبے میں عالمِ دین کا نام لے کر اس کے واسطے دعا کرنا کیسا ہے؟  
**ارشاد:** جائز ہے۔ جس طرح سلطانِ اسلام دعا کا مستحق ہے اسی طرح عالمِ دین بھی۔

## سید زادے کو سزا دینا

**عرض:** سید کے لڑکے کو اس کا استاد دتا دینا (یعنی ادب سکھانے کیلئے) مار سکتا ہے یا نہیں؟  
**ارشاد:** قاضی جوحد و الہیہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں) قائم کرنے پر مجبور ہے، اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود یہ کہ اس پر حد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے گا لیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے بلکہ دل میں یہ نیت رکھے کہ شہزادے کے پیر میں کچھ لگ گئی ہے اُسے صاف کر رہا ہوں تو قاضی جس پر سزا دینا فرض ہے اس کو تو یہ حکم ہے رع  
تابہ معلم چہ رسد پھر معلم کو کیسے حق پہنچتا ہے !

## شعبان میں نکاح کرنا کیسا؟

**عرض:** شعبان میں نکاح کرنا کیسا ہے؟  
**ارشاد:** کوئی حرج نہیں، ہاں یہ آیا ہے۔ ”لَا نِكَاحَ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ“ (دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں) (رد المحتار، کتاب النکاح، ج ۴، ص ۷۶) اس سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر عید پڑے تو ظاہر ہے کہ جمعہ و عیدین کے درمیان فرصت کہاں ہو سکتی ہے۔

## سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبولِ اسلام

**عرض:** حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مکرِ اسلام لائے؟

۱: وہابیہ اور روافض کی ناک خاک آلود کرنے کے لئے۔ مؤلف غفرلہ

**ارشاد:** حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے جب کل مرد و عورت ۳۹ مسلمان تھے۔ آپ چالیسویں مسلمان ہیں، اسی واسطے آپ کا نام ”مُتَمِّمُ الْأَرْبَعِينَ“ ہے یعنی چالیس مسلمانوں کے پورا کرنے والے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تجھ کو کافی ہے اللہ

(پ ۱۰، الانفال: ۶۴) (عَزَّ وَجَلَّ) اور اس قدر لوگ جو اب تک مسلمان ہو گئے۔

گفّار نے جب سنا تو کہا آج ہم اور مسلمان آدھوں آدھ ہو گئے۔ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے عرض کیا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو خوشخبری ہو کہ آج آسمانوں پر عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اسلام لانے پر شادی رچائی گئی (یعنی جشن منایا گیا) ہے (سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضائل اصحاب رسول، فضل عمر، الحدیث ۱۰۳، ج ۱، ص ۷۶)

اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ گفّار ہمیشہ سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی ایذا رسانی (یعنی تکلیف پہنچانے) کی فکر میں رہتے آئیے کریمہ نازل ہوئی:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۝

اللہ (عَزَّ وَجَلَّ) تمہارا حافظ و ناصر ہے کوئی

(پ ۶، المائدہ: ۶۷) تمہارا کچھ نہیں کر سکتا

اس وقت تک یہ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے ابو جہل لعین نے اعلان کر دیا کہ جو شخص.....! اس کو اس قدر انعام دوں گا ان کو جوش آیا تلوارنگی کر لی اور قسم کھائی کہ اس کو پیام میں نہ کریں گے جب تک کہ مَعَاذَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) اپنے ارادے کو پورا نہ کر لیں گے۔ ”مَعَارِج“ میں ہے کہ انہوں نے تو یہ قسم کھائی اور ادھر رب العزّة جل جلالہ نے قسم یاد فرمائی کہ یہ تلوار پیام میں نہ ہوگی تا وقتیکہ گفّار کو اسی سے قتل نہ کریں۔

جار ہے تھے راستہ میں عبد اللہ بن نَعْمِیٰ صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ملے، دیکھا نہایت غصّہ کی حالت میں سُرخ آنکھیں، تنگی تلوار لیے ہیں۔ پوچھا: کہاں جار ہے ہو؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ عبد اللہ بن نَعْمِیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا:

۱: غالباً یہاں پر بقیۃ الفاظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ادب کی وجہ سے حذف کر دیئے گئے ہیں۔

بنی ہاشم کے حملوں سے کیسے بچو گے؟ انہوں نے کہا: شاید تو بھی مسلمان ہو گیا ہے تجھی سے شروع کروں۔ عبداللہ بن نعیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: ”میری کیا فکر کرتے ہو اپنے گھر میں تو جا کر دیکھو تمہارے بہن بہنوں کی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔“ ان کو غیظ (یعنی سخت غصہ) آیا سیدھے بہن کے مکان پر گئے دروازہ بند پایا اندر سے پڑھنے کی آواز آرہی تھی ان کی بہن کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”سورہ طہ“ شریف سکھا رہے تھے۔ آواز اجنبی، کلام اجنبی، خیر آواز دی۔ بہن نے صَحِيفَه کو کسی گوشہ میں چھپا دیا۔ اور حضرت خباب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایک کوٹھری میں چھپ گئے۔ دروازہ کھولا گیا آتے ہی بہن سے پوچھا: تو دین سے پھر گئی؟ اسلام میں رافضیوں کا سَاتَقِيَّة (یعنی حق بات چھپانا) کہاں! صاف کہہ دیا میں نے سچا دین اسلام قبول کیا۔ خیر انہوں نے تلوار سے تو نہیں مارا مگر ہاتھ سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ جب آپ کی بہن نے دیکھا کہ چھوڑتے ہی نہیں تو کہا: ”اے عمر! تم مار ہی ڈالو مگر دین اسلام ہم سے نہ چھوٹے گا۔“ جب انہوں نے خون بہتا ہوا دیکھا غَضَّه فر و (یعنی کم) ہوا اپنی بہن کو چھوڑ دیا۔

تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں نے نئے کلام کی آواز سنی تھی وہ مجھے دکھاؤ۔ آپ کی بہن نے کہا: تم مُشْرک ہو اس کو چھو نہیں سکتے۔ انہوں نے زبردستی کر کے مانگ لیا، دو تین آیتیں پڑھیں فوراً ان کے منہ سے نکلا: ”وَاللّٰهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ“ (خدا کی قسم یہ کلام بشر کا نہیں) یہ سن کر حضرت خباب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فوراً کوٹھری سے نکل آئے اور کہا: اے عمر! تمہیں خوش خبری ہو کل ہی حُضُوْر اَقْدَس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِيْ جَهْلٍ  
بِنِ هَشَامٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  
الہی اسلام کو عزت دے ابو جہل یا عمر کے ذریعے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (عَزَّوَجَلَّ) کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ انہوں نے فرمایا: ”حضور کہاں تشریف فرما ہیں؟ حضرت خباب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: دار ارقم میں انہوں نے کہا: مجھے لے چلو حضرت خباب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) در دولت پر لے کر حاضر ہوئے یہاں مسلمان بخوف کفار چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ دروازہ پر آواز دی۔ اندر سے آواز آئی: ”کون؟“ انہوں نے کہا: ”عمر۔“ ضَعْفَاءُ مُسْلِمِيْنَ خَائِفِ ہوئے (یعنی کمزور مسلمان ڈرے) دو تین آوازیں دیں مگر جواب نہ دیا گیا جب انہوں

نے سختی سے آواز دی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کواڑ (یعنی دروازہ) کھول دیا جائے اگر خیر (یعنی اچھائی) کے لیے آیا ہے، (یعنی بہتر) اور اگر ارادہ بُشر (یعنی برائی) سے آیا ہے تو واللہ! اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا یہ اندر گئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”عمر! کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو مسلمان ہو؟“ فرماتے ہیں: مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک عظیم الشان پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا۔ یہ عظمت نبوت تھی فوراً عرض کیا: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے خوش ہو کر باواز بلند تکبیریں کہیں جن سے پہاڑ گونج اُٹھے۔ انہوں (یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مسلمان ہوتے ہی عرض کیا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله تعالى عليه وسلم) كُفَّارًا عَلَى الْإِعْلَانِ (یعنی کھلم کھلا) اپنے معبودانِ باطل (یعنی جھوٹے خداؤں) کی پرستش (یعنی پوجا) کریں اور ہم مسلمان چھپ کر اپنے سچے خدا کی عبادت کریں! ہم علانیہ مسجد النحر ام میں نماز پڑھیں گے۔“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر برآمد ہوئے، (یعنی باہر تشریف لائے) مسجد حرام شریف میں اذان کہی گئی، دو صفیں ہوئیں، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور دوسری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس کافر نے دیکھا چُنکا (یعنی خاموشی سے) اپنے گھر میں گھس گیا۔ (تاریخ الخلفاء، فضل عمر بن خطاب..... الخ، ص ۹۰ ملخصاً)

جب ضَعْفَاءُ مُسْلِمِينَ (یعنی کمزور مسلمانوں) نے ہجرت کی تو کُفَّار سے چھپ چھپ کر چلے گئے۔ انہوں نے جب ہجرت فرمائی (تو) ایک ایک مجمع کُفَّار (یعنی کافروں کے ہجوم) میں تنگی شمشیر لے جا کر فرمایا: ”جس نے مجھے جانا اس نے جانا اور جس نے نہ جانا ہو وہ اب جان لے، پہچان لے کہ میں ہوں عمر، جسے اپنی عورت بیوہ اور اپنے بچے یتیم کرنا ہوں وہ میرے سامنے آئے! میں اب ہجرت کرتا ہوں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ عمر بھاگ گیا۔ تمام کُفَّار سر جھکائے بیٹھے رہے کسی نے چوں بھی نہ کی۔ (کنز العمال، کتاب الفضائل، فضائل الصحابة، الحدیث ۳۵۷۹۱، ج ۱۲، ص ۲۵۷، ملخصاً)

{ پھر فرمایا: } سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید

قدم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں، اسی واسطے انکی شہادت اور ان کی رحم دلی درجہ کمال پر تھی۔





## حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری

{ پھر فرمایا: { میری عمر کا تیسواں سال تھا کہ حضرت محبوب الہی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی درگاہ میں حاضر ہوا۔ احاطہ میں مزار میر (یعنی ساز، ڈھول) وغیرہ کا شور مچا تھا۔ طبیعت منتشر (یعنی پریشان) ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا: ”حضور! میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس شور و شغب سے مجھے نجات ملے۔“ جیسے ہی پہلا قدم روضہ مبارک میں رکھا کہ معلوم ہوا سب ایک دم چپ ہو گئے۔ میں سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہو گئے، قدم درگاہ شریف (یعنی مزار شریف) سے باہر نکالا پھر وہی شور و غل تھا۔ پھر اندر قدم رکھا پھر وہی خاموشی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب حضرت کا تضرّف (یعنی کرامت) ہے یہ بین (یعنی کھلی) کرامت دیکھ کر مدد مانگنی چاہی، بجائے حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کے ”یَا غَوْثًا“ زبان سے نکلا۔ وہیں میں نے ”اِکْسِیْبِ اَعْظَمَ“ قَصِیْدَہ بھی تَضَیْف کیا۔

{ پھر ارشاد فرمایا: { ارادت شرطِ اہم ہے بیعت میں، بس مَرُہِد کی ذرا سی توجّہ (یعنی عنایت) درکار ہے اور دوسری طرف (یعنی مرید کی طرف سے) اگر ارادت (یعنی اعتقاد) نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔

## مجھے میرا پیر کافی ہے

ایک صاحب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ٹیلہ پر یاقوت کی کرسی بچھی ہے۔ اس پر حضرت سیدنا معروف کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور نیچے ایک مخلوق جمع ہے ہر ایک اپنی اپنی چٹھی (یعنی رُفْعہ) دیتا ہے، حضرت اس کو بارگاہِ ربّ العزّۃ (عَزَّوَجَلَّ) میں پیش کرتے ہیں۔ یہ چپکے کھڑے رہے، جب حضرت نے بہت دیر تک انہیں دیکھا اور انہوں نے کچھ نہ کہا تو خود فرمایا: ”هَاتِ قِصَّتَكَ اَعْرِضْهَا“ (لاؤ کہ میں تمہاری عرضی پیش کروں) انہوں نے عرض کیا: ”اَوْ شَيْخِی عَزَّوُہ“ (کیا میرے شیخ کو معزول کر دیا گیا) فرمایا: ”وَاللّٰہِ مَا عَزَّوُہ وَلَا یَعْزِلُوْنہُ“ (خدا کی قسم! ان کو معزول نہیں کیا گیا اور نہ کبھی ان کو معزول کریں گے۔) انہوں نے عرض کی: ”تو بس میرا شیخ کافی ہے۔“ آنکھ کھلی، حاضر ہوئے دربار میں سرکارِ غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ واقعہ عرض کریں۔ قبل اس کے کچھ عرض کریں۔ حضور نے

ارشاد فرمایا: ”هَاتِ أَعْرَضُ قِصَّتَكَ“ (لاؤ کہ تمہاری عرض پیش کروں) { فرمایا: } اِرَادَتِ (یعنی اعتقاد) یہ ہے۔

ع (بہجۃ الاسرار، ذکر فضل صحابہ و بشرہم، ص ۱۹۱/۱۹۲، ملخصاً)

ہمہ شیرانِ جہاں بستہ این سلسلہ اند

دنیا کے تمام دلاور و بہادر اسی سلسلہ سے منسلک ہیں

## کامل مرید

{ پھر فرمایا: } جب تک مرید یہ اعتقاد (یعنی یقین) نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیائے زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے،

نفع نہ پائے گا۔ علی بن ہیتی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جو حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص خلیفہ ہیں، ایک بار بیمار پڑے تو

حضور (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان کی عیادت کو گئے۔ ان کے خاص مُرید تھے حضرت علی جو سقّی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کھانا لائے خیال کرتے

ہیں کہ روٹیاں کس کے سامنے پہلے رکھوں؟ اپنے شیخ کے سامنے رکھتا ہوں تو حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف

ہے اور اگر حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتا ہوں تو اِرَادَتِ تقاضا نہیں کرتی۔ انہوں نے اس طرح روٹیاں

گھمائیں کہ دونوں کے حضور ایک ساتھ جا گریں۔ حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہ مُرید تمہارا بہت با اَدب

ہے۔“ علی بن ہیتی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کیا: ”بہت تر قیاں کر چکا ہے اب اس کو حضور اپنی خدمت میں لیں۔“ علی

جو سقّی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) یہ سنتے ہی ایک کونہ میں گئے اور رونا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا: ”اس کو اپنے ہی پاس رہنے دو جس

پرستان کا پہلا ہوا ہے اسی سے دودھ پئے گا دوسرے کو نہیں چاہتا۔“ (بہجۃ الاسرار، ذکر شیخ ابو الحسن الجوسقّی، ۳۸۳)

{ پھر فرمایا: } اپنے تمام حَوَاجِّ (یعنی حاجتوں) میں اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کرے۔

## ایک حدیث کے معنی

عرض: اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ ”لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي“

(شعب الایمان، باب ذکر حدیث جمع القران، الحدیث ۱۷۶، ج ۱، ص ۲۰۰)

ارشاد: اگر موسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) تشریف لائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتِّبَاع (یعنی پیروی) کرو، گمراہ ہو جاؤ گے حالانکہ

نبی نبی میں بحیثیت نبوت کے کچھ فرق نہیں وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناسخ و جمیع ادیان سابقہ (یعنی پچھلے تمام مذاہب کو منسوخ کرنے والے) ہیں بہت احکام شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کے ہماری شریعت میں منسوخ ہوئے تو اگر ان احکام کو چھوڑ کر ان کی پیروی کی جائے یقیناً گمراہی ہے۔

## پورے مسلمان ہو جاؤ

عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند یہود مشرف باسلام ہوئے اور نماز میں تو ریت شریف بھی پڑھنے کی اجازت چاہی آئی کہ یرمہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

اے مسلمانو! اگر مسلمان ہوتے ہو تو پورے مسلمان ہو جاؤ۔  
شیطان کے فریب میں نہ پڑو بے شک وہ تمہارا گھلا دشمن

(پ ۲، البقرة: ۲۰۸) ہے۔

## مرشد کے سامنے خاموش رہنا افضل ہے

**عرض:** شیخ کے حضور چڑکا (یعنی خاموش) رہنا افضل ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** بے کار باتوں سے تو ہر وقت پرہیز چاہیے اور شیخ کے حضور خاموش رہنا افضل ہے، ضروری مسائل پوچھنے میں حرج نہیں۔ اولیائے کرام فرماتے ہیں: شیخ کے حضور بیٹھ کر ذکر بھی نہ کرے کہ ذکر میں دوسری طرف مشغول ہوگا اور یہ حقیقت ممانعتِ ذکر نہیں بلکہ تکمیلِ ذکر (یعنی کمالِ ذکر) ہے کہ وہ جو کرے گا بلا توشل (یعنی بغیر وسیلہ کے) ہوگا اور شیخ کی توجہ سے جو ذکر ہوگا وہ بتوسل (یعنی وسیلہ کے ساتھ) ہوگا یہ اس سے بدرجہا افضل ہے۔

{ پھر فرمایا: } اصل کارِ حُسن عقیدت ہے، یہ نہیں تو کچھ نفع نہیں اور صرف حُسن عقیدت ہے تو خیر اتِّصال (یعنی

قرب) تو ہے۔ { پھر فرمایا: } پر نالہ کی مثل تم کو فیض پہنچے گا۔ حُسن عقیدت ہونا چاہیے۔

## ایک روایت کے بارے میں سوال

**عرض:** حضور! کیا یہ صحیح ہے کہ سرکارِ رُوعاً لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاتِ اقدس کے وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض

کیا: ”صبر بہتر ہے مگر آپ پر اور رونا برا ہے مگر آپ پر۔“

**ارشاد:** یہ الفاظ نظر سے نہ گزرے بہت ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔

**عرض:** اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟

**ارشاد:** معنی ظاہر ہیں صبر ہوتا ہے مُتَنَاہِی (یعنی انتہائی) رنج پر اور سرکارِ دُعا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جُدائی کا رنج ہر مسلمان کو

غیر مُتَنَاہِی (یعنی بے انتہاء) ہے تو غیر مُتَنَاہِی ہی پر صبر کیونکر ہوگا۔

## غم تازہ کرنا

**عرض:** لیکن ہمارے علمائے کرام غم تازہ کرنے کو حرام فرماتے ہیں؟

**ارشاد:** غم تازہ کرنا اپنی طرف سے ہوتا ہے اور یہاں تو جو رنج ہے وہ اپنے اختیار میں نہیں۔

## عزیز کی موت پر صبر

**عرض:** تو اگر بے اختیاری میں اپنے عزیز کی موت پر صبر نہ کرے تو جائز ہوگا؟

**ارشاد:** بے اختیاری بنا لیتے ہیں ورنہ اگر طبیعت کو روکا جائے تو یقین ہے کہ صبر ہو سکتا ہے۔

## اول صدمہ پر صبر

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے راہ میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت اپنے لڑکے کی موت

پر نوحہ کر رہی ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”صبر کر۔“ وہ اپنے حال میں ایسی بے خبر تھی

کہ اس کو نہ معلوم ہوا (کہ) کون فرما رہے ہیں۔ جواب بے ہودہ دیا کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ

دیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لے گئے بعد کو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ وہ

گھبرائی اور فوراً دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یَا رَسُولَ اللَّهِ (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! مجھے معلوم نہ ہوا کہ حضور منع

فرما رہے ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا: ”الْصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى“ (صبر پہلی ہی بار کرتی تو ثواب ملتا پھر تو صبر آ

ہی جاتا ہے۔) (صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب فی صبر علی المصیبة..... الخ، الحدیث ۶۲۶، ص ۴۶۰ تا ۴۶۱)

۱: میت پر چلا کر رونا یا بین کرنا،

## نفس بچے کی طرح ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی صبر کرے تو ہو سکتا ہے۔ امام محمد بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس بچے کی مثل ہے کہ اگر اس کو دودھ پلائے جاوے جو ان ہو جائے گا اور پیتا رہے گا اور اگر چھڑا دو چھوڑ دے گا۔ (قصیدہ بردہ شریف، ص ۴، مترجم) میں نے خود دیکھا گاؤں میں ایک لڑکی ۱۸ یا ۲۰ برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھڑایا تھا ماں ہر چند منع کرتی، وہ زور آور تھی چھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔

## کیا نفس اور رُوح میں فرق ہے؟

**عرض:** حضور نفس اور رُوح میں فرق اعتباری معلوم ہوتا ہے۔

**ارشاد:** اصل میں تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، نفس، رُوح، قلب (یعنی دل)۔ رُوح بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور نفس و قلب اس کے دو وزیر ہیں۔ نفس اس کو ہمیشہ شر کی طرف لے جاتا ہے اور قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کثرتِ معاصی (یعنی گناہوں کی زیادتی) اور خصوصاً کثرتِ بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں حق کے دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی مگر ابھی حق سننے کی استعداد (یعنی قابلیت) باقی رہتی ہے اور پھر معاذ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) آوندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نہ حق سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، بالکل چوہ پٹ (یعنی ویران) ہو کر رہ جاتا ہے۔

## قلب کسے کہتے ہیں؟

{ پھر فرمایا: } قلب (یعنی دل) حقیقۃً اس مضعۃ گوشت (یعنی گوشت کے ٹوٹنے) کا نام نہیں بلکہ وہ ایک لطیفۃ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مضعۃ گوشت ہے سینے کے بائیں جانب۔ اور نفس کا مرکز زیناف ہے اسی واسطے شافیعیہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ نفس سے جو وساوس اٹھیں وہ قلب تک نہ پہنچنے پائیں اور حنفیہ زیناف باندھتے ہیں۔

کہ سرچشمہ باید گرفتن بہ میل چوں پرشد نشاید گرفتن بہ پیل  
چشمہ ایلنے ہی سُر مچو سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے مگر جب اُٹ پڑے تو پھر ہاتھی سے بھی بند نہیں کیا جا سکتا

گر بہ کشتن روز اول باید

یعنی ابتدا ہی میں برائی کا خاتمہ کر دینا چاہئے۔

اسی واسطے یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اگر ہاتھ سختی سے باندھیں جائیں تو وساوس نہ پیدا ہوں۔

## مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا

**عرض:** کسی شخص کو ایسی بلا میں مبتلا دیکھے جو بظاہر انسان کی طرف سے پہنچتی ہے اس وقت بھی یہ دُعا پڑھ سکتا ہے؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ      اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس سے عافیت بخشی جس میں تجھے مبتلا  
وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا      کیا اور بہت ساری مخلوق پر مجھے اس نے فضیلت عطا فرمائی۔

(جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا رای..... الخ، الحدیث ۴۴۲، ج ۵، ص ۲۷۲)

**ارشاد:** ہر بلا میں مبتلا کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے خواہ وہ بلا انسانی ہو یا آسمانی۔

{ پھر فرمایا: } میں تو کافر کا مردہ بھی دیکھ کر پڑھتا ہوں کہ جس بلا میں وہ مبتلا ہوا یعنی مَوْتُ عَلٰی الْکُفْرِ (یعنی کفر پر

مرا) اس سے خدا نے ہم کو نجات دی کہ اس پر شکر کرنا چاہیے۔

## کافر کے جنازے پر شیطان کا رقص

{ پھر فرمایا: } حدیث میں ہے کافر کے جنازہ کے آگے شیطان آگ کے شعلے اُڑاتا ہوا، شور مچاتا، ناچتا ہوا چلتا ہے

کہ آدمی کفر پر مرا۔

## وَسَطَ كَا مَعْنٰی

**عرض:** حضور! وسط کے معنی افضل کے بھی آتے ہیں جیسے

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا      ترجمہ کنز الایمان: کہ ہم نے تمہیں

کیا سب اُمتوں میں افضل۔      (پ ۲، البقرة: ۱۴۳)

**ارشاد:** ہاں وسط کے لیے افضلیت لازم ہے آیت کے معنی یہ ہیں ”ہم نے تم کو بہترین اُمت بنایا۔“ حدیث میں ارشاد ہوا:

أَنْتُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا      تم سے پہلے ۶۹ اُمتیں گزریں اور تم سب میں بہتر ہو۔

(مستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، باب ذکر الفضائل، ۷۰۷، ج ۵، ص ۱۱۳)

## سب سے پچھلی امت

شبِ معراج ربُّ العزَّة چل جلائے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

هَلْ غَمَّكَ أَنْ جَعَلْتُكَ

کیا تمہیں اس بات کا غم ہوا کہ میں نے

اخْرَ النَّبِيِّينَ

تمہیں سب سے پچھلا نبی کیا؟

عرض کی: ”نہیں۔“ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اُمّت کو اس بات کا غم ہوا کہ میں نے انہیں سب سے پچھلی اُمّت کیا؟ عرض کی: ”نہیں اے رب (عَزَّوَجَلَّ) میرے!“ ارشاد فرمایا: ”میں نے انہیں اس لیے سب سے پچھلی اُمّت کیا کہ سب اُمّتوں کو ان کے سامنے رُسوا کروں اور انہیں کسی کے سامنے رُسوانہ کروں۔“

(الخصائص الكبرى، باب كلامه لله عزوجل عند سدرۃ المنتهى، ج ۲، ص ۳۳۱)

## دامنِ رحمت کی وسعت

{پھر فرمایا:} ایک آنکھ کے لیے کروڑوں آنکھوں کا انعزّاز کیا (یعنی مرتبہ دیا) جاتا ہے۔ روزِ قیامت تمام اُمّتوں کو

مُنَادی (یعنی ندا دینے والا) پُکارے گا جب اس اُمّت کی باری آئے گی ندا کرے گا: ”کہاں ہیں اُمّتِ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)؟“ اور دامنِ رحمت وسیع کیا جائے گا اس میں سب کو لے لیا جائے گا کسی کو ان کے حساب کا پتا بھی نہ چلے گا۔

## امت کا حساب اور بخشش

ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی: اے رب (عَزَّوَجَلَّ)! میری اُمّت کا حساب مجھے دے

دے۔ ارشاد فرمایا: ”اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! تیری اُمّت میرے بندے ہیں خود حساب لوں گا اور خود ہی بخش دوں گا۔“

(کنز العمال، کتاب القیامۃ، قسم الاقوال، الحدیث ۳۸۹۶۷، ج ۱۴، ص ۱۶۰، ملخصاً)

## سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ

روزِ قیامت دامنِ رحمت میں تمام اُمّت کو جمع فرمایا جائے گا اور ارشاد فرمایا جائے گا: میں نے اپنے حُقُوقِ مُعَاف



کیے تم آپس میں ایک دوسرے کے حُقُوقِ مُعَافِ کرو اور جنت کو چلے جاؤ۔ (المعجم الاوسط، الحدیث ۱۳۳۶، ج ۱، ص ۳۶۷) یہ سب صدقہ ہے سرکارِ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## پہلی منزل

{ پھر فرمایا: } بندگی ہونا چاہیے، مرتے وقت محمد رَسُوْلُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر جان نکل جائے پھر تو سب

آسان ہے۔ یہی ایک پہلی منزل ہے جو تمام منزلوں سے سخت تر ہے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) آسان فرمائے۔

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہم کو بس ہے

(پ ۴، ال عمران: ۱۷۳) اور کیا اچھا کارساز۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (اسی پر ہم توکل کرتے ہیں)

## اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا

{ پھر فرمایا: } قیامت کے دن باوجود ان رحمتوں اور مہربانیوں کے ہم میں بعض وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی

مُخْلِئُ کریں گے۔ حدیث میں ہے: ایک شخص کو جنت کا حکم ہوگا وہ جانا چاہے گا کہ اس کا حق دار کھڑا ہوگا۔ عرض کرے گا: اے

رَبِّ (عَزَّوَجَلَّ)! میرا حق میرے اس بھائی سے دلا۔ حکم ہوگا: اس کی نیکیاں اُسے دے کر حق پورا کرو۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی

اور اس کا حق باقی رہے گا۔ { فرمایا کہ: } تین پیسے جو کسی کے اپنے اوپر آتے ہوں گے ان کے بدلے میں 700 باجماعت

نمازیں لی جائیں گی۔

حق دار پھر کھڑا ہوگا عرض کرے گا: اے رَبِّ (عَزَّوَجَلَّ)! میرا حق میرے اس بھائی سے دلواؤ حکم ہوگا اس کی

بدیاں (یعنی برائیاں) اس پر رکھ کر حق پورا کرو۔ اس کی بدیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق باقی ہے پھر وہ کھڑا ہوگا اور عرض

کرے گا: اے رَبِّ (عَزَّوَجَلَّ)! میرا حق میرے اس بھائی سے دلواؤ۔ ارشاد ہوگا: اس کی تمام نیکیاں تجھے مل گئیں تیری تمام

برائیاں اس پر رکھ دی گئیں۔

قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ○ ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ سب سے بہتر نگہبان

(پ ۱۳، یوسف: ۶۴) اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔

اب اس کے پاس کیا ہے جو تو لے گا۔ عرض کرے گا: اے رب میرے! میرا حق ابھی باقی ہے وہ اس سے دلوا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جنت سے ایک مکان خوب آراستہ کر کے عرصات (یعنی میدانِ محشر) میں لایا جائے سب لوگ اس کو نہایت شوق سے دیکھنے لگیں گے۔ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرمائے گا: میں اس مکان کو بیچتا ہوں کوئی ہے جو اس کو خریدے حق دار عرض کرے گا: اے رب میرے! اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ ارشاد فرمائے گا: لیکن تیرے پاس اس کی قیمت ہے۔ عرض کرے گا: اے رب میرے! وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمائے گا: اپنے بھائی کا حق مُعاف فرمادے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر

جنت میں چلا جا۔ (الترغیب والترہیب، کتاب الحدود، باب الترغیب فی العفو، الحدیث ۳۷۶۸، ج ۳، ص ۲۴۷ ملتقطاً)

## حقوق العباد کی معافی

{ پھر فرمایا: } خدانے وعدہ فرمایا ہے کہ حق العبد کو میں مُعاف نہ کروں گا ورنہ بندے کا بھی وہی مالک بندے کے حقوق کا بھی وہی مالک وہ چاہے تو تمام بندوں کے تمام حقوق مُعاف کر دے مگر چونکہ اس نے وعدہ فرمایا لیا ہے اس لیے اس طور پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے حقوق العباد مُعاف کرائے گا۔

## چاند دیکھنے کا سیدھا حساب

**عرض:** قُوا عِدَّةَ رُؤْيَتِ هِلَالٍ (یعنی چاند دیکھنے کے اصول) یقینی ہیں یا تخمینی؟

**ارشاد:** تخمینی ہیں، سب میں پہلا فن ہیئت کا امام جو گنا جاتا ہے بَطْلُ يَوْمِ اس نے مجسّطی لکھی، اس میں تمام افلاک کے احوال، ستاروں کا طلوع و غروب، ان کا آپس میں نظری فاصلہ، یہاں تک کہ ثوابت (یعنی ستاروں) کا بھی طلوع و غروب لکھا ہے کہ فلاں ستارہ آفتاب سے اتنے بعد (یعنی دُوری) پر ہوگا تو نظر آئے گا اور اتنے بعد (یعنی دُوری) پر ہوگا تو نہیں اور ہلال (یعنی چاند) کو چھوڑ گیا وہ اس کے قابو (یعنی بس) کا نہ تھا۔ متاخرین نے اس کا قاعدہ (یعنی اصول) ایجاد کیا ہے آٹھ

۱: وہ علم جس میں اجرام فلکی سے بحث کی جاتی ہے۔

وَرَقٍ كَامِلٍ (یعنی ماہرن) پر اس کے اعمال آتے ہیں اور اس کے بعد کبھی یقینی جواب آتا ہے اور کبھی اس قدر اعمال کثیرہ کے بعد بھی مشکوک (یعنی مُشْتَبِه)۔ سیدھا حساب جو ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ کبھی نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ ٹوٹے گا۔

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا  
ہم اُمّتِ اُمّیہ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں مہینہ ۲۹ کا  
وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْنَا فَعَدُّوا ثَلَاثِينَ  
ہے یا ۳۰ کا تو اگر تمہیں شُبہ پڑ جائے تو ۳۰ کی گنتی پوری کر لو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب الشهر يكون..... الخ، الحدیث ۲۳۱۹/۲۳۲۰، ج ۲، ص ۴۳۲/۴۳۳ و سنن النسائی، کتاب

الصیام، الحدیث ۲۱۲۰، ص ۳۵۸)

## اعلیٰ حضرت کا سنِ ولادت

**مؤلف:** ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر

**ارشاد فرمایا:** بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مِیرِی ولادت کی تاریخ اس آیتِ کریمہ میں ہے۔

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ط  
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نے ایمان نقش فرمادیا

ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ سے ان کی مدد فرمائی ہے (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

اور اس کا صدر (یعنی آیت کا ابتدائی حصہ) ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ  
نہ پائیں گے۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ و رسول (عَزَّوَجَلَّ) صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اور یومِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ و

رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھیں اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کی

اولاد یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے ہی کے کیوں نہ ہوں (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

اسی کے متّصل فرمایا: ”أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ“ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بچپن سے مجھے نہرت سے اعداء

اللہ سے اور میرے بچوں کے بچوں کو بھی بفضلِ اللہ تعالیٰ عداوتِ اعداءِ اللہ (یعنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی) گھٹی میں پلا دی گئی ہے اور بفضلِ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔

## خدا ایک پرہیزگار پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ۗ اِبْحَمَدِ اللّٰهَ اِگر قلب کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پر لکھا ہوگا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
اور بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ہر بند مذہب پر ہمیشہ فَتْحٌ وَظَهْرٌ (یعنی کامیابی و مدد) حاصل ہوئی رَبُّ الْعَرْشِ عِزِّ جَلَالِهِ نے رُوحِ  
الْقُدُّوسِ سے تائید (یعنی مدد) فرمائی اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) پورا فرمائے۔

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَئِكَ  
حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ  
اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور انھیں باغوں میں لے  
جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ  
رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ  
اللہ کی جماعت ہے سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت  
کامیاب ہے۔

(پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

## جد امجد کی برکات

{ پھر فرمایا: } یہ سب برکات ہیں حضرت جد امجد (یعنی حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی۔ قرآن عظیم میں  
خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں ہے کہ دو یتیم بچے ایک مکان میں رہتے تھے اس کی دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے ان کا  
خزانہ تھا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اس واقعہ کو فرمایا جاتا ہے:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا  
ان کا باپ صالح تھا۔

(پ ۱۶، الکہف: ۸۲)

اس کی برکت سے یہ رحمت کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں: وہ باپ ان کی ساتویں پشت (یعنی نسل) میں تھا۔

(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، الکہف: ۸۲، ص ۳۳۳)

ا: ترجمہ کنز الایمان: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا۔ (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

صالح (یعنی پرہیزگار) باپ کی یہ برکات ہوتی ہیں یہاں تو ابھی تیسری ہی پشت ہے دیکھئے کب تک برکات اس سلسلے میں رہیں۔

## جدِ امجد کی اعلیٰ حضرت سے محبت

{پھر ارشاد فرمایا: {حضرت جدِ امجد (یعنی حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی میرے ساتھ اس وقت تک وہی محبت ہے جو پہلے تھی۔ میرے حضرت جدِ امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حقیقی بھتیجے تھے، انہوں نے کوئی دقیقہ میری برائی میں اپنے نزدیک اٹھانہ رکھا (یعنی برائی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی)۔ ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ حضرت جدِ امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلنگ پر تشریف فرما ہیں اور وہ صاحبِ پائنتی بیٹھے ہیں اور ہر چند بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت جواب نہیں دیتے اور متوجّہ نہیں ہوتے۔ اتنے میں میں حاضر ہوا۔ حضرت مجھے دیکھ کر فوراً سُرُوقاً (یعنی تکریماً سیدھے) کھڑے ہو گئے اور فرمایا: آئیے مولانا تشریف لائیے۔ باوجود یہ کہ میں ان کی پاؤں کی جوتی کی خاک مگر حضرت نے مجھ کو نہایت تعظیم سے اپنے پاس بٹھایا اور جب تک میں بیٹھا رہا حضرت برابر میری طرف متوجّہ رہے۔ دو روز ہوئے تھے کہ لکھنؤ سے خمیرہ آیا تھا۔ حضرت حُفّہ ملاحظہ فرما رہے تھے، مجھے خواب میں خمیرہ یاد آیا میں اٹھا اور عرض کیا: میں لکھنؤ کا خمیرہ بھرتا ہوں۔ سنتے ہی گھبر گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے: مولانا آپ تکلیف نہ فرمائیے، مولانا آپ تکلیف نہ فرمائیے اور مجھے بٹھالیا۔ میری محبت کے سبب اپنے حقیقی بھتیجے سے کلام نہ فرمایا۔

## شرف بیعت

{پھر فرمایا: {میں روتا ہوا دو پہر کو سو گیا، دیکھا حضرت جدِ امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ایک صندُوقی عطا فرمائی اور فرمایا: عنقریب آنے والا ہے وہ شخص جو تمہارے دردِ دل کی دوا کرے گا۔ دوسرے یا تیسرے روز حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ مارہرہ شریف لے گئے وہاں جا کر شرف بیعت حاصل کیا۔

## مقدمہ جیت گئے

{پھر فرمایا: {ایک مرتبہ جائیداد کا جھگڑا تھا اور وہ بھی ایسا کہ ظاہری رِزق کے بند ہونے کے اسباب تھے۔ اسی

ان حقے کا خوشبودار تمباکو۔

دوران (یعنی انہیں دنوں) میں نے خواب دیکھا کہ حضرت جدِ امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی گھوڑے پر سوار، تمام اعضاء نہایت روشن، عربی لباس میں تشریف لائے۔ میں اسی پھاٹک میں کھڑا تھا حضرت قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور فرمایا: ”بشیر الدین وکیل کے یہاں جانا ہے۔“ آنکھ کھلی میں نے کہا: ”اب مقدمہ فتح ہو گیا“ چنانچہ صبح ہی کو مقدمہ میں فتحیابی (یعنی کامیابی) ہو گئی۔

## روزہ نہ چھوڑنا

آٹھ دس برس ہوئے، رجب کے مہینے میں حضرت والد ماجد (یعنی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ) کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں: ”أحمد رَضًا! اب کی رمضان میں تمہیں بیماری ہوگی اور زیادہ ہوگی روزہ نہ چھوڑنا۔“ یہاں بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى جب سے روزے فرض ہوئے کبھی نہ سفر، نہ مرض، کسی حالت میں روزہ نہیں چھوڑا۔ خیر رمضان شریف میں بیمار ہوا اور بہت بیمار ہوا مگر بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى روزے نہ چھوڑے۔

## زمین کی خریداری

گاؤں میں ایک زمین میری زمین کے مُثَمِّل ایک صاحب کی تھی۔ وہ ایک سود خوار کے ہاتھ بیچنا چاہتے تھے۔ اُن سے کہا گیا، مخالفت کی وجہ سے انہوں نے نہ مانا۔ والد ماجد خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: مجھے نہیں دیتے، سود خوار کو دیتے ہیں اور ملے گی مجھی کو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

## باون برس مدینے میں

ایک بار بیمار ہوا اور شدت کا درد ہوا آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضرت والد ماجد (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اور مولوی برکات احمد صاحب مرحوم جو والد ماجد سے پڑھا کرتے۔ تشریف لائے۔ مولوی برکات احمد صاحب نے پوچھا: ”مزاج کیسا ہے؟“ میں نے کہا: ”درد کی شدت ہے، دعا کیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔“ یہ کہا ہی تھا کہ والد ماجد کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمایا: ”اُبھی تو بَا وَنِ مَدِیْنَةِ طِیْبَةِ مِیْنِ۔“ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ بَا وَنِ بَرَسِ کی عمر میں مدینہ طیبہ کی حاضری ہوگی۔ چنانچہ دوسری حاضری میں میری عمر بَا وَنِ بَرَسِ کی تھی یا یہ کہ اس وقت سے بَا وَنِ بَرَسِ کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری ہوگی اور خدا سے اُمید ہے۔ کہ ایسا ہی کرے۔ آمین۔

## اصرار کر کے کھانا کھلایا

ایک مرتبہ کھانا نہ کھایا تھا۔ کئی روز سے والدین کریمین کو خواب میں دیکھا۔ والدہ ماجدہ نے کچھ نہ فرمایا، والد ماجد نے فرمایا: ”تمہارے نہ کھانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔“ مجبوراً پھر صبح سے کھانا شروع کر دیا۔

## گیارہ درجے تک پہنچا دیا

ایک بار میں نے دیکھا کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ ایک سواری ہے، بہت نفیس اور اونچی بھی تھی۔ والد ماجد نے کمر پکڑ کر سوار کیا اور فرمایا: ”گیارہ درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا آگے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) مالک ہے۔“ میرے خیال میں اس سے مراد غلامی ہے سرکارِ غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔

## خواب میں مدد

ایک صاحب میرے چچا ہوتے تھے۔ گاؤں کا کام وہی کرتے تھے۔ ایک بار حضرت والد ماجد ان سے ناراض ہو گئے، فرما دیا تھا کہ اب سے یہ گاؤں کا کام نہ کریں۔ بعد میں مجھے فرصت نہیں ہوئی اور گاؤں کے کام پر مُعتمد آدمی (یعنی باعتماد آدمی) درکار تھا اور ان سے بڑھ کر کون مُعتمد ہو سکتا تھا مگر حضرت والد ماجد کی ممانعت تھی، سخت فکر تھی۔ ایک روز شب کو تشریف لائے اور ان کا ہاتھ لے کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت کی اجازت ہے کہ انہیں کو گاؤں کا کام دے دو۔ چنانچہ صبح ہی کو میں نے انہیں گاؤں کو بھیج دیا۔

## مرغی کے جھوٹے کا حکم

**عرض:** مرغی اگر پانی میں چونچ ڈال دے ناپاک ہو جائے گا؟

**ارشاد:** ناپاک نہ ہوگا مگر وہ ہے۔ (ردالمحتار، کتاب الطہارۃ، باب المیاء، فصل فی البئر، مطالب فی السنور، ج ۱، ص ۴۲۷) اوبال دیا جائے کراہت زائل ہو جائے گی۔ ا۔

۱: اس طرح کے پانی کے اُبالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کٹورے یا تھالی وغیرہ میں مکروہ پانی ہو دوسرا صاف پانی اس پر ڈالنے یہاں تک کہ بھر کر کناروں سے اُبل کر بہہ جائے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: فتاویٰ رضویہ، خرج ج ۲ ص ۳۵۳)

## سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟

**عرض:** مُتَشَابِهًا لِّكَ، تین بار لو ٹاگر نہ نکلا تو سجدہ سہو لازم ہے؟

**ارشاد:** کیوں! اگر تین بار سُبْحَانَ اللَّهِ کے قُذْرُکَ تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجدة السهو، ج ۲، ص ۲۷۷) (صرف) لو ٹٹنے سے نہ ہوگا اگرچہ دس ہزار بار۔

## ناپاک پانی اُبالنے سے پاک ہو جائے گا؟

**عرض:** ناپاک پانی گرم کیا اتنا کہ اُبل گیا پاک ہوگا یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں کہ پاک پانی نے نہ اُبالا۔

## کیا کتے کے بال ناپاک ہیں؟

**عرض:** کتے کا رواں (یعنی جسم کے باریک بال) تو ناپاک نہیں؟

**ارشاد:** صحیح یہ ہے کہ کتے کا صرف لعاب نجس ہے۔ (ماخوذ از الفتاویٰ الہندیہ، ج ۱، ص ۴۸) لیکن بلا ضرورت پالنا نہ چاہیے کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث صحیح ہے کہ جبریل (علیہ السلام) کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبریل (علیہ السلام) حاضر نہ ہوئے۔ سرکارِ باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا: ”کیوں؟“ عرض کیا:

إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ  
رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الباس، باب فی الصور، الحدیث ۴۱۵۷، ج ۴، ص ۱۰۰)

اُندر تشریف لائے سب طرف تلاش کیا کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلّا نکلا اُسے نکالا تو حاضر ہوئے۔

## خلافت راشدہ

**عرض:** خِلاَفَتِ رَاشِدَةٍ کس کس کی خِلاَفَتِ تھی؟

۱: بعض آیات کی جگہ دوسری ملتی جلتی آیات شبہ کے طور پر پڑھ لینا۔



**ارشاد:** ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولیٰ علی، امام حسن، امیر معاویہؓ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت راشدہ تھی اور اب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، خلافت راشدہ ہوگی۔

۱: حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، کاتب وحی اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، ان کی شان و عظمت میں کسی کوشش نہیں ہونا چاہئے لیکن اس مقام پر خلفائے راشدین کی فہرست میں ان کا نام مبارک آنا کاتب کے ہو یا کسی کے تصرف کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت ملا علی القاری علیہ رحمۃ الباری نے ”شرح فقہ اکبر صفحہ 65“ اور علامہ عبدالعزیز پڑھاروی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ”السنن اس شرح شرح عقائد صفحہ 309“ پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملفوظات شریف کے صفحہ 160 پر بھی خلفائے راشدین کے نام شمار کروائے ہیں جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی شامل نہیں ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: خلافت راشدہ وہ خلافت کہ منہاج نبوت (یعنی نبوی طریقے) پر ہو جیسے حضرات خلفائے اربعہ (یعنی چار خلفائے کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) و امام حسن مجتبیٰ و امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی اور اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قائم کریں گے۔ وَالْغَيْبُ عِنْدَ اللَّهِ (یعنی: اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ت) (ملفوظات، ص 160) نیز فتاویٰ رضویہ جلد 29 ص 356 تا 363 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: ”اور حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۹، ص ۳۵۶)

صدر الشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمیٰ علیہ رحمۃ اللہ الغنی بہار شریعت جلد 1 صفحہ 241 پر لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولیٰ علی پھر چھ مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوئے، ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ (بہار شریعت ج ۱، ص ۲۳۱) جبکہ جلد 1 صفحہ 257 پر لکھتے ہیں: منہاج نبوت پر خلافتِ حقہ راشدہ تیس سال رہی، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھ مہینے پر ختم ہو گئی، پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں۔ (بہار شریعت ج ۱، ص ۲۵۷) واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال

کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اگرچہ خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں لیکن ان کو ”خلیفہ“ کہنا بھی کئی بزرگان دین سے ثابت ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فرمان مصطفیٰ: لا یرال الاسلام عزیز الی اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش یعنی بارہ خلیفوں کے گزرنے تک اسلام غالب رہے گا اور وہ قریش سے ہوں گے۔ (صحیح مسلم مقدمۃ الكتاب باب الامارۃ باب الناس تج لقریش) کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ خلفاء ہیں کہ والیان اُمت ہوں اور عدل و شریعت کی مطابقت حکم کریں، ان کا متصل مسلسل ہونا ضرور نہیں، نہ حدیث میں کوئی لفظ اس پر دال ہے۔ اُن میں سے خلفائے اربعہ و امام حسن مجتبیٰ و امیر معاویہ و حضرت عبداللہ بن زبیر و حضرت عمر بن عبدالعزیز معلوم ہیں اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تو ہوئے باقی تین کی تعیین پر کوئی یقین نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۷، ص ۲۸)

## علیگرہی کوسید صاحب کہنا

**عرض:** بعض علیگرہی کوسید صاحب کہتے ہیں؟

**ارشاد:** وہ تو ایک خمیٹ مُرتد تھا حدیث میں ارشاد فرمایا: لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ مُنَافِقُ كُوسَيْدٍ نَهَى كَرُوهُ تَهْمَارَ اسِيدٍ هُوَ تَوْبِقِينَا تَمْ نِي اِنِ سِنِي رِب (عَزَّ وَجَلَّ) كُو غَضِب دِلَايَا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادآب، باب لا یقول الملوك، الحدیث ۴۹۷۷، ج ۴، ص ۳۸۳)

## عالم کی زیارت کا ثواب

**عرض:** حضور! یہ صحیح ہے (کہ) عالم کی زیارت ثواب ہے؟

**ارشاد:** ہاں حدیث میں وارد ہوا: مِنَ الْعِبَادَةِ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ كَعِبِ مَعْظَمَهُ كُو دِي كِهْنَا عِبَادَتِ هِي، قِرَانِ عَظِيمِ كُو دِي كِهْنَا عِبَادَتِ هِي، عَالَمِ كِي چِرِي كُو دِي كِهْنَا عِبَادَتِ هِي۔

(کنز العمال، کتاب المواعظ، الحدیث ۴۳۴۸۶، ج ۱۵، ص ۳۷۱ ملقطاً)

## دل میں طلاق دینا

**عرض:** دل میں اگر الفاظ طلاق بولے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں، جب تک اتنی آواز سے نہ کہے کہ اگر کوئی مانع (یعنی رکاوٹ) نہ ہو تو خود اس کے کان سن لیں۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الرابع فی الصفة الصلوٰۃ، الفصل الاول، ج ۱، ص ۶۹ ملخصاً)

## شادی شدہ کافرہ کا اسلام لانے کے بعد نکاح

**عرض:** کافرہ اگر اسلام لائے اور شوہر والی ہو تو کیا کرے؟

**ارشاد:** تین حیض تک انتظار کرے اگر اس کے اندر شوہر اسلام لے آیا، یہ اس کے نکاح میں ہے ورنہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ (درمختارورد المختار، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر، مطلب الصبی المحنون، ج ۴، ص ۳۵۸/۳۵۹)

## مرگی کی بیماری

**عرض:** حضور! یہ صُرع کیا کوئی بلا ہے؟

**ارشاد:** ہاں اور بہت خمیٹ بلا ہے اور اسی کو اُمُّ الصَّبِيَانِ کہتے ہیں، اگر بچوں کو ہو ورنہ صُرع (مرگی)۔ تجربہ سے ثابت ہوا

ا: بچوں کی ایک بیماری جس سے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں۔

ہے کہ اگر پچیس برس کے اندر اندر ہوگی تو اُمید ہے کہ جاتی رہے اور اگر پچیس برس کے بعد یا پچیس برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر (یعنی دوسری بات) ہے۔ یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔

## دربار رسالت میں مرگی کا علاج

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لائیں عرض کی: ”صبح و شام یہ مُضْرَع ہو جاتی ہے۔“ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: اُحْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ، اَنَا رَسُولُ اللَّهِ نَكَلَ اَعْدَاءُ اللَّهِ دُشْمَن! میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کا رسول ہوں۔ اسی وقت اسے قے آئی ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور غائب ہو گئی اور وہ لڑکا ہوش میں ہو گیا۔ ۱ (مُسْنَدُ أَحْمَد، مسند الشاميين، الحديث ۱۷۵۷۴، ج ۶، ص ۱۷۸)

## غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرگی کا علاج فرمایا

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا: ”اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔“ چنانچہ اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اب تک بغدادِ مقدّس میں مرگی نہیں ہوتی۔ (بہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ مرصعا بشی من عجائب، ص ۱۴۰ باختلاف اللفاظ)

## بچوں کو مرگی کے مرض سے بچانے کا نسخہ

{ پھر فرمایا: } بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچہ کے کان میں کہہ دی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عمر بھر محفوظ رہے۔ (شعب الایمان، باب فی حقوق الاولاد، الحدیث ۸۶۱۹، ج ۶، ص ۳۹۰ بتغییر قلیل)

## گرامو فون سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت کا حکم

عرض: گراموفون کا کیا حکم ہے؟

ارشاد: بعض باتوں میں اصل کا حکم ہے، بعض میں نہیں۔ گراموفون میں اگر قرآن عظیم ہو اس کا سنتنا فرض نہیں بلکہ ناجائز اور آیت سجدہ اس سے اگر سنتی سجدہ واجب نہیں، حالانکہ یوں استماع قرآن (یعنی قرآن کا غور سے سننا) ہے اور آیت سجدہ پر سجدہ واجب اور گانے میں اصل کا حکم ہے، اگر اصل جائز یہ بھی جائز اگر اصل حرام یہ بھی حرام مثلاً عورت و اُمرد کی آواز نہ ہو۔ اے یہاں غالباً کتابت کی غلطی تھی جو درست کر دی گئی ہے۔ ۲: ایک آلہ جس کے ریکارڈ سے آواز نکلتی ہے۔

مزا میسر (یعنی ساز، ڈھول وغیرہ) کی آواز نہ ہو اشعار خلاف شریعت نہ ہوں تو جائز ہے ورنہ نہیں اور قرآن عظیم کا سننا تو جُود (یعنی بے خودی کی کیفیت) ہے کہ عبادت ہے اور گراموفون سے سننا کہو ہے کہ وہ موضوع ہی اسی لیے ہے اگرچہ کوئی نیت لہو نہ کرے مگر اصل وضع (یعنی بناوٹ) کی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر جو مصالح اس میں بھرا ہوتا ہے، اس میں اکثر اسپرٹ کا میل ہوتا ہے اور اسپرٹ شراب ہے اور شراب نجس ہے تو اس میں قرآن عظیم کا بھرننا ہی حرام ہوا۔

## جانوروں کو کھلانے پلانے کا ثواب

**عرض:** جانوروں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہاں حدیث میں ارشاد ہوا: فی کُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ہر تر بگڑ میں اجر ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما ورد فی سقی الماء، الحدیث ۶، ۷۸۰، ج ۴، ص ۳۱۱) یعنی ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں ثواب ہے۔

## تھانوی کو سید کہنا کیسا؟

**عرض:** تھانوی کو لوگ سید کہتے ہیں اور وہ مانع نہیں ہوتا (یعنی انہیں ایسا کہنے سے نہیں روکتا) حالانکہ وہ قوم کا جھوٹے ہے۔

**ارشاد:** حدیث میں ہے: مَنْ اَدْعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا جو شخص اپنا باپ چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنائے اس پر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اور تمام فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل (کنز العمال، کتاب الدعوی، باب دعوی النسب و لحاق الولد، الحدیث ۹، ۵۳۰، ج ۶، ص ۷۸) دوسری حدیث میں ارشاد ہوا: فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اس پر جنت حرام ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الفرائض، باب من ادعی الی غیر ابیہ، الحدیث ۶۷۶۶، ج ۴، ص ۳۲۶) تیسری حدیث میں فرمایا: فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ التَّابِعَةُ اِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ اس پر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی پے در پے قیامت تک لعنت ہے۔ (کنز العمال، کتاب الدعوی، باب دعوی النسب و لحاق الولد، الحدیث ۹، ۵۳۱، ج ۶، ص ۷۹)

## ایام بیض میں روزہ رکھنے کی فضیلت

**عرض:** ایام بیض میں روزہ رکھنے سے مہینہ بھر کا ثواب ملتا ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔ پہلی دوسری تیسری یا تیرہ، چودہ، پندرہ یا ستائیس، اٹھائیس، اُنتیس ان میں سے جس میں روزہ رکھے سب کا ثواب برابر ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری لیالی ہلال (یعنی چاند کی راتیں) اور تیرہ چودہ پندرہ لیالی بیض {سفید راتیں} اور ستائیس اٹھائیس اُنتیس لیالی سود {سیاہ راتیں} {

## حضور اقدس ﷺ کے نام پاک چومنے والے کی بخشش

**عرض:** حضور! ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص دوسو برس تک فسق و فجور میں مبتلا رہا اور بعد انتقال اس کی مغفرت فرمادی گئی، اس وجہ سے کہ اس نے توریت شریف میں نام پاک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھ کر چوم لیا تھا۔

(حلیۃ الاولیاء، الحدیث ۶۹۵، ج ۴، ص ۴۵ ملخصاً)

**ارشاد:** ہاں صحیح ہے ان کا نام مسطح تھا۔

### رب عزوجل کے کرم کی کوئی انتہا نہیں

{پھر فرمایا:} اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں اس کی رحمت چاہے تو کروڑوں برس کے گناہ دھو دے، غلامی ہونا چاہیے سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی۔ ایک نیکی سے مُعاف فرمادے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور اگر عدل فرمائے تو کروڑوں برس کی نیکیاں ایک صغیرہ کے عوض رد فرمادے۔ حدیث میں ارشاد ہوا کہ کوئی شخص بغیر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا۔ صحابہ نے عرض کیا: ”وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ“ آپ بھی نہیں یا رَسُوْلَ اللّٰهِ (عَزَّوَجَلَّ) صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ارشاد فرمایا: ”وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ“ اور میں بھی جب تک کہ میرا رب (عَزَّوَجَلَّ) رحمت نہ فرمائے۔ (یعنی میرے رب نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ مؤلف)

(صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، الحدیث ۶۶۳، ج ۴، ص ۲۳۷)

### حق مغفرت

گناہ نہ سہی، استحقاق (یعنی حق طلب کرنا) کس بات کا ہے! دنیا ہی کا قاعدہ دیکھئے اگر اجیر (یعنی مزدور) ہے مزدوری کرے گا اجرت پائے گا اور اگر عبد (یعنی غلام) ہے مملوک (یعنی زرخرید) ہے کتنی ہی خدمت کرے، کچھ نہ پائے گا۔ ہم سب تو اسی کی مخلوق و مملوک ہیں۔ اس کی رحمت ہی رحمت ہے آپ ہی بندوں کو توفیق دی آپ ہی ان کو اسباب دیئے آپ ہی آسان فرمایا اور فرماتا ہے: ”بدلہ ہے اُنکے نیک عملوں کا۔“ نِعْمَ الْعَبْدُ کیا اچھا بندہ ہے!

### صبر کہاں سے کرتا؟

ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کتنے عرصہ تک بلا (یعنی مصیبت) میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا! جب اس سے نجات ملی عرض کیا: ”الہی (عَزَّوَجَلَّ)! میں نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا: ”اور توفیق کس گھر سے لایا۔“ ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سر پر خاک اڑائی عرض کیا: ”بے شک اگر توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا!“

## کیا آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟

**عرض:** آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام رسول لے بھی تھے؟

**ارشاد:** ہاں۔ (عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب بدؤ الوحی، باب کیف كان بدء الوحی..... الخ، ج ۱، ص ۳۸)

## اَوَّلُ الرُّسُلِ کون؟

**عرض:** نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اَوَّلُ الرُّسُلِ کہا جاتا ہے یہ کس وجہ سے؟

**ارشاد:** کافروں کی طرف جو رسول بھیجے گئے ہیں ان میں سب سے اَوَّلُ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ آپ سے پہلے

جو نبی تشریف لائے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ (تفسیر الخازن، البقرة ۲۱۳، ج ۱، ص ۱۵۰)

## کَلْبِ عَلِي كے معنی

**عرض:** کلبِ علی کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد:** علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی سرکار کا کتا۔

## کیا کسی نے ”کلب“ نام رکھا

**عرض:** اولیائے کرام میں بھی کسی کا نام کلب ہوا ہے؟

**ارشاد:** سلف صالحین صحابہ تابعین میں کلب کلب کلاب نام ہوئے۔ (تہذیب التہذیب، حرف الکاف، ج ۶، ص ۵۸۶، ۵۹۵)

## خاندانِ سَلَارِیہ سے بیعت

**عرض:** خاندانِ سَلَارِیہ بھی کوئی خاندان بیعت ہے۔

**ارشاد:** نہیں۔ حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجاہد تھے۔ شہید ہوئے ہیں تو کیا ہر شہید سے بیعت کا سلسلہ

شروع ہو جائے گا؟

انہی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی ہو اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں (شرح

العقائد نسفیہ ص ۱۷، ۱۷۷) نبی وہ ہے جس کی طرف وحی شرع کی گئی ہو اور رسول وہ ہے جو وحی شرع کے ساتھ ساتھ مامور بالتبلیغ بھی ہو۔ لہذا

ہر رسول نبی ہے مگر اس کا عکس نہیں (یعنی ہر نبی رسول نہیں)۔ (المعتقد المنتقد، ۱۰۵)

## سمندر کے پاس ہوتے ہوئے نہر کی تمنا

{ پھر ہنڈ کرہ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا { کہ آپ اجلہ اکابر اولیاء سے ہیں۔ حضرت کے ایک مُرید بارگاہِ غوثیت میں حاضر تھے۔ عرض کی: مجھے اپنے شیخ کی زیارت کا شوق ہے حضور نے ایک شیشہ سامنے رکھ دیا۔ اس میں شیخ کی شکل نظر آئی کہ دانتوں میں انگلی دبائے فرما رہے ہیں جو بحر (یعنی سمندر) کے پاس ہو وہ جدول (یعنی نہر) کو چاہے!

(بہجة الاسرار، فصل ذکر احترام المشائخ..... الخ، ص ۴۳ ملخصاً)

## کیا مجدد الف ثانی نے خود کو غوثِ اعظم سے افضل کہا ہے؟

**عرض:** کیا حضرت مجدد الف ثانی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے کہیں حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی تفضیل (یعنی فضیلت) بھی لکھی ہے؟

**ارشاد:**

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ

ترجمہ کنز الایمان: وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا ان

وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ان

(ب ۱، البقرة: ۱۴۱) کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔

{ پھر فرمایا: { مکتوبات کی اوّل دو جلدوں میں تو ایسے الفاظ ملیں گے جن میں حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا

گنتی! تیسری جلد میں فرماتے ہیں: ”جو کچھ فیوض و برکات کا مجمع ہے وہ سب سرکارِ غوثیت سے ملے ہیں۔ نُورُ الْقَمَرِ

مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ چاند کی روشنی سورج کے نور سے مستفاد ہے۔ (مکتوبات امام ربانی، مکتوب ۱۲۳، ج ۲، ص ۱۴۵) اسی میں لکھا

ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں نے اگلی جلدوں میں کہا سحو سے (یعنی بیداری کی حالت میں) کہا! نہیں بلکہ زیادہ سکر (یعنی بے

خودی کی کیفیت) ہے۔

اب اگر کوئی مجددی (یعنی پیروکار) ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے، ہم تو ایسے شیخ کے غلام ہیں جس

نے جو بتایا سحو سے (یعنی بیداری کی حالت میں) بتایا، خدا کے فرمانے سے کہا۔ تمام جہان کے شیوخ (یعنی بزرگوں) نے جو زبانی

دعوے کیے ہیں ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارا سکر (یعنی بے خودی کی کیفیت) ہے اور ایسی غلطیاں دو وجہوں (یعنی دو سبب) سے ہوتی ہیں  
یا ناواقفی یا سکر۔

## غوث اعظم وقت کے بادشاہ ہیں

{ پھر فرمایا { سکر تو یہی ہے اور ناواقفی یہ کہ مثلاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بزرگ سیدی  
عبدالرحمن طفسونجی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ایک روز برسبر منبر فرمایا:

”أَنَا بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كَالْكَرْكِي بَيْنَ  
الطُّيُورِ أَطْوَلَ عُقْبًا“  
کلنگ لاسب میں اونچی گردن والا۔

وہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے انہیں ناگوار  
ہوا کہ حضور پر اپنے آپ کو تفضیل (یعنی فضیلت) دی۔ گدڑی لٹھینک کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”میں آپ سے گشتی لٹنا چاہتا  
ہوں۔“ حضرت سیدی عبدالرحمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اُن کو سر سے پیر تک دیکھا پھر پیر سے سر تک دیکھا پھر سر سے پیر دیکھا۔  
غرض اسی طرح کئی بار نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے لوگوں نے حضرت سے سبب پوچھا فرمایا: ”میں نے دیکھا اس کے جسم کو کہ  
کوئی رونگٹا رحمتِ الہی سے خالی نہیں ہے، اور ان سے فرمایا: ”گدڑی پہن لو۔“ انہوں نے کہا: ”فقیر جس کپڑے کو اتار  
پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔“ بارہ روز کے راستہ پر ان کا مکان تھا اپنی زوجہ مقدسہ کو آواز دی: ”فاطمہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ  
علیہا) میرے کپڑے دو۔“ انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے۔ حضرت  
سیدی عبدالرحمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے دریافت کیا کس کے مرید ہو؟ فرمایا: ”میں غلام ہوں سرکارِ غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔“  
انہوں (عبدالرحمن طفسونجی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)) نے اپنے دو مریدوں کو بغداد بھیجا کہ حضور (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے جا کر عرض کرو! بارہ  
برس سے قُرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں آپ کو نہ جاتے دیکھنا آتے۔ ادھر سے یہ دونوں مرید چلے ہیں کہ ادھر غوث اعظم

۱: ایک ٹیلا لمبی گردن والا پرندہ۔ ۲: فقیروں کا وجہ جس میں بہت سے پیوند لگے ہوں۔

۳: وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں۔



رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو مریدوں سے ارشاد فرمایا: ”طفسونج جاؤ!“ راستہ میں شیخ عبدالرحمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دو آدمی ملیں گے ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبدالرحمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو جواب دو کہ وہ جو صحن میں ہے کیونکر دیکھ سکتا ہے؟ اس کو جو دالان میں ہے اور وہ جو دالان میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے؟ جو کوٹھری میں ہے اور وہ جو کوٹھری میں ہے اسے کیونکر دیکھ سکتا ہے؟ جو نہا نخانہ خاص (یعنی خاص پوشیدہ جگہ) میں ہو۔ میں نہا نخانہ خاص میں ہوں اور علامت یہ ہے کہ فلاں شب بارہ ہزار اولیاء کو خلعت عطا ہوئے تھے۔ یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ“ لکھی تھی۔ یہ سن کر شیخ عبدالرحمن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے سر جھکا لیا اور فرمایا:

صَدَقَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَهُوَ سُلْطَانُ الْوَقْتِ  
 شیخ عبدالقادر نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں۔

(ماخوذ از بھجۃ الاسرار، فصل ذکر فضول من کلامہ..... الخ، ص ۶۰/۶۱)

## نیلامی میں لاوارث جانور خریدنا

**عرض:** کانچی ہاؤس کی لاوارث گائے بکری وغیرہ کا نیلام خریدنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** حرام ہے۔

## حق مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے نکاح کرنے کی وعید

**عرض:** جو شخص مہر قبول کرتے وقت یہ خیال کرے کہ کون ادا کرتا ہے اس وقت تو قبول کر لو پھر دیکھا جائے گا ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** حدیث میں ارشاد فرمایا: ایسے مرد و عورت قیامت کے روز زانی و زانیہ اٹھیں گے۔

(کنز العمال، کتاب النکاح، الفصل الثالث فی الصداق، الحدیث ۴۷۱۹ ج ۱۶، ص ۱۳۷ بدون لفظ ”الزانیہ“)

## کفار کے سامنے بد مذہبوں کا رد

**عرض:** ایک جلسہ میں آریہ و عیسائی اور دیوبندی قادیانی وغیرہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ بھی ہوں وہاں دیوبندیوں کا

انہ وہ سرکاری مکان جہاں لاوارث مویشی رکھے جاتے ہیں۔ ۲: یہ اس وقت ہے جب مرد مہر کو بے کار رسم سمجھ کر قبول کرے اور عورت کی طرف سے بھی یہی رویہ ہو، اسی وجہ سے دونوں کو زانی و زانیہ کی مثل قرار دیا گیا ہے، شرعی طور پر نکاح بہر حال ہو جائے گا جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد 12 صفحہ 199 پر لکھتے ہیں: یہ ان کے واسطے ہے جو محض برائے نام ٹھوٹے طور پر ایک لغو رسم سمجھ کر مہر باندھیں، شرعاً نکاح ان کا بھی ہو جائے گا اور وہ حکم شریعت زانی و زانیہ نہیں زن و شو (یعنی میاں بیوی) ہیں اگرچہ قیامت میں ان پر اس بد نیت (یعنی بُری نیت) کا وبال مثل زنا ہو کہ انہوں نے حکم الہی کو ہلکا سمجھا۔

رد نہ چاہیے؟

**ارشاد:** کیوں! کیا ان سے موافقت کی جائے گی؟ حاشا! (یعنی ہرگز نہیں) یہ محال (یعنی ناممکن) ہے اسلام پر اس میں کوئی اعتراض نہیں۔

## کیا اسلام میں اختلاف ہے؟

**عرض:** آریہ وغیرہ یہ کہیں گے کہ اسلام ہی میں اختلاف ہو گیا۔

**ارشاد:** حاشا! (یعنی ہرگز نہیں) اسلام میں اختلاف نہیں اسلام واحد ہے۔ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے مرتد ہو گئے مرتدین کی موافقت بدتر ہے کافر اصلی کی موافقت سے۔

## وحی سے مراد

**عرض:**

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ مَا يُؤْمِرُ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: جب ہم نے تیری ماں کو

الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ (پ ۱۶، طہ: ۳۸)

اس وحی سے کیا مراد ہے؟

**ارشاد:** اس کا بیان آگے فرمادیا:

أَنْ أَقْدَفِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدَفِيهِ فِي الْيَمِّ  
فَلْيُنْفِقْهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهَا عَدُوٌّ لِّي  
وَعَدُوٌّ لَهُ ۗ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي ۗ  
وَلْيُضْمَنْ عَلَىٰ عِبْنِي ۖ

ترجمہ کنزالایمان: کہ اس بچے کو صندوق

میں رکھ کر دریا میں ڈالے تو دریا سے کنارے پر ڈالے کہ

اسے وہ اٹھالے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تجھ پر

اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لئے کہ تو میری نگاہ کے سامنے

(پ ۱۶، طہ: ۳۹) تیار ہو۔

## کیا غیر انبیاء پر بھی وحی آتی ہے؟

**عرض:** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر انبیاء پر بھی وحی آتی ہے؟

**ارشاد:** یہاں وحی سے مراد وحی الہام ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے:

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ  
ترجمہ: کسنز الایمان: اور تمہارے رب

نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ (پ ۱۴، النحل: ۶۸)

اس سے بھی الہام مراد ہے۔ وحی شریعت وہ خاص ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واسطے، غیر کو نہیں آسکتی۔

{پھر فرمایا:} وحی اشارہ سے بات بتانے کو بھی کہتے ہیں کہ فرماتا ہے:

فَاَوْحٰی اِلَیْہِمۡ اَنْ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَاَعِیْبًا ۝ زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا

کہ خدا کی تسبیح صبح و شام کرو۔ (پ ۱۶، مریم: ۱۱)

## معجزات کی روایات کا متواتر ہونا

**عرض:** کھانے میں برکت اور پانی وغیرہ میں انگشتان مبارک (یعنی بابرکت انگلیوں) سے پانی کا جاری ہونا متواتر ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔ یہ اور اس قسم کے وقائع (یعنی واقعات) متواتر بالمعنی ہیں صد ہا مرتبہ انگشتان مبارک (یعنی بابرکت انگلیوں) سے پانی جاری ہوا تکثیر طعام (یعنی کھانے کی زیادتی) کے صد ہا وقائع (یعنی بہت سے واقعات) ہیں۔ جس سے یہ معجزے متواتر بالمعنی ہو گئے۔

## ستون حنانہ کی روایت

**عرض:** اُسٹن حنانہ کا واقعہ بھی متواتر ہے؟

**ارشاد:** اس میں اختلاف ہے بعض نے متواتر لکھا ہے (الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل فی قصة حنین الجزع، ج ۱،

ص ۳۰۳) اور ہو تو کوئی عجب (یعنی تعجب) نہیں، تَبَّعَ (یعنی جتو) ایسی چیز ہے جس سے بہت پتا چل جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ ”سجدہ

غیر خدا کو حرام ہے“ اس میں صرف دو حدیثیں مجھے یاد تھیں۔ اجماع<sup>۱</sup> سے اس کی حرمت قطعہ میں نے ثابت کی۔ قرآن عظیم

میں کہیں اس کا ذکر نہیں تَبَّعَ اس کا کیا تو 40 حدیثیں نکلیں کہ متواتر کی حد سے بھی بڑھ گئیں۔

## متواتر ہونے کے لئے کتنی تعداد درکار ہے؟

**عرض:** متواتر ہونے کے لئے کتنی تعداد درکار ہے؟

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ مرحومہ کے مجتہدین کا کسی بھی عہد میں کسی حکم شرعی پر متفق ہونا۔ (الحسامی، ۱۹۳)

**ارشاد:** بعض نے تیرہ چودہ حدیثیں فرمائی ہیں بعض نے فرمایا کہ تیس اور یہاں چالیس ہو گئیں۔

## ایک حدیث کی مراد

**عرض:** ”إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا“ (اور میں دونوں سنگستانِ مدینہ طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بناتا ہوں۔) سنن ابن

ماجہ، کتاب المناسک، باب فضل المدینہ، الحدیث ۳۱۱۳، ج ۳، ص ۵۲۱) یہ حدیث حنفیہ کے یہاں ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہے اور اسی پران کا عمل ہے، اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ وہاں { مکہ معظمہ میں } جزا لازم آتی ہے اور یہاں { مدینہ طیبہ میں } نہیں۔

## فاسق سے مصافحہ

**عرض:** فاسق اگر مصافحہ کرنا چاہے تو جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر وہ کرنا چاہے تو جائز ہے ابتداء سے۔

## بدعتی سے مصافحہ

**عرض:** حضور اگر فاسقِ مُعَلَّن (یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے) ہو؟

**ارشاد:** اگرچہ مُعَلَّن ہو، مُبْتَدِع (یعنی گمراہی پھیلانے والے) سے نہ چاہیے۔

(در مختار ورد المحتار، کتاب الحظر والاباحہ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۵)

## پوشیدہ گناہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا

**عرض:** زید نے ایک شخص کو پوشیدگی میں گناہ کرتے دیکھا۔ اب یہ اُس کے پیچھے اقتدا کر سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** کر سکتا ہے۔ یہ اپنے کو دیکھے اگر اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو تو نہ پڑھے۔ حدیث میں ہے:

تُبْصِرُ الْقَدَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيكَ

اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی

وَتَنْسَى الْجِدْعَ فِي عَيْنِكَ

آنکھ میں شہتیر نہیں دیکھتا۔

(المقاصد الحسنیة، حرف التاء المثناة، الحدیث ۳۱۴، ص ۱۵۸)

{ ہاں فاسقِ مُعَلَّن (یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے) کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے }

## اُونچی قبریں

**عرض:** قبر کا اُونچا بنانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** خلافِ سنت ہے۔ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج ۳، ص ۱۶۸) میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ، میرے بھائی کی قبریں دیکھنے ایک بالشت سے اُونچی نہ ہوں گی۔

**جیب میں لکھا ہوا کاغذ ہوتے ہوئے استنجا خانے جانا**

**عرض:** اگر جیب میں کوئی لکھا ہوا کاغذ ہو تو بیٹ اُٹھا جاسکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** چُھپا ہوا ہے جاسکتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ علیحدہ کر دے۔

## اسکول بیج لگا کر نماز پڑھنا

**عرض:** تمنغے جو اسکولوں میں ملتے ہیں، ان پر چہرہ بنا ہوتا ہے اس کو لگا کر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہوگی، مگر مکروہ تحریمی ہے۔ (حاشیہ الطحطاوی، کتاب الصلاة، فصل فی المکروہات، ص ۳۶۲، ملخصاً)

## امام اعظم کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟

**عرض:** حضور! امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟

**ارشاد:** حنیف اوراق کو کہتے ہیں، حضور کو ابتدا ہی سے لکھنے کا بہت شوق تھا۔

## کشتی پر نماز پڑھنا

**عرض:** اگر بیچ دریا میں کشتی کھڑی ہو تو اس پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر اتر نہیں سکتا تو ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ (حاشیہ الطحطاوی، کتاب الصلاة، فصل فی الصلاة فی السفینة، ص ۴۰۹)

## ایک علمی اشکال اور اس کا جواب

**عرض:** حضور! کشتی تو مستقر ہے؟

**ارشاد:** کشتی پانی پر ہے یا زمین پر۔ پانی پر بے شک مُسْتَقَرّ (یعنی قرار) ہے مگر پانی مُسْتَقَرّ نہیں۔

## فضا میں نماز پڑھنے کا حکم

**عرض:** کرامت اولیاء سے اگر تخت ہوا پر رک جائے تو اس پر نماز ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں کہ اس کے نیچے کی ہوا زمین پر مستقر نہیں ہاں اگر یہ ہو کہ تخت سے زمین تک جتنی ہوا ہے سب مُجْمَد ہو (یعنی جم) جائے تو ہو جائے گی۔ عرض شمالی میں برف کی کثرت سے دریا ایسے جم جاتے ہیں کہ پھاؤڑوں سے کھودے جائیں تب بھی نہ کھودیں اس پر نماز ہو جائے گی جائز ہے۔

## دکان سے مال چوری ہونا

**عرض:** زید کا عمر و سے لین دین ہے اس کا مال لے جا کر اپنی دکان پر بیچتا ہے اگر وہ مال چوری ہو جائے تو عمر و اس کی قیمت زید سے لینے کا مستحق ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر وہ مُضَارِب ہے اور اس کا لین دین مُضَارِبت کے طور پر ہے یعنی یہ کہ اس کا مال لاتا ہے اور جو کچھ نفع ہوتا ہے آدھا یا تہائی اس کو دیتا ہے باقی اپنے آپ لے لیتا ہے تو قیمت نہیں لے سکتا، ہاں! اگر عمر و سے مول لاتا ہے تو لے سکتا ہے کہ خود اس کا مال چوری ہوا۔

## چوری کا ایک مسئلہ

**عرض:** زید نے عمر و کو گوٹے کا تار (یعنی ڈورا) بنانے کے لیے دیا۔ اس نے بکر کو دے دیا اس کے یہاں چوری ہو گیا تو زید عمر و سے لے سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** عمر و تو بکر سے نہیں لے سکتا اور زید کو اگر یہ معلوم ہے کہ عمر و دوسرے سے بھی بنوایا کرتا ہے تو یہ بھی نہیں لے سکتا کہ اس کی رضا مندی پائی جاتی ہے اور اگر معلوم نہ تھا یا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ خاص تمہیں بنانا دوسرے کو نہ دینا تو ظاہراً اس صورت میں زید کو لے لینے کا اختیار چاہیے۔

مُضَارِبَتْ صَرْبٍ فِي الْأَرْضِ سے ماخوذ ہے جس کے معنی چلنے کے ہیں جبکہ شرعاً مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو فریقین کے درمیان طے پاتا ہے۔ جس میں ایک فریق کی طرف سے رقم اور دوسرے کی طرف سے عمل ہوتا ہے جبکہ منافع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ (ماخوذ از تبیین

الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب المضاربة، ج ۵، ص ۵۱۴)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ ملفوظات حصہ چہارم }

## حدیث پاک کے متواتر ہونے کی شرط

**عرض:** حدیث کے ”متواتر“ ہونے کے لیے چودہ یا تیس کی تعداد ہے، تو چودہ یا تیس چاہے حسن ہوں یا صحیح؟

**ارشاد:** ”حسن“ ہوں یا ”صحیح“۔ حسن صحیح کا فرق مُحَدِّثِينَ کا کیا ہوا ہے۔ فقہا کے نزدیک دونوں ایک ہیں۔

## ستونِ حنانہ اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ

{ پھر فرمایا { اسٹن حنانہ کے معجزہ کو قیاس چاہتا ہے متواتر ہونے کو۔ مجمع کا وقت تھا، صحابہ کرام (علیہم الرضوان) کا

مجمع، سب کے سامنے کا واقعہ اور واقعہ بھی ایسا عجیب، ہر ایک نے اس واقعہ کو بیان کیا ہوگا۔

بخلاف شِقُّ الْقَمَرِ کے کہ وہ آدھی رات میں واقعہ ہوا تھا، صحابہ (علیہم الرضوان) بھی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے

ساتھ کم تھے، اس کی حدیث متواتر نہیں۔ قرآنِ عظیم سے استنباط کیا جائے گا۔ (یعنی دلیل لی جائے گی)

۱: کھجور کا وہ خشک تنا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے منبر بنایا گیا تو وہ کھجور کا خشک تنا اونٹنی کے بچے کی طرح رو پڑا۔ پھر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی سنی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اسے سینے سے لگایا اور فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! اگر میں اسے یونہی چھوڑ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ (ماخوذ از دلائل النبوة، ج ۲، ص ۵۵۶ تا ۵۵۸)

۲: نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالاتِ عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اُس کے مثل کی طرف بلاتا ہے، اللہ عزوجل اُس کے دعویٰ کے مطابق امرِ محالِ عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلا دینا اور مادرِ اذاندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور ہمارے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے معجزے تو بہت ہیں۔ (بہار شریعت، جلد ۱، حصہ ۱، ص ۵۶)

۳: کفارِ قریش نے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے معجزہ طلب کیا اور کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے چاند کی جانب اشارہ فرمایا وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ (مدارج النبوة، باب ششم، ص ۱۸۱)

## ایک سہو کی نشاندہی

{اس سلسلہ میں فرمایا {فلسفہ میں تَوَعُّل (یعنی بہت زیادہ مشغولیت) کی وجہ سے قاضی بیضاوی نے ایک اور تاویل نکالی۔ انہوں نے لکھا ”اٰی سَيَنْشَقُّ“ یعنی قیامت کے دن شق ہو جائے گا۔ چونکہ یَقِيْنُ الْوُقُوْع ہے، اس لیے بصیغہ ماضی فرمایا گیا۔ (تفسیر بیضاوی، پ ۲۷، سورۃ القمر تحت الایة ۱، ج ۵، ص ۲۶۳) لیکن اس تاویل کو خود آگے کی آیت رد فرماتی ہے۔

وَاِنْ يَّرَوْا آيَةً يَعْزُّوْا  
يَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَبْرٌ  
اور اگر وہ دیکھیں معجزہ کو تو اعتراض کریں گے  
اور کہیں گے یہ بڑا زبردست جادو ہے۔

(پ ۲۷، القمر: ۲)

قیامت کے دن کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہوگا، اس دن کیونکر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جادو ہے!

شاہ ولی اللہ نے ”تفہیمات الہیہ“ میں لکھا کہ ”شق القمر“ کوئی معجزہ نہیں محض اس وجہ سے کہہ دیا جائے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے خبر دی تھی، چاند شق ہو جائے گا۔“ اور یہ (یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ کہنا) محض غلط ہے۔

## معجزہ ”شق القمر“ کا ثبوت

”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کی حدیثیں اس کو مردود (یعنی رد) کر رہی ہیں۔ حدیث میں مُصْرَح (یعنی صراحت) ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اُنْكَشَتْ شَهَادَات (یعنی سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے کے پاس والی انگلی) سے اشارہ فرمایا اور وہ شق ہوا اور ارشاد فرمایا ”اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ“ اے اللہ گواہ ہو جا۔

(صحیح مسلم، کتاب صفة القيامة..... الخ، باب انشقاق القمر، الحدیث ۲۸۰۰، ص ۱۵۰۶)

اس کی (یعنی شق القمر کی) احادیث مشہورہ ہیں اور ان سے ”اجماع مسلمین“ لاحق ہو گیا۔

## کس کا کلام خطا سے محفوظ ہے؟

عرض: تو اس وجہ سے آیت میں دوسری تاویل کا احتمال نہ رہا؟

ارشاد: اصلاً نہ رہا اور نہ پہلے تھا۔ دوسری آیت اس تاویل باطل کو رد کر رہی ہے مگر یہ ہے کہ ”يَا بٰسِی اللّٰهُ الْعِصْمَةَ الْاِیَّ“



لِكَالْمُهْ وَلِكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے علاوہ کسی کا کلام خطا سے محفوظ نہیں۔ ت)

{ پھر فرمایا { انسان سے غلطی ہوتی ہے مگر رحمت ہے اس پر جس کی خطا کسی امرِ مُہمِ دینی (یعنی اہم دینی معاملے) پر زد (یعنی نقصان) نہ ڈالے، یہ بڑی رحمت ہے۔

ایسی ہی باتوں کی نسبت شیخ مُحَقِّق (یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو ”مدارج شریف“ میں غُصَّہ آ گیا۔ فلاسفہ کے اعتراض نقل کیے کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا: اُن سے کوئی تعجب نہیں ”ایس بدبخت متکلمان راجہ شدہ است!“ (ان بدبختوں کے پاس عقل کہاں ہے!!!۔ ت)

## فلاسفہ کے نزدیک شق القمر محال کیوں؟

{ پھر فرمایا { فلاسفہ کے طور پر تو شق القمر محال (یعنی ناممکن) ہے، وہ فلکیات کو ”قابلِ خرق و التیام“ (یعنی بھٹنے اور پھر

دوبارہ مل جانے کے قابل) مانتے ہی نہیں۔ (مدارج النبوة، باب معجزات النبی ﷺ معجزہ شق القمر، ج ۱، ص ۱۸۱)

**عرض:** حضور! وہ تو فلک ”مُخَدِّدُ الْجِبَاتِ“ (یعنی وہ آسمان جو جہتوں (سمتوں) کی حد بندی کرنے والا ہو اس) کو قابلِ خرق و التیام نہیں مانتے ہیں؟

**ارشاد:** دعویٰ تو ان کا تمام فلکیات کی نسبت ہے مگر دلیل ان کی سوائے ”مُخَدِّدُ الْجِبَاتِ“ کے کہیں نہیں چلتی۔

## عقائد کے بارے میں کیسا اعتقاد ہونا چاہیے؟

{ پھر فرمایا { ”الْهَيَاتِ“ و ”نُبُوتِ“ و ”مَعَادِ“ (یعنی آخرت) کو جو میزانِ عقل (یعنی عقل کے ترازو) سے تولنا چاہے گا وہ

غرض (یعنی خطا) کرے گا۔ عقائدِ سَمْعِيَّةٍ کے بارے میں ان نصوصِ شرعیہ کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے عَسْمَال (یعنی مُردے نہلانے والے) کے ہاتھ میں میت، بس!“

اَمْثَالِهِ كَلِّمٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

ترجمہ کنز الایمان: ہم اس پر ایمان لائے

(پ ۳، ال عمران: ۷) سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔

۱: وہ عقائد جن کا سمجھنا دلیل شرعی پر موقوف ہے فقط عقل سے نہیں جانے جاسکتے جیسے نبوت، عذابِ قبر، آخرت، ثواب و عقاب وغیرہ۔ (المعتدالمستند، ص ۵ ملخصاً)

یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ عطا ہوتا ہے سَلِيمُ الطَّبَع، صَحِيحُ الْعَقِيدَةِ (یعنی درست عقائد والی) عوام کو اور خاص کر ان کی عورتوں کو اور خاص کر ان کی بوڑھیوں کو۔ اُن سے کتنا ہی کچھ کہو ہرگز نہ مانیں گی جو سن چکی ہیں اُسی پر عقیدہ رکھیں گی۔ اس واسطے ارشاد ہوا۔

”عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ“ بوڑھیوں کا دین اختیار کرو۔

(المقاصد الحسنة، کتاب الایمان، الباب الثانی، الحدیث ۷۱۴، ص ۲۹۷، ۴۸۹)

## ان پڑھ شخص کا اپنے مذہب پر یقین

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کا ایک شاگرد آیا۔ وہاں ایک جاہل اُن پڑھ بیٹھا تھا اس سے کہا: تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہا: سُنی۔ پوچھا: اپنے دل میں اس مذہب کی طرف سے کچھ خدشہ پاتے ہو؟ کہا: ”حَاشَا لِلَّهِ!“ (یعنی اللہ کی قسم! ہرگز نہیں۔) جیسا مجھے دوپہر کے آفتاب پر یقین ہے ایسا ہی مجھے اپنے مذہب پر ہے۔“ امام کا شاگرد یہ سن کر اتنا رویا کہ کپڑے بھیگ گئے اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جانتا کہ کون سا مذہب حق ہے!

## بد مذہبوں کی کتب پڑھنا جائز نہیں؟

{ پھر فرمایا { اسی واسطے ناقص بلکہ کامل کو بھی بلا ضرورت بد مذہبوں کی کتابیں دیکھنا ناجائز ہے کہ انسان ہے، ممکن

ہے کوئی بات مَعَاذَ اللّٰهِ (عَزَّوَجَلَّ) دل میں جم جائے اور ہلاک ہو جائے۔

## بد مذہبوں کے رد میں پہلی تصنیف

امام حارث محاسبی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے بد مذہبوں کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی، اور وہ بد مذہبوں کے رد میں

پہلی تصنیف تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ کہا: ”مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ میں نے ان کا رد ہی تو کیا ہے۔“ فرمایا: ”کیا ممکن نہیں ہے کہ تم نے جو کلام بد مذہبوں کا نقل کیا ہے کسی کے دل میں جم جائے اور وہ گمراہ ہو جائے۔“

(احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، الفصل الثانی فی وجہ التدریج..... الخ، ج ۱، ص ۱۳۲)

## رد کی ضرورت

{ پھر فرمایا { پہلے تلوار تھی، رد کی حاجت نہ تھی، تلوار کے ذریعہ سارا انتظام ہو سکتا تھا۔ اب کہ ہمارے پاس سوائے

رد کے کوئی علاج نہیں، ”رد کرنا فرض ہے۔“ حدیث میں ارشاد ہوا:

إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنَةُ أَوْ قَالِ الْبِدْعُ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

جب فتنے یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں تو فرض ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اللہ (عَزَّوَجَلَّ) نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔

(الجامع لآخلاق الراوی و آداب، باب اذا ظهرت الفتن، الحدیث ۱۳۶۶، ص ۸، ۳۰)

### حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد مذہب کی بات سننے سے انکار کر دیا

{ پھر فرمایا { امام سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں تشریف لیے جاتے تھے ایک بد مذہب ملا۔ امام سے کہا: میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا: میں سننا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا: صرف ایک بات۔ آپ نے چھنگلیا کے پہلے پورے پرانگوٹھا رکھ کر فرمایا: ”وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ“ آدھی بات بھی نہیں سنوں گا۔ لوگوں نے سبب پوچھا۔ فرمایا: ”ازایشان“ منهم (یعنی انہیں بد مذہب ہوں میں سے۔ ت) ہے۔ (ماخوذ، سنن الدارمی، باب اجتناب اهل الاہواء، الحدیث ۳۹۹، ج ۱، ص ۱۲۰، ۱۲۱)

### رد کون کرے؟

{ پھر فرمایا { اکابر کی تو یہ حالت اور اب یہ حالت ہے کہ جاہل سا جاہل چٹا پڑتا ہے آریوں سے وہابیوں سے اور کچھ خوف نہیں کرتا۔ جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام تیج جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہوں اس کو بھی کیا ضرور کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے، ہاں اگر ضرورت ہی آپڑے تو مجبوری ہے۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لے۔

### آب زم زم کے فوائد و برکات

**مؤلف:** ایک مرتبہ بعد عصر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: آج چوتھا روز ہے، حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پین (یعنی واضح) معجزہ ظاہر ہوا۔ گائے کا گوشت کھانے سے مجھے معاً (یعنی فوراً) ضرر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے میرے یہاں نیاز کا کھانا بھیجا، اور ساتھ ایک رقعہ میں لکھ دیا کہ اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیں۔ شور بے میں مرچ زیادہ تھی اور میں مرچ کا عادی نہیں۔ میں نے

ایک بوٹی صاف کر کے کھائی، بہت اچھا پکا تھا، میں نے ایک بوٹی اور مانگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت ہے۔ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ سید محمود علی صاحب کا خدا بھلا کرے! زمزم شریف بہت ساناہوں نے بھیج دیا ہے۔ میں نے جس وقت اِنبھال ہوا (یعنی گھبراہٹ ہوئی) فوراً زمزم شریف پیا، صبح تک برابر پیتا رہا، کچھ بھی نہ ہوا۔

{ پھر فرمایا { زمزم شریف میں یہ معجزہ ہے کہ دو مہینے کا زمزم شریف تھا اس سے یہ نفع ہوا حالانکہ باسی پانی سے فوراً مجھے نقصان ہوتا ہے۔ پہلی بار کی حاضری میں میری بائیس (22) برس کی عمر تھی۔ میں نے دونوں وقت کی روٹی چھوڑ دی تھی۔ صرف گوشت پر اکتفا کرتا اور گوشت بھی دبنے کا جو سنا چڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ روز کے بعد پیٹ میں خلش (یعنی تکلیف) معلوم ہوئی۔ حرم شریف میں جا کر قدح (یعنی پیالہ) بھر کر زمزم شریف پیا۔ فوراً خلش جاتی رہی۔

### اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرغوب چیز

{ پھر فرمایا { کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز مرغوب (یعنی پسند) نہیں۔ یہاں کیا ذریعہ! (یعنی یہاں بریلی شریف میں تو زمزم میسر نہیں مگر) وہاں (یعنی حرم شریف میں) صبح، دوپہر، شام ہر وقت پیتا۔ صبح آنکھ کھلی تو پہلا کام یہ کہ زمزم شریف پیتا، پانچوں نمازوں کے بعد پہلا کام یہی ہوتا تھا۔

### زمزم شریف کا مزہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے

{ پھر فرمایا { زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے۔ کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں اور رات کے دو بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔

### زمزم شریف غذا کی جگہ غذا اور دوا کی جگہ دوا

{ پھر فرمایا { زمزم شریف جس کے پاس کافی مقدار سے ہو اسے نہ کسی غذا کی ضرورت، نہ دوا کی۔ حدیث شریف میں

فرمایا: ”زمزم کھانے کی جگہ کھانا اور دوا کی جگہ دوا۔“ (المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الحج، باب فی فضل زمزم، الحدیث ۲، ج ۴، ص ۳۵۸)

۱: ایک پودا جس کی پتی دست آور ہوتی ہے۔

## حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت

ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ضعفِ اسلام تھا صحابہ (علیہم الرضوان) چالیس (40) تک نہ پہنچے تھے، اس زمانے میں مکہ معظمہ آئے۔ وہاں نہ کسی سے شناسائی (یعنی جان پہچان) نہ کسی سے ملاقات۔ ایک مہینہ کامل وہی زمزم شریف پیا، حالت یہ ہوئی کہ پیٹ کی بلٹیں اُلٹ پڑیں۔ (یعنی خوب توانائی آگئی) (صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، الحدیث ۲۴۷۲، ص ۱۳۴۲)

## مومن اور منافق کی جانچ

{پھر فرمایا} یہ جانچ ہے منافق اور مومن کی۔ منافق کبھی پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الحج، باب الشرب من زمزم، الحدیث ۳۰۶۱، ج ۳، ص ۴۹۰) اور میں تو بِحَمْدِ اللّٰهِ تعالیٰ اس قدر دودھ نہیں پی سکتا جس قدر زمزم شریف پی لیتا تھا۔ ایک بادریہ (یعنی بڑا کٹورا) جس میں دو سیر پانی آتا تھا کبھی نصف اور کبھی نصف سے زیادہ پی لیتا تھا، باقی جو پختا منہ اور سر پر ڈال لیتا۔

## زمزم شریف بھی تین سانسوں میں پیئیں

**عرض:** زمزم شریف بھی تین سانسوں میں پینا چاہیے؟

**ارشاد:** ہاں، ہر چیز کا یہی حکم ہے۔

حدیث میں ارشاد ہوا:

فَاشْرَبُوهُ مَصًّا وَلَا تَشْرَبُوهُ عَبًّا  
فَإِنَّ الْعَبَّ يُورِثُ الْكِبَادُ  
چوس چوس کر پیو، غٹ غٹ کر کے بڑے بڑے  
گھونٹ نہ لگاؤ۔ کہ اس سے جگر کا مرض ہوتا ہے۔

(الجامع الصغیر، الحدیث ۷۱۰، ج ۱، ص ۴۹)

## کونسا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟

**عرض:** حضور کن کن پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے؟

**ارشاد:** زمزم اور وضو کا پانی شرع میں کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الاشریہ، باب شرب قائمہ،

الحدیث ۵۶۱۶، ۵۶۱۷، ج ۳، ص ۵۸۹) اور لوگوں نے دو (2) اور اپنی طرف سے لگا لیے ہیں، ایک سمیل کا، اور دوسرا جوٹھا پانی۔ اور

دونوں جھوٹے۔ سبیل کا تو یوں لگا لیا کہ اکثر کچھڑ ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔

### بہارِ مدینہ

{ پھر فرمایا { دوسری بار کی حاضری میں مجھے جیٹھ<sup>۱</sup> کا پورا مہینہ مدینہ طیبہ میں گزرا۔ دن میں تو کچھ خَفِيف (یعنی ہلکی)

گرمی ہوتی تھی، رات کو اکثر نمازِ عشاء پڑھ کر سوائے سوڈن کی آواز کے اور کوئی جگانے والا نہیں، نہ گرمی نہ پسو نہ کھٹل

نہ مچھر۔ حدیث میں ارشاد ہوا:

لَيْلُ تِهَامَةَ لَاحِرٌ وَلَا بَرْدٌ وَلَا

مدینہ کی رات میں نہ گرمی ہے نہ سردی، نہ

خوف نہ ملال۔

مَخَافَةٌ وَلَا سَامَةٌ

(مجمع الزوائد کتاب النکاح، باب عشرة النساء..... الخ، الحدیث ۲۶۸۷، ج ۴، ص ۵۸۰)

منیٰ میں تین دن کہ کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، نہ مکھی نظر آتی ہے نہ کوئی انہ چیل۔ اگر کوئی کہے وہاں مکھی ہوتی ہی

نہ ہو تو مکہ معظمہ میں شب کے وقت دیکھا گیا کہ اگر سوتے میں ہاتھ اٹھ گیا تو مکھیوں کا ڈنگا را اڑ گیا۔

### شوہر کے مرتد ہو جانے پر عورت پر عدت

**عرض:** زید مرتد ہو گیا تو عورت پر عدت ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر قُرْبَت ہو چکی ہے تو عدت کرے گی ورنہ نہیں۔

(رد المحتار، کتاب النکاح، مطلب الصبی والمجنون..... الخ، ج ۴، ص ۳۶۳)

### شبہ نکاح کی عدت

**عرض:** عدت تو نکاح کے لیے ہے اور مرتد کا نکاح ہی نہیں!

**ارشاد:** شبہ نکاح کی بھی عدت ہوتی ہے۔ (اور سوال تو بعد نکاح از تہاد کی صورت سے تھا)

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الثالث..... الخ، ج ۱، ص ۵۳۶)

۱: ہندی سال کا دوسرا مہینہ جو 15 مئی سے 15 جون تک ہوتا ہے۔

## مرتد کا بعد توبہ و تجدیدِ ایمان سابقہ بیوی سے نکاح

**عرض:** مرتد مسلمان ہو گیا تو اپنی بیوی سے جبراً نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اس کی رضا مندی سے کر سکتا ہے۔ (ردالمحتار، کتاب الجہاد، مطلب حمله من لا یقتل اذ ارتد، ج ۶، ص ۳۷۷)

**عرض:** حضور! کیا اس صورت میں حلالہ ہے؟

**ارشاد:** نہیں کہ حلالہ طلاق کے ساتھ خاص ہے۔ (ردالمحتار، کتاب النکاح، مطلب الصبی والمجنون..... الخ، ج ۴ ص ۳۶۲)

**عرض:** حالتِ اسلام میں دو طلاقیں دی تھیں پھر معاذ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) مرتد ہو گیا اب پھر اسلام لایا، اب کتنی طلاق کا مالک ہے؟

**ارشاد:** ایک طلاق کا۔

## ایک غلط فہمی کا ازالہ

**عرض:** حضور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنے ما قبل کو مٹا دیتا ہے!

**ارشاد:** اپنے ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

## نابالغ عالم مکلف نہیں

**عرض:** نابالغی میں زید عالم ہو گیا وہ مکلف ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ابھی سے مکلف ہو جائے گا!!! ”علم سبب تکلیف نہیں۔“ جاہل محض ہے اور بالغ ہے (تو) مکلف ہے، اور علماً

ہے بالغ نہیں تو مکلف نہ ہوگا۔

## نوشیرواں کو عادل کہنا کیسا؟

**عرض:** نوشیرواں کو عادل کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔ اور اگر اس کے احکام کو حق جان کر کہے (تو) کفر ہے ورنہ حرام۔

۱: وہ جس پر شرعی احکام کی پابندی لازم ہو۔

۲: ساسانی خاندان کا مشہور بادشاہ، جسے عرب مؤرخ، کسری اور مغرب والے قیصر کہتے ہیں۔ ایک کسان عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے اپنے تمام بھائیوں، بھتیجوں اور متروک پیرا اور اس کے ایک لاکھ پیروکاروں کو قتل کروا دیا۔

## قرض کی ادائیگی کا وظیفہ

**عرض:** حضور! میں آج کل بہت پریشان ہوں، گزراوقات مشکل سے ہوتی ہے، قرضدار بہت ہو گیا ہوں!

**ارشاد:**

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ  
وَاعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ  
اے اللہ مجھے حلال چیزوں میں کفایت کر حرام چیزوں سے  
دور رکھ اور تیرے ماسوا سے مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے

ہر نماز کے بعد ۱۱، ۱۲ بار اور صبح و شام سو، سو بار روزانہ اول و آخر دو د شریف۔ اسی دعا کی نسبت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ”اگر تجھ پر مثل پہاڑ کے بھی قرض ہوگا تو اسے ادا کر دے گا۔“

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، احادیث شتی..... الخ، الحدیث ۳۵۷۴، ج ۵، ص ۳۲۹)

## ”نور“ ”تار“ اور ”روح باصرہ“ کی رفتار

**عرض:** مدراس سے جو ”تار“ آتا ہے اس کے آنے میں کچھ وقفہ نہیں لگتا!

**ارشاد:** شاید ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہو۔ اگر تار کا سلسلہ برابر متصل ہو کہیں منقطع (یعنی ختم یا جدا) نہ ہو تو تیس سیکنڈ میں ساری زمین کا دورہ کر کے پھر وہیں آجائے گا۔ ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک ہزار میل چلتا ہے اور ”نور“ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ بانوے ہزار میل چلتا ہے اور ”روح باصرہ“ کی رفتار اس سے بھی کہیں تیز ہے، اُس کی رفتار خدا ہی جانتا ہے، ایک نگاہ اٹھائی اور فوراً ”فلک ثوابت“ (یعنی آسمان) تک پہنچی ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں لگتا۔

## فلک ثوابت کے فاصلہ کی وسعت

**عرض:** ”فلک ثوابت“ کا فاصلہ کتنا ہوگا؟

**ارشاد:** واللہ اعلم! سب سے قریب تر ثابتہ جو مانا گیا ہے نورب انتیس کروڑ میل ہے۔

زمین سے سدرۃ المنتہیٰ کا فاصلہ

{ پھر فرمایا { زمین سے ”سدرۃ المنتہیٰ“ تک پچاس ہزار برس کی راہ ہے۔ اس سے آگے مستوی، اس کا بُعد



اللہ (عَزَّوَجَلَّ) جانے! اس سے آگے عرش کے ستر ہزار حجاب ہیں۔ ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک پانسو (500) برس کا فاصلہ اور اس سے آگے عرش اور ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے ہیں۔

## فرشتوں کی تعداد

حدیث میں ہے: آسمانوں میں چار اُنگل جگہ نہیں جہاں فرشتے نے سجدے میں پیشانی نہ رکھی ہو۔ (جامع ترمذی،

کتاب الزهد، باب قول النبی ..... الخ، الحدیث ۲۳۱۹، ج ۴، ص ۱۴۱) فرمائیے! کس قدر فرشتے ہیں؟

وَمَا يَعْلَمُ جُودَ مَلائِكِ الْاِلهِ وَ اور تیرے رب (عَزَّوَجَلَّ) کے لشکروں کو اس

کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (پ ۲۹، المدثر: ۳۱)

{ اسی سلسلہ میں فرمایا { جب فرمایا گیا ”عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ“ دوزخ پر انیس فرشتے مُوَكَّل (یعنی مقرر) فرمائے، اس پر

کفار نے اِسْتَهْزَا کیا (یعنی مذاق اڑایا)۔ رب عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: یہ اس واسطے تعداد فرمائی گئی تاکہ یقین کریں وہ لوگ جنہیں کتاب ملی اور زیادہ ہو ایمان والوں کا ایمان، اور شکر کریں اہل کتاب اور مومنین۔

{ پھر فرمایا { ابو جہل لعین نے کہا تھا: دوزخ میں صرف انیس فرشتے ہیں، دس سے میں نبٹ لوں گا نو سے تم نبٹ لینا۔

ایک اور خبیث نے کہا: نو کو اپنے ہاتھوں پر اٹھالوں گا اور آٹھ کو اپنی پیٹھ پر لادلوں گا، دورہ گئے ان سے تم نبٹ لینا۔ معاذ

اللہ (عَزَّوَجَلَّ) (الجامع لاحکام القرآن، المدثر، تحت الایة ۳۰، ج ۱۰، ص ۶۱، تفسیر بغوی، المدثر تحت الایة ۳۰، ج ۴، ص ۳۸۵، ملخصاً)

## تمام رسولوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان

عرض: حضور! کتنے فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے؟

ارشاد: جتنے ملائکہ ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرماتا ہے:

كُلُّ اٰمِنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ ترجمہ کنز الایمان: سب نے مانا اللہ

اور اسکے فرشتوں کو (پ ۳، البقرہ: ۲۸۵)

کوئی تعداد مقرر نہ فرمائی۔ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح ”وَكُتُبِهِ“ فرمایا گیا۔ تمام کتابوں پر ایمان لانا

ضروری ہے۔ (تفسیر کبیر، البقرة، تحت الاية ۲۸۵، ج ۳، ص ۱۰۷ تا ۱۰۹، ملخصاً) کتابوں میں چار کے نام معلوم ہیں اور ان کے سوا اور صحف نازل ہوئے (جن کی حتمی تفصیل معلوم نہیں لہذا) یہی کہنا چاہیے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح فرمایا ”وَرُسُلِهِ“ یہاں بھی تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح جتنے ملائکہ ہیں سب پر ایمان لازم ہے۔

(تفسیر کبیر، البقرة، تحت الاية ۲۸۵، ج ۳، ص ۱۰۷ تا ۱۰۹، ملخصاً)

## کشتی پر نماز کا حکم

**عرض:** اگر کشتی بچ دریا میں کھڑی ہو اور کنارے اترنا ممکن ہو لیکن کوئی اترنے نہ دے تو نماز ہوگی یا نہیں؟  
**ارشاد:** پڑھ لے، جب کنارے پر اترے عاادہ کر لے۔

## کلمہ کفر بولنے پر عورت کے نکاح کا مسئلہ

**عرض:** عورت سے اگر کلمہ کفر نکل جائے تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں، بعد توبہ کے پھر تجدید نکاح کرے؟  
**ارشاد:** ہاں۔ عَمَلًا بِأَصْلِ الْمَذْهَبِ یہی ہے کہ نکاح فی الحال فَسُخَّحَ ہو جاتا ہے۔ (یعنی اصل فقہ حنفی پر عمل کے مطابق حکم یہی ہے کہ نکاح اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ ت)<sup>۱</sup>

## مسلمان کو کافر کہنے کا حکم

**عرض:** کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا (تو) کیا حکم ہے؟  
**ارشاد:** بطور سب و شتم (یعنی گالی گلوچ کے طور پر) کہا تو کافر نہ ہوا، گنہگار ہوا اور اگر کافر جان کر کہا تو کافر ہو گیا۔<sup>۲</sup>

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع احکام المرتدین، ج ۲، ص ۲۷۸)

۱: اور فتویٰ اس پر ہے کہ ارتدادِ زن سے عورت نکاح سے نہیں نکلتی وہ توبہ اور شوہرِ اول کی طرف رجوع پر مجبور کی جائے گی ورنہ امان اٹھ جائے گی ۱۲ مؤلف عثقی عنہ۔ (اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالہ ”أجلی الاغلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الإمام“ مشمولہ فتاویٰ رضویہ شریف، ج 1، ص 135 میں اسی کی صراحت فرمائی ہے۔ علمیہ)

۲: یہ حکم مسلمان کے کافر کہنے کا ہے اور جو شخص باوجود اذعانے ایمان و اسلام کلمات کفر بولے، افعال کفر کرے (تو) اس کو کافر ہی کہا جائے گا کہ یہاں مسلمان کو کافر کہنا نہیں بلکہ کافر کو کافر کہنا ہے۔ مؤلف غفر لہ ۱۲۔

## ایک ولی کا کشف

**عرض :** حضور، ایک صاحب پہلے محدث صاحب (یعنی حضرت مولانا وصی احمد صاحب قدس سرہ العزیز ۱۲ مؤلف غفرلہ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مدرسہ میں پڑھتے تھے اب ان کی حالت یہ ہے کہ اکثر مخفی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کا ہجوم زیادہ ہے اور نماز وغیرہ کی پابندی نہیں ہے۔

**ارشاد :** ایک صاحب اولیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم میں سے تھے، آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدمبوسی کے لئے حاضر ہوا۔ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ سبب نذر میں آئے تھے، حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سبب دیا اور کہا: کھاؤ، عرض کیا: حضور بھی نوش فرمائیں۔ آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی۔ اُس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سبب میں بڑا اچھا خوش رنگ سبب ہے اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دیدیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ آپ نے وہی سبب اٹھا کر فرمایا: ہم مصر گئے تھے وہاں ایک جلسہ بڑا بھاری تھا دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے، اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لئے بیان کی کہ اگر یہ سبب ہم نہ دیں تو ولی ہی نہیں اور اگر دیدیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال کیا، یہ فرما کر سبب بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔

(پھر فرمایا:) بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت (مثلاً کشف) جو غیر انسان کے لئے ہو سکتی ہے انسان کے لئے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لئے ہو سکتی ہے مسلم کے لئے کمال نہیں۔ (یعنی جب وہ نماز کے پابند نہیں ولی نہیں، کشف مسلم تو مسلم کبھی غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے، صاحب کشف ہونے سے ولی ہو جانا ضروری نہیں۔ ۱۲)

## رُوح کی قوتیں

**عرض :** ”مُسْمِرِزَم“<sup>۱</sup> کی حقیقت کیا ہے؟

**ارشاد :** اصل اس کی ”تَصَوُّر“ ہے (یعنی) روح کی قوتوں کو ظاہر کرنا۔ روح کی بہت قوتیں ہیں۔

## ایک اُلُوکی روح کی کارستانی

سبع سنابل شریف میں ہے: ”تین صاحب جا رہے تھے۔ دور سے ایک جنگل میں دیکھا کہ بہت آدمیوں کا مجمع

۱: آسٹریا کے ڈاکٹر مسمر (۱۷۳۴ء-۱۷۹۸ء) کا ایجاد کردہ ایک علم جس میں تصوّر یا خیال کا اثر دوسرے کے ذہن میں جاگزیں کر کے پوشیدہ اور آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔

ہے۔ ایک راجہ گدی پر بیٹھا ہے۔ حواری (یعنی درباری) حاضر ہیں۔ ایک فاحشہ ناچ رہی ہے۔ شمع روشن ہے۔ یہ صاحب تیر اندازی میں بڑے مشتاق (یعنی ماہر) تھے۔ آپس میں کہنے لگے کہ اس مجلس فسق و فجور (یعنی بری محفل) کو درہم برہم کرنا چاہیے، کیا تدبیر کی جائے؟ ایک نے کہا کہ راجہ کو قتل کر دو کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس ناچنے والی عورت کو قتل کرو۔ تیسرے صاحب نے کہا: اسے بھی قتل نہ کرو کہ وہ خود نہیں آئی، راجہ کے حکم سے آئی ہے۔ اپنی غرض تو مجلس کا درہم برہم کرنا ہے۔ (لہذا) اس شمع کو گل کرو۔ یہ رائے پسند ہوئی۔ انہوں نے تاک کر شمع کی لو پر تیر مارا، شمع گل ہوئی۔ اب نہ وہ راجہ رہا نہ فاحشہ نہ مجمع۔ نہایت تعجب ہوا۔ بقیہ رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی دیکھا تو ایک اُلُو مرا پڑا ہے، اور اس کی چونچ میں وہی تیر لگا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب کام اسی اُلُو کی روح کر رہی تھی۔“ (سبع سنابل، سنبلہ ششم، درحقائق وحدت، ص ۱۵۰)

## ایک عجیب و غریب درخت

{ پھر فرمایا ہنرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو دو کے لائق ہو جاتا۔ غرض ایک لاکھ تک آدمی اس کے سایہ میں رہ سکتے اور جہاں ایک لاکھ سے ایک بھی زیادہ ہو اسب دھوپ میں۔

## عجیب و غریب حوض

اُسی کا ایک حوض تھا۔ صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہو (یعنی آپس میں مل جاتیں)۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدرارچ تھا!

## کشف و کرامت نہ دیکھ، استنقامت دیکھ

اسی واسطے اولیائے کرام فرماتے ہیں: ”کشف و کرامت نہ دیکھ، استنقامت دیکھ کہ شریعت کے ساتھ کیسا ہے۔“

## حضرت خواجہ شیخ بہاؤ الحق کی عاجزی و انکساری

حضرت خواجہ شیخ بہاؤ الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں۔ آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت تمام اولیاء سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، حضور سے بھی کوئی کرامت دیکھیں! فرمایا: ”اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے کہ اتنا بڑا بھاری بوجھ گناہوں کا سر پر ہے اور زمین میں دھنس نہیں جاتا۔“

۱۔ بے باک فجار یا کفار سے جو خلاف عادت بات ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدرارچ کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۱، ص ۵۸)

## وضو کیلئے مسجد سے گرم پانی لے جانا کیسا؟

**عرض:** مکان میں وضو کے لیے مسجد سے گرم پانی لے جانے کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** حرام ہے اگرچہ وضو کے لیے لے جائے۔

## رجال الغیب کون؟

**عرض:** حضور ”رجال الغیب“ ملائکہ سے ہیں؟

**ارشاد:** نہیں۔ جنوں یا انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ آپ نے رجال پر خیال نہیں کیا۔ ملائکہ پاک ہیں رجال (یعنی مرد) اور نساء (یعنی عورت) ہونے سے۔

## بد بودار پسینے سے وضو کا حکم

**عرض:** بودار پسینہ بغلوں سے نکلے (تو) وضو تازہ کرنا ہوگا یا نہیں؟

**ارشاد:** پسینہ نکلنے سے وضو ضرور نہیں۔ ہاں اگر کھجائے تو تازہ وضو کر لینا مستحب ہے۔

## مجاذیب کے سلسلے

**عرض:** ”مجاذیب“<sup>۱</sup> بھی کسی سلسلے میں ہوتے ہیں؟

**ارشاد:** ہاں وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی سلسلہ نہیں، ان سے آگے پھر نہیں چلتا۔

## کرامت کسی نہیں ہوتی

**عرض:** کسی کی کرامت ”کسبی“ (یعنی اپنی کوشش سے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے حاصل) بھی ہوتی ہے؟

**ارشاد:** کرامت سب کی ”وہبی“ (یعنی محض اللہ کی طرف سے عطائی) ہوتی ہے۔ اور وہ جو کسب سے حاصل ہو بھان متی (یعنی مداری) کا تماشا ہے، لوگوں کو دھوکا دینا ہے۔

۱: مجذوب کی جمع۔

## ”رِجَالُ الْغَيْبِ“ کہلانے کی وجہ؟

**عرض:** ”رِجَالُ الْغَيْبِ“ کیوں کہلاتے ہیں؟

**ارشاد:** غائب رہتے ہیں اس وجہ سے۔

**عرض:** ”رِجَالُ الْغَيْبِ“ بھی سلسلے میں ہوتے ہیں؟

**ارشاد:** ہاں! یہ بھی سلسلے میں ہوتے ہیں۔ البتہ ”افراد“ سوائے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی اور کے ماتحت نہیں اسی واسطے ”فرد“ کہلاتے ہیں۔ سلسلے میں کسی کے نہیں لیکن حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع سے چارہ نہیں۔

## سلاسلِ اربعہ کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟

**عرض:** ان چاروں سلاسل کے علاوہ بھی کوئی اور خاندان ہے جو ان چاروں میں سے کسی کی شاخ نہ ہو؟

**ارشاد:** ہاں تھے۔ اب تو بہت سے مُنْقَطِع (یعنی ختم) ہو گئے۔ ایک سلسلہ امیر المؤمنین فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سلسلہ علاوہ سلسلہ نقشبندیہ کے ”ہواریہ“ تھا۔ اس کے امام حضرت سیدی ابو بکر ہواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے مرید حضرت ابو محمد شَبَبِکِی اور آپ کے مرید حضرت تاج العارفین ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

## ڈاکو کی توبہ

{ پھر فرمایا } **اللہ** (عَزَّوَجَلَّ) کو ہدایت فرماتے دیر نہیں لگتی۔ یہ حضرت ابو بکر ہواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رہزن (یعنی ڈاکو) تھے، قافلے کے قافلے تہا لوٹا کرتے تھے۔ ایک بار ایک قافلہ اُترا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، ایک خیمہ کی طرف گئے۔ اُس خیمے میں عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی: ”شام قریب ہے اور اس جنگل میں ابو بکر ہواری کا دخل ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آجائیں!“ بس یہ کہنا ان کا ہادی (یعنی ہدایت کا سبب) ہو گیا۔ خود فرمایا: ”ابو بکر تیری حالت یہ ہو گئی کہ خیموں میں عورتیں تک تجھ سے خوف کرتی ہیں اور تو خدا سے نہیں ڈرتا!“ اسی وقت تابع ہوئے اور گھر کو لوٹ آئے۔ شب کو سوئے خواب میں زیارتِ اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے مشرف ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ

نے عرض کیا: بیعت لیجئے! ارشاد فرمایا: ”تجھ سے تیرا ہم نام بیعت لے گا۔“ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی اور اپنی گلاہ (یعنی عمامہ) مبارک انکے سر پر رکھی۔ آنکھ کھلی تو گلاہ اقدس موجود تھی۔ یہ سلسلہ ہوا یہ آپ سے شروع ہوا۔

(جامع کرامات الاولیاء، حرف الالف، ابو بکر بن الہوار، ج ۱، ص ۴۲۵)

## عرب کیساتھ محبت

**عرض:** عرب کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم حدیث میں ہے؟

**ارشاد:** ہاں حدیث میں ہے:

مَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ  
أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي

جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس  
نے عرب سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔

(المعجم الاوسط، من اسمہ ابراہیم، الحدیث ۲۵۳۷، ج ۲، ص ۶۶)

دوسری حدیث میں ہے:

حُبُّ الْعَرَبِ إِيْمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ

عرب کی محبت ایمان اور ان کی عداوت نفاق ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، ذکر فضائل قبائل، الحدیث ۷۰۸۰، ج ۵، ص ۱۱۷)

ایک اور حدیث میں ہے:

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لثَلَاثٍ لِأَنَّيَ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ  
عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيَّةٌ

تین باتوں کے سبب عرب سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں  
اور قرآن عربی ہے اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، ذکر فضائل قبائل، الحدیث ۷۰۸۱، ج ۵، ص ۱۱۷)

## مُنْكَرَ نَكِيرٍ كَيْسَ زَبَانٍ مِيَسِ هَوِي كَيْسَ؟

**عرض:** عربی زبان مرنے کے وقت سے ہو جاتی ہے؟

**ارشاد:** اس کی بابت (یعنی بارے میں) تو کچھ حدیث میں ارشاد نہیں ہوا۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،

صاحب کتاب ”ابریز“ (یعنی شیخ احمد بن مبارک علیہ الرحمۃ) کے شیخ فرماتے ہیں: ”منکر تکبیر کا سوال سریانی میں ہوگا“ اور کچھ لفظ بھی بتائے ہیں۔ (الابریز، کلام سیدی الغوث عبدالعزیز الدباغ، ج ۱، ص ۳۴۷)

## انجیل اور تورات کونسی زبان میں نازل ہوئیں؟

**عرض:** عبرانی اور سریانی ایک ہی ہیں؟

**ارشاد:** عبرانی اور ہے اور سریانی اور، عبرانی میں انجیل نازل ہوئی اور سریانی میں تورات ہے۔

### زمان و مکان کا وجود خارج میں نہیں

**عرض:** حضور! مُتَكَلِّمِینَ جو زمان و مکان کو ”بَعْدَ وَاَمْتِدَادِ مَوْهُومٍ“ کہتے ہیں اس کے کیا معنی؟

**ارشاد:** خارج میں ان کا وجود نہیں (بلکہ) وہ ہم حکم کرتا ہے لیکن ان کا وجود انبیا اب اَعْوَال (یعنی ہوت پریت) کے مثل نہیں اصلیت ہے۔

ابن ابریز میں ہے: ”شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا: کیا قبر میں سریانی زبان میں سوال جواب ہوگا؟ کیونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نظم میں یہ شعر موجود ہے:

ومن غریب ماتری العینان ان سؤال القبر بالسریانی

”انسان کے لئے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قبر میں میت سے سوال و جواب سریانی زبان میں ہوں گے۔“

اس نظم کے شارح بیان کرتے ہیں: امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف ”شرح الصدور“ میں شیخ الاسلام علم الدین البلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ قبر میں سریانی زبان میں میت سے سوال جواب ہوگا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تاہم مجھے کسی حدیث میں یہ بات نہیں مل سکی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا: حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قبر میں سوال جواب، عربی زبان میں ہوگا۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ہر شخص سے اس کی مخصوص زبان میں سوال جواب کیا جائے گا۔ اور یہ بات زیادہ معقول محسوس ہوتی ہے۔

حضرت سیدی دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا: قبر میں سوال جواب سریانی زبان میں ہوگا۔ کیونکہ فرشتے اور ارواح یہی زبان بولتے ہیں سوال فرشتے کریں گے اور جواب روح دے گی کیونکہ جب روح جسم سے نکل جائے تو اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ولی کو فتح کبیر عطا فرمادے تو وہ باقاعدہ سیکھے بغیر ہی سریانی زبان میں گفتگو کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس وقت اس پر روح کا حکم غالب ہو جاتا ہے۔ اس لئے (روح کے غلبے کے باعث ہی) مردے کو سریانی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی الجھن درپیش نہیں ہوگی۔

(الابریز، الباب الثانی فی بعض الایات القرآنیۃ الی سالناہ عنہا..... الخ، ص ۳۴۷)



## جُزْءٌ لَا يَتَجَرَّىٰ أَوْ خَلَا كَيْفَ كَانَ

**عرض:** حضور! ”خلا“ ممکن ہے؟

**ارشاد:** خلا بمعنی ”فضا“ تو واقع ہے اور خلا بمعنی ”فضا خالی عن جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ“ موجود تو نہیں لیکن ممکن ہے۔ فلاسفہ جتنی دلیلیں بیان کرتے ہیں ”جُزْءٌ لَا يَتَجَرَّىٰ“ اور ”خلا“ وغیرہ کے استحالہ میں وہ سب مردود ہیں۔ کوئی دلیل فلاسفہ کی ایسی نہیں جو ٹوٹ نہ سکے۔ فلاسفہ نے جتنی دلیلیں قائم کی ہیں وہ سب اتصال اجزاء کو باطل کرتی ہیں، وجودِ جز کو باطل نہیں کرتیں اور تزکب جسم کے لیے اتصال ضروری نہیں۔ ”دیوار“ جسم مرکب ہے اور اس کے اجزاء متصل نہیں۔

## جُزْءٌ لَا يَتَجَرَّىٰ كَالثَبُوتِ

**عرض:** حضور مقابلہ تو نکلے گا اور ایک وہ سطح نکلے گی جو مقابل ہوگی اور ایک وہ جو مقابل نہ ہوگی، پھر تقسیم ہو جائے گی۔

**ارشاد:** مقابلہ کل سے ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اصول موضوعہ میں لکھا ہے کہ سطح اور خط اور نقطہ موجود خارجی ہیں، اب ہم ایک نقطہ سے تین خط ایک جانب کو ایک حد تک کھینچیں، ہر خط کی انتہا پر ایک نقطہ ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں: یہ تینوں نقطے ہر ایک آپس میں کل سے مقابل ہیں یا جز سے؟ اگر جز سے مانا جائے تو نقطے کے اجزاء ہو جائیں گے حالانکہ نقطہ متجزی نہیں تو ثابت ہو گیا کہ کل سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔

{ پھر فرمایا } میں نے تو جزء لا يتجزى کا قرآن عظیم سے اثبات کیا ہے، فرماتا ہے:

وَمَرَّ قُنُومٌ كُلُّ مَسْرُوقٍ ط

اور ہم نے ان کو پارہ پارہ کر دیا ہے

(پ ۲۲، سیا: ۱۹)

پارہ پارہ کرنا ”مَسْرُوقٍ“ بمعنی اسم مفعول نہیں کہ اس صورت میں تحصیل حاصل ہوگی بلکہ بمعنی مصدر ہے۔

## كِهَانَا كِهَاتِي وَتِمْ بَاتِي كِرْنَا

**عرض:** کھانا کھاتے وقت بولنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** کھانا کھاتے وقت التزام کر لینا نہ بولنے کا یہ عادت ہے مَجُوس (یعنی آتش پرستوں) کی اور مکروہ ہے اور لغو باتیں کرنا یہ ہر وقت مکروہ، اور ذکرِ خیر کرنا یہ جائز ہے۔

## نوکر نماز نہ پڑھے تو سیٹھ پر وبال آئے گا؟

**عرض:** نوکر نماز نہ پڑھے تو آقا پر مؤاخذہ ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** جتنی تاکید کر سکتا ہے اتنی نہ کرے تو مواخذہ ہے ورنہ نہیں۔

## مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر وعظ کہنا کیسا؟

**عرض:** مسجد میں کرسی بچھا کر اس پر بیٹھ کر وعظ کہنا جائز ہے؟

**ارشاد:** جائز ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید گاہ میں کرسی بچھا کر اس پر وعظ فرمایا ہے۔

## ہاتھی زندہ ہو گیا

**عرض:** کیا اولیاء سے بھی اخیاء مؤتی (یعنی مردے زندہ کرنے) کا ثبوت ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔ حضرت سیدی احمد جام زندہ ہو پیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لیے جاتے تھے۔ راہ میں ایک ہاتھی مرا پڑا

تھا۔ لوگوں کا مجمع تھا، آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا: کیا ہے؟ عرض کیا: ہاتھی مر گیا ہے۔ فرمایا: اس کی سوئڈ ویسی ہی ہے،

آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، پیر بھی ویسے ہی ہیں۔ غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ ویسے ہی ہیں پھر مر کیسے گیا!

یہ فرمانا تھا کہ فوراً زندہ ہو گیا، جب سے آپ کا لقب ”زندہ پیل“ (یعنی ہاتھی زندہ کرنے والا) ہو گیا۔

## نابالغ لڑکی کے نکاح کا ولی کون؟

**عرض:** اگر لڑکی نابالغ ہو تو اس کا ولی نکاح میں کون ہو سکتا ہے؟

**ارشاد:** باپ اور باپ کے بعد دادا اور دادا نہ ہو تو بھائی، بھائی نہ ہو تو بھتیجا، بھتیجانہ ہو تو چچا پھر چچا کا بیٹا الخ

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب النکاح، الباب الرابع فی الاولیاء ج ۱، ص ۲۸۳)

## طلاق کا حق

**عرض:** نابالغ لڑکے کا باپ طلاق دے تو ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں ہو سکتی۔

**عرض:** حضور جب اس کو نکاح کا اختیار ہے تو طلاق کا بھی ہونا چاہیے؟

**ارشاد:** نکاح کر دینے کا مالک ہے کہ وہ نفع ہے طلاق کا نہیں کہ وہ ضرر ہے۔

## ”تجھے خدا سمجھے“ کہنا کیسا؟

**عرض:** بد دعا میں یہ کہنا کہ ”تجھے خدا سمجھے“!

**ارشاد:** ”تجھے خدا سمجھے“ کہہ سکتا ہے۔ یہاں سمجھنے کے معنی ”انتقام لینے“ کے ہیں۔ کسی کو ”زانی“ کہہ کر پکارنا کیسا؟

**عرض:** کسی کو زانی کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** اگر چار گواہ شرعی نہ لاسکے تو قاذف ہے۔

## آج کل کے معروف غلط جملوں پر حکم

{ پھر فرمایا } اس طرح سے تو لوگ کم بولتے ہیں۔ آج کل جو عوام میں جاری ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھتے، کسی کو بیٹی کے ساتھ کسی کو بہن کے ساتھ، کسی کو لفظ بڑ کے ساتھ بڑا ہی فحش لفظ ملاتے ہیں۔ یہ بھی مُؤَجِبِ حَدِّ قَذْفِ ہے۔ ایسے ہی کسی کو ”حرامی“ کہنا، لڑکی کو ”حرام زادی“ کہنا۔

## حرام زادہ، حرام زادی کہنا کیسا؟

**عرض:** حضور! مرد کو ”حرام زادہ“ کہنا؟

**ارشاد:** یہ حدِّ قَذْفِ کا مُؤَجِبِ نہیں۔ (ردالمحتار، کتاب الحدود، باب حدِّ قَذْفِ، ج ۶، ص ۷۹) حرام زادہ کے معنی ”شریر“ کے آتے ہیں۔

**عرض:** اگر کوئی حرام زادی کے معنی ”شریرہ“ لے تو حدِّ قَذْفِ کا مُؤَجِبِ ہوگا؟

**ارشاد:** ہوگا کیونکہ یہاں عرف کا اعتبار ہے۔

**عرض:** اور اگر استہزاء (یعنی بطور مزاح) کہہ دیا!

**ارشاد:** جب بھی مُؤَجِبِ حَدِّ قَذْفِ ہوگا۔

{ پھر فرمایا } بلکہ جو بڑ..... کے ساتھ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے: ”ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں میں ان کی تحیت کی جگہ گالی ہوگی“ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا سلام کی جگہ گالی بکتے ہوئے۔

۱۔ زنا کی تہمت لگانے والا کو قاذف کہتے ہیں اور ایسا کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۳، ص ۳۲۳)

## توبہ کا طریقہ

**عرض:** حضور! اگر کسی کو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں (تو) ان کی تلافی کیونکر ہوگی؟

**ارشاد:** اگر اس کے منہ پر کہے ہیں یا اس کو خبر ہوگئی تو اس سے معافی مانگے اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ) سے توبہ کرے اور اگر منہ پر نہ کہا اور نہ خبر ہوئی تو صرف توبہ کافی ہے۔

## ایک حدیث کا مطلب

**عرض:** حضور یہ بھی کوئی حدیث ہے ”لَا يَقْضُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَلٌ“

**ارشاد:** یہ حدیث نہیں بلکہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔

**عرض:** اس کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد:** وعظ نہ کہے گا مگر امیر یا جس کو امیر نے حکم دیا یا اجترانے والا۔

## ”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ سے کون لوگ مراد ہیں؟

**عرض:** حضور! ”علماء“ مامور کی شق میں داخل ہوں گے؟

**ارشاد:** حاشا! علماء خود ”امیر“ ہیں۔ ”وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ سے علماء ہی مراد ہیں۔ (تفسیر طبری، النساء، تحت الایہ ۵۹، ج ۴، ص ۱۵۱)

علماء نائب ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ حقیقتہً علماء ہی حاکم ہیں۔ علماء کی اطاعت فرض ہے سلاطین پر بشرطے کہ علماء ہوں۔

## ایک عبارت کا مطلب

**عرض:** ”با خدا داریم کار، و با خلائق کار نیست“ کا کیا مطلب ہے؟ وَقَعَاتُ السِّنَانِ<sup>۲</sup> میں لکھا ہے کہ ”اس

کا مطلب جو ہم اہل سنت کے نزدیک ہے وہ تم کو کیوں پسند ہوگا اور جو تمہارا مطلب ہے وہ یقیناً کفر ہے۔“

**ارشاد:** مسلمانوں کا کام مثلاً اگر عالم دین سے ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ زید بن عمرو ہے بلکہ اس لیے کہ وہ عالم دین ہے تو یہ

کام اُس سے نہیں، اللہ سے ہے۔ اسی طرح صلحا سے لے کر اولیاء، انبیاء اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو کچھ

کسی سے کام ہوگا حقیقتہً اللہ (عَزَّوَجَلَّ) ہی سے ہوگا۔ وہاں یہ اگر اس مطلب کو لیتے تو مدد مانگنے اور پکارنے اور ان کے سوا اور

مسائل میں مسلمانوں کو کافر مشرک نہ کہتے۔ اور جب یہ مطلب نہیں تو جو اس سے ظاہر ہے اس میں انبیاء اولیاء سب داخل اور

۱: ہمیں ”سنن ابی داؤد، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث ۳۶۶۵، ج ۳، ص ۴۵۱“ سمیت مذکورہ عبارت کے جتنے بھی

حوالے دستیاب ہوئے، ان میں اس فرمان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال

۲: ہمیں اللہ سے کام ہے مخلوق سے نہیں۔ ت ۳: یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند درجۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔

اُن سے کام نہ رکھنا یقیناً کفر ہے۔

## مُباح کا واجب ہونا

**عرض:** حضور! یہ مشہور ہے کہ جس مباح کو کفار منع کریں واجب ہو جاتا ہے۔

**ارشاد:** جس مباح کے ترک میں مسلمانوں کے لیے ذلت ہو وہ واجب ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ذلت پہنچانا حرام تو جس امر میں مسلمانوں کو ذلت پہنچے اس کا ترک واجب ہے۔

## فتاویٰ عالمگیریہ کے مصنف کون ہیں؟

**عرض:** فتاویٰ عالمگیریہ کس کی تصنیف ہے؟

**ارشاد:** مولانا نظام الدین صاحب جو مجمعِ علما کے سردار تھے ان کی تصنیف ہے۔

## عالمگیریہ کہنے کی وجہ

**عرض:** حضور پھر اس کو عالمگیریہ کیوں کہتے ہیں؟

**ارشاد:** سلطان عالمگیریہ رحمۃ اللہ علیہ نے علما کو جمع کر کے تصنیف کرائی اور اس میں کئی لاکھ روپیہ صرف (یعنی خرچ) کیا، کثیر کتب خانہ جمع کیا تمام کتابوں میں دیکھ دیکھ کر یہ فتاویٰ تصنیف ہوا۔

## مناظرہ کی ایک ناجائز شرط

**عرض:** مناظرہ میں یہ شرط کرنا کہ جو مغلوب ہو غالب کا مذہب اختیار کر لے، کیسا ہے؟

**ارشاد:** حرام ہے اور اگر دل میں ہے کہ دوسرا شخص غالب ہوگا تو وہ شخص اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا تو یہ کفر ہے۔

## کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے

ائمہ کرام کی تصریح ہے کہ ”جو شخص کفر کا ارادہ کرے مضافاً یا معلقاً ابھی کافر ہو گیا“۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر،

ج ۲، ص ۲۸۳) مضافاً یہ کہ مثلاً ارادہ کرے کہ بیس برس بعد کفر کرے گا تو ابھی کافر ہو گیا کہ کفر پر راضی ہوا۔ اور مُعلق کی شکل یہ ہے کہ اگر وہ کام ہو جائے یا نہ ہو تو وہ شخص کفر کرے گا۔ ہاں اگر دل میں یہ ہے کہ یقیناً میں ہی غالب آؤں گا تو کفر نہیں۔

## محال بالذات کی وضاحت و تعریف

**عرض:** حضور! اگر وہابیہ یہ کہیں کہ باری تعالیٰ کے لیے ظلم اس وجہ سے محال (یعنی ناممکن) ہے کہ غیر ”مالکِ مُستقل“ ہے ہی نہیں تو (یہ) بالذات محال نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟

**ارشاد:** یوں تو کوئی شے محال بالذات نہ رہے۔ مخالف پوچھے گا: یہ کیوں محال ہے؟ جب اس کی وجہ استحالہ بتائے گا، وہ (یعنی مخالف) کہہ دے گا: اس وجہ سے محال ہے، نفس ذات میں استحالہ نہیں۔ ”محال بالذات وہ ہے جس کی نفس ذات ابا (یعنی انکار) کرے وجود سے“ اور ”وہ عرض بھی محال بالذات ہوتا ہے جو اپنے وجود کے وقت ایسی شے سے متعلق ہوتا ہے جس کی نفس ذات ابا (یعنی انکار) کرتی ہے وجود سے اور اگر وہ شے مستقل نہیں تو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کی نفس ذات ابا کرے اس کے وجود سے تو وہ بھی محال بالذات ہے“۔

وجہ استحالہ بیان کرنے سے شے محال یا غیر نہیں ہو جاتی للہ (عَزَّوَجَلَّ) نے خبر دی کہ فلاں بات ہوگی یا نہ ہوگی۔ اب اس کا خلاف ممکن ہے یا محال؟ ممکن تو ہے نہیں اور محال بالذات ہونے سے کہ نفس ذات میں امکان ہے تو محال یا غیر ہوگا۔ اب وہ غیر کیا ہے جس کے سبب سے یہ محال ہے؟ وہ کذب الہی ہے، لازم آئے گا کہ کذب الہی محال بالذات ہو ورنہ محال یا غیر تو ممکن بالذات ہوتا ہے اور ممکن بالذات پر کوئی شے موقوف ہونے سے محال یا غیر نہیں ہو جاتی۔

### کذب الہی ممکن نہیں

{ پھر فرمایا { کذب الہی کا امکان مان کر عقائد، ایمان، شرائع، اذیان<sup>۱</sup> کچھ بھی نہ رہے گا۔ ”ایمان کہتے ہیں اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل کو۔“ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، پھر کیا سبب ہے کہ کوئی دلیل عقلی اس پر قائم نہیں؟ سمعیات محضہ میں سے ہے (یعنی ان مسائل میں سے ہے جن کا اثبات قرآن وحدیث پر موقوف ہے، محض عقل سے انہیں نہیں جانا سکتا) لا محالہ (یعنی ضرور) ماننا پڑے گا کہ اخبار الہی ہیں اور جب اخبار الہی میں کذب ممکن ہو تو اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل کہاں سے آئے گا! پھر تو ہر بات میں یہ رہے گا کہ ممکن ہے جھوٹ کہہ دیا ہو۔ تو نہ دین رہا نہ قرآن، نہ اسلام رہا نہ ایمان۔

### کلام لفظی و کلام نفسی کی بحث

**عرض:** حضور اگر ”کلام لفظی“ میں کذب ممکن مانا جائے اور ”کلام نفسی“ کو اس سے پاک مانا جائے تو کیا خرابی ہے؟  
**ارشاد:** ”کلام لفظی“ تعبیر کس سے ہے، کسی معنی سے ہے یا یہ معنی سے علیحدہ الفاظ ہیں؟ ضرور ہے کہ معنی سے تعبیر ہے اور

معنی ”کلامِ نفسی“۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صدق و کذب اولاً معنی کو عارض ہوایا الفاظ کو؟ ضرور ہے کہ معنی ہی کو عارض ہے اس کے ذریعہ سے الفاظ پر تو کذب ”کلامِ نفسی“ پر ہوایا صرف ”کلامِ لفظی“ پر! معنی اگر مطابقت واقع ہیں تو صادق ورنہ کاذب۔ الفاظ اگر اس کے موافق ہیں تو یہ (یعنی کلامِ نفسی) صادق ہوگا تو وہ (یعنی کلامِ لفظی) بھی صادق اور یہ (یعنی کلامِ نفسی) کاذب تو وہ بھی کاذب اور اگر موافق نہیں تو تعبیر ہی نہ ہوئی۔ بشرک کلام لیجئے، زید کے ذہن میں ایک معنی ہیں ”زید قائم“ اب اگر الفاظ میں ”زید کیس بقائم“ ہیں تو سرے سے اس کی تعبیر ہی نہ ہوئی اور اگر ”زید قائم“ ہے تو معنی صادق ہوں گے تو یہ بھی صادق ہوگا اور وہ کاذب تو یہ بھی کاذب۔

## کلام باری میں لفظی و نفسی کا کوئی فرق نہیں

{ پھر فرمایا؟ } ہم تو کلام باری عَزَّوَجَلَّ میں لفظی و نفسی کا تفرقہ مانتے ہی نہیں، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ متاخرین متکلمین کی غلطی ہے۔“

## کیا پکا سنی بد مذہب کی کُتُب دیکھ سکتا ہے؟

**عرض:** مُتَّصِلَب (یعنی پکے) سنی کو اعتراض کی نظر سے خُبْنًا (یعنی خبیثوں) کی کتابیں دیکھنا جائز ہیں یا نہیں؟  
**ارشاد:** فقط مُتَّصِلَب ہونا کافی نہیں بلکہ عالم ہو، پورا ماہر ہو، وسیع نظر ہو، اس کے ساتھ مُتَّصِلَب سنی بھی ہو، کیا اعتماد رکھتا ہے اپنے نفس پر؟ اور جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کڈّاب پر اعتماد کیا۔ حدیث میں ہے:

إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ  
الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ  
میں ہیں، پھیرتا ہے ان کو جس طرف چاہتا ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء ان القلوب..... الخ، الحدیث ۴۷، ۲۱، ج ۴، ص ۵۵)

## مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا

اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ خود اعلیٰ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمانے سے پہلے حسب

معمول یہ دعا پڑھی:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ  
 اے اللہ تجھے پاکی ہے اور تیری حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں  
 میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔

ایک خادم نے عرض کیا: حضور! اس کی فضیلت کیا ہے؟

ارشاد فرمایا: حدیث میں ہے، ”جو شخص جلسہ سے اٹھتے وقت اس دعا کو پڑھے گا جس قدر نیک باتیں اس جلسے میں کی ہوں گی ان پر مہر لگا دی جائے گی، کہ ثابت رہیں اور جتنی بری باتیں کی ہوں گی وہ مَحْو (یعنی ختم) کر دی جائیں گی۔“

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی کفارة المجلس، الحدیث ۴۸۵۷، ۴۸۵۹، ج ۴، ص ۳۴۸، ۳۴۷)

## عالم کی تعداد کے بارے میں بیان

**عرض:** مخلوقات خالق تبارک و تعالیٰ میں ھٰڈَدَہ (یعنی اٹھارہ) ہزار عالم کہ مشہور ہیں اس طرح ہوتے ہیں: ”اَوَّلَ عَالَمٍ عَقُول، دوم عالم اَرْوَاح، نو عالم اَفْلاک، چار عالم عَنَاصِر، تین عالم مَوَالِید، مجموع اٹھارہ ہوئے اور خداوند عالم کے ہزار نام ہیں ہر نام ان میں ایک تَصَرُّفِ مخصوص رکھتا ہے۔ جب اٹھارہ کو ایک ہزار میں ضرب دی جائے گی اٹھارہ ہزار ہوں گے۔“ بعض روایات سے ”سی صد و شست ہزار“ یعنی تریسٹھ ہزار پائے جاتے ہیں۔ بعض ستر ہزار بتاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اٹھارہ عالم ہیں: عقلیہ، روحیہ، نفسیہ، طبیعیہ، جسمانیہ، عنصریہ، مثالیہ، خیالیہ، برزخیہ، حشریہ، جناتیہ، جہنمیہ، اعرافیہ، رویتیہ، صوریہ، جمالیہ، جلالیہ، یہ سترہ ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک رہ گیا ہے، وہ ارشاد ہو۔

ارشاد: یہ کسی کا تخیل (یعنی خیال) ہے اور غیر صحیح۔ اس کی تکمیل کیا ہو!

## بَرْزَخ سے مراد قبر ہے یا زمانہ؟

**عرض:** ”بَرْزَخ“ کی تعریف تو یہ ہے کہ ”وہ شے جو متوسط ہوں درمیان دو شے کے، جسے دونوں سے علاقہ ہو سکے۔“ جب صرف برزخ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم قبر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو بعد مرنے سے قیامت یا حشر تک ہے؟

ارشاد: نہ قبر نہ وہ زمانہ بلکہ وہ مقامات جن میں ارواح بعد موت حشر تک حسب مراتب رہتی ہیں۔

(مفردات الفاظ القرآن للراغب الاصفہانی، ص ۱۱۸)



## قیامت اور حشر کا فرق

**عرض:** قیامت اور حشر کا فرق، قیامت وہ ہے جس میں سب موجودات فنا کئے جائیں گے اور حشر میں پھر اڑ سرنو (یعنی نئے سرے سے) پیدا کیے جائیں گے۔ اگر برزخ کا زمانہ قیامت ہے تو بعد قیامت حشر تک کے زمانہ کا کوئی نام ہے یا نہیں اور قیامت کے کتنے عرصہ کے بعد حشر ہوگا؟

**ارشاد:** وہ ”ساعت“ ہے، کبھی اسے قیامت بھی کہتے ہیں ورنہ قیامت و حشر ایک ہیں۔ ساعت و حشر کے درمیان جو زمانہ ہے اسے ”مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ“ (یعنی دو دُور پھونکنے جانے کا درمیانی زمانہ) کہتے ہیں۔ حشر چالیس برس بعد ہوگا۔

(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، سورۃ مومنون، تحت الایۃ ۱۰۰، ج ۶، ص ۱۱۳)

## برزخ کے درجات

**عرض:** درجاتِ برزخ ”عَلِیِّین“ اور ”سَجِیِّین“ اور ان کے سوا جو ہوں، ارشاد ہوں!

**ارشاد:** ”عَلِیِّین“ اور ”سَجِیِّین“ برزخ ہی کے مقامات ہیں اور ہر ایک میں حسب مراتب تفاوت (یعنی فرق) بے شمار۔

## درجاتِ فقر

**عرض:** ”درجاتِ فقر“ ترتیب وار ارشاد ہوں کہ جب طالب سلوک کی راہ چلتا ہے تو اوّل کون سا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر کون سا؟

**ارشاد:** صُلْحَاء، سَالِکِیْن، قَانِتِیْن، وَاصِلِیْن، اب ان واصلوں کے مراتب ہیں: نُجَبَاء، نُقَبَاء، اَبْدَال، بُدَلَاء، اَوْتَاد، اِمَامِیْن، غوث، صِدِّیق، نبی، رسول۔ تین پہلے ”سیرالی اللہ“ کے ہیں، باقی ”سیر فی اللہ“ کے اور ولی ان سب کو شامل۔

## کیا انبیاء کرام کے فضلات شریفہ پاک ہیں؟

**عرض:** انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ”فضلات شریفہ“ (یعنی جسم سے خارج ہونے والے زائد مادے مثل بول و براز وغیرہ) پاک ہیں؟

**ارشاد:** پاک ہیں اور ان کے والدین کریمین کے وہ نطفے بھی پاک ہیں جن سے یہ حضرات پیدا ہوئے۔

(شرح الشفاء للفاضی عیاض، ج ۱، ص ۱۶۸، شرح العلامة الزرقانی، ج ۱، ص ۱۹۴)

## قضائے حاجت کی جگہ سے مشک کی خوشبو آنا

{ پھر فرمایا { ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی۔ دو متفرق پیڑ الگ الگ کھڑے تھے اور کچھ پتھر ادھر ادھر پڑے تھے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ان پیڑوں اور پتھروں سے جا کر کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم آپس میں مل جاؤ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فرمایا۔ دونوں پیڑوں نے جنبش کی اور اپنے تمام رگ و ریشہ زمین سے نکالے، ایک ادھر سے چلا اور دوسرا ادھر سے اور دونوں مل گئے اور پتھروں نے ایک دیوار کی مثل ہو کر اڑنا شروع کیا اور درختوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور وہاں تشریف لے گئے اور قضائے حاجت فرمائی۔ جب فارغ ہو کر تشریف لائے، میں گیا اس قصد سے کہ جو کچھ خارج ہوا ہو اس کو کھاؤں (مگر) وہاں کچھ نہ تھا البتہ اس جگہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرمایا: ان پیڑوں اور پتھروں سے کہو، اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور! میں اس نیت سے گیا تھا کہ جو کچھ ملے اس کو بٹیر کا کھاؤں (مگر) وہاں سوائے مشک کی خوشبو کے اور کچھ نہ پایا۔ فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ زمین نکل لیتی ہے جو انبیاء سے خارج ہوتا ہے!

{ پھر مسکرا کر فرمایا { جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو زمین ہی نہیں چھوڑتی۔

## انبیاء سے علاقہ رکھنے والی ہر شے طاہر ہے

{ پھر فرمایا { سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام طاہر محض ہیں اور جو شے ان سے علاقہ (یعنی تعلق) رکھنے والی ہے سب طاہر۔ ہاں ان کے فضلات خود ان کے حق میں ایسے ہی نجس ہیں جیسے ہمارے نزدیک ہمارے فضلات نجس (یعنی ناپاک) ہیں اور اگر ان سے کوئی فضلہ خارج ہو جو ہمارے لیے ناقض وضو (یعنی وضو توڑنے والا) ہے تو بے شک ان کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔

## اعلیٰ حضرت کی امام عینی شارح بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری سے محبت

{ پھر فرمایا { میری نظر میں امام ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری (علیہ رحمۃ اللہ الباری) کی وقعت (یعنی عظمت) ابتداءً

امام بدرالدین محمود عینی شارح صحیح بخاری (علیہ رحمۃ اللہ الباری) سے زیادہ تھی۔ ”فضلا شریفہ“ کی طہارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے۔ امام ابن حجر (رحمۃ اللہ علیہ) نے اُنْحَاثِ مُخَدَّ ثَانِهٍ لکھی ہیں، امام عینی (رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی شرح بخاری میں اس بحث کو بہت بسط (یعنی تفصیل) سے لکھا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ”یہ سب کچھ ابحاث ہیں۔ جو شخص طہارت کا قائل ہو اُس کو میں مانتا ہوں اور جو اس کے خلاف کہے اس کے لیے میرے کان بہرے ہیں، میں سنتا نہیں۔“ (عمدۃ القاری، کتاب الوضوء،

باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، ج ۲، ص ۴۸۱ وفتح الباری کتاب الوضوء، باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، ج ۲، ص ۲۴۶) یہ لفظ

ان کی کمال محبت کو ثابت کرتا ہے اور میرے دل میں ایسا اثر کر گیا کہ ان کی وقعت (یعنی عظمت) بہت ہو گئی۔

## انبیاء کے موئے مبارک، دندان شریف اور ناخن شریف کھانا کیسا؟

**عرض:** انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اعضاء شریفہ مثلاً موئے مبارک (یعنی بال) اور دندان شریف اور ناخن شریف کھانا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** یہ ناجائز و حرام ہے۔ اِبْتِذَالٍ وَ تَوْبِنٍ ہے۔ جو چیز حرام کی گئی اس کی حلت کی کوئی وجہ نہیں، وہ مباح نہیں ہو سکتی۔ اگر تبرک چاہتا ہے پانی میں دھو کر پئے۔

## حلال و طیب میں فرق

**عرض:**

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ

ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ

نے روزی دی حلال پاکیزہ (پ ۷، المائدہ: ۸۸)

میں ”طیباً“ کی قید کیسی ہے؟ کیونکہ ہر حلال طیب ہے۔

**ارشاد:** جو چیز حلال ہو اور طیب ہو اُسے کھاؤ! یہ معنی ہیں۔

{ پھر فرمایا { ہر طیب حلال ہے اور ہر حلال طیب نہیں۔ جو چیزیں مکروہ ہیں وہ طیبات سے خارج ہیں۔

## طاہر و طیب کے معنی

**عرض:** آدمیوں کی ہڈی طیب ہے اور حلال نہیں۔

**ارشاد:** طاہر ہے، طیب نہیں۔ طاہر کے معنی ”پاک“ کے ہیں، اگر نماز میں پاس ہو تو حرج نہیں اور طیب کے معنی ”پاک جائز“ الاستعمال، جس میں کسی جہت سے نقصان نہ ہو۔ ناقص چیز کو خبیث کہا جاتا ہے۔ طاہر عام ہے، حلال اس سے خاص ہے، طیب اس سے بھی خاص ہے۔

## جیل اور پاگل خانہ کی بنی ہوئی اشیاء کا حکم

**عرض:** قیدی لوگ قید خانہ میں جو اشیاء بناتے ہیں گورنمنٹ ان کو فروخت کرتی ہے ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ظلماً بنوائی گئی ہیں، ناجائز ہے۔

**عرض:** پاگل خانہ کی اشیاء کا بھی کیا یہی حکم ہے؟

**ارشاد:** جو واقع میں پاگل ہیں ان کو ایک جگہ پر رکھنا ظلم نہیں بلکہ خلاق (یعنی مخلوق) کو فائدہ پہنچانا ہے اور کام جو ان سے لیتے ہیں، یہ روٹی کپڑے کے عوض۔

## اوجھڑی کھانا کیسا؟

**عرض:** اوجھڑی کھانا کیسا ہے؟

**ارشاد:** مکروہ ہے۔

## جھولا جھولنا کیسا؟

**عرض:** تفریحاً جھولا جھولنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** شارع عام پر نہ ہو۔ مکان میں ہو کچھ حرج نہیں۔ یہ تو بدن کی ریاضت ہے، بعض امراض میں اطبیب (یعنی طیب

حضرات) مفید بتاتے ہیں۔

**عرض :** حضور عورتوں کو بھی جائز ہے؟

**ارشاد :** کوئی نامحرم نہ ہو اور گھر کے اندر ہوں اور گانا نہ گائیں تو ان کے واسطے بھی جائز۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَدِّيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: ”مجھے اپنے نکاح کی کوئی خبر نہ تھی، میں اپنے مکان میں جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں مجھ کو اٹھا کر لے گئیں۔“

(ملخصاً، سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی الأرجوحة، الحدیث ۴۹۳۷، ج ۴، ص ۳۷۰)

## کُفَّار کے جنازے کیساتھ جانا کیسا؟

**عرض :** کفار کے جنازے کے ساتھ جانا کیسا ہے؟

**ارشاد :** اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں تو حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا: ”اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے کہ شیطان آگے آگے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا گودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت ایک آدمی پر وصول ہوئی۔“

## ہندوؤں کا میلا دیکھنے جانا کیسا؟

**عرض :** ہندوؤں کے رام لیلا وغیرہ دیکھنے جانا کیسا ہے؟

**ارشاد :**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○ (ب ۲، البقرہ: ۲۰۸)  
مسلمان ہوئے ہو تو پورے مسلمان ہو جاؤ۔ شیطان  
کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا ناپا ہر دشمن ہے۔

حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اِسْتَبْرَءَا (یعنی التجا) کی کہ اگر اجازت ہو تو نماز میں کچھ آیتیں تو ریت شریف کی بھی ہم لوگ پڑھ لیا کریں! اس پر یہ آئیہ کریمہ ارشاد فرمائی۔ (تفسیر الدر المنثور، البقرہ، تحت الایہ، ۲۰۸، ج ۱، ص ۵۷۹) تو ریت شریف پڑھنے کے واسطے تو یہ حکم ہوا، رام لیلا کے واسطے کیا کچھ حکم نہ ہوگا!

## گُردے کھانے کا حکم

**عرض :** گردے کھانے کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** جائز ہے مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا اس وجہ سے کہ پیشاب ان میں سے ہو کر مٹانہ میں جاتا ہے۔

## اوجھڑی مکروہ کیوں؟

**عرض:** حضور! یہ ماننا ہوا ہے (کہ) نجاست اپنے محل میں پاک ہے اور اوجھڑی میں جو فضلہ ہے وہ بھی نجس نہیں تو پھر کراہت کی کیا وجہ؟

**ارشاد:** اسی وجہ سے تو مکروہ کہا گیا، اگر نجاست کو (اس کے محل میں) نجس مانا جاتا تو اوجھڑی مکروہ نہ ہوتی بلکہ حرام ہو جاتی۔

## آیت قرآنی کے معنی کی وضاحت

**عرض:**

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ کافروں کو  
مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔

(پ ۵، النساء: ۱۴۱)

سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کافر کسی مسلمان پر غالب نہ ہوگا حالانکہ واقع میں اس کے خلاف ہے!

**ارشاد:** اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کوئی ولایت نہیں رکھی کافروں کے واسطے مسلمانوں پر۔ ولایت کہتے ہیں ”حکم نافذ“  
التصرف شاء أو ابی چاہے مانے یا نہ مانے اور شریعت بھی اس کو قبول کر لے۔“ یہ بات کبھی حاصل نہ ہوگی کسی کافر کو کسی مسلم  
پر۔ والد اپنی نابالغ اولاد پر ولایت رکھتا ہے۔ یہ ان کا نکاح کر دے اور وہ چلا تے رہیں: ہمیں نہیں منظور! نکاح نافذ ہو گیا  
(اور) بعد بالغ ہونے کے بھی کچھ اختیار نہیں۔ یاد و عادل مسلمان کسی پر گواہی دیں۔ وہ (جواب میں) کہہ رہا ہے: یہ (یعنی گواہ)  
جھوٹے ہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ (یعنی گواہ) کہہ دیں کہ اس نے ایسا کیا، گواہی نافذ ہو گئی۔

## جزیہ کا بیان

**عرض:** حضور! عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے آیا ہے ”يَضَعُ الْجِزْيَةَ“ (یعنی وہ جزیہ اٹھا دیں گے) اور ہماری شریعت میں  
جزیہ ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہماری شریعت کے نسخ ہوئے!

**ارشاد:** یہ حکم کس میں ہے، انجیل میں ہے یا توریت میں؟ ظاہر ہے کہ ان میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب البيوع، باب قتل الخنزير، الحديث ۲۲۲۲، ج ۲، ص ۵۱) یہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا۔ اگر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یہ فرماتے کہ جزیہ ہمیشہ ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آکر اتار دیتے تو البتہ سُخَّ ہوتا۔

## آیت قرآنی کا مطلب

**عرض:** حضور! قرآن مجید میں ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعا کی:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب

ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال (پ ۲۸، الممتحنة: ۵)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے کافروں کے ہاتھ میں بے دست و پا نہ کر دیئے جائیں گے کہ ان کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟

**ارشاد:** یہ دعا کی تھی کہ کسی مسلمان کو فتنہ نہ کریا، ہم کو فتنہ نہ کر؟ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ دعا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب ہمیں کافروں

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے

ہمارے رب بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ (پ ۲۸، الممتحنة: ۵)

اور وہ قبول ہوئی۔ اگر اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ کبھی کوئی مسلمان کسی کافر کے فتنے میں نہ پھنسے گا تو پھر اس کے کیا معنی ہوں گے جو ”أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ“ کے لیے فرمایا گیا:

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ کنزالایمان: بیشک جنہوں نے

وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا

ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو

فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ

پھر توبہ نہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔

(پ ۳۰، البروج: ۱۰)

## انبیاء عظیم اسلام کا شہید ہونا

**عرض :** اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبِينَ أَنَا وَرَسُولِي ط

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لکھ چکا کہ ضرور

میں غالب آؤں گا اور میرے رسول (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۱)

تو بعض انبیاء شہید کیوں ہوئے؟

**ارشاد :** رسولوں میں سے کون شہید کیا گیا؟ انبیاء البتہ شہید کیے گئے۔ رسول کوئی شہید نہ ہوا۔ ”يَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ“ فرمایا گیا نہ کہ ”يَقْتُلُونَ الرَّسُلَ“ ل

## جیسی رعایا ویسا حاکم

**عرض :** حضور مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو لیکن کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مسلمان پھر مسلمان ہے کافر سے بدتر تو کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ قطع نظر ”يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ“ کے کوئی وجہ کافر کو مسلمانوں پر مُسَلِّط ہونے کی نہیں معلوم ہوتی!

**ارشاد :** اس کا جواب حدیث دے گی:

كَمَا تَكُونُوا يُوَلِّي عَلَيْكُمْ

جیسے تم ہو گے ویسا ہی حاکم تم پر بھیجا جائے گا۔

(فردوس الاخبار للذہبی، باب الکاف، الحدیث ۴۹۵۳، ج ۲، ص ۱۸۴)

## اسلام کبھی مغلوب نہ ہوگا

**عرض :** حضور! کچھ بھی ہو، آخر مسلمان تو ہیں، ان کا غلبہ اسلام کا غلبہ اور ان کی مغلوبیت سے اسلام کی مغلوبیت، حالانکہ یہ ثابت ہے اَلْاِسْلَامُ يَعْزُبُ وَلَا يُعْلَى (اسلام بلند و غالب رہے گا مغلوب نہ ہوگا۔) (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبی..... الخ، ج ۱، ص ۴۵۵) تو چاہیے کہ مسلمان کبھی مغلوب نہ ہوں۔

۱۔ اور شہید ہو جانا مغلوبی نہیں، غلبہ سے مراد ”غلبہ نجات“ ہے کَمَا سَيَأْتِي (یعنی جیسا کہ عنقریب آگے دوسرے ارشاد میں ذکر ہوگا) ۱۲ مؤلف غُفْرَانَهُ اس ارشاد کی مزید وضاحت کے لئے مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تالیف ”تحقیقات“ (مطبوعہ فرید بک اشال مرکز الاولیاء لاہور) صفحہ 85 تا 94 ملاحظہ کیجئے۔ ۲۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ جو چاہے کرے (پ ۱۷، الحج: ۱۸)



**ارشاد:** اسلام کبھی مغلوب نہ ہوگا (اگرچہ) مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ مسلمانوں کے مغلوب ہونے سے اسلام کی مغلوبیت نہیں۔ اسلام جب مغلوب ہوتا کہ کفار کی حُجَّت مسلمانوں کی حجت پر غالب آجاتی ”حُجَّتُهُمْ دَاجِصَةٌ“ (ان کی حجت مغلوب ہے۔) (پ ۲۵، الشوری: ۱۶)

## دنیا کی حیثیت

{ پھر فرمایا { حدیث میں ہے: ”اگر دنیا کی قدر اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک

گھونٹ اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔“ (جامع ترمذی، کتاب الزهد، ما جاء فی اہوان الدنیا، الحدیث ۲۳۲۷، ج ۴، ص ۴۳، ۴۴، ۴۵) ذلیل ہے (اسی لیے) ذلیلوں کو دی گئی، جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا کی رُوحانیت آسمان وزمین کے درمیان جَوّ (یعنی فضا) میں مُعلق ہے۔ فریاد و زاری کرتی ہے اور کہتی ہے: اے میرے رب! تُو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ مُدّتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے: ”چُپ خبیثہ!“ (احیاء علوم الدین، کتاب ذم الدنیا، باب بیان ذم الدنیا، ج ۳، ص ۲۵۱، ملخصاً) سورہ زُحُور شریف میں تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اندھے کہیں گے، یہ کفر ہی حق ہے، ورنہ ہم کافروں کے واسطے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت سونے کے۔

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُبَيِّنَهُمْ سُقَاتًا مِنْ فِتْنَةٍ وَمَعَاجِرٍ عَلَيْهِ يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُسْكِنُونَ ﴿۳۴﴾ وَرُحْرُقَاتٍ وَإِنْ كُنْ لَكُمْ لَسَامَاتٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمن کے منکروں کے لئے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے اور ان کے گھروں کے لئے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے جلتی دنیا ہی کا اسباب ہے اور آخرت

(پ ۲۵، الزخرف: ۳۳، ۳۴، ۳۵) تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے

صرف اس بات پر کہ کفار کو دنیا بہت دی ہے اور ہم کو تھوڑی اس پر تو آپ جیسے عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب دنیا انہیں دے دی جاتی اور ہم کو بالکل نہ ملتی تو نہ معلوم کیا حال ہوتا!

## سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں

{ پھر فرمایا {سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے۔

## دنیا محبوبانِ خدا سے دور رکھی جاتی ہے

اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے محبوب سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے بلاشبہ بیمار بچے کو اس سے مضر (یعنی نقصان دہ) چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ  
بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝۱۱

ترجمہ کنزالایمان: اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور آدمی بڑا

جلد باز ہے (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱)

آدمی اپنے منہ برائی مانگتا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) جانتا ہے کہ اس میں کتنا ضرر ہے یہ دعا مانگتا ہے اور وہ نہیں دیتا۔

{ پھر فرمایا { ارشاد ہوتا ہے:

لَا يَعْزُبُ عَنْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
فِي الْبِلَادِ ۗ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۝۱۲  
مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَيَسُّ الْإِهَادُ ۝۱۳

تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا  
اہل گہلے شہروں میں پھرنا یہ تھوڑی پونجی ہے  
پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بُرا ٹھکانہ ہے۔

(پ ۴، مال عمران: ۱۹۶، ۱۹۷)

## پچکاری لگانے سے متعلق ایک مسئلہ

**عرض:** اِحلیل (وہ سوراخ جس میں سے پیشاب یا نطفہ نکلتا ہے۔) میں اگر پچکاری لگائی جائے تو پانی جو پچکاری کا واپس آئے گا وہ پاک ہے یا نہیں؟

۱: ایک چھوٹا سا شیشے یا دھات کا بغیر والو آلہ جس سے دو ایپانی کی دھار خارج کی جاتی ہے۔

**ارشاد:** ناپاک ہے اور ناقضِ وضو ہے۔ (یعنی وضو توڑنے والا ہے۔)

## اعلیٰ حضرت کی حدّٰتِ مزاج کا تذکرہ

**مؤلف:** اعلیٰ حضرت قبلہ کی حدّٰتِ مزاج کا تذکرہ تھا، ایک صاحب نے عرض کیا: ایک تو مزاج گرم دوسرے علم کی گرمی۔

اس پر **ارشاد فرمایا:** حدیث میں ہے: ”إِنَّ الْجِدَّةَ تَعْتَرِي حَمَلَةَ الْقُرْآنِ لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي أَجْوَابِهِمْ“ یعنی علماء کو گرمی پیش آئے

گی قرآن کی عزت کے سبب جو ان کے دلوں میں ہے۔ (فردوس الاخبار، ج ۱، ص ۳۵۲، الحدیث ۲۵۹۶)

## کشتی لڑنا کیسا؟

**عرض:** حضور کشتی کرنا جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** کشتی جس طور پر آج کل لڑی جاتی ہے محمود (یعنی پسندیدہ) نہیں، اس میں تن پروری ہوتی ہے، مجمع عام ہوتا ہے اور

اس کے سبب نماز کی پابندی نہ کرے یا ستر کھولے تو حرام ہے۔ ہاں اگر خاص مجمع ہے اپنے ہی لوگ ہیں، بند مکان میں نماز

کی پابندی کے ساتھ بغیر ستر کھولے ہوئے لڑیں تو مضائقہ نہیں۔

## دل دل سے نجات دلائی

حضرت بہاؤ الحق والدین خواجہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخارا میں حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ سن کر خدمت میں

حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھا کہ مکان کے اندر خاص لوگوں کا مجمع ہے، اکھاڑے میں کشتی ہو رہی ہے۔ حضرت بھی تشریف فرما ہیں

اور کشتی میں شریک ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند عالم جلیل پابند شریعت، ان کے قلب نے کچھ پسند نہیں کیا۔ حالانکہ کوئی ناجائز بات نہ

تھی۔ یہ خطرہ آتے ہی غنودگی آگئی، دیکھا کہ معرکہ حشر پیا ہے ان کے اور جنت کے درمیان ایک دل دل کا دریا حائل ہے۔ یہ اس پار

جانا چاہتے تھے، دریا میں اترے جتنا زور کرتے دھستے جاتے، یہاں تک کہ بغلوں تک دھنس گئے اب نہایت پریشان کہ کیا کیا

جائے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت امیر کلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تشریف لائے اور ایک ہاتھ سے نکال کر دریا کے اس پار کر دیا۔ آپ کی

آنکھ کھل گئی۔ قبل اس کے کہ یہ کچھ عرض کریں، حضرت امیر کلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: ہم اگر کشتی نہ لڑیں تو یہ طاقت کہاں سے

آئے۔ یہ سن کر فوراً قدموں پر گر پڑے اور بیعت کی۔ (جامع کرامات اولیاء، السید امیر کلال، باب الالف، ج ۱، ص ۶۰۱، ملخصاً)

۱: مرد و عورت کا وہ مقام جسے چھپانا فرض ہے۔

## حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا توکل و نفس کشی

{ پھر بتذکرہ نفس کشی ارشاد فرمایا: { امام داؤد طائی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام نے جب دیکھا کہ ان کی دنیا کی طرف توجہ نہیں ان کو سب سے الگ کر کے پڑھانا شروع کیا، ایک دن تنہائی میں فرمایا: اے داؤد! آلہ تیار کر لیا مقصود کس دن حاصل کرو گے؟ ایک سال درس میں حاضر رہے، یہ ریاضت کہ طلباء آپس میں مذاکرہ کرتے ان کو آفتاب سے زیادہ و جہیں روشن معلوم ہوتیں۔ نفس بولنا چاہتا مگر یہ چپ رہتے غرض ایک سال کامل سکوت فرمایا۔ جب ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا، اسی (80) درہم اور ایک مکان ورثہ میں ملا۔ وہ درہم عمر بھر کے لیے کافی ہوئے، اور مکان کے ایک درجے میں بیٹھا کرتے جب وہ گر گیا، دوسرے میں بیٹھنا شروع کیا۔ جب وہ اس قابل نہ رہا تو اور درجے میں ادھر ان کی روح نے پرواز کیا۔ ادھر بعض صالحین نے خواب میں دیکھا کہ داؤد طائی نہایت خوشی کے ساتھ ہشاش بشاش دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہ دیکھا تھا۔ پوچھا کیا ہے، کیوں دوڑے جاتے ہو! فرمایا ابھی جیل خانہ سے چھوٹا ہوں۔ خبر پائی کہ وہی وقت انتقال کا تھا۔ (الرسالة القشيرية، ص ۳۴، ۳۵، ملخصاً)

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ دُنْيَا مُؤْمِنٍ كَقَيْدِ خَانَةٍ هِيَ أَوْ كَافِرٍ كِي جَنَّةٍ

(صحیح مسلم، کتاب الزہد، الحدیث ۲۹۵۶، ص ۱۵۸۲)

## قبر میں جنت و دوزخ کی ہوا کا اثر

{ پھر فرمایا { مسلمان عمر بھر کتنی ہی تنگی و مصائب میں رہے ایک ہو جنت کی دیں گے اور پوچھیں گے تم نے دنیا میں کیا تکلیف اٹھائی! کہے گا واللہ! کوئی تکلیف نہ اٹھائی اور کافر کو ہزار برس تک ناز و نعم میں رکھا جائے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے گرم ہو بھی نہ لگنے پائے، قبر میں ایک جھوٹا اسے جہنم کا دیں گے کہے گا واللہ! مجھے دنیا میں کوئی آرام نہیں ملا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة النار، الحدیث ۴۳۲۱، ج ۴، ص ۵۳۰، ملخصاً)

{ پھر فرمایا {

وَ إِذَا رَأَيْتَ نَمْرًا أَيْتَ نَعِيْبًا وَ مُلْكًا  
ترجمہ کنز الایمان: اور جب تو ادھر نظر

اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔

(پ ۲۹، الدر: ۲۰)

نعیم اور ملک کبیر دیتے ہیں دنیا کی ایک ذرا سی تکلیف پر، عقل تو گوارا نہیں کرتی کہ ملک کبیر آرام دنیا کی متاعِ قلیل کے بدلے چھوڑ دیا جائے مگر نفس اس کے عکس کو گوارا نہیں کرتا!

حُوقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ ط

ترجمہ کنز الایمان: آدمی جلد باز بنایا گیا۔

(پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝۱۱

ترجمہ کنز الایمان: اور آدمی بڑا جلد باز

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱) ہے۔

انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے آگے نظر نہیں کرتا! یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف حالانکہ بہت سے آرام یہاں کے وہاں کی تکلیف ہیں اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہیں۔

### بدمذہبوں کی صحبت سے توبہ کا انعام

{پھر فرمایا} میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ العزیز کے خالہ زاد بھائی الف کے نام ب نہ جانتے تھے۔ یہاں ایک شخص صوفی بنے ہوئے تھے ان کے پاس آمد و رفت زیادہ تھی۔ انہوں نے مذہب تفضیلیہ<sup>۱</sup> اختیار کر لیا۔ میرا پندرہ سولہ برس کا سن تھا میں انہیں حدیثیں سناتا اور سمجھتا کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تفضیل باطل ہے وہ نہ مانتے۔ انیون کے عادی تھے جب حج کو گئے اور تین منزل مدینہ طیبہ رہ گیا۔ انیون کی ڈبیہ نکالی کھانا چاہی فوراً بدن میں ایک جھر جھری پیدا ہوئی اور کہا کیا حضور کے سامنے بھی کھاؤں گا اور ہاتھ سے پھینک دی۔ وہاں سے واپس آنے پر چند روز زندہ رہے۔ راہ میں انیون کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ (یعنی انیون کا کھانا) تھی بد اعمالی مگر وہ تھی عقیدے کی برائی اور عقیدہ کی برائی بدتر ہے بد اعمالی سے۔ مرتے وقت بیوی کو بلا کر کہا: میرا بھتیجا مجھے سمجھایا کرتا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اب میں سمجھا کہ وہی حق تھا۔ اب تم شاہد (یعنی گواہ) رہو کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو ”احمد رضا“ کا ہے۔ میں نے ان کو ایک روز خواب میں دیکھا..... کہنے لگے تم نے وہ حدیث مجھ سے بیان نہیں کی تھی کہ جو دنیا میں ہنستے وہ وہاں روتے ہیں اور جو دنیا میں روتے ہیں وہ وہاں ہنستے ہیں۔

۱: وہ فرقہ جو امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ الکریم کو شیخین یعنی امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتا ہے۔

۲: یہاں الفاظ کریمہ ساقط ہو گئے۔ ۱۲ مؤلف غفرلہ

## زندہ رہنے کے لئے تین چیزیں درکار ہیں

{ پھر فرمایا { تین چیزیں ضروری ہیں ایک لقمہ جس سے جان باقی رہے اور ایک پارچہ (یعنی کپڑا) جس سے اپنا ستر ڈھانک لے اور ایک سوراخ جس میں گھس کر بیٹھ رہے۔ اس کے لیے حلال مال بہت مل سکتا ہے۔

## رُوح کی طاقت کا راز

{ پھر فرمایا { جب نفس کمزور ہو جائے گا روح اور قلب قوی ہو جائے گا کھانا نہ کھائے آٹھ دن کامل بیٹھے رہئے کچھ اثر

نہ ہوگا۔

## ایک شعر کی وضاحت

عرض: حضور یہ شعر کیسا ہے؟

ارے یہ وہ ہیں عبدالقادر محبوب سبحانی

کہ ناپینا کو پینا چور کو ابدال کرتے ہیں

ارشاد: کوئی حرج نہیں۔ حضور نے تو کافروں کو اُتادو ابدال بنایا ہے۔

## پیرِ کامل کی تلاش

{ پھر فرمایا { ایک صاحب پیرِ کامل کی تلاش میں تھے بہت کوشش کی مگر پیرِ کامل نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم

(پ ۲۱، العنکبوت: ۶۹) انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔

یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس قدر مجاہدات کیے ہیں کچھ نہ ہوا، جھوٹے ہیں تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے

”لَنَهْدِيَنَّهُمْ“ حقیقۃً مجاہدہ ہی نہیں کرتے۔ خیر ان کی طلب صادق تھی جب کوئی نہ ملا تو مجبور ہو کر ایک رات عرض کیا: اے

ربِّ (عَزَّوَجَلَّ) تیری عزت کی قسم! آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا اس سے بیعت کر لوں گا۔ صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے

سب سے پہلے راہ میں ایک چور ملا جو چوری کئے آ رہا تھا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت بیعت لیجئے وہ حیران ہوا۔ بہت انکار

کیا نہ مانے، آخر اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ حضرت میں چور ہوں، یہ دیکھئے چوری کا مال میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا تو میرے رب (عَزَّوَجَلَّ) سے عہد ہے کہ آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا بیعت کر لوں گا اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیئے۔ تمام مقامات فوراً طے کرائے، ولی کیا اور اس سے بیعت لی اور انہوں نے اس سے بیعت لی۔

## سچی طلب کبھی خالی نہیں جاتی

{پھر فرمایا {طلب صادق (یعنی سچی تلاش) کبھی خالی نہیں جاتی۔ دنیا میں جن چیزوں کو طلب کرتے ہیں وہ دو قسم ہیں ایک وہ کہ آپ طلب کریں اور وہ بھاگیں اور دوسری وہ جو اپنی جگہ پر رہیں کہیں بھاگ کر نہ جائیں نہ آپ کی طرف آئیں۔ اور یہاں فرمایا جاتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں اور جو میری طرف دو گز آتا ہے میں اس کی طرف چار گز آتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ آتا ہے میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں اور جو میری طرف لپک کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔}

## طلب صادق کی مثال

{پھر فرمایا {حضرت سیدنا شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مارہرہ شریف میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صاحب سب سجادوں میں گھومے ہوئے مجاہدے ریاضتیں کیے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے یہی شکایت کی کہ اتنے برسوں سے طلب میں پھرتا ہوں مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا: ٹھہرو۔ ایک حجرہ میں خانقاہ شریف کے ٹھہرایا، خادم کو حکم دیا انہیں مچھلی کھانے کو دی جائے اور پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے اور بعد کھانا کھانے کے فوراً حجرہ باہر سے بند کر دیا جائے۔ خادم نے مچھلی دی جب وہ کھا چکے فوراً زنجیر بند کر دی اب یہ اندر سے چلاتے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے مگر کون سنتا ہے۔ صبح کو حضور نماز کے واسطے تشریف لائے خادم نے حجرہ کھولا کھلتے ہی پانی پر جا گرے اور جس قدر پیا گیا خوب پیا۔ نماز کے بعد حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ عرض کیا: حضور! رات تو خادموں نے مار ہی ڈالا تھا کہ مجھے ایسی گرمی میں اول تو مچھلی کھانے کو دی، دوسرے ایک قطرہ پانی کا نہ دیا اور پیاسا ہی حجرہ میں بند کر دیا۔ فرمایا: پھر رات کیسی گزری۔ عرض کیا: جب تک جاگتا رہا پانی کا خیال جب سو یا سوئے پانی کے اور

کچھ نہ دیکھا۔ فرمایا طلبِ صادق اس کا نام ہے کبھی ایسی طلب بھی کی تھی جس کی شکایت کرتے ہو وہ مجاہدات کیے ہوئے قلب صاف تھا۔ نفس کا جو دھوکا تھا فوراً کھل گیا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ اپنے نام لینے والے کو وہ ضائع نہیں چھوڑتا۔

## اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتی ہے

{ اسی سلسلے میں فرمایا { سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بہروپے نے صوفی بن کر دھوکا دے دیا۔ آپ نے حسب وعدہ انعام دینا چاہا۔ اس نے کہا خدا کا جھوٹا نام لینے سے تو تم جیسا بادشاہ میرے پاس حاضر ہوا سچا نام لوں گا تو کیوں نہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ { پھر فرمایا { یہی معنی ہیں حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کے

متاب از عشق رو گرچہ مجازیت

کہ آن بحر حقیقت کار سازیت

(عشق مجازی سے روگردانی نہ کرو کہ وہی عشق حقیقی کے لئے کار فرما ہے۔)

جو کسی کا تشبہ کرتا ہے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اس کو بھی اسی گروہ میں شامل کر دیتا ہے۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ      جو جس قوم سے تشبہ کرے وہ انہیں میں سے ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب لبس الشہرت، الحدیث ۴۰۳۱، ج ۴، ص ۶۲)

تشبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔

{ پھر فرمایا { یہ حاصل ہے ہماری نماز و روزہ کا صرف اصلی نمازیوں کا تشبہ ہے اور ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ إِنْ شَاءَ

اللہ تَعَالَى مِنْهُمْ“ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے تو اجد (خود پر وجد طاری کر لینا) سے وجد پیدا ہوتا ہے۔ تشبہ کی صورت

یہ ہے کہ بتکلف وجد بنائے ہوئے ہوتے ہو جائے گا۔ ہاں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ یہ ریا ہے اور حرام ہے۔

## گناہِ صغیرہ کو ہلکا جاننا گناہِ کبیرہ ہے

عرض: صغیرہ کا استخفاف کبیرہ ہے؟



**ارشاد:** بعض وقت صغیرہ کا استخفاف کفر ہو جائے گا جب کہ اس کا گناہ ہونا ضروریات دین<sup>۱</sup> سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کسی نے کوئی گناہ کیا اس سے لوگوں نے کہا: توبہ کر جواب دیا۔

**چہ کردہ ام کہ توبہ کنم**

(یعنی میں نے کیا کیا ہے کہ توبہ کروں؟)

تو کفر ہو جائے گا۔ بہت سے صغائر ایسے ہیں جن کا معصیت ہونا ضروریات دین سے ہے مثلاً اجنبیہ سے مس و تقبیل صغیرہ ہے ”إِلَّا اللَّهُمَّ“ میں داخل ہے اگر حلال جانے کا فر ہے۔

{ پھر فرمایا } جس کو سمجھا کہ یہ ہلکا گناہ ہے فوراً صغیرہ سے کبیرہ ہو گیا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں اس گناہ کو دوسرے گناہ سے نسبت دیتا ہے کہ اس سے چھوٹا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کس کا کر رہا ہے! اگر دیکھتا تو یہ فرق نہ کرتا۔

## ایک دعا کا معنی

**عرض:** حضور چاند دیکھنے کے وقت ایک دعا آئی ہے: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا“ اس کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد:** دنیا میں ایمان خیر محض ہے اور کفر شر محض، ان دونوں کے سوا نہ کوئی چیز شر محض ہے نہ خیر محض، آفتاب کے غروب ہونے کے بعد چاند جب روشن ہوتا ہے اس وقت سرکش و متمرد جن زمین پر منتشر ہوتے ہیں۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے اپنے بچوں کو رو کر رہو مغرب سے عشاء تک (صحیح مسلم، کتاب الاشریہ، باب الامر..... الخ، الحدیث ۲۰۱۲، ص ۱۱۴) بہت لوگ اس بات کو بہادری سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں کی پچھل موقوف ہو اس وقت چلیں پھیریں۔ یہ جہالت ہے۔ حدیث میں ہے جب پچھل موقوف ہو باہر نہ نکلو (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب نہیق الحمیر..... الخ، الحدیث ۵۱۰۴، ج ۴، ص ۲۳ ملخصاً) اور اکیلے مکان میں تنہا سونے کو بھی لوگ فخر سمجھتے ہیں حالانکہ اس کو بھی منع فرمایا ہے۔

۱: اس سے مراد وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں جیسے اللہ عزوجل کی وحدانیت، انبیاء علیہم السلام کی نبوت، جنت و دوزخ

وغیرہ۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۱، ص ۱۲)

## زہریلے جانوروں سے بچنے کی دعا

اس کے بعد کچھ واقعات مَارگَزیدہ (یعنی سانپ کے ڈسے ہوئے) اشخاص کے ذکر ہوئے اس پر ارشاد فرمایا حدیث میں ہے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  
(ترجمہ: پناہ لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی ہر مخلوق کے شر سے)

(سنن ابی داؤد، کتاب الطب، باب کیف الرقی، الحدیث ۳۸۹۸، ج ۴، ص ۱۸)

صبح کو پڑھ لے گا تمام دن زہریلے جانوروں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک۔

## کھیلوں کے بارے میں حکم

عرض: حضور گیند کھیلنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** عبث ہے، اگرچہ صاحبِ ہدایہ نے ہر عبث کو حرام لکھا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ عبث باطل ہے۔ حدیث میں ہے: مسلمان کا ہر کھو باطل ہے مگر تین باتوں میں: اول گھوڑا پھرانا، دوسرے تیر اندازی، تیسرے اپنی عورت سے مُلاعبت۔ (سنن ترمذی، کتاب فضائل الجہاد..... الخ، باب ما جاء فی فضل الرمی..... الخ، الحدیث ۱۶۴۳، ج ۳، ص ۲۳۸) یہ ان تینوں باتوں میں داخل نہیں اس لیے باطل ہے۔

## قدم بوسی سے اعلیٰ حضرت کی ناراضی

{ حضور ایک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر حکم مسئلہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اور صاحب نے یہ موقع قدم بوسی سے فیض یاب ہونے کا اچھا سمجھا {قدم بوس ہوئے فوراً چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور ارشاد فرمایا: ”اس طرح میرے قلب کو سخت اذیت (یعنی تکلیف) ہوتی ہے۔ یوں تو ہر وقت قدم بوسی ناگوار (یعنی ناپسند) ہوتی ہے مگر دو صورتوں میں سخت تکلیف ہوتی ہے، ایک تو اُس وقت کہ میں وظیفہ میں ہوں، دوسرے جب میں مشغول ہوں اور غفلت میں کوئی قدم بوس ہو کہ اُس وقت میں بول سکتا نہیں۔“ ۱

{ پھر فرمایا کہ } ”میں ڈرتا ہوں خدا وہ دن نہ لائے کہ لوگوں کی قدم بوسی سے مجھے راحت ہو اور جو قدم بوس نہ ہو تو تکلیف ہو کہ یہ ہلاکت ہے۔“

۱: حضرت قدس سرہ کو اپنی قدم بوسی نہایت ناگوار ہوتی۔ بارہا لوگوں کو اس سے سختی سے منع فرمایا۔ مؤلف غفرلہ

## تعظیم، اطاعت میں ہے

{ پھر فرمایا } ”تعظیم اسی میں ہے کہ جس بات کو منع کیا جائے وہ پھر نہ کی جائے اگرچہ دل نہ مانے۔“ کون مسلمان ہے کہ جب حضور اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا نام پاک سنے تو سجدہ کرنے اور سر جھکا دینے کو اس کا دل نہ چاہے! وَاللّٰهِ الْعَظِيْمُ اگر سجدہ کیا جائے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، راضی نہ ہوں گے۔ ورنہ ہم سے تو سجدہ بھی ان کی عظمت کے لائق نہیں ہو سکتا! اُن کو (تو) فرشتوں نے سجدہ کیا اُن کو جبریل نے سجدہ کیا۔

## فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کس کیلئے تھا؟

**عرض:** حضور! جبریل علیہ السلام نے بھی کسی وقت سجدہ کیا تھا؟

**ارشاد:** تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا اور ایسا قطعی حکم کہ ایک جو ان میں ملا ہوا تھا اس نے نہ مانا ملعون ابدی کر دیا گیا۔ اور ان میں سے جو نہ مانتا یہی حال ہوتا۔ مگر ملائکہ تو معصوم ہیں۔ آئمہ دین فرماتے ہیں ملائکہ کو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سجدہ کا جو حکم ہوا تھا وہ حقیقتہً سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا۔ (تفسیر کبیر، البقرة، تحت الاية ۲۵۳، حصہ ۶، ج ۲، ص ۵۲۵) آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام قبلہ تھے جیسے کعبہ قبلہ ہے اور سجدہ اللہ کو۔

{ پھر فرمایا } وہ فضائل جو عطا کیے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور ان کے سوا۔ ان کا اثر تو یہ ہوا کہ ان کے امتی بننے والے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ کس کے فضائل ہیں جو اس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں۔ فرمایا گیا تمہارا دین یہ ہے: ”أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ عِبْدُهُ پہلے ہے رَسُوْلُهُ بعد کو کہ عبد کے درجے سے نہ بڑھا دینا۔ احادیث میں کس قدر تاکید کے ساتھ سجدہ کی ممانعت فرمائی گئی کہیں فرمایا سجدہ غیر اللہ حرام ہے، کہیں فرمایا سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، کہیں فرمایا سجدہ غیر اللہ کو نہ کرو۔ اتنی احتیاطوں کے ساتھ سجدہ حرام کیا گیا ورنہ کیا جائے کیا ہوتا!

{ پھر اُن صاحب سے فرمایا } اللّٰہ (عَزَّوَجَلَّ) آپ کو شتر سے بچائے اور امن و امان میں رکھے معاف فرمائے غصے میں

ایسے الفاظ نکل گئے، میں سچ کہتا ہوں کہ اس سے مجھے ایسی ناگواری ہوتی ہے گویا تیر سینہ سے پیڑھ کو نکل گیا۔

## سودا قرض دیتے وقت قیمت زیادہ لینا کیسا؟

**عرض:** حضور! کثر دوکاندار جب کسی کو سودا قرض دیتے ہیں تو قیمت سے زیادہ لیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟  
**ارشاد:** کوئی حرج نہیں غایت یہ کہ خلافِ اولیٰ ہے۔

## انگلیوں کے پوروں پر ذکر الہی کا شمار

**عرض:** حضور! عقدِ انا میل (یعنی پوروں پر ذکر کا شمار کرنا) بھی حدیث میں آیا ہے؟  
**ارشاد:** کوئی خاص طریقہ اس کا حدیث میں مذکور نہیں البتہ ایک حدیث میں ہے:

اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ  
پوروں پر ذکرِ الہی (عَزَّوَجَلَّ) کا شمار کرو کہ ان  
مَسْؤَلَاتٍ مُّسْتَنْطَقَاتٍ سے سوال ہونا ہے، یہ بولیں گے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، فی فضل التسیب والتہلیل..... الخ، باب ما جاء فی عقد التسیب، الحدیث ۳۴۹۷، ج ۵، ص ۲۹۵)

## کیا جادو میں قلبِ حقیقت ہو جاتا ہے؟

**عرض:** حضور! سحر میں ”قلبِ حقیقت“ ہو جاتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** سحر (یعنی جادو) میں اصل شے بالکل متغیر نہیں ہوتی ہے۔ سحر فرعون (یعنی فرعون کے جادو گروں) کے بارے میں فرمایا جاتا ہے:

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ  
لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انھیں ڈر دیا۔

(پ ۹، الاعراف: ۱۱۶)

يُخَيَّلُ الْيَبِيءَ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَّهَاتَعِي ①  
موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خیال میں ان کے جادو سے

یہ بات پیدا ہوگئی کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتی ہیں۔ (پ ۱۶، طہ: ۶۶)

## ایک بازیگر کے مختلف کرتب

سلطان جہانگیر مرحوم جد سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ایک بازی گر آیا اور چند تماشے دکھائے۔ پھر

عرض کی: ”حضرت! مجھے آسمان پر جانے کی ضرورت ہے، ایک میرا دشمن آسمان پر ہے۔ عورت کو حفاظت کے لیے محلات شاہی میں بھجوادیتجئے!“ خیر عورت بھیج دی گئی۔ اُس نے پچپک (یعنی ڈوری) نکال (کر) آسمان کی طرف پھینکی۔ اب یہ اس کپے ڈورے پر چڑھتا ہوا آسمان کی طرف چلا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شور و غل کی آوازیں آنے لگیں اور ایک ہاتھ آ کر گرا پھر دوسرا ہاتھ پھر ایک پاؤں پھر دوسرا پھر سر اور دھڑ بھی جدا ہو کر گرا جس سے معلوم ہوا کہ دشمن غالب اور یہ مغلوب ہوا۔ عورت نے جب یہ خبر سنی محل سے نکل کر آئی۔ تمام اعضاء جمع کیے پھر خوب آگ روشن کر کے مع ان اعضاء کے جل کر خاکستر ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہی بازی گراسی ڈورے پر سے اُتر چلا آتا ہے۔ اُس نے حاضر ہو کر بادشاہ سے کہا کہ ”حضور کی توجہ سے میں اپنے دشمن پر غالب آیا۔ اب حضور میری بیوی کو محل سے بلوادیں۔“ یہاں ”حضور“ خود ہی حیران تھے کہ کون باز یگر اور کس کی بیوی ابھی ابھی تو دونوں آگ میں جل گئے۔ جب اس نے تقاضا کیا تو بادشاہ نے ساری کیفیت بیان کی (کہ) یہ راکھ چلی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے کہا: ”حضور ہم غریبوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا! میری بیوی تو محل میں ہے، میں تو حضور کے سپرد کر گیا تھا۔“ اب بادشاہ اور تمام حاضرین حیران کہ اس کو کیا جواب دیں؟ اس نے کہا: ”اگر حضور اجازت دیں تو میں آواز دے کر محل سے بلا لوں؟“ بادشاہ کی اجازت پر اس نے آواز دی، فوراً وہ عورت محل سے نکل آئی۔

## مداری کا تماشا

**عرض:** حضورِ والا! اگر اس (یعنی جادو) میں ”اعمالِ بد“ جیسے شیاطین سے استعانت وغیرہ نہ ہوں تو جائز ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اعمال جس میں کچھ نہ ہوں جیسے آج کل کے بھانٹی (یعنی مداری) تماشے کرتے ہیں اس میں محض ہتھ پھیری ہوتی ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں: ”یہ بھی حرام ہے کہ اس میں دھوکا دینا ہے اور دھوکا دینا شریعت پسند نہیں فرماتی۔“ حدیث میں ہے:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا      وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکا دے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی..... الخ، الحدیث ۱۶۴، ص ۶۵)

ہاں ”کافر حربی“ سے ایسا کر سکتا ہے، ”ذمی“ سے نہیں کہ وہ ہماری امان میں ہے۔ ”لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا“ (جو حکم

مسلمانوں کے لئے ہے وہی ذمیوں کے لئے ہے اور جو تو ان میں مسلمانوں پر ہیں وہی ذمیوں پر ہیں۔) (درمختار و ردالمحتار، کتاب الجہاد،

مطلب الکفار مخاطبون..... الخ، ج ۶، ص ۲۰۵) ایسے ہی ’مستأمن‘ ہے (یعنی یہی حکم اس کا فرکا ہے جسے امان دی گئی ہو) کہ اس کے لیے ایک سال تک ذمی کے احکام ہیں۔ غدر (یعنی دھوکا) ہماری شریعت میں جائز نہیں۔

## کیا معجزہ میں ماہیت بدلتی ہے؟

**عرض:** معجزہ میں ’قلب ماہیت‘ ہوتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ’قلب ماہیت‘ (یعنی کسی شے کی ماہیت کا تبدیل ہونا) محال ہے یا ممکن؟ جو کہتے ہیں کہ محال ہے ان کے نزدیک پہلی حقیقت فنا ہو جاتی ہے اور دوسری حقیقت رب العزت پیدا فرمادیتا ہے تو معجزہ میں تبدیلی حقیقت نہ ہوئی بلکہ تجدید ماہیت۔ اور جو ممکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معجزہ میں قلب حقیقت ہوتا ہے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ معجزہ واقعی ہوتا ہے:

قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۶۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ

(پ ۹، الاعراف: ۱۶۶) بندر دھتکارے ہوئے۔

وہ سب بندر ہو گئے۔ ’اس میں کوئی شبہ نہیں یہ تاویل کہ ان کی عقلیں بندر کی سی ہو گئیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عقلیں بندر کی سی ہیں۔‘ ان کے دل میں نصوص قرآنیہ کی عظمت نہیں۔ جتنے گمراہ ہوئے سب اسی دروازے سے کہ انہوں نے نصوص (یعنی بالکل واضح آیات و احادیث) میں تاویلیں کرنا شروع کیں، جو نصوص اپنی اوندھی عقل کے موافق ہوئی خیر اور جہاں ذرا ورا ہوئی (یعنی سمجھ میں نہ آئی) فوراً تاویل گھڑ دی۔

## بندر کے دل میں عظمت قرآن

{ پھر فرمایا: } ان کی عقلیں بندر کی عقل سے بھی بدتر ہیں۔ بندر کے قلب میں عظمت ہے قرآن عظیم کی۔ ایک مرتبہ

نہے میاں { برادر خورد اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز (یعنی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بھائی علامہ محمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ) } اپنی چھت پر قرآن عظیم پڑھ رہے تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بندر بیٹھا تھا۔ یہ کسی کام کو اٹھ کر گئے۔ بندر دوڑتا ہوا سامنے دیوار پر

گزر اور اُس پار جانا چاہتا تھا جیسے ہی قرآنِ عظیم کے محاذات پر (یعنی سامنے) آیا۔ قرآنِ عظیم کو سجدہ کیا اور اپنی راہ چلا گیا۔

## بندر کا محفلِ میلاد سننا

{ پھر فرمایا { میں نے بندر کو قیام کرتے دیکھا۔ میں اپنے پرانے مکان میں جس میں میرے منجھلے بھائی مرحومؒ رہا کرتے تھے، مجلسِ میلاد پڑھ رہا تھا۔ ایک بندر سامنے دیوار پر چڑکا مؤذّب بیٹھنا رہا تھا، جب قیام کا وقت آیا مؤذّب کھڑا ہو گیا پھر جب بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ بندر تھا وہابی نہ تھا۔<sup>۱</sup> حدیث میں ہے:

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَوَيْتِ شَيْءٍ أَيْسَى نَبِيٍّ جِئْتُ بِهِ لِيُحَدِّثَ لِي بِهِ  
إِلَّا كَفَرَةً الْجِنَّ وَالْإِنْسِ هُو سَوَاءٌ بِيَّ اِيْمَانِ جِنِّ اَوْرَادِ مِيوِي كِي۔

(المعجم الكبير، الحديث ٦٧٢، ج ٢٢، ص ٢٦٢)

## خدمت گزار شیر

{ پھر فرمایا { ’وہ تو وہ ہیں! ان کے غلاموں کا کہنا ایسا مانتے ہیں کہ مطیع غلام بھی ایسا نہ مانے گا۔‘ حضرت سیدی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا براولیا سے ہیں۔ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِبَرَكَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں نفع دے) آپ جنگل میں رہتے تھے۔ ایک شخص نے ایک بیل نذر مانا۔ جب وہ خوب موٹا تازہ ہو گیا تو اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں چلا۔ تَبَّار (یعنی صحت مند اور تیز) بہت تھاراستہ میں چھوٹ گیا۔ ہر چند تلاش کیا، نہ ملا۔ خیر مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ ایک اور شخص کہ اس کے پاس ایک ہی بیل تھا تمام کھیتی وغیرہ کا کام اسی سے لیتا، نہایت لاغر و نحیف (یعنی کمزور)

۱: یعنی استاذِ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ ارحمان۔

۲: جناب مرزا ذاکر بیگ صاحب نے مجھ (یعنی شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے اس قسم کے سانپ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے مجلسِ میلاد شریف کی تھی۔ جب خوب مجمع ہو گیا، ایک سانپ تیزی سے آیا اور منبر کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب تک مجلس شریف ہوتی رہی بیٹھتا رہا (اور) بعد ختم چلا گیا، نہ آتے کسی کو آزار پہنچایا نہ جاتے۔ لوگوں نے بہت چاہا کہ اسے مار دیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں: میں نے سب کو باز رکھا کہ یہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے ہے، میں ہرگز نہ مارنے دوں گا۔ مؤلف غفرلہ

ہو گیا تھا، لے کر حاضر ہوا، عرض کیا: ”حضرت میرے رزق کا ذریعہ یہی بیل ہے، دعا فرمائیے یہ دبلا بہت ہے، اس میں طاقت آجائے!“ آپ کے پاس چند شیر بیٹھے تھے۔ ایک کو اشارہ فرمایا، وہ گیا اور اس بیل کا شکار کیا اور کچھ کھلایا۔ پھر دوسرے کو اشارہ فرمایا، وہ گیا اور کچھ کھلایا۔ اسی طرح سب نے کھلایا اور وہ بیل ختم ہو گیا۔ یہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا: ”میں اچھی دعا کرانے آیا تھا کہ میرا دبلا بیل بھی ہاتھ سے گیا!“ تھوڑی دیر میں اچھا موٹا تازہ بیل آیا جو اس آدمی سے چھوٹ گیا تھا اور سامنے آ کر مؤدب (یعنی بادب) کھڑا ہو گیا۔ فرمایا: ”اسے اُس کے بدلے میں لے لے!“ اس نے لے لیا لیکن دل میں یہ خطرہ گزرا کہ یہ شیر حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہیں حضرت کے سامنے تک تو کچھ نہیں بولتے، یہاں سے پھر مجھے اور اس بیل کو کھالیں گے۔ آپ کو فوراً اس کے خطرے پر اطلاع ہو گئی، اور کیوں نہ ہو جو اُس کو جانتا ہے اُس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔“ فرمایا: ”شیروں سے ڈرتے ہو!“ اب ان کے دل میں یہ خطرہ آیا کہ معلوم نہیں کس کا بیل ہے، کوئی پوچھے تو کیا کہوں گا؟ خود ہی فرمایا: ”تم سے کوئی نہ بولے گا۔“ ایک شیر کو اشارہ فرمایا، وہ ان کے ساتھ کتے کی طرح ہولیا اور ان کی اور ان کے بیل کی حفاظت کی۔ آبادی کے قریب آ کر وہ شیر واپس چلا گیا۔

### بارگاہ ولی میں دل سنبھال کر حاضر ہونا چاہیے

{ اسی سلسلہ میں فرمایا { ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں دو عالم حاضر ہوئے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تجوید کے بعض قواعد مُسْتَحَبَّہ ادا نہ ہوئے۔ ان کے دل میں خطرہ گزرا کہ اچھے ولی ہیں ان کو تجوید بھی نہیں آتی! اُس وقت تو حضرت نے کچھ نہ فرمایا۔ مکان کے سامنے ایک نہر جاری تھی، یہ دونوں صاحب نہانے کے واسطے وہاں گئے، کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیئے اور نہانے لگے۔ اتنے میں ایک نہایت مہیب (یعنی خوفناک) شیر آیا اور سب کپڑے جمع کر کے ان پر بیٹھ گیا۔ یہ دونوں صاحب ذرا ذرا اسی لنگوٹیاں باندھے ہوئے، اب نکلیں تو کیسے؟ علماء کی شان کے بالکل خلاف۔ جب بہت دیر ہو گئی (تو) حضرت نے فرمایا کہ بھائیو! ہمارے دو مہمان سویرے آئے تھے، وہ کہاں گئے؟ کسی نے کہا: حضور! وہ تو اس مشکل میں ہیں۔ تشریف لے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر ایک طمانچہ مارا اُس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، آپ



نے اُس طرف مارا اُس نے اس طرف منہ پھیر لیا۔ فرمایا: ”ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے مہمانوں کو نہ ستانا، جا چلا جا!“ شیراٹھ کر چلا گیا۔ پھر ان صاحبوں سے فرمایا: ”تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں اور ہم نے قلب سیدھا کیا۔“ یہ اُن کے خطرے کا جواب

تھا۔ (الرسالة القشيرية، باب کرامات الاولیاء، ص ۳۸۷، ملخصاً)

## مندر میں نماز پڑھنا کیسا؟

**عرض:** مندر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** اگر وہ کفار کے قبضہ میں ہے تو مکروہ و ممنوع ہے کہ وہ ماوائے شیطین (یعنی شیطانوں کا ٹھکانا) ہے اور اول تو مندروں

میں جانا ہی کب جائز ہے! (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب تکرہ الصلوٰۃ..... الخ، ج ۲، ص ۵۳)

## اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یقین کامل

ایک روز بعد نماز ظہر باہر تشریف فرما ہوئے۔ عالی جناب، فواضل اکتساب مولوی چودھری عبدالحمید خاں صاحب رئیس سہارو مصنف ”کنز الاخرۃ“ بھی حاضر تھے۔ ان سے ارشاد فرمایا کہ اس بار مجھے ۳۴ دن کامل بخار رہا۔ کسی وقت کم نہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: جاڑا (یعنی سردی کا بخار) بھی آتا تھا؟ اس پر ارشاد ہوا: ”جاڑا، طاعون اور وبائی امراض جس قدر ہیں اور ناپیدائی و یک چشمی، برص، جُذام وغیرہ وغیرہ کا مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے جس پر میرا ایمان ہے۔“

## ”بخار اور دردِ سر“ مبارک امراض ہیں

{ پھر فرمایا } اس میں بھی خوف ہے کہ کوئی مرض نہ ہو۔ بِفَضْلِہِ تَعَالٰی بخار و دردِ سر و دردِ کمر تو اکثر رہتا ہے۔ ایک

مرتبہ کمر میں بہت شدت سے درد ہوا اور اس کا اثر اعصاب پر پڑا کہ ہاتھ سیدھا نہ ہوتا تھا۔

{ پھر فرمایا } ”بخار و دردِ سر تو مبارک امراض ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوا کرتے۔“

۱: اللہ اکبر! کام اس حالتِ علالت میں بھی نہ چھوٹتا۔ اسی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دواتِ سینہ اقدس پر رکھوالی اور لیٹے لیٹے ہی تحریر فرمایا۔ ۱۲ مؤلف غفرلہ

## درد سر ہونے کے شکر میں رات بھر نوافل پڑھنا

ایک صاحب حضرات اولیاء کرام میں سے تھے۔ اُن کو دوسرا حق ہوا (تو) تمام رات نوافل میں گزار دی اس شکر یہ میں کہ مجھے وہ مرض دیا جو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مرض ہے اور یہاں یہ حالت ہے کہ جب کبھی درد سر ہوا تو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اول وقت نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں۔

## لَقُوْہِ کَارُوحَانِی عِلَاج

ایک صاحب کے رخسارہ (یعنی رخسار کے بالائی حصہ) پر لَقُوْہِ کا اثر ہو گیا تھا انہوں نے حاضر ہو کر حضور والا (یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے دعائے خیر چاہی ارشاد فرمایا: ”لوہے کے پتھر پر ”سورہ زلزال“ شریف گنڈہ کرا لیجئے اور اسے دیکھتے رہا کیجئے۔“

## بچے کی ”تقریب بسم اللہ“ کب ہو؟

**عرض:** حضور! ”تقریب بسم اللہ“ کی کوئی عمر شرعاً مقرر ہے؟

**ارشاد:** شرعاً کچھ مقرر نہیں۔ ہاں مشائخ کرام کے یہاں چار برس چار مہینے چار دن مقرر ہیں۔

## خواجہ بختیار کاکی کی تقریب بسم اللہ

حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس دن چار برس چار مہینے چار دن کی ہوئی، ”تقریب بسم اللہ“ مقرر ہوئی۔ لوگ بلائے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ بسم اللہ پڑھانا چاہی مگر الہام ہوا کہ ٹھہرو! حمید الدین ناگوری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) آتا ہے وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگوری میں قاضی حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا! قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا: صاحب زادے پڑھئے! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ آپ نے پڑھا: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور شروع سے لے کر پندرہ پارے حفظ سنا دیئے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا: صاحب زادے آگے پڑھئے! فرمایا: ”میں نے اپنی ماں کے شکم (یعنی پیٹ) میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر اُن کو یاد تھے

وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔“ (ماخوذ از سبع سنابل، ساتواں سنبلہ، ص ۲۲۷، ۲۲۸)

۱۔ وہ بیماری جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

## کاکی کہلانے کی وجہ

**عرض:** حضور کے کاکی ہونے کی کیا وجہ ہے؟

**ارشاد:** کاکی ”گلچے“ کو کہتے ہیں۔ حضرت کو ایک مرتبہ چند فاقے ہوئے تھے اور گھر بھر میں کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، اُس وقت آسمان سے آپ کے واسطے کاکیں آئی تھیں یوں کاکی مشہور ہو گئے۔

## حضرت شیخ فرید الحق ”گنج شکر“ کیسے ہوئے؟

{ پھر فرمایا { حضرت شیخ فرید الحق والدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ۸۰ فاقے ہو چکے تھے۔ نفس بھوکا تھا ”الْجُوع الْجُوع“ (ہائے بھوک، ہائے بھوک) پکار رہا تھا، اُس کے بہلانے کے لیے کچھ سنگریزے (یعنی کنکر) اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ ڈالتے ہی شکر ہو گئے، جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا اسی وجہ سے آپ ”گنج شکر“ مشہور ہیں۔

(سیرالاولیاء مترجم، ص ۱۳۰، ملخصاً)

## حضرت محبوب الہی کا لقب ”زربخش“ کیسے ہوا؟

حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ”زربخش“ (یعنی مال بانٹنے والا) ہے۔ حضرت کی بخشش کی یہ حالت تھی کہ بادشاہ کے یہاں سے خوان (یعنی تھال) بڑے بڑے قیمتی جواہرات کے لاکر رکھے گئے۔ ایک صاحب حاضر تھے، انہوں نے عرض کی: ”الْهَدَايَا مُشْتَرِكَةٌ“ (ہدیے مشترک ہیں۔) ارشاد فرمایا ”اماتنہا خوشتر“ (تہا لینا زیادہ بہتر ہے۔) یہ فرما کر سب اُن کو دے دیئے۔

## امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تشریح

حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہارون رشید نے روپے، اثرفیوں کے خوان بھیجے، ایک صاحب نے عرض کی: ”الْهَدَايَا مُشْتَرِكَةٌ“ ارشاد فرمایا: ”یہ امثال فواکہ (یعنی میوہ جات) کے لیے ہے کہ جو ہدیہ پیش کیا جائے وہ تمام حاضرین میں مشترک ہوتا ہے، ان کے سوا اور چیزوں کا یہ حکم نہیں۔“

ان دونوں واقعوں کو لکھ کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اعتراض کیا کہ دونوں کا جواب آپس میں مؤافق (یعنی یکساں) نہیں اور میں نے اس کے حاشیے پر یہ جواب لکھا کہ ”امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”مقام تشریح“ میں تھے۔ (یعنی منصب تضا پر تھے) اُن کے افعال و اقوال و احوال یہاں تک کہ ان کی ایک ایک وضع (یعنی طور طریق) سے استدلال کیا جاتا ہے اور یہ (یعنی حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے ”مقام تبتُّل“ میں۔ (یعنی صوفی تھے) اُن کا مرتبہ ان کے مرتبہ سے علیحدہ ہے۔ یہاں غیر سے بالکل انقطاع (یعنی جدائی) ہے بخلاف اس کے ان کا ایک ایک فعل بلکہ ان کی پوشش (یعنی لباس) تک حجت (یعنی دلیل) ہوتی ہے۔ اُن کے تمام حالات منقول ہوتے ہیں۔

### یوم شک کا روزہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت

کتب فقہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ”یَوْمُ الشَّكِّ“ میں یعنی جس روز شُبہ ہو کہ وہ رمضان کی پہلی ہے یا شعبان کی تمیں۔ آپ بعدِ ضحوة کبریٰ کے بازار میں تشریف لائے اور فرمایا: ”روزہ کھول دو“۔ اُس وقت کی وضع منقول ہے کہ سیاہ گھوڑے پر سوار تھے، سیاہ لباس پہنے تھے، سیاہ عمامہ باندھے تھے، غرض کہ سوائے ریش (یعنی داڑھی) مبارک کے کوئی چیز سفید نہ تھی۔ اس سے یہ مسئلہ استنباط (یعنی ثابت) کیا گیا کہ ”سواد {سیاہ رنگ} کا پہننا جائز ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا: آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟ چپکے سے کان میں فرمایا: ”انصائم میں روزہ سے ہوں۔“ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ”مفتی خود یومُ الشَّكِّ“ میں روزہ رکھے اور عوام کو نہ رکھنے کا حکم دے۔ غرض کہ حاصل جواب یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں صاحبوں کے مراتب میں فرق نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا: دونوں قولوں میں کتنا فرق ہے! لیکن دونوں (کے) مرتبوں میں بھی تو کتنا فرق ہے!

### حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں

عرض: حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟

ارشاد: جمہور کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، زندہ ہیں۔ (عمدۃ القاری، کتاب العلم، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ..... الخ، ج ۲، ص ۸۴، ۸۵) خدمت بحر (یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا) انہیں سے متعلق (یعنی انہیں کے سپرد) ہے اور

۱۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے نصف وقت کو ضحوة کبریٰ اور نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ (فتاویٰ فقہ ملت ج ۲، ص ۸۵)

الیاس علیہ السلام ”بر“ {خَشْیَ} میں ہیں۔ (الاصابة فی تمییز الصحابة، حرف الخاء المعجمة، باب ماورد فی تعمیرہ، ج ۲، ص ۲۵۲)

## انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں

{پھر فرمایا} چار نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں یوں تو ہر نبی زندہ ہے:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ بَشَرًا لَمْ يَمُتْ (عَزَّوَجَلَّ) نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء

أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَتَنِيْبِي اللَّهُ حَيًّا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے جسموں کو خراب کرے تو اللہ

يُرْزَقُ (عَزَّوَجَلَّ) کے نبی زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته..... الخ، الحدیث ۱۶۳۷، ج ۱، ص ۲، ص ۲۹۱)

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حسی دنیوی عطا ہوتی ہے۔

خیران چاروں میں سے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر۔ خضر والیاس علیہما السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ (علیہما

السلام) آسمان پر۔ (الدر المنثور، سورۃ کہف، تحت الآیۃ، ۶۰، ج ۵، ص ۴۳۲، الاصابة فی تمییز الصحابة، حرف الخاء المعجمة، باب ماورد فی

تعمیرہ، ج ۲، ص ۲۵۲)

## ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے

عرض: حضور ان پر موت طاری ہوگی؟

ارشاد: ضرور

ترجمہ کنز الایمان: ہر جان کو موت چکھنی ہے

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط

(پ ۴، مال عمران: ۱۸۵)

{پھر فرمایا} جب یہ آیت نازل ہوئی۔

جبکہ زمین پر ہیں سب فنا ہوں گے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

(پ ۲۷، الرحمن: ۲۶)

فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں، جب دوسری آیت نازل ہوئی:

كُلُّ نَفْسٍ ذَا آيَةٍ الْمَوْتِ ط  
ترجمہ کنز الایمان: ہر جان کو موت چکھنی ہے

(پ ۴، مال عمران: ۱۸۵)

ملائکہ نے کہا: اب ہم بھی گئے۔ (روح البیان، الرحمن، تحت الایة ۲۶، ج ۹، ص ۲۹۷، ۲۹۸)

## حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ

**عرض:** حضور ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ کیا ہے؟

**ارشاد:** آپ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے واقعہ میں علماء کو اختلاف ہے، اتنا تو ایمان ہے کہ آپ آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے:

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

ہم نے ان کو بلند مکان پر اٹھالیا۔

(پ ۱۶، مریم: ۵۷)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ (تفسیر البغوی، مریم، ۵۷، ج ۳، ص ۱۶۷)

ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بار آپ دھوپ کی شدت میں تشریف لیے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر موکل (یعنی مقرر) ہے اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی؟ عرض کی: اے اللہ! (عَزَّوَجَلَّ) اُس فرشتہ پر تخفیف (یعنی آسانی) فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اُس پر تخفیف ہو گئی۔ اس فرشتہ نے عرض کیا: **یا اللہ!** مجھ پر تخفیف کس طرف سے آئی؟ ارشاد ہوا: ”میرے بندے ادریس (علیہ السلام) نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی میں نے اس کی دعا قبول کی۔“ عرض کی: مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اجازت ملنے پر حاضر ہوا۔ تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ ”حضرت کا کوئی مطلب ہو تو ارشاد فرمائیں۔“ فرمایا: ایک مرتبہ جنت میں لے چلو۔ عرض کی: یہ تو میرے قبضے سے باہر ہے لیکن عزرائیل مَلَکِ الْمَوْتِ سے میرا دوستانہ ہے، ان کو لاتا ہوں شاید کوئی تدبیر چل جائے۔ عرض عزرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے اُن سے فرمایا: انہوں نے عرض کیا: حضور! بغیر موت کے تو جنت میں جانا نہیں ہو سکتا۔

فرمایا: روح قبض کر لو۔ انہوں نے بحکم خدا ایک آن کے لیے روح قبض کی اور فوراً جسم میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا: مجھ کو دوزخ و جنت کی سیر کراؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام دوزخ پر لائے، طبقاتِ جہنم گھلوائے، آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عزرائیل علیہ السلام وہاں سے لے آئے۔ جب ہوش ہوا تو عرض کیا: یہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ پھر جنت میں لے گئے، وہاں کی سیر کرنے کے بعد عزرائیل علیہ السلام نے چلنے کے واسطے عرض کیا۔ آپ نے التفات نہ فرمایا۔ پھر دوبارہ عرض کیا: آپ نے جواب نہ دیا۔ پھر جب انہوں نے عرض کیا تو فرمایا: ”اب چلنا کیسا، جنت میں آ کر بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو ان دونوں میں فیصلہ کرنے کے واسطے بھیجا۔ اس نے آ کر پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سارا واقعہ سنا پھر آپ سے دریافت کیا کہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط ترجمہ کنز الایمان: ہر جان کو موت چکھنی ہے۔

(پ ۴، مال عمران: ۱۸۵)

اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور فرماتا ہے

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ج تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا۔

(پ ۱۶، مریم: ۷۱)

اور میں جہنم کی سیر بھی کر آیا ہوں۔ اور فرماتا ہے:

وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ اور وہ لوگ جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے۔

(پ ۱۴، الحجر: ۴۸)

اب میں جنت میں آ گیا کیوں جاؤں؟ حکم ہوا ”میرا بندہ ادریس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سچا ہے اس کو چھوڑ دو۔“

(الجامع الاحکام القرآن للقرطبی، المریم، تحت الایة ۵۶، ۵۷، ج ۶، ص ۳۵، ۳۶)

**حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات**

**عرض:** حضرت خضر علیہ السلام کی لقا (یعنی ملاقات) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** لقا ثابت ہے {پھر فرمایا} کس نبی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لقا نہ ہوئی؟ سب اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی۔

(ملخصاً، تفسیر الطبری، بنی اسرائیل تحت الاية ۱، الحدیث ۴، ۲۲۰۱، ج ۸، ص ۴)

حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

**در آن مسجد امام انبیاء شد صف پیشیناں راپیشوا شد**

نماز اَسْرَا میں تھا یہی سر عیاں ہوں معنی اوّل آخر

کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے

{پھر فرمایا} یہاں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ نماز پڑھی اور ”بیت المعمور“ میں سب انبیاء اور امت مرحومہ نے بھی۔ کچھ لوگ پہلی صف میں تھے کچھ دوسری کچھ تیسری اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھیں، فرق مراتب میں تھا، ان میں کچھ کے کپڑے سپید (یعنی سفید) تھے اور کچھ کے میلے۔ سپید والے صالحین ہیں اور میلے ہم جیسے گنہگار، پڑھی سب نے بیت المعمور میں۔ (دلائل النبوة للبيهقي، جماع ابواب المبعث، باب الدليل على ان النبي..... الخ، ج ۲، ص ۳۹۴، ملخصاً)

**تکبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا کیسا؟**

**عرض:** حضور بعض لوگ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں پھر نیت باندھتے ہیں؟  
**ارشاد:** نہیں چاہیے، بلکہ بعض لوگ تو پہلوانوں کی طرح جھٹکا بھی دیتے ہیں۔

**بد بودار دوائی لگا کر مسجد میں جانا**

**عرض:** حضور مسجد میں بدبو کے ساتھ نہ جانا چاہیے، اگر کوئی دوا بدبودار لگائی ہو تو کیا کرے؟  
**ارشاد:** کھلی (یعنی خارش) وغیرہ میں اگر گندھک وغیرہ لگائی ہو تو مسجد کی حاضری معاف ہے۔

**استفتاء کے متعلق سائل کے دھوکے**

ایک صاحب فرانس (یعنی وراثت) کا ایک استفتاء (یعنی مسئلہ) لائے کہ سو تیلی ماں کی اولاد کو ترکہ پہنچتا ہے یا نہیں؟



اس پر **ارشاد** فرمایا: یہ عجیب سوال ہے! ایسا سوال اب تک نہیں آیا۔ مُسْتَفْتٰی (یعنی مسئلہ دریافت کرنے والا) یہ چاہتا ہے کہ دھوکے سے اس کے مُوافِق لکھ دیا جائے۔ اِس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جواب کے سوچنے سے پہلے سوال کو سمجھے کہ اس میں دھوکا تو نہیں ہے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس استفتاء لائے کہ زوجہ نے ایک مکان اپنے شوہر کے ہاتھ بیع بلا بدل کیا۔ (یعنی بلا معاوضہ بیچا) اب زوجہ کے مرنے کے بعد وہ مکان اُس کے ترکہ میں ہوگا یا نہیں؟ میں نے کہا: میں اس وقت تک فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک بیع نامہ (یعنی فروخت شدہ چیز کی دستاویز) کی نقل نہ لاؤ۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ”بیع بلا بدل“ باطل ہے یعنی بلا معاوضہ بیع کرنا اور ہمارے یہاں عرف میں بیع بلا بدل کے یہ معنی ہیں کہ ”بیع تو ہوئی لیکن اُس کا معاوضہ قرض ہے ادا نہیں ہوا۔“ میں نے ان سائل سے کہا: اگر بیع بلا بدل کی صورت ہوگی تو یہی ہوگی اس کے سوا نہیں ہو سکتی۔ غرض بیع نامہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہی صورت تھی۔ وہ اسی مسئلہ کو شاہجہاں پور لے گئے اور لکھا لائے کہ بیع بلا بدل باطل ہے اور وہ مکان اُس عورت کا ترکہ ہے۔ مجھے لا کر دکھایا چھ سات مہرین بھی تھیں۔

{ پھر فرمایا { مجھے چاہیے تھا کہ اسی وقت اُس پر جواب لکھ دیتا۔

## حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر و باطن پر حکم فرمانے کے مختار ہیں

{ پھر فرمایا { حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا خواہ حقیقت پر حکم فرمائیں یا ظاہر پر، لیکن اکثر احکام ظاہر ہی پر

فرماتے اور بعض دفعہ باطن پر بھی حکم فرمایا۔

## چوری کرنے والے شخص پر قتل کا حکم

ایک شخص حاضر لایا گیا (یعنی بارگاہ میں پیش کیا گیا) جس نے چوری کی تھی۔ فرمایا ”أُقْتُلُوهُ“ اس کو قتل کرو۔ حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ (عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اس نے تو چوری کی ہے!“ فرمایا ”فَأَقْطَعُوهُ“

اچھا ہاتھ کاٹا جائے۔ دہنا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ اُس نے پھر چوری کی، بایاں پیر کاٹ لیا گیا۔ اس نے پھر چوری کی، بایاں ہاتھ

کاٹ لیا گیا چوتھی بار پھر چوری کی اور دہنا پیر کاٹ لیا گیا۔ پانچویں مرتبہ اس نے منہ میں کوئی شے چھپا کر رکھی۔ حضرت ابو بکر

صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ”اُقْتُلُوهُ“ یہ اسی کا نتیجہ تھا۔“

(مستدرک علی الصحیحین، کتاب الحدود، باب حکایة السارق، الحدیث ۸۲۱۴، ج ۵، ص ۵۴۵ ملخصاً)

## اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنہا مخالفین کا مقابلہ کیا

بتذکرہ اعدا و حاسدین (یعنی دشمنی رکھنے والوں اور حسد کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا میری اتنی عمر گزری لوگ میری مخالفت ہی کرتے رہے۔ ایک طرف کفار کا نرغہ دوسری طرف حاسدین کا مجمع، مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ”مجموعہ اعمال بھرا ہوا ہے، سیفیاں بھری پڑی ہیں، کوئی عمل کر لیجئے۔“ میں نے کہا: ”جنہوں نے یہ تلواریں مجھے دی ہیں انہیں کا یہ حکم ہے کہ تلوار ہاتھ میں کبھی نہ لینا، ہمیشہ ڈھال ہی سے کام لینا۔“ چنانچہ کبھی کسی پر خربہ (یعنی عمل) نہ کیا۔ سوائے ایک دفعہ کے کہ میں نے کرنا چاہا اور نہ ہوا۔ جس سے ثابت کر دیا گیا کہ تیرے کئے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کرتے ہیں۔

## دلدل میں پھنسی بیل گاڑی کیسے نکلی؟

{پھر فرمایا} وہ خود ایسی مدد کرتا ہے کہ اپنے آپ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری عمر انیس سال کی تھی۔ اُس وقت رامپور کو ریل نہ تھی۔ بیل گاڑی پر سوار ہو کر گیا، ساتھ میں عورتیں بھی تھیں۔ راستہ میں دریا پڑا، گاڑی والے نے غلطی سے بیلوں کو اس میں ہانک دیا۔ اس میں دلدل تھی، بیل پہنچتے ہی گھٹنوں تک دھنس گئے اور نصف پہیہ گاڑی کا۔ جتنا بیل زور کرتے اندر دھنستے چلے جاتے تھے۔ اب میں نہایت حیران کہ ساتھ میں عورتیں ہیں، اتر سکتا نہیں کہ دلدل میں خود دھنس جانے کا اندیشہ، اسی پریشانی میں تھا کہ ایک بوڑھے آدمی جن کی صورت نورانی اور سفید اڑھی تھی، نہ اس سے پہلے انہیں دیکھا تھا نہ جب سے اب تک دیکھا۔ تشریف لائے اور فرمایا: کیا ہے؟ میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ فرمایا: یہ تو کوئی بات نہیں۔ گاڑی والے سے فرمایا: ہانک۔ اس نے کہا: کدھر ہانکوں؟ آپ دیکھتے ہیں دلدل میں گاڑی پھنسی ہے۔ فرمایا: ارے تجھے ہانکنا نہیں آتا؟ ادھر کو ہانک، یہ کہہ کر پہیہ کو ہاتھ لگایا فوراً گاڑی دلدل سے نکل گئی۔

## دُعائے مَغْفَرَات

{پھر فرمایا} ایسی مَعُونَتیں (یعنی مددیں) تَوَالِّحَمْدُ لِلَّهِ بہت زائد ہوئیں۔ پہلی بار کی حاضری میں منیٰ شریف کی مسجد

میں مغرب کے وقت حاضر تھا، اس وقت میں وظیفہ بہت پڑھا کرتا تھا اب تو بہت کم کر دیا ہے۔ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ”سنیتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں۔“ لیکن الْحَمْدُ لِلّٰهِ سنیتیں کبھی نہ چھوڑیں۔ نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیئے ہیں، خیر جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصہ میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ و وظیفہ میں مصروف ہیں۔ میں صحن مسجد میں دروازہ کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکا یک ایک آواز گنگناہٹ کی سی اندر مسجد کے معلوم ہوئی جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی ”اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔“ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں، کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ غرض دوہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِي هَذَا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِي هَذَا“ (اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کو معاف فرما۔) میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں ”ہم نے تیرا کام کر دیا اب تو ہمارے کام میں مخل نہ ہو۔“ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔

## اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مجذوب کے پاس ملاقات کیلئے جانا

{ پھر فرمایا } بریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب انخوند زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم پچاس گالیاں سناتے۔ مجھے اُن کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا، میرے والد ماجد قدس سرہ العزیز کی ممانعت کہ کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک روز رات کے گیارہ بجے اکیلا اُن کے پاس پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حُجرہ (یعنی مسجد کے متصل ایک چھوٹا کمرہ) میں چار پائی پر بیٹھے تھے، مجھ کو بغور پندرہ بیس منٹ تک دیکھتے رہے، آخر مجھ سے پوچھا: صاحبزادہ! تم مولوی رضا علی خان صاحب کے کون ہو؟ میں نے کہا: میں ان کا پوتا ہوں۔ فوراً وہاں سے چھپے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے اور چار پائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: آپ یہاں تشریف رکھیے۔ پوچھا: کیا مقدمہ کے لیے آئے ہو؟

میں نے کہا: مقدمہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف دعائے مغفرت کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ قریب آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے۔

اس کے بعد میرے منجملے (یعنی درمیانے) بھائی { مولوی حسن رضا خان صاحب } ان کے پاس مقدمہ کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان سے خود ہی پوچھا: کیا مقدمہ کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! فرمایا، مولوی صاحب سے کہنا ”قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے۔“

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ط  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔

(پ ۲۸، الصف: ۱۳)

بس دوسرے ہی دن مقدمہ فتح ہو گیا۔

## بے وضو نماز پڑھا دینے کا حکم

**عرض:** امام کو دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میں بے وضو ہوں اس نے بے وضو ہی نماز ختم کی تو کافر ہو گیا یا نہیں؟

**ارشاد:** اگر لوگوں کی شرم کی وجہ سے اس نے وضو نہ کیا تو کفر نہ ہوگا، حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اور اگر مَعَاذَ اللَّهِ اسْتَحْقَارًا (یعنی حقیر جانتے ہوئے) ایسا کیا اور مسلمان سے ایسا مُتَّصِرًا (یعنی خیال) نہیں تو البتہ کفر ہو جائے گا۔

## صاحبِ نصاب نابالغ پر زکوٰۃ نہیں

**عرض:** نصاب کا مالک اگر نابالغ کو کر دے تو زکوٰۃ ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** نہیں ہوگی کہ نابالغ مکلف نہیں۔

**عرض:** تملیک (یعنی کسی کو کسی چیز کا مالک کر دینا) کس طرح ہوگی؟

**ارشاد:** یا تو کچھ دے اور زبان سے کہے کہ میں نے تم کو یہ دے دیا یا دلالت تملیک پائی جائے، جیسے کچھ دیا اور نیت ہبہ کی اور سمجھا گیا کہ مالک کر دیا تو ہبہ صحیح ہو جائے گا۔ مُتَّعَاطَى (یعنی چیز لے کر قیمت دے دینے سے) سے بیع ہو جاتی ہے ہبہ! تو دوسری چیز ہے۔

۱: کسی چیز کا دوسرے کو بلا عوض مالک کر دینا ہبہ کہلاتا ہے۔

{ پھر فرمایا {عورتوں کو زیور بنا دیتے ہیں، اگر عرف عام میں وہاں مالک کر دینا سمجھا جاتا ہو تو عورت مالک ہوگی۔  
اگر عرف عام اس کا نہ ہو یا مختلف ہو تو نہیں۔

## نابالغ کا خرید و فروخت کرنے کا حکم

**عرض:** نابالغ اگر مال فروخت کرے تو بیع ہوگی یا نہیں؟

**ارشاد:** ولی کی اجازت پر موقوف ہے بشرطیکہ ثمن مثل {زرخ بازار} پر بیچے اور ثمن قلیل بقدر مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ (جس میں لوگ دھوکا کھاتے ہیں) کا اعتبار نہیں۔

## ایصال کرنے سے ثواب بڑھتا ہے

**مؤلف:** چند علمائے کرام حاضر تھے، حضور والا (یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن) نے ان سے استفسار فرمایا: وہ کون سا بہہ ہے جو نابالغ کرے اور ولی کی اجازت نہیں بلکہ ممانعت ہے اور بہہ صحیح ہو؟ حالانکہ ولی کی اجازت پر بھی نابالغ کا بہہ صحیح نہیں۔ سب نے سکوت کیا (یعنی خاموش رہے) اور عرض کیا: حضور ہی ارشاد فرمائیں۔  
**فرمایا:** وہ بہہ ثواب کا ہے کہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔

**عرض:** حضور اس ثواب کے بہہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا؟

**ارشاد:** ہاں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ وہ ثواب اگر چند آدمیوں کو بہہ کیا جائے تو وہ تقسیم ہو کر پہنچے گا یا اتنا ہی اتنا سب کو ملے گا؟ اور صحیح یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اتنا ہی اتنا سب کو ملے گا۔ ہاں وہاں بہہ نے لکھا ہے کہ ”یہ عیادت ہوئی یعنی اس بہہ کرنے والے نے اُس کی طرف سے یہ عمل کیا اب اس کے لیے کوئی ثواب نہیں اور مَرَّ لِطَلْقًا بِبَيْتِ خَنِيْزَةَ“ انکار کرتے ہیں۔

## علم منطق سے علم بیان افضل ہے

**عرض:** علم منطق سے علم بیان افضل ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہاں فلاسفہ کی بنائی ہوئی منطق سے تو افضل ہی ہے۔

## شرعی مَنطِقِ عِلْمِ بِلَان سے افضل ہے

**عرض:** حضور شریعت کی منطق؟

**ارشاد:** ہاں شریعت کی منطق بے شک علمِ بیان سے افضل ہے۔

## شرعی منطق کی تعریف

**عرض:** اس کی کیا تعریف ہے؟

**ارشاد:** وہ ایک ایسا قانون ہے جس کی مُراعات (یعنی رعایت) خطا کفر سے بچائے۔

**عرض:** حضور اس کے جاننے والے بھی ہوئے ہیں؟

**ارشاد:** حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کیا تھا جس سے وہ خطا کفر سے بچتے تھے حالانکہ فلاسفہ کی منطق اس وقت تھی بھی

نہیں اور پھر آئمہ مجتہدین کونسی منطق جانتے تھے؟

**عرض:** علمائے ظاہر میں کوئی ایسا گزرا یا نہیں؟

**ارشاد:** میں جس کو بتاؤں گا آپ کہیں گے یہ علمائے باطن میں سے تھے۔ شریعت کی منطق ایک نور کا نام ہے جس کو خدا عطا

فرمائے، آپ چاہیں کہ ظلمت والوں میں کوئی ایسا ہو، ”میں ظلمت والوں سے کس کو لاؤں جو نور والا ہو؟“

## عُلُومِ ظَاهِرِي

**عرض:** علمِ ظاہری میں وہ کون سا علم ہے؟

**ارشاد:** وہ علم اصول فقہ و حدیث ہے اور باقی یہ سب منطق و فلسفہ توفضول ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں۔

چند خوانی حکمت یونانیاں      حکمت ایمانیاں راہم بخواں

پائے استدلالیاں چوبین بود      پائے چوبین سخت بے تمکین بود

گر بہ استدلال کار دیں بدلے      فخر رازی راز دار دیں بدلے

## امام رازی اور شیطان کا مناظرہ

{ پھر فرمایا { استدلال پر دار و مدار دو باتوں کی طرف لے جاتا ہے، یا حیرت یا ضلالت۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ کی نزع کا جب وقت آیا، شیطان آیا کہ اس وقت شیطان پوری جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس (میت) کا ایمان سلب ہو جائے، (یعنی چھین لیا جائے) اگر اس وقت پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا۔ اُس نے ان سے پوچھا کہ تم نے عمر بھر مُناظروں مباحثوں میں گزاری، خدا کو بھی پہچانا؟ آپ نے فرمایا: بیشک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا اس پر کیا دلیل؟ آپ نے ایک دلیل قائم فرمائی، وہ خبیث مُعَلِّمُ الْمَلَكُوت (یعنی فرشتوں کا استاد) رہ چکا ہے اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ اُنہوں نے دوسری دلیل قائم کی اُس نے وہ بھی توڑ دی۔ یہاں تک کہ ۶۰ دلیلیں حضرت نے قائم کیں اور اس نے سب توڑ دیں۔ اب یہ سخت پریشانی میں اور نہایت مایوس۔ آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دُور دراز مقام پر وُضو فرما رہے تھے، وہاں سے آپ نے آواز دی ”کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بے دلیل ایک مانا۔“

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گرد لیلے خواہی ازوے رومتاب

طلوع آفتاب، آفتاب ہی کی دلیل ہے اگر دلیل چاہئے تو اس سے منہ نہ پھیر۔

آسمان کہاں ہے!

**عرض:** حضور دُور بین سے آسمان نظر آتا ہے یا نہیں؟

**ارشاد:** ہم اپنی آنکھوں سے تو آسمان دیکھ رہے ہیں۔ کیا دور بین لگانے سے اندھا ہو جاتا ہے کہ بغیر دور بین کے دیکھتے ہیں اور دور بین سے سو جھائی نہ دے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہی آسمان ہے:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَا

ہم نے اس کو کیسا بنایا اور ہم نے اس کو کیسی

مِنْ فُرُوجٍ ①

زینت دی اور اس میں کوئی شکاف نہیں

(پ ۲۶، ق: ۶)

وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٤﴾ ہم نے اسے خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے

(پ ۱۴، الحجر: ۱۶) واسطے۔

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ مَرْفَعَتٌ ﴿١٥﴾ کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا بلند بنایا گیا۔

(پ ۳۰، الغاشیة: ۱۸)

فلاسفہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں، آسمان شفاف بے لون (یعنی بے رنگ) ہے۔

{ پھر فرمایا { اس میں اکذب (یعنی سب سے بڑا جھوٹا) کون؟ ”جس کی تکذیب کرے قرآن۔“

### ”خوف اور اُمید“ دونوں کا پایا جان ضروری ہے

{ پھر فرمایا { نجات مُخَصَّر ہے اس بات پر کہ ایک ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایسا پختہ (یعنی مضبوط) ہو کہ آسمان

وزمین ٹل (یعنی جگہ سے ہٹ) جائیں اور وہ نہ ٹلے، پھر اس کے ساتھ ہر وقت خوف لگا ہو۔

### سلبِ ایمان کا خوف

علمائے کرام فرماتے ہیں ”جس کو سلبِ ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اُس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔“

### حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوفِ خدا عزوجل

سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آسمان سے ندا کی جائے کہ ”تمام روئے زمین کے آدمی بخش

دیئے گئے مگر ایک شخص، تو میں خوف کروں گا کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔“ اور اگر ندا کی جائے ”روئے زمین کے تمام آدمی

دوزخی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں امید کروں گا کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔“

(احیاء علوم الدین، کتاب الخوف، بیان ان الافضل هو غلبة الخوف..... الخ، ج ۴، ص ۲۰۲)

خوف ورجا کا مرتبہ ایسا معتدل ہونا چاہیے۔

{ پھر فرمایا { خیر یہ تو حصہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا تھا لیکن کم سے کم ہر مسلمان کو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ صحت و تندرستی کے

وقت خوف غالب ہو اور مرتے وقت رجا۔ (یعنی اُمید)



## موت کا جھٹکا تلوار سے سخت ہے

حدیث میں ہے ”ہر جھٹکا موت کا ہزار ضرب تلوار سے سخت تر ہے۔ (کنز العمال، کتاب الموت، باب الثانی، فصل قسم الاول، الحدیث ۴۲۱۸۳، ج ۱۵، ص ۲۴۰) ملائکہ دبوچے بیٹھے رہتے ہیں ورنہ آدمی تڑپ کر نہ معلوم کہاں جائے، اُس وقت اگر معاذ اللہ کچھ اس طرف سے ناگواری آئی تو سلبِ ایمان ہو گیا۔ اس لیے اس وقت بتایا جائے کہ کس کے پاس جا رہا ہے۔

## ایمان اور شہود میں فرق

**عرض:** اگر خدائے تعالیٰ کے سہج و بصیر ہونے پر ایمان ہے تو کبیرہ تو درکنار صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔

**ارشاد:** ایمان اور ہے اور شہود اور۔ ایمان ارتکابِ سینات (یعنی گناہ کرنے) کے مُنافی (یعنی خلاف) نہیں۔ ہاں اگر شہود ہوگا تو بے شک کبیرہ تو درکنار صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اکابر اولیاء پر بھی اکل و شرب و نوم (یعنی کھانے، پینے، اور سونے) کے وقت ایک گونہ (یعنی چند لحوں کے لئے) غفلت دی جاتی ہے ورنہ کھانے پینے پر قادر نہ ہوں۔

## غفلت کی مختلف اقسام اور ان کے احکام

{ پھر فرمایا { غفلتِ مطلقہ کفر ہے اور غفلتِ غالبہ فسق اور تڈگر غالب ولایت اور تڈگر مطلق نبوت پھر تڈگر غالب

میں بھی مراتب ہیں۔

رَجَالٌ لَا تَأْتِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَ آيَاتِ الزُّكُوتِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ  
الْقُلُوبُ وَ لَا بَصَائِرٌ ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سود اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔

یہ وہی تڈگر غالب ہے اور غفلتِ مطلقہ یہ ہے جسے حضرت مولانا فرماتے ہیں:

اہل دنیا کافران مطلق اند روز و شب درز قزق و دربق بق اند  
اہل دنیا چہ کہیں و چہ مہیں لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ  
چیست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

## اللہ تعالیٰ کے لئے محبت

**عرض:** حضور پچہ سے محبت تو پچہ ہونے کی بنا پر ہوتی ہے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے واسطے کون کرتا ہے؟

**ارشاد:** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ میں نے مال ”مِنْ حَيْثُ هُوَ مَالٌ“ (یعنی اس طور پر کہ وہ مال ہے) سے کبھی محبت نہ رکھی صرف ”اِنْفَاقٍ فِی سَبِيلِ اللّٰہِ“ (یعنی راہِ خدا عزوجل میں خرچ کرنے) کے لیے اس سے محبت ہے۔ اسی طرح اولاد ”مِنْ حَيْثُ هُوَ اَوْلَادٌ“ (یعنی اس طور پر کہ وہ اولاد ہے) سے بھی محبت نہیں، صرف اس سبب سے کہ صلہٴ رحم عملِ نیک ہے اس کا سبب اولاد ہے اور یہ میری اختیاری بات نہیں میری طبیعت کا تقاضا ہے۔

## بیوی بچوں کے سبب ہونے والے گناہ

**عرض:** حضور بیوی بچہ کے سبب سے اکثر اوقات انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے!

**ارشاد:** پھر اس کا کیا علاج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ (پ ۲۸، التغابن: ۱۴)

اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں  
سے تمہارے دشمن بھی ہیں تم ان سے بچو۔

اور فرماتا ہے:

إِن سَأَلْتُمُوهُمَّ وَأَوْلَادُكُمْ فَيَنفَتِحُوا  
(پ ۲۸، التغابن: ۱۵)

اور تمہارے مال و اولاد فتنہ ہیں۔

اور فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا  
أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۙ (پ ۲۸، المنفقون: ۹)

اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری  
اولاد تم کو خدا کے ذکر سے غافل نہ کر دیں  
اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ میں  
ہیں۔

(پ ۲۸، المنفقون: ۹)

ایک بار امامین رضی اللہ تعالیٰ عنہما در اقدس میں حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا

إِنَّكُمْ لَتَبَخِلُونَ وَ لَتَجَبِّنُونَ  
تم لوگوں کو بخیل بنا دیتے ہو اور نامرد کر دیتے ہو۔

(مسند احمد، مسند قبائل، الحدیث ۲۷۳۸۳، ج ۱۰، ص ۳۷۰)

چونکہ ازواج و اولاد کو دشمن بتایا گیا تھا، ممکن تھا کہ کوئی سمجھ لیتا ان کو تکلیف دینا چاہیے لہذا اسی جگہ فرمایا:

وَأِنْ تَعَفَّوْا وَ تَصَفَّحُوا وَ تَعَفَّرُوا  
اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور اور  
فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾  
بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا

(پ ۲۸، النعابن: ۱۴) مہربان ہے۔

## کامدار جوتے پہننے کا حکم

**عرض:** کامدار (یعنی سونے یا چاندی کے کام والے) جوتے کا کیا حکم ہے؟

**ارشاد:** اگر جھوٹا کام ہے تو مطلقاً مکروہ ہے حتیٰ کہ عورتوں کو بھی، اور اگر سچا (یعنی خالص سونے یا چاندی کا) ہے تو چار انگل سے کم مردوں کو جائز ہے اس سے زیادہ نہیں اور عورتوں کو مطلقاً جائز ہے۔

## اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باریک بینی

**مؤلف:** ایک مسئلہ طلاق پیش ہوا جس میں لکھا تھا کہ زید نے کہا: ”میں نے اپنی بی بی کو طلاق کو دیا۔“

اس پر **ارشاد فرمایا:** کیا خوب! اب اگر لکھنے والے کی غلطی کہی جائے تو اور حکم ہوتا ہے اور اگر انہی الفاظ کو صحیح مانا جائے تو حکم بدل جائے گا۔ یوں کہنا کہ ”میں نے اپنی بی بی کو طلاق کو دیا“ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ”اس نے اپنی بی بی کو طلاق دلوانے کے لیے دوسرے کے حوالے کر دیا“ اور اس میں طلاق نہیں پڑے گی۔ اور اگر یوں کہا کہ ”میں نے اپنی بی بی کو طلاق دیا“ تو طلاق ہو جائے گی۔ لوگ اس قدر دھوکے دے کر سوال کرتے ہیں!

## خلاف سنت بات دیکھ کر شیخ سے پھرنا کیسا؟

**عرض:** شیخ (یعنی اپنے کامل پیر) سے بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جو خلاف سنت ہے تو اس سے پھرنا کیسا؟

**ارشاد:** محرومی اور انتہائی گمراہی ہے۔

**عرض:** اگر زید نے ایک وقت شیخ پر اعتراض کیا اور دوسرے وقت نادم ہوا تو کیا اب بھی اس پر کوئی الزام ہے؟

**ارشاد:** اُس پر کوئی الزام نہیں: ”الَّذِينَ تَوْبَةُ“ (ندامت توبہ ہے)“

(سنن ابن ماجہ، کتاب الذہد، باب ذکر توبہ، الحدیث، ۴۲۵۲، ج ۴، ص ۴۹۲)

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَمْ يَذَنْبْ لَهُ      گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ ت

(سنن ابن ماجہ، کتاب الذہد، باب ذکر توبہ، الحدیث، ۴۲۵۰، ج ۴، ص ۴۹۱)

## کیا رکوع میں دونوں ٹخنوں کو ملانا چاہیے؟

**عرض:** دُرِّمختار، کبیری، صغیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ رکوع میں دونوں ٹخنوں کو ملانا سنت ہے!

**ارشاد:** لَمْ يثبت کہیں ثابت نہیں۔ دس بارہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے اور سب کا منتہی ”زاہدی“ ہے۔

## گلا پھولنے کا روحانی علاج

**عرض:** ایک مریض کا گلا پھول گیا ہے اس کے لیے کوئی دعا ارشاد ہو!

**ارشاد:** ”أَمْرًا بَرْمُوًّا مَرَّافًا مُبْرُمُونَ“ لکھ کر گلے میں ڈال لیا جائے۔

## خطبہ جمعہ عربی ہی میں پڑھیں

**عرض:** حضور نبی روشنی والے (یعنی جدت پسند) کہتے ہیں کہ خطبہ سے مقصود عوام کو ترغیب و ترہیب و تذکیر (یعنی رغبت دلانا،

نہیحت کرنا اور آخرت کی یاد دلانا) ہے، اگر اردو میں نہ پڑھا جائے تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا تو خطبہ معاذ اللہ بے کار ہو جائے گا۔

**ارشاد:** صحابہ کرام کے زمانہ میں عجم (یعنی عرب کے علاوہ) کے کتنے ہی شہر فتح ہوئے، کئی ہزار منبر نصب ہوئے، کئی ہزار

۱: اس کا نام مختار بن محمود الزاہدی الغزینی ہے اور اس کو غزینی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خوارزم کے علاقوں میں سے ایک

علاقہ غزین کا رہنے والا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاویٰ رضویہ میں بھی فرمایا کہ زاہدی نقل میں ثقہ نہیں اور اس کی نقل پر اعتماد نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۹، ص ۲۵۴) یہ ۶۸۰ھ میں فوت ہوا۔ (الفوائد البہیة فی تراجم الحنفیہ، حرف المیم، مختار بن محمود، ص ۲۸۰)

مسجد میں بنائی گئیں، کہیں منقول نہیں کہ صحابہ نے اُن کی زبان میں خطبہ فرمایا ہو۔ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقف ہیں تمام مَسَاكِنَ وَمَا يَكُونُ سے، تمام وقائع گزشتہ و آئندہ (یعنی جو پہلے ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا) کی آپ کو خبر ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو یہ معلوم تھا کہ ہندی، حبشی، رومی، عجمی ہر زبان والے مسلمان ہوں گے۔ عربی نہ سمجھیں گے اور کبھی اجازت نہ دی کہ اُن کی زبان میں خطبہ پڑھا جائے۔ خود دربار اقدس میں رومی، حبشی، عجمی ابھی تازہ حاضر آئے ہیں۔ عربی ایک حرف نہیں سمجھتے، مگر کہیں ثابت نہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ان کی زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا ہو یا کچھ خطبہ عربی میں اور کچھ ان کی زبان میں فرمایا ہو، ایک حرف بھی ان کی زبان کا خطبہ میں منقول نہیں:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأْتُوا  
ترجمہ کنز الایمان: جو کچھ تمہیں رسول عطا  
فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

(پ ۲۸، الحشر: ۷)

اب رہا یہ اعتراض کہ پھر تذکیر (یعنی نصیحت کرنے) سے فائدہ کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ دو دو پیسے کی نوکری کے واسطے عمریں انگریزی (سیکنے) میں گنواتے ہیں اور عربی زبان جو ایسی متبرک اسی میں ان کا قرآن، ان کا نبی عربی، ان کی جنت کی زبان عربی اس کے لیے اتنی کوشش بھی نہ کریں کہ خطبہ سمجھ سکیں۔ یہ اعتراض تو انہیں پر پڑے گا نہ کہ خطیب پر۔

## قرآنی آیات کی تفاسیر

عرض:

وَقَفُّوْهُمْ اِنَّهُمْ مُسْئِلُوْنَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں ٹھہراؤ

(پ ۲۳، الضُّفَّت: ۲۴) ان سے پوچھنا ہے۔

کی تفسیر میں ”عَنْ وَايَةِ عَلِيٍّ“ صحیح ہے یا نہیں۔

ارشاد: روافض کے نزدیک یہ تفسیر ہے۔

**عرض :**

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا السُّؤْدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ ط

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت

نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔

(پ ۲۵، الشوری: ۲۳)

کے کیا معنی ہیں؟

**ارشاد :** اس کی دو تفسیریں ہیں: ایک تو یہ کہ کوئی قبیلہ کفار مکہ کا ایسا نہ تھا جو سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے قرابت (یعنی رشتہ داری) نہ رکھتا ہو اور قبیلہ والے کے ساتھ کرم اہل عرب کی طینت (یعنی عادت) میں رکھا گیا تھا، تو وہ جو تکلیفیں پہنچاتے تھے ان کی بابت (یعنی ان کے بارے میں) ارشاد فرمایا گیا کہ ”اور کسی بات کا خیال نہ کرو، قرابت داری ہی کا پاس کر کے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو تکلیفیں پہنچانے سے باز رہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قربی سے مراد سادات کرام و اہل بیت عظام ہیں اور استثناء بہر صورت مُنْقَطِع ہے (تفسیر الطبری، شوری، تحت الاية ۲۳، ج ۱۱، ص ۱۴۲، ۱۴۴) ”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا“ مسالہ کلیہ ہے۔

## ایک حدیث کے متعلق سوال

**عرض :**

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

نماز حضور قلب ہی سے (کامل) ہوتی ہے۔ ت۔

کیا حدیث ہے؟

**ارشاد :** امام طحاوی نے ”معانی الآثار“ میں اسے بطور حدیث کے بلا سند ذکر کیا ہے۔

## قبر کھولنے کا حکم

**عرض :** ایک قبر کچی ہے ہر بار پانی بھر جاتا ہے اس میں پکی ڈاٹ (یعنی سوراخ بند کرنے کی چیز) لگا دیں۔

**ارشاد :** قبر پر ڈاٹ لگانے میں حرج نہیں ہاں کھولی نہ جائے۔ میت کو دفن کر کے جب مٹی دے دی گئی تو وہ امانت ہو جاتا ہے اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی، اس کا کشف (یعنی کھولنا) جائز نہیں۔ (کیونکہ قبر میں میت) دو حال سے خالی نہیں مُعَدَّب (یعنی عذاب میں مبتلا ہوا) ہے یا مُنْعَمُ عَلَيْهِ (یعنی انعام کا حق دار ہوا)۔ اگر مُعَدَّب ہے تو دیکھنے والا دیکھے گا اسے جس سے اسے رنج پہنچے گا اور کچھ نہیں

سکتا۔ اور اگر مُنعمُ عَلَیْہِ ہے تو اس میں اس کی ناگواری ہے۔

## قبر کھولنے کی عبرت ناک حکایت

علامہ طاش کبریٰ زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث دیکھی کہ ”علمائے دین کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی بدن ان کا سلامت رہتا ہے۔“ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ”ہمارے استاد بہت بڑے عالم ہیں ان کی قبر کھول کر دیکھوں کہ ان کا بدن کس حال پر ہے۔“ اس وسوسہ نے ان پر ایسا غلبہ کیا کہ ایک شب میں جا کر قبر کھولی، دیکھا کفن بھی میلانا تھا۔ جب دیکھ چکے قبر سے آواز آئی: ”دیکھ چکا! اللہ (عَزَّوَجَلَّ) تجھے اندھا کرے۔ اسی وقت دونوں آنکھیں بہہ گئیں (یعنی اندھی ہو گئیں)۔“

## قبر کھودنے والے شخص کا درد ناک انجام

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”شرح الصدور“ میں لکھا ہے۔ کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، دفن کر دی گئی، اس کے شوہر کو بہت محبت تھی۔ محبت نے مجبور کیا کہ اس کی قبر کھول کر دیکھے کیا حال ہے۔ ایک عالم سے یہ ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے منع کیا، نہ مانا اور ان کو قبرستان تک ساتھ لے گیا۔ عالم نے ہر چند منع کیا لیکن اس نے قبر کھولی۔ عالم صاحب قبر کے کنارے بیٹھے رہے، وہ نیچے اترا دیکھا کہ اُسی عورت کے دونوں پاؤں پیچھے سے لے جا کر اس کی چوٹی سے باندھ دیئے گئے ہیں۔ اس نے چاہا کہ کھول دوں ہر چند طاقت کی مگر نہ کھول سکا۔ ”اللہ کی لگائی ہوئی گرہ کون کھول سکے۔“ ان عالم صاحب نے منع فرمایا، نہ مانا۔ دوبارہ پھر زور کیا۔ عالم صاحب نے پھر منع کیا کہ دیکھ اسی میں خیریت ہے اسے ایسے ہی رہنے دے۔

۱۔ فقیر کہتا ہے کہ اگر صورت معاذ اللہ صورت اولیٰ ہے تو ناگواری اور زیادہ ہونی چاہیے اور بے وجہ ناحق ایذائے مسلم حرام خصوصاً ایذائے میت نیز حدیث کے ارشاد سے ثابت ہے کہ ”مردے کو قبر سے نکلیے لگانے سے بھی اذیت ہوتی ہے۔“ تومَعَاذَ اللہ محض اپنی خواہش کے لیے نہ ضرورت و حاجت کے لیے اس پر کدال چلانا اور قبر کو کھود ڈالنا کس قدر سخت ایذا کا باعث ہوگا۔ آہ! مسلمانوں کے قبرستانوں کی آج جو ردی حالت ہے اس پر جس قدر بھی رویا جائے کم ہے۔ قبر پر لوگ بیٹھ بیٹھ کر حقے پیتے خرافات کرتے، لغو باتیں بناتے، گالیاں بکتے، قہقہے اڑاتے ہیں غیر قوم ہی کے لوگوں پر بس نہیں خود مسلمان بھی یہ ناشائستہ بے ہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ بچے قبور پر کھلتے کودتے پھرتے ہیں بلکہ گدھے اُن پر لوٹے لید کرتے ہیں۔ بکریاں بیٹھتی بیگنیاں کرتی ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مسلمانو! خدا کے لیے آنکھیں کھولو ایک دن تمہیں بھی جانا ہے۔ ان مردوں کی خاطر کچھ انتظام نہیں کرتے اپنے ہی لیے کرو۔ ۱۲ مؤلف غفر لہ

اس نے کہا، ایک بارتو اور زور کر لوں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زور کر ہی رہا تھا، بالآخر زمین دھنسی اور وہ مرد و عورت دونوں زمین میں چلے گئے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى (شرح الصدور، باب عذاب القبر، ص ۱۸۱ ملخصاً)

## کس کس کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی؟

**عرض :** وہ کون کون ہیں جن کے بدن کو زمین نہیں کھاتی؟

**ارشاد :** حافظ بشرطیکہ عمل کرتا ہو قرآن پر، بہترے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے۔

رَبِّ تَالِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يُلْعَنُهُ

بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں

کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ت

اور عالم دین اور شہید فی سبیل اللہ اور ولی اور وہ کہ درود شریف بکثرت پڑھا کرتا ہو اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی نافرمانی نہ کی اور وہ مؤذن جو بلا اجرت اذان دیا کرتا ہو۔

## مؤذن کا بلا اجرت اذان دینے کا ثواب

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جو بلا اجرت سات برس محض اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی رضا کے لیے اذان دے

”كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ“ اللہ تعالیٰ اس کے لئے نار سے براءت (یعنی خلاصی) لکھ دیتا ہے۔“

(سنن ابن ماجہ، کتاب الاذان، باب فضل الاذان، الحدیث ۷۲۷، ۷۲۸، ج ۱، ص ۴۰۲)

## قادیانی کا احادیث گھڑنا

**عرض :** یہ حدیث ہے۔

وَلَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيِّينَ

حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اگر زندہ ہوتے تو

مَا وَسِعَهُمَا إِلَّا اتِّبَاعِي

انہیں میرے اتباع کے سوا گنجائش نہ ہوتی۔

**ارشاد :** یہ قادیانی ملعونوں کا حدیث پر ایتر اور زیادت (یعنی اضافہ) ہے حدیث میں اتنا ہے:



وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ  
إِلَّا اتِّبَاعِي  
اگر موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو انہیں  
کچھ گنجائش نہ ہوتی سوا میری اطاعت کے۔

(شعب الایمان للبيهقي، باب في الايمان بالقران، الحديث ۱۷۷، ج ۱، ص ۲۰۰)

افترا بھی کیا اور کال نہ کٹا، ان کا مقصود اس افتراء سے وفاتِ مسیح ثابت کرنا ہے اور جب وفات ثابت ہو جائے گی تو ان کے نزدیک نزول نہ ہوگا تو ایک مثل کا (یعنی ان کی طرح کے ایک انسان کا) نزول ماننا پڑے گا۔ حالانکہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات حقیقی حسی دنیوی ہے۔

## حیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ثبوت میں احادیث مبارکہ

صحیح حدیث میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ  
تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ  
حَيٌّ يُرْزَقُ  
بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام  
کے اجسام کھانا حرام فرما دیا ہے تو اللہ (عَزَّوَجَلَّ)  
کے نبی زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته..... الخ، الحديث ۶۳۷، ج ۲، ص ۲۹۱)

دوسری صحیح حدیث میں ہے:

الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ  
يُصَلُّونَ  
انبیاء (علیہم السلام) سب زندہ ہیں اپنی  
قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔

(مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، الحديث ۳۴۱۲، ج ۳، ص ۲۱۶)

## حیات انبیاء کا منکر گمراہ ہے

اگر عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات مان بھی لی جائے تو ان کی موت بلکہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے صرف آنی (یعنی ایک پل کے لئے) ہے ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ قطعیہ، یقینیہ، ضروریات مذہب اہلسنت سے

ہے، اس کا منکر نہ ہوگا مگر بد مذہب گمراہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہی ہیں ان کا نزول مُنْتَفِع کیونکر ہو گیا۔

## چار انبیاء کرام علیہم السلام کو ابھی تک وعدہ الہیہ نہیں پہنچا

{ پھر فرمایا { چار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وہ ہیں جن پر ابھی ایک آن کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ دو آسمان پر

سیدنا ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، اور دوزمین پر سیدنا الیاس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ

والسلام۔ (الاصابة فی تمييز الصحابة، حرف الخاء المعجمة، باب ماورد فی تعميره، ج ۲، ص ۲۵۲) ہر سال حج میں یہ دونوں حضرات جمع

ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، ختم حج پر زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں کہ وہ پانی ان کو کفایت کرتا ہے سال بھر کے طعام و شراب

(یعنی کھانے، پینے) سے۔ (الاصابة فی تمييز الصحابة، حرف الخاء المعجمة، باب ماورد فی تعميره، ج ۲، ص ۲۶۴)

## روزہ کے لئے نیت ضروری ہے

**عرض:** صوم وصال<sup>۱</sup> تو غیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ناجائز ہے۔ پھر جب یہ سال بھر کچھ نوش نہیں فرماتے

ہیں تو سال بھر کا صوم (یعنی روزہ) متصل ہوا۔

**ارشاد:** صوم میں نیت ضروری ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔

## ایام تشریق میں روزہ رکھنے کا حکم

**عرض:** ایام تشریق (یعنی ۹ تا ۱۳ ذی الحج) وعید الفطر میں کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے؟

**ارشاد:** ان ایام میں روزہ حرام ہے کھانا ضروری نہیں۔ روزہ ایک ماہ کا فرض ہے اور کھانا کسی روز کا فرض نہیں۔<sup>۳</sup>

## روزہ کے لئے افطار ضروری نہیں

**عرض:** روزہ کے لیے تو افطار ”رکن“ ہے بغیر افطار کے روزہ نہیں ہو سکتا؟

۱: ”عَلَىٰ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَمَا سَبَقَ“ ۱۲ مؤلف غفرلہ

۲: روزہ رکھ کر افطار نہ کرنا اور دوسرے دن پھر روزہ رکھنا۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۵، ص ۹۶۶)

۳: یعنی علی التبعین ۱۲ مؤلف غفرلہ

**ارشاد:** روزے کے لیے افطار ”رکن“ کیا معنی! ضروری بھی نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ اگرچہ کبھی افطار نہ کرے۔

ثُمَّ اتَّبِعُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: پھر رات آنے

تک روزے پورے کرو۔ (پ ۲، البقرہ: ۱۸۷)

رات آئی اور روزہ پورا ہو گیا۔ بخلاف نماز کے کہ اس میں خروج بَصُوعِہِ ایک فعل ضروری ہے۔ نماز ہے فعل اس کے لیے ایک فعل ایسا کرنا ضروری ہے جس سے معلوم ہو کہ نماز ختم ہوگئی اور روزہ ہے ترک (یعنی چھوڑنا) یا کف (یعنی رکنا) باختلاف قولین اور کف فعل ہے قلب کا۔ نماز صرف نیت سے بغیر افعال جوارح (یعنی ظاہری اعضا) کے ادا نہیں ہو سکتی اور روزہ میں کوئی فعل نہیں صرف نیت ہے کسی فعل کی ضرورت نہیں۔ قلب نے جیسے سمجھا تھا کہ میرا روزہ ہے اب سمجھ لے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا۔ بس اب افطار کرے یا نہیں روزہ ختم ہو گیا۔

## افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے

{ پھر فرمایا {مسئلہ ہے کہ ”تاخیر افطار مکروہ ہے، مگر کسی کے پاس اگر کھانے کو نہ ہو تو کیا کھائے؟ افطار ان کے واسطے رکھا گیا ہے جو بشریت میں پھنسے ہوئے ہیں، قوتِ مملکیہ (یعنی فرشتوں جیسی طاقت) ان میں نہیں اور خضر والیاس علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اعلیٰ درجے کی ملکوتی قوت حاصل ہے۔

## اولیاء اللہ کی پہچان

**عرض:** اولیائے الہی کی کیا پہچان ہے؟

**ارشاد:** حدیث میں ارشاد فرمایا:

أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ

اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے۔

(کنز العمال، کتاب الاذکار، الحدیث ۱۷۷۹، ج ۱، ص ۲۱۴)

۱: جو منصف کبھی آستانہ قدسیہ حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضر ہو کر زیارت سے مشرف ہوا، اُسے بے شک ضرور خدا یاد آیا۔ ۱۲ فقیر عبید الرضا غفرلہ

## دائرہ دنیا کہاں تک ہے؟

**عرض:** دائرہ دنیا کہاں تک ہے؟

**ارشاد:** ساتوں آسمان ساتوں زمین دنیا ہے اور ان سے ورا (یعنی ان کے علاوہ) سدرۃ المنتہیٰ، عرش و کرسی، دارِ آخرت ہے۔

## مَفَاتِيحُ وَ مَقَالِيدُ مِیْنِ فَرَقِ

{ پھر فرمایا { دارِ دنیا شہادت ہے اور دارِ آخرت غیب، غیب کی کنجیوں کو ”مَفَاتِيحُ“ اور شہادت کی کنجیوں کو ”مَقَالِيدُ“

کہتے ہیں۔

قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے:

اللّٰهُ (عَزَّوَجَلَّ) ہٰی کے پاس ہیں غیب کی مَفَاتِيحُ

وَعِنْدَآ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط

{ کنجیاں { ان کو خدا کے سوا کوئی (بذات خود) نہیں جانتا۔

(پ ۷، الانعام: ۵۹)

اور دوسری جگہ فرماتا ہے:

خدا ہی کے لیے ہیں مَقَالِيدُ { کنجیاں { آسمان و

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

زمین کی۔

(پ ۲۴، الزمر: ۶۳)

## مَفَاتِيحُ اور مَقَالِيدُ سے نام اقدس کا استخراج

اور مَفَاتِيحُ کا حرف اول (م) و حرف آخر (ح) اور مَقَالِيدُ کا حرف اول (م) و حرف آخر (د) انہیں مرکب کرنے سے

نام اقدس ظاہر ہوتا ہے ”محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ اس سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ غیب و شہادت کی کنجیاں سب دے دی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ کوئی شے ان کے حکم سے باہر نہیں۔

دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں

کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہ ہاں نہیں

اور یا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے مَفَاتِيحُ و مَقَالِيدُ غیب و شہادت سب حجرہ خفا یا عدم میں مُقَفَّل (یعنی بند) تھیں وہ مَفَاتِيحُ

ومقلاد (یعنی چابی) جس سے ان کا قفل (یعنی تالا) کھولا گیا اور میدانِ ظہور میں لایا گیا وہ ذاتِ اقدس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اگر یہ تشریف نہ لاتے تو سب اسی طرح مُقفل حجرہٴ عدم یا خفا میں رہتے۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

## عرش و کرسی کی وسعت و حقیقت

**عرض:** حضور والا کرسی کی کیا صورت ہے؟

**ارشاد:** کرسی کی صورت اہل شرع و حدیث نے کچھ ارشاد نہ فرمائی۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ آٹھواں آسمان ہے۔ ساتوں آسمانوں کو محیط (یعنی گھیرے ہوئے) ہے۔ تمام کواکب ثابتہ (یعنی اُسی میں ہیں، مگر شرع نے یہ نہ فرمایا۔

اسی طرح عرش کو جہلائے فلاسفہ کہتے ہیں کہ نواں آسمان ہے اور اس کو ”فلکِ اطلس“ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کواکب (یعنی بڑا تارا) نہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام آسمان و زمین کو محیط (یعنی گھیرے ہوئے) ہے اور اس میں پائے ہیں یا قوت کے۔ اس وقت تو چار فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں اور قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔ اور یہ تو قرآنِ عظیم سے ثابت ہے۔

وَيَحِطُّ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ  
اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو

يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِينَ ﴿١٧﴾ (پ ۲۹، الحاقہ: ۱۷)  
اپنے اوپر اس دن آٹھ { فرشتے }

ان فرشتوں کے پاؤں سے زانوؤں تک پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہے ”آيَةُ الْكُرْسِيِّ“ کو اسی وجہ سے آيَةُ الْكُرْسِيِّ کہتے ہیں کہ اس میں ”کرسی“ کا ذکر ہے:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
اس کی کرسی آسمان و زمین کی وسعت رکھتی

ہے۔ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۵)

## آسمان کی وسعت کا بیان

{ پھر فرمایا { آسمان ہی کی وسعت خیال میں نہیں آتی۔ بیچ کا آسمان جس میں آفتاب ہے اس کا نصف ۴ مرنو کروڑ  
تیس لاکھ میل ہے اور پانچواں اس سے بڑا۔ پانچویں کا ایک چھوٹا پرزہ جسے ”تند ویر“ کہتے ہیں وہ آفتاب کے آسمان سے بھی  
بڑا ہے۔ پھر یہی نسبت پانچویں کو چھٹے کے ساتھ ہے اور اس کو ساتویں کے ساتھ۔

اور صحیح حدیث میں آیا کہ ”یہ سب کرسی کے سامنے ایسا ہے کہ ایک لُق و دَق (یعنی چٹیل) میدان میں جس کا کنارہ نظر  
نہیں آتا ایک چھلا پڑا ہو۔

مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ  
السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ  
مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ فُلَاةٍ  
اور یہ سب زمین و آسمان کرسی کے آگے  
ایسے ہیں کہ ایک لُق و دَق میدان میں  
ایک چھلا پڑا ہو۔

(تفسیر در المنثور، البقرة، تحت الاية ۲۵۵، ج ۲، ص ۱۸)

## قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت

اور ان سب عرش و کرسی و زمین و آسمان کی وسعت ایسی ہی ہے عظمتِ قلبِ مبارک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے  
سامنے اور قلبِ مبارک کی عظمت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی عظمتِ ربِّ العزت جل جلالہ سے، یہ غیر متناہی اور متناہی  
کو غیر متناہی سے نسبت محال۔<sup>۱</sup>

۱: افتراءت و ہابیہ (یعنی وہابیہ کی غلط باتوں) پر خدا کی لعنت ہو یہ تو حید تو کبھی ان کے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوگی ذرا دکھائیں تو کہ اس تفصیل  
کے ساتھ کسی نے توحید کو بیان کیا ہو مگر:

گر نہ بیند بروز شپہرہ چشم ، چشمہ آفتاب را چہ گناہ  
(اندھے کو دن میں نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا تصور۔ ت)

کے موافق ناواقفوں کے سامنے مگر کرتے ہیں کہ بندگان اعلیٰ حضرت (یعنی اہلسنت) تو علم خدا و رسول مساوی مانتے ہیں، ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الْكَافِرِينَ“ فقیر عبد الرضا غفرلہ

## اولیائے کرام کی شان

{پھر فرمایا} اولیائے کرام فرماتے ہیں:

مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ  
سیدی شریف عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں  
السَّبْعُ فِي نَظَرِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ إِلَّا  
ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی  
كَحَلَقَةِ مُلَقَاةٍ فِي فَلَاةٍ مِنْ  
وُسْعَتِ نَگاہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لُق و دِق  
الْأَرْضِ  
میدان میں ایک چھلا پڑا ہو

(الابریز، فی ذکر شیخ التریبہ، ج ۲، ص ۱۳۵، ۱۳۶)

اللہ اکبر جب غلاموں کی یہ شان ہے تو عظمت شان اقدس کو کون خیال کر سکے۔

## صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان

**عرض:** صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو بھی کشف ہوتا تھا؟

**ارشاد:** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے غلاموں اور اولیائے کرام کے پیش نظر عرش سے تَحْتِ النَّوْءِ تک ہوتا ہے۔ پھر صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی شان کا کیا پوچھنا۔

## صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کشف

حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دریافت فرمایا ”كَيْفَ أَصْبَحْتَ“ تم نے کیوں صبح کی؟ عرض کی ”أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا“ میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں سچا مومن تھا۔ ارشاد فرمایا: ”ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے جس سے اس دعوے کی سچائی ثابت ہوتی ہے تمہارے دعوے کی کیا دلیل ہے؟“ عرض کی: ”میں نے صبح کی اس حال میں کہ عرش سے ”تَحْتِ النَّوْءِ“ تک تمام موجودات عالم میری پیش نظر ہے، جنتوں کو جنت میں عیش کرتے دیکھ رہا ہوں اور جہنموں کو جہنم میں چیختے چلاتے عذاب پاتے دیکھ رہا ہوں“۔ ارشاد فرمایا: ”تم پہنچ گئے ہو اطمینان رکھو۔“

(المصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والروایا، باب ۶، الحدیث ۷۲، ۷۴، ج ۷، ص ۲۲۶) (المعجم الکبیر، الحدیث ۳۳۶۷، ج ۳، ص ۲۶۶)

## اولیائے کرام کی نظر میں ماضی و مستقبل دونوں ہوتے ہیں

{ پھر فرمایا { ماضی تو ماضی مستقبل بھی ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) فرماتے ہیں:

”کوئی پتا سبز نہیں ہوتا مگر عارف کی نگاہ میں۔“

## زمانہ کا وجود وہمی ہے یا حقیقی

**عرض:** حضور جو اشیاء تک وجود میں نہ آئیں ان کا وجود سوا زمانے کے (یعنی زمانے کے علاوہ) اور کسی چیز میں تو ہے نہیں اور زمانے ہی میں وہ حضرات ملاحظہ فرماتے ہیں، تو زمانہ کا وجود ثابت ہو گیا۔

**ارشاد:** زمانہ کو پہلے موجود مان لو گے جب تو اشیاء کا ظرف اسے مانو گے اور وہ ہے موہوم (یعنی فرضی) اس کا وجود ہی نہیں، وجود اشیاء کا ظرف کیا ہے جو صورتیں ان اشیاء کی ہوں گی وہی پیش نظر ہوتی ہیں۔

**عرض:** جس وقت پیش نظر ہیں اس وقت ان اشیاء کا وجود نہیں تو ان کی صُور کہاں سے آئیں گی؟ لامحالہ (یعنی لازماً) ماننا پڑے گا کہ اپنے وقت موجود میں ان کی صورتیں موجود ہیں وہی پیش نظر ہوتی ہیں۔

**ارشاد:** وقت کس چیز کا نام ہے وقت ہے ہی نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمانے اور جہت (یعنی سمت) میں گھیر دیا کسی چیز کو بغیر زمانے کے نہیں سمجھ سکتے۔

ربُّ العزّت زمانے سے پاک ہے مگر بولتے ہیں وہ ازل میں بھی ایسا ہی تھا جیسا اب ہے اور ابد تک ایسا ہی رہے گا۔ ”تھا“ اور ہے اور ”رہے گا“ یہ سب زمانے پر دلالت کرتے ہیں اور وہ زمانے سے پاک۔ حوادث جو ہیں فی الحقیقتہ وہ بھی زمانے سے جدا ہیں مگر ان کا زمانہ سے جدا ہونا عقل بتائے گی اور کسی ذریعہ سے نہ معلوم ہوگا۔

## محکم و متشابہ میں فرق کا بیان

**عرض:** مُشَبَّہ کہتے ہیں:

ترجمہ کنز الایمان: ان کے ہاتھوں پر اللہ کا

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

ہاتھ ہے

(ب ۲۶، الفتح: ۱۰)



یہ اور اس کے سوا جو آیات تشبیہ<sup>۱</sup> پر دلالت کرتی ہیں محکم<sup>۲</sup> ہیں اور

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

ترجمہ کنز الایمان: اس جیسا

کوئی نہیں۔

(پ ۲۵، الشوری: ۱۱)

وغیرہ آیات تشریحیہ، مُتَشَابِه اسی طرح وہابیہ کہہ دیں کہ

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ کنز الایمان: غیب نہیں جانتے جو کوئی

الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ

(پ ۲۰، النمل: ۶۵)

محکم اور آیاتِ مُثَبِّتِہٖ عَلَمِ غَيْبِ (یعنی علم غیب ثابت کرنے والی آیات) متشابہ۔

قدریہ<sup>۳</sup> کہتے ہیں:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا

ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

يُظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾

(پ ۱۴، النحل: ۱۱۸)

محکم اور

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

ترجمہ کنز الایمان: اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ

اللہ چاہے۔

(پ ۲۹، الدھر: ۳۰)

متشابہ۔ اور جبریہ<sup>۴</sup> اس کا عکس کہتے ہیں (یعنی جس آیت کو قدریہ محکم کہتے ہیں اسے جبریہ متشابہ اور جسے قدریہ متشابہ کہتے ہیں اسے جبریہ محکم

مانتے ہیں) اس کا معیار کیا ہے جس سے محکم اور متشابہ کا امتیاز ہو جائے؟

۱: وہ آیات جن کی مراد عقل میں نہ آسکے اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تعالیٰ بیان فرمائے۔

۲: جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں اور وہی کلام سے مقصود ہوں، اس میں تاویل تخصیص کی گنجائش نہ ہو اور نخ یا تبدیل کا احتمال نہ ہو (تفسیر نعیمی

ج ۳ ص ۲۵)

۳: ایک فرقہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اور ان کے نزدیک بندہ اپنے افعال اختیار یہ کا خود خالق ہے۔

۴: وہ فرقہ جو اپنے آپ کو مجبور محض سمجھتا ہے کہ جیسا لکھ دیا گیا ویسا ہی انسان کرنے پر مجبور ہے۔

**ارشاد:** جس آیت کو اس کے ظاہر معنی پر حمل کرنے (یعنی ظاہری معنی مراد لینے) سے کوئی عقلی استحالہ (یعنی اس کا عقلاً محال ہونا) لازم آتا ہو وہ ”متشابہ“ ہے۔

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ<sup>ج</sup> (پ ۲۶، الفتح: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے

کے معنی ظاہر اگر لیں تو اس کا ہاتھ مانا اور جب ہاتھ ہو تو جسم بھی ہو اور ہر جسم مرکب اور مرکب اپنے وجود میں اپنے ان اجزا کا محتاج ہے جن سے وہ مرکب ہے، جب تک وہ موجود نہ ہو لیں یہ موجود نہیں ہو سکتا تو خدا کا محتاج ہونا لازم آیا، اور ہر محتاج حادث اور کوئی حادث قدیم نہیں اور جو قدیم نہ ہو خدا نہیں ہو سکتا تو سرے سے اُلُوہیت ہی کا انکار ہو گیا، اس لیے ثابت ہوا کہ ”يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ محکم نہیں متشابہ ہے اور

ترجمہ کنز الایمان: اس جیسا

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ<sup>ج</sup>

کوئی نہیں۔

(پ ۲۵، الشوری: ۱۱)

محکم ہے۔ اسی طرح

ترجمہ کنز الایمان: غیب نہیں جانتے جو

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ

الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ<sup>ط</sup> (پ ۲۰، النمل: ۶۵)

کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ ”کسی طرح کا علم غیب کسی کو نہیں سواربَّ عَزَّوَجَلَّ کے۔ حالانکہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے صد ہا علوم غیب جنت و نار و ملائکہ و جن، حساب، ثواب، عذاب، عقاب، میزان، صراط، اعراف کے متعلق بیان فرمائے ہیں تو مَعَاذَ اللَّهِ کذب الہی لازم آیا تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے عموم ظاہر پر نہیں بلکہ آیات مُثَبِّتِہ (یعنی علم غیب ثابت کرنے والی آیت) نے ”علم عطائی“<sup>۱</sup> کی تخصیص کر دی ہے اور جب اس آیت میں بالعطا وبالذات (یعنی عطائی اور ذاتی) دونوں کو عام ٹھہرا لیا تو معنی یہ ہو جائیں گے کہ ”ذاتی علم غیب“<sup>۲</sup> بھی سوا خدا کے کسی کو نہیں اور عطائی علم غیب بھی کسی کو سوا خدا کے

۱: وہ علم جو اللہ عز و جل کی عطا سے حاصل ہوا (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۲۹، ص ۵۰۳)

۲: وہ علم کہ اپنی ذات سے بغیر کسی کی عطا کے ہو اور یہ صرف اللہ عز و جل ہی کے ساتھ خاص ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۹، ص ۵۰۳)

نہیں، مَعَاذَ اللّٰہ کیسا بڑا استحالہ (یعنی تضاد) لازم آیا کہ خدا کو کسی دوسرے نے علم عطا کیا تو جاہل ہو اور جاہل نقصان ہے اور جس میں نقصان ہو خدا نہیں ہو سکتا تو الوہیت سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہوا، تو یہ اپنے عموم ظاہری پر محکم نہیں ہو سکتی۔ ہاں اپنے معنی میں ضرور محکم ہے۔ اسی طرح

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ  
يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾ (پ ۱۴، النحل: ۱۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا  
ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

کو اگر اس کے ظاہر پر رکھو تو یہ معنی ہوں گے کہ ”بندے خود ان افعال کا خالق کرتے ہوں“ تو قرآن عظیم میں جو سوال فرمایا گیا ہے۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ (پ ۲۲، فاطر: ۳)

کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے۔

ہر عاقل کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہوگا اور اس کا جواب مَعَاذَ اللّٰهِ (عَزَّوَجَلَّ) اثبات میں ہوگا کہ ہاں ہزاروں سے زائد خالق خدا کے سوا موجود ہیں جو اپنے افعال کے خود خالق ہیں مَعَاذَ اللّٰهِ (عَزَّوَجَلَّ) تو ظاہر ہوا کہ یہ بھی محکم نہیں۔ بس یہ محکم ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ  
کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ (پ ۱۷، الانبیاء: ۲۳)

وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ

ترجمہ کنز الایمان: اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ  
اللہ چاہے۔ (پ ۲۹، الدھر: ۳۰)

بندے کچھ ارادہ بھی نہیں کر سکتے جب تک مشیت الہی (یعنی ارادہ الہی) نہ ہو، پھر بھی خدا (عَزَّوَجَلَّ) جو چاہے کرے۔ کوئی اس سے یہ سوال کرنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا وہ فاعل مختار ہے:

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ عَزَّوَجَلَّ ﴿۴۰﴾ (پ ۳، ال عمران: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کرتا جو چاہے

يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿۱﴾ (پ ۶، المائدہ: ۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے



کہ ”خدا (عَزَّوَجَلَّ) دیکھتا سنتا ہے۔ یہ کچھ اور صفات ہیں جن کو دیکھنے سننے سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ ”گمراہی“ ہے۔

اصل صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“، یہ ”تشریح“ ہوئی کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں اور

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۵۱﴾ تشبیہ ہوئی اور جب سننے دیکھنے کو بیان کیا کہ اس کا دیکھنا آنکھ کا، سننا کان کا محتاج نہیں وہ بے

آلات کے سنتا ہے، یہ نفی تشبیہ ہے کہ بندوں سے جو وہم مشابہت ہوتا اس کو مٹا دیا تو ما حاصل وہی نکلا ”تشریح مع تشبیہ بلا تشبیہ“

{پھر فرمایا} تشریح مع تشبیہ بلا تشبیہ سے تو قرآن عظیم پُر ہے، علم و کلام یقیناً اسی کی صفات ہیں، یہ تشبیہ ہوئی مگر اس کا

علم دل و دماغ و عقل کا اور کلام زبان کا محتاج نہیں۔ یہ نفی تشبیہ اور وہی ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ ہر ایک کے ساتھ مل کر پھر

وہی حاصل ہوا ”تشریح مع تشبیہ بلا تشبیہ“۔

## مَلَاعَنَهُ وَمَلَاَحَدَهُ كَارِدًا

حیات اس کی صفت ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ زندہ ہے تو اس میں اسی طرح روح ہے، ہماری ہی طرح اس کی

رگ و پے میں خون دوڑتا پھرتا ہے جیسا ”مَلَاعَنَهُ“ کہتے ہیں تو یہ کفر ہے اور اگر اس سے انکار کر دیا جائے جیسے ”مَلَاَحَدَهُ

باطنیہ“ بکا کرتے کہ وہ ”حَيٌّ لَا حَيٌّ نُّورٌ وَلَا نُورٌ“ ہے تو یہ کھلی ضلالت ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ حَيٌّ ہے خود زندہ ہے اور تمام

عالم کی حیات اس سے وابستہ ہے مگر نہ روح سے کہ روح خود اس کی مخلوق ہے، نہ وہ گوشت و پوست (یعنی جلد) و خون

اُسْتُخُوَان (یعنی ہڈی) سے مرکب ہے، نہ وہ جسم ہے جسم و جسمانیّت و زمان و جہت سے پاک ہے۔ یہ وہی ”تشریح مع تشبیہ بلا

تشبیہ“ ہے۔

## اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ زَمَانٌ وَجِهَةٌ سَيِّئَةٌ

{پھر فرمایا} اصل یہ ہے کہ الفاظ اس کے لیے وضع ہی نہیں کیے گئے، الفاظ تو مخلوق نے مخلوق کے لیے بنائے ہیں

خدا کو ”عَالِمٌ، قَادِرٌ، مُحْيٍ، مُمِيتٌ، رَازِقٌ، مُتَكَلِّمٌ، مُؤْمِنٌ، مُهَيِّمٌ، خَالِقٌ، بَارِئٌ، مُصَوِّرٌ“ وغیرہا صفات سے موصوف

کرتے ہیں اور یہ سب ہیں اسم فاعل اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے حدوث اور زمانہ حال یا زمانہ مستقبل پر اور وہ حدوث و

زمانہ سے پاک ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ

ترجمہ کنز الایمان: اور باقی

ہے تمہارے رب کی ذات۔ (پ ۲۷، الرحمن: ۲۷)

اور اس کے سوا صدہا صیغے قرآن پاک نے فرمائے ہیں جو ماضی یا حال یا مستقبل سے خالی نہیں اور وہ زمانوں سے منزہ۔ اور قرآن میں برابر آتا ہے ”بِاللَّهِ، لِلَّهِ، عَلَى اللَّهِ، فِي اللَّهِ، مِنْ اللَّهِ“ اور ”ب“ آتی ہے الصاق (یعنی ملانے) کے لیے اور اللہ (عَزَّوَجَلَّ) اس سے پاک ہے کہ کوئی شے اس سے مُلتَصِق ہو سکے (یعنی مل سکے)۔ لام آتا ہے نفع کے لیے اور وہ اس سے پاک ہے کہ کسی شے سے اس کو نفع پہنچ سکے۔ علی آتا ہے ”ضرر یا استعلاء“ (یعنی نقصان یا بلندی) کے لیے اور وہ اس سے برتر ہے کہ کسی شے سے اس کو ضرر پہنچ سکے۔ وہ اس سے مُتَعَالی ہے کہ کوئی اس سے بلند ہو سکے۔ فی آتا ہے ”ظرفیت“ کے لیے اور وہ اس سے پاک ہے کہ کسی شے کا ظرف بن سکے۔ من آتا ہے ”ابتداء غایت“ کیلئے اور وہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا ابتدائی کنارہ یا احد ابتدائی بن سکے۔ الی آتا ہے ”انتہائے غایت“ کے لیے اور اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا انتہائی کنارہ بن سکے۔ فی الحقیقت یہ سب افعال و اسماء و حروف اپنے معانی حقیقیہ سے معدول (اپنے حقیقی معنی کی بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے) ہیں۔

{ پھر فرمایا } یہ سب وہی تزییح تشبیہ بلا تشبیہ ہے۔

## حرمت تصاویر کی وضاحت اور اعلیٰ حضرت کی کرامت

**مؤلف:** مولوی حشمت علی صاحب قادری رضوی لکھنوی سئمہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن عظیم میں ہے:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ

ترجمہ کنز الایمان: اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا

وَتَمَاثِيلَ (پ ۲۲، سبا: ۱۳)

اونچے اونچے محل اور تصویریں۔

وَتَمَاثِيلَ

یعنی سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جن ان کی حسبِ منشا محرابیں اور تصویریں بناتے تھے اور یہ ثابت ہے کہ اگلی شریعتوں کو جب ربَّ عَزَّوَجَلَّ بغیر انکار کے بیان فرمائے (یعنی اگلی شریعتوں کے وہ احکام جن سے منع نہ کیا ہو) تو وہ احکام ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں اور تصویروں پر قرآن عظیم نے انکار نہ فرمایا، اور جن احادیث سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ سب

احاد (یعنی خبر واحد، حدیث کی ایک قسم کا نام ہے) ہیں تو قرآن عظیم کو منسوخ نہیں کر سکتیں۔ یہ شبہ دل میں لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضور والا حرمت تصاویر متواتر ہے؟

**ارشاد:** ہاں حرمت تصاویر ”متواتر“ ہے، مگر وہ احادیث جن سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ سب فرداً فرداً ”احاد“ ہیں مگر مجموعہ سے حرمت متواتر ہو جاتی ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرمت تصاویر کی حدیث ”متواتر المعنی“ ہے اور حدیث ”متواتر المعنی“، قرآن عظیم کو ”منسوخ“ کر سکتی ہے جیسے ایسی احادیث نے

يَعْبُدُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ عَمِّنْ مَّحَارِبٍ  
وَتَمَاثِيلٍ

ترجمہ کنز الایمان: اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا  
اوپنے اونچے محل اور تصویریں۔ (پ ۲۲، سب: ۱۳)

کو منسوخ کر دیا۔

## لفظ ”اللہ“ مفرد ہے یا مرکب

**عرض:** اللہ کا لفظ مرکب ہے یا مفرد؟

**ارشاد:** مشہور یہ ہے کہ ال تعریف اور اللہ سے مرکب ہے، ہمزہ کی حرکت لام کو دے کر اس کو حذف کر دیا اور لام کو لام میں ادغام کر دیا (یعنی ملا دیا) لفظ اللہ ہو گیا، مگر مجھے دوسرا قول پسند ہے کہ لفظ اللہ مرکب نہیں بلکہ بہیئت کذا سیہ (اسی صورت پر) علم ہے ذات باری کا کہ جس طرح اس کی ذات ”غیر مرکب“ ہے اسی طرح اس کا نام بھی غیر مرکب ہونا چاہیے۔ اور ان کا مؤید (اس پر دلیل) اس کا طرز استعمال بھی ہے کہ وقت نہ اس کا الف نہیں گرتا ”یا اللہ“ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمزہ اور الف گر کر یا لام میں مل جائے، اگر لام تعریف ہوتا تو ضرور ایسا ہوتا کہ اس کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے۔ اور منادی بیا معرف باللام کے پہلے ائھا زیادہ کرتے ہیں یہاں حرام ہے، اور اگر معنی کا تصور کر کے ہو تو کفر ہے۔ ائھا کے معنی ہوتے ہیں ایک مبہم ذات جس کا بیان آگے ہے، وہاں ابہام کیسا وہ تو اعرف المعارف (یعنی سب سے زیادہ جانا پہچانا) ہے۔ ہر شے کو تعین تو وہیں سے عطا ہوتی ہے۔

۱: یہ حضرت کی کرامت کہیے تو بجا ہے اور یہ اسی بار نہیں اکثر ایسا ہوا ہے کہ شبہ بیان نہیں ہوا اور جواب فرما دیا۔ ۱۲ مؤلف

۲: علم نحو کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔

## ماہتابِ نبوتِ تمام مخلوقات کو روشن کرتا ہے

{ پھر فرمایا { وہ تو اس قدر ظاہر ہے کہ اس کا بے غایت ظہور وہی سبب ہو گیا اس کی بے نہایت بطون کا۔ قاعدہ ہے کہ ”شے جب تک ایک حدِ معتد (یعنی مخصوص مقدار) تک ظاہر رہتی ہے مَرئی (یعنی نظر آتی) ہے اور جب اُس حد سے گزرتی ہے نظر نہیں آتی۔“ آفتاب طلوع ہونے کے بعد کچھ بخارات سحابات (بادلوں) وغیرہ میں ہوتا ہے۔ پوری طرح نظر آتا ہے، خوب اچھی طرح اس پر نگاہ جم سکتی ہے اور جتنا بلند ہوتا جاتا ہے نگاہ میں خیرِ گی (یعنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجانے کی کیفیت) آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بالکل نصف النہار پر آ جاتا ہے نگاہ کی مجال نہیں کہ اس پر جم سکے، مگر پھر بھی اس کا ظہور ایک حد ہی تک ہے۔ اس لیے اگرچہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے پھر بھی اس کی روشنی سے مُستفید ہو سکتے ہیں، چودھویں شب کو جب آفتاب ہم سے بالکل پوشیدہ ہو جاتا ہے کسی کی طاقت نہیں کہ آفتاب سے روشنی لے سکے اس وقت ماہتاب (یعنی چاند) آفتاب اور اہل زمین کے درمیان مُتوسّط ہو کر آفتاب سے نور لیتا ہے اور اہل زمین کو نور پہنچاتا ہے۔ جو چاہے کہ اس ماہتاب سے نور نہ لوں گا بلکہ آفتاب ہی سے لوں گا ہرگز نہیں لے سکتا۔

بلاشبہ ذاتِ باری تعالیٰ بے حد ظاہر تھی اور اسی سبب سے بے حد باطن (چھپی ہوئی) تھی۔ تمام موجودات میں اس سے مُستفید ہونے کی استعداد بھی نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماہتابِ نبوت بنایا کہ آفتابِ الوہیت سے منور ہو کر تمام مخلوقات کو منور کر دے۔

عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض

یوں چمکتے ہیں چمکنے والے

جو چاہے کہ بغیر وسیلے اس ماہتابِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ حاصل کر لوں وہ خدا کے گھر میں نقب لگانا چاہتا ہے، بغیر اس توسل کے کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں مل سکتی، کون ہے جس سے تمام عالم منور و موجود ہے، وہ نہ ہو تو تمام عالم پر تاریکیِ عدم (یعنی نہ ختم ہونے والی تاریکی) چھا جائے، وہ قمر بُرج رسالت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔



## اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانٹتے ہیں

علمائے کرام فرماتے ہیں:

هُوَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِزَانَةَ  
السِّرِّ وَمَوْضِعَ نَفُوذِ الْأَمْرِ جَعَلَ  
حِزَائِنَ كَرَمِهِ وَمَوَائِدَ نِعْمِهِ طَوَّعَ  
يَدِيَهُ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ  
يَشَاءُ لَا يَنْفُذُ أَمْرًا إِلَّا مِنْهُ وَلَا  
يُنْقَلُ خَيْرٌ إِلَّا عَنْهُ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانہ سرائی اور جائے نفاذ  
حکم خدا ہیں۔ رب العزّة جل جلالہ نے اپنے کرم کے  
خزانے اپنی نعمتوں کے خزان حضور کے قبضہ میں کر دیئے  
جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں کوئی حکم نافذ نہیں  
ہوتا مگر حضور کے دربار سے کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی  
نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(ماخوذ از المواهب اللدنیة، ج ۱، ص ۲۷ والجوهر المنظم ص ۴۳)

یہی معنی ہیں ”إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“ (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ..... الخ، الحدیث ۷۱، ج ۱، ص ۴۳)  
”جزائیں نیست“ (اس کے سوا کچھ نہیں۔ ت) کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔

وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا  
وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے

### سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان

**عرض:** یہ حدیث ہے ”لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوبِيَّةَ“؟ (اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ  
کرتا۔ ت)

**ارشاد:** میں نے حدیث میں نہیں دیکھا، ہاں صوفیہ کی کتاب میں آیا ہے ”لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ رَبُّوبِيَّةً“ (ملخصاً، مکتوبات  
امام ربانی، ج ۲، مکتوب ۱۲۴، ص ۱۴۶) بالاین ہمہ معنی (یعنی اس معنی میں۔ ت) صحیح اور صحیح حدیث کے موافق ہیں۔ صحیح حدیث  
میں ہے:

لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا  
 اے میرے حبیب میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے  
 لِأَعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ  
 پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے یہاں ہے میں  
 عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا  
 ان کو پہنچا دوں اور اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو  
 میں دنیا کو نہ پیدا کرتا۔

(المواهب اللدنیة، ج ۱، ص ۴۴)

یعنی اور نہ آخرت کو کہ دنیا دارا العمل اور آخرت دارا الجزاء ہے۔ جب دار العمل نہ ہوتا دارا الجزاء کہاں سے آتا؟ یہ تو اُس پر  
 مُتَّفَرِّعٌ (یعنی موقوف) ہے، تو جب نہ دنیا ہوتی نہ آخرت تو خدا کا خدا ہونا کس پر ظاہر ہوتا۔ یہی معنی ہیں اس کے کہ اے میرے  
 حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا خدا ہونا اپنی الوہیت نہ ظاہر کرتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## موت و حیات وجودی ہیں

**عرض:** موت و وجودی ہے یا عدمی؟

**ارشاد:** موت اور حیات دونوں وجودی ہیں۔ قرآن عظیم فرماتا ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنْتُمْ  
 اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں  
 اَحْسَنُ عَمَلًا ط (پ ۲۹، الملک: ۲)  
 کون اچھے عمل کرتا ہے۔

## موت و حیات کی شکل

موت ایک مینڈھے کی شکل پر ہے عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبضے میں، جس کے پاس سے وہ ہو کر نکلتی ہے وہ  
 مرجاتا ہے۔ اور حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سواری میں، جس بے جان کے پاس سے ہو کر نکلتی  
 ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر، الملک، تحت الاية ۲، ج ۱۰، ص ۵۷۹)

## ہر ایک کو موت آئے گی!

{پھر فرمایا} اللہ اکبر یہ موت ایسی چیز ہے کہ سوا ذات باری عز جلالہ کے کوئی اس سے نہ بچے گا۔ جب آیت نازل

ہوئی:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ  
رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

جتنے زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اور  
باقی رہے گا وجہ کریم رب العزۃ جل جلالہ کا۔

(پ ۲۷، الرحمن: ۲۶، ۲۷)

فرشتے بولے ”ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں۔“ پھر آیت نازل ہوئی:

كُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ الْمَوْتِ ط

ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔

(پ ۴، ال عمران: ۱۸۵)

فرشتوں نے کہا: اب ہم بھی گئے۔ جب آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے اور صرف ملائکہ مقررین میں جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور چار فرشتے حملہ عرش (یعنی عرش کے اٹھانے والے) رہ جائیں گے۔ ارشاد فرمائے گا اور وہ خوب جاننے والا ہے ”عزرائیل! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے کہ ”باقی ہیں تیرے بندے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور چار فرشتے عرش کے اٹھانے والے اور یہ بھی فنا ہو جائیں گے اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمائے گا: جبریل کی روح قبض کر۔ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح قبض کریں گے، وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدہ میں رب العزت کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر فرمائے گا: عزرائیل! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے: باقی ہیں تیرے بندے میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور عرش کے اٹھانے والے اور یہ بھی فنا ہوں گے اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ کبھی فنا نہ ہوگا۔ فرمائے گا: میکائیل کی روح قبض کر۔ میکائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند سجدہ میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا: عزرائیل! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے: باقی ہیں تیرے بندے اسرافیل، عزرائیل اور حملہ عرش اور یہ بھی فنا ہوں گی اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمائے گا: اسرافیل کی روح قبض کر۔ اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدہ میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ اور پھر فرمائے گا: عزرائیل! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے: باقی ہیں تیرے بندے حملہ عرش اور باقی ہے تیرا بندہ عزرائیل اور یہ

بھی فنا ہوں گے اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ فرمائے گا: حملہ عرش کی روح قبض کر۔ وہ سب بھی اسی طرح مرجائیں گے۔ پھر ارشاد فرمائے گا: عزرائیل! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے باقی ہے تیرا بندہ عزرائیل اور یہ بھی فنا ہوگا اور باقی ہے تیرا وجہ کریم اور کبھی فنا نہ ہوگا۔ ارشاد فرمائے گا ”مُتُّ“ مرجا! عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک عظیم پہاڑ کی مانند ربُّ العزت (عَزَّوَجَلَّ) کے حضور سجدہ میں تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے اور روح نکل جائے گی۔ اس وقت سواربُّ العزت جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا اس وقت ارشاد ہوگا:

لَسِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ ط  
آج کس کے لیے بادشاہت ہے۔

(پ ۲۴، المؤمن: ۱۶)

کوئی ہو تو جواب دے، خود ربُّ العزت جل جلالہ جواب فرمائے گا:

بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۱۱  
اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔

(پ ۲۴، المؤمن: ۱۶)

## قیامت قائم ہوگی

جب تک چاہے گا یہی حالت رہے گی، پھر جب چاہے گا اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زندہ فرمائے گا، وہ صور پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا، جنتی جنت میں اور ابدی دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور گنہگار مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے کہ منادی جنت و دوزخ کے درمیان جنت و دوزخ والوں کو ندا کرے گا۔ جہنمی نہایت خوشی سے جھانکنے لگیں گے کہ شاید نجات کے لیے ہم کو ندا دی گئی اور جنت والے نہایت خوف کے ساتھ جھجکتے ڈرتے عُرفاتِ جنت (یعنی جنتی بالا خانوں) سے جھانکیں گے کہ کہیں پھر ہم سے کوئی خطا ہوگئی ہے جس سے دوزخ میں بھیج دیئے جائیں۔

## موت کا مینڈھا

پھر موت کا مینڈھا لایا جائے گا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا ”تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے: ہاں! یہ ”موت“ ہے۔ پھر جہنمیوں کی طرف منہ کر کے پوچھا جائے گا ”تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے: ہاں! ہم پہچانتے ہیں

یہ موت ہے۔ پھر جنت و دوزخ کے درمیان یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح فرمائیں گے۔ پھر جنہیوں سے کہا جائے گا: اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو، کبھی مرنا نہیں۔ بالکل مایوس ہو کر پلٹیں گے، ایسا رنج ان کو کبھی نہ ہوا ہوگا۔ پھر جنتیوں سے کہا جائے گا: اب تم جنت میں ہمیشہ رہو اب کبھی مرنا نہیں۔ وہ نہایت خوش ہو کر پلٹیں گے۔ ایسی خوشی ان کو کبھی نہ ہوئی ہوگی۔

## شیطان مایوس ہو گیا

**عرض:** تراویح میں ختم کے روز ”الْمُقْلِحُونَ ۵“ تک پڑھنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** جائز اور درست ہے۔ حدیث میں ایسا کرنے کو ”حَال مُرْتَجِل“ فرمایا ہے یعنی منزل پر پہنچ کر کوچ کر دینے والا۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی القرائۃ، مطلب الاستماع للقرآن فرض کفایہ، ج ۲، ص ۳۳۰) (جامع ترمذی، کتاب القراءات ..... الخ،

ما جاء ان القرآن ..... الخ الحدیث ۲۹۵۷، ج ۴، ص ۴۳۷)

جب ایک پارہ پڑھ چکتا ہے شیطان کہتا ہے ”اب شاید رک جائے نہ پڑھے۔ جب دوسرا پارہ ختم کرتا ہے تو کہتا ہے ”اب شاید نہ پڑھے۔ اسی طرح ہر پارہ پر کہتا ہے، یہاں تک کہ جب تیسوں پارے ختم ہو جاتے ہیں کہتا ہے ”اب نہ پڑھے گا اب ختم کر چکا۔ پھر ”الْمُقْلِحُونَ ۵“ تک پڑھتا ہے۔ کہتا ہے ”یہ نہ مانے گا پڑھتا ہی رہے گا۔ مایوس ہو جاتا ہے، اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔

## ترتیب قرأت کا بیان

**عرض:** جن دو رکعتوں میں اول میں ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ التَّائِسِ ۱“ اور دوسری میں ”الْم ۱“، ”الْمُقْلِحُونَ ۵“ تک پڑھا جائے گا ان میں خلاف ترتیب (پڑھنا) لازم آئے گا؟

**ارشاد:** کیوں لازم آئے گا؟ اولیائے کرام نے ایک ایک رکعت میں دس دس ختم کیے ہیں، آخر ان میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ التَّائِسِ ۱ کے بعد ”الْم ۱“ پڑھا ہی ہوگا۔

## سورہ اخلاص کا تراویح میں تین بار پڑھنا کیسا؟

**عرض:** سورہ اخلاص کا تراویح میں تین بار پڑھنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** مستحسن ہے۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع، ج ۵، ص ۳۱۷)

## سورہ اخلاص کا ثواب

صحیح حدیث میں آیا کہ سورہ اخلاص مثلث قرآن ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل..... الخ، الحدیث ۵۰۱۳، ۵۰۱۰، ج ۳، ص ۴۰۶، ۴۰۷) تو تین بار پڑھنے میں پورے قرآن عظیم کا ثواب کے ملنے کی امید ہے۔

## سورہ کافرون کا ثواب

**عرض:** یہ بھی آیا کہ سورہ کافرون رُبْع قرآن (یعنی قرآن کے چوتھے حصے کے برابر) ہے تو اس کو اگر چار مرتبہ پڑھے؟

**ارشاد:** خیر مسلمانوں میں رانج یوں ہے اور سورہ اخلاص کا مثلث قرآن ہونا متواتر حدیث میں ہے اور سورہ کافرون کا رُبْع ہونا متواتر نہیں۔

**عرض:** بعض لوگ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ شریف تین بار پڑھتے ہیں اور ہر بار ”بِسْمِ اللّٰهِ“ باواز پڑھتے ہیں۔

**ارشاد:** ایک بار بآواز تسمیہ ہونا چاہیے خواہ کہیں ہو ”الْحَمْدُ“ کے اول (یعنی شروع میں) ہو یا سورہ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ کے اول ہو یا سورہ اخلاص شریف کے اول ہو اور باقی آہستہ ہو۔

## سبع مثنیٰ سے مراد

**عرض:** ”وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي“ سے کیا مراد ہے؟

**ارشاد:** سبع مثنیٰ کی تفسیر کی گئی ہے سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ۔ (تفسیر کبیر، الحجر، تحت الایۃ ۸۷، ج ۷، ص ۱۵۹)

## قبرستان میں باواز قرآن عظیم پڑھنا کیسا؟

**عرض:** قبرستان میں باواز قرآن عظیم پڑھنا کیسا ہے؟

**ارشاد:** ایسی آواز سے پڑھنا مستحسن ہے کہ اموات سنیں اور ان کا دل پہلے، نہ اتنی کر یہہ آواز سے کہ مردے کو بھی پریشان کرے۔

۱: ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو دو ہرائی جاتیں ہیں۔ (پ ۴، الحجر: ۸۷)

## وقتِ دن اذان کہنا کیسا؟

**عرض :** وقتِ دن اذان کیوں کہی جاتی ہے؟

**ارشاد :** دفعِ شیطان کے لیے۔ حدیث میں ہے اذان جب ہوتی ہے شیطان ۳۶ میل بھاگ جاتا ہے۔ الفاظ حدیث میں یہ ہیں کہ ”روحا“ تک بھاگتا ہے اور روحا مدینہ طیبہ سے ”۳۶“ میل دور ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل الاذان..... الخ، الحدیث ۳۸۸، ۳۸۹، ص ۲۰۴)

## موت کے وقت شیطان کا دخل

اور وہ وقت ہوتا ہے دخلِ شیطان کا، جس وقت منکر نکیر سوال کرتے ہیں ”مَنْ رَبُّكَ“ تیرا رب کون ہے؟ یہ لعین دور سے کھڑا اشارہ کرتا ہے اپنی طرف کہ ”مجھ کو کہہ دے۔“ جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، وسوسہ نہیں ہوتا۔ پھر سوال کرتے ہیں ”مَا دِينُكَ“ تیرا دین کیا ہے؟ اس کے بعد سوال کرتے ہیں ”مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ“ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھادیا جاتا ہے، شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی۔ اور چونکہ امتحان کا وقت ہے اس لیے ”هَذَا النَّبِيُّ“ نہ کہیں گے ”هَذَا الرَّجُلِ“ کہیں گے۔

## بروز قیامت زمین و آسمان بدل دیئے جائیں گے

**عرض :** یہ زمین قیامت کے روز دوسری زمین سے بدل دی جائے گی؟

**ارشاد :** ہاں۔ زمین و آسمان کا دوسرے زمین و آسمان سے بدلا جانا تو قرآنِ عظیم سے ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرْدًا وَإِلَيْهِ أُوجِدُ الْقَهَّارِ ﴿۳۱﴾

(پ ۱۳، ابراہیم: ۴۸) لوگ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) واحد تبار کے لیے۔

مگر آسمان کے لیے یہ نہیں معلوم کہ وہ آسمان کا ہے کا ہوگا، ہاں زمین کے بارہ میں صحیح حدیث آئی ہے جس میں ہے

! اس مسئلہ کی تفصیل جاننے کے لئے فتاویٰ رضویہ ج 5، ص 653 پر موجود رسالہ ”ایذان الاجر فی اذان القبر“ کا مطالعہ کیجئے۔

کہ ”آفتاب قیامت کے دن سو میل پر آجائے گا۔ صحابی جو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ”مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد مسافت ہے یا میلِ سرمہ (صحیح المسلم، کتاب الجنة..... الخ، باب الصفات..... الخ، الحدیث ۲۸۶۴، ص ۱۵۳۲)

{ پھر فرمایا { اگر میل مسافت ہی مراد ہے تو بھی کتنا فاصلہ ہے؟ آفتاب چار ہزار برس کے فاصلہ پر ہے اور پھر اس طرف کو پیٹھ کئے ہے، اُس روز کہ سو میل پر اور اس طرف کو منہ کیے ہوگا اُس روز کی گرمی کا کیا پوچھنا!

## جنت میں زمین چاندی کی کر دی جائے گی

{ پھر فرمایا { اور جنت میں چاندی کی زمین ہو جائے گی اور یہ زمین وسعت کیا رکھتی ہے! ان تمام انسانوں جانوروں کے لیے جو روزِ ازل سے روزِ آخر تک پیدا ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ”رحمن بڑھائے گا زمین کو جس طرح روٹی بڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت گروی شکل پر ہے اس لیے اس کی گولائی ادھر کی اشیاء کو حائل ہے اور اُس وقت ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اگر ایک دانہ خشکاش (یعنی چاول کے دانے کا آٹھواں حصہ) کا اس کنارہ پر پڑا ہو اُس کنارہ زمین سے دکھائی دے گا۔ حدیث میں ہے:

فَيُصِرُّهُمْ النَّاطِرُ وَيُسْمِعُهُمُ  
الدَّاعِيَ  
دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور سنانے  
والا ان سب کو سنانے گا۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ انا ارسلنا نوحا.... الخ، ذریعہ من حملنا..... الخ، الحدیث ۳۳۴۰، ج ۲، ص ۴۱۵)

## میدان محشر میں زمین مثل روٹی کے ہوگی

**عرض:** حضور یہ صحیح ہے کہ یہ زمین جنت کی شکر بنا دی جائے گی؟

**ارشاد:** میں نے نہ دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے کہ محشر کے عرصات (یعنی میدان) میں گرمی شدت کی ہوگی، پیاس بہت ہوگی اور دن طویل ہے، بھوک کی تکلیف بھی ہوگی اس لیے مسلمان کے لئے زمین مثل روٹی کے ہو جائے گی کہ اپنے پاؤں کے نیچے سے

توڑے گا اور کھائے گا۔ (تفسیر البغوی، ابراہیم، تحت الاية ۴۸، ج ۳، ص ۳۳، تفسیر الطبری، ابراہیم، تحت الاية ۴۸، ج ۷، ص ۴۸۱)



## کعبہ معظمہ اور تمام مساجد جنت میں .....

**عرض:** حضور والا یہ صحیح ہے کہ کعبہ معظمہ جنت میں جائے گا؟

**ارشاد:** ہاں کعبہ معظمہ اور تمام مساجد۔

**عرض:** اور حضور روضہ اقدس؟

**ارشاد:** روضہ اقدس افضل ہے یا کعبہ معظمہ!

**عرض:** روضہ اقدس۔

**ارشاد:** پھر جب مفضّل (یعنی کم فضیلت والا) جائے گا تو افضل کے جانے میں کیا شبہ؟ صرف روضہ اقدس ہی نہیں بلکہ تمام ٹر بیتیں (یعنی قبریں) انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی۔

## حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھانا کیسا؟

**عرض:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کھا کر خلاف کرنے (یعنی پوری نہ کرنے) سے کفارہ لازم آتا ہے؟

**ارشاد:** نہیں۔

**عرض:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز ہے؟

**ارشاد:** نہیں۔ (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الایمان..... الخ، الباب الاول والثانی، ج ۲، ص ۵۱، ۵۳)

**عرض:** کیوں، کیا بے ادبی ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔

## جنات کو علم غیب نہیں

**عرض:** سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عصا میں دیمک لگ جانا صحیح ہے؟

**ارشاد:** ہاں۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام جنوں سے بیت المقدس بنوار ہے تھے اور آپ کا قاعدہ یہ تھا کہ خود کھڑے ہو کر

کام لیتے تھے، اگر آپ وہاں تشریف فرمانہ ہوتے تو وہ معمار (یعنی عمارت بنانے والے) شرارت کرتے تھے۔ ابھی ایک سال کا

کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، کپڑے نئے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے، عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، ناچار سال بھر تک یک لخت دن رات برابر کام کیا۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام بَعِيْنَهَا ویسے ہی رہتے ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جسم مبارک بھی اسی طرح رہا۔ جب کام پورا ہو چکا دیمک کو حکم ہوا، اس نے آپ کے عصا کو کھانا شروع کیا، جب عصا کمزور ہوا آپ نیچے تشریف لائے۔ جن پہلے غیب کے علم کا اِدِّ عار کھتے (یعنی دعویٰ کرتے تھے)

تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ  
مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهَيَّنِ ﴿١٣﴾

کھل گیا جنوں کا حال کہ اگر غیب جانتے کیوں  
رہتے ایک سال سخت عذاب میں۔

(ب ۲۲، السبا: ۱۴)

(تفسیر القرطبی، سبأ، تحت الایة ۱۴، ج ۷، ص ۲۰۶ ملخصاً)

## کیا تمام حیوانات ناطق ہیں

**عرض:** کیا حضور حیوانات بھی ناطق ہیں؟

**ارشاد:** بلاشبہ۔

## فلاسفہ کا رد

**عرض:** انسان کو حیوانات سے تمیز ناطق ہی تھی، ناطق ہی فصل ہے اور فصل کا دو جنسوں میں اشتراک محال؟

**ارشاد:** یہ تمیز کس کے نزدیک ہے؟ جاہل فلاسفہ جُمُوعًا کے نزدیک ہے۔ ہر شے ناطق ہے۔ شجر، حجر، دیوار اور سب ناطق ہیں۔ نص ہے:

قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ

اعضا کہیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے

كُلِّ شَيْءٍ (ب ۲۴، لحم السجدة: ۲۱)

ناطق کیا جس نے ہر شے کو ناطق کر دیا۔

## قرآن و حدیث میں بلا ضرورت تاویل باطل ہے

اور نصوص کا اُن کے ظواہر پر حمل واجب، بلا ضرورت ان میں تاویل باطل و نامسموع۔

وَأَنَّ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ  
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

کوئی شے ایسی نہیں کہ اللہ کی تسبیح و تحمید نہ  
کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۴۴)

ہر شے مکلف ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور خدا کی تسبیح کے ساتھ۔

## جمادات و نباتات کی نماز

عرض:

كُلُّ قَدْعَةٍ مِّنْ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ  
ترجمہ کنز الایمان: سب نے جان رکھی ہے  
اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔

(پ ۱۸، النور: ۴۱)

سے ان کا نماز پڑھنا ثابت ہے؟

**ارشاد:** اول تو یہ آیت خاص پرندوں اور ذوی العقول (یعنی عقل والوں) کے باب میں ہے۔ سباق آیت (یعنی پوری آیت یوں) ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَوْتٌ  
كُلُّ قَدْعَةٍ مِّنْ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ

کیا نہیں دیکھتے جو لوگ زمین و آسمان میں  
ہیں اور پرندے صف باندھے ہوئے اللہ  
(عَزَّوَجَلَّ) کی تسبیح کرتے ہیں ہر ایک نے اپنی نماز  
اور تسبیح کو پہچان لیا۔

(پ ۱۸، النور: ۴۱)

دوسرے یہ کہ اس آیت میں لف و نشر مرتب لانا جائے کہ ”مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (جو کوئی آسمانوں اور

۱: اس کا لغوی معنی لپیٹنا اور پھیلانا ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں وہ صفت جس میں اول چند چیزوں کا ذکر کیا جائے، پھر چند اور چیزیں بیان کی جائیں جو پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہوں مگر اس طرح کہ ہر ایک کی نسبت اپنے منسوب الیہ سے ہو جائے۔

زمین میں ہیں) نے اپنی نماز کو جان لیا اور پرندوں نے اپنی تسبیح کو۔ تیسرے یہ کہ اگر اس آیت کو عام رکھا جائے تو از قبیل عطف العام علی الخاص (یعنی عام کا عطف خاص پر) ہو جائے گا، جمادات و نباتات کی نماز وہی ان کا ایمان و تسبیح ہے۔

## ہر خشک و ترشے تسبیح میں مشغول ہے

{ پھر فرمایا { ان میں مادہ معصیت (یعنی گناہ کا عنصر) بھی ہے ان کے لائق جو سزا ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ اہل کشف فرماتے ہیں: ”تمام جانور تسبیح کرتے ہیں، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ان کو موت آتی ہے۔ ہر پتہ تسبیح کرتا ہے، جس وقت تسبیح سے غفلت کرتا ہے اسی وقت درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔“

## شمالی ہوا سے بارش نہ ہونے کی وجہ

جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلع قمع کر دیں، غزوہٴ احزاب کا واقعہ ہے۔ ربِّ عَزَّوَجَلَّ نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب کی، شمالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ اس نے کہا:

الْحَلَّائِلُ لَا يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ  
فَاعَقَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى  
پہیاں رات کو باہر نہیں نکلتیں۔ تو اللہ  
(عَزَّوَجَلَّ) نے اس کو بانجھ کر دیا۔

اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا پھر صبا (یعنی مشرقی ہوا) سے فرمایا

فَقَالَتْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  
تو اس نے عرض کیا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کیا۔ صرف ایک خندق درمیان میں تھی اس پار مسلمان تھے اُس پار کفار، ادھر صبح تک چراغ جلتے رہے اور دوسری طرف اونٹ بارہ بارہ کوس پر گرے، تو پُر وائی (یعنی مشرقی ہوا) کو یہ نعمت دی کہ بارش اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔

۱: احزاب حزب کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں گروہ۔ اسے غزوہٴ احزاب اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مشرکین کے کئی گروہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے جمع ہوئے تھے اور قریش، غطفان، اور یہودیوں کے بعض قبائل بھی ان کے ساتھی تھے۔ مخالفین کی تعداد دس ہزار (10000) اور مسلمانوں کی تعداد تین ہزار (3000) اللہ عزوجل نے اس واقعہ کے بارے میں سورہ احزاب کی ابتدائی آیات اتاریں، اور اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی جبکہ اہل عرب کے ہاں خندق کھودنے کا طریقہ مروج نہیں تھا۔ اس لئے یہ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ (المواہب اللدنیۃ، غزوہ خندق، ج ۱، ص ۲۳۸، ۲۳۹)

## ہر چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رسالت جانتی ہے

{ پھر فرمایا { ایک ایک روحانیت تو ہر ہر نبات ہر ہر جماد سے متعلق ہے اسے خواہ اس کی روح کہا جائے یا اور کچھ،

وہی مکلف ہے ایمان و تسبیح کے ساتھ۔ حدیث میں ہے:

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ

کوئی شیء ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی

ہو سوائے بے ایمان جن اور آدمیوں کے۔

إِلَّا كَفَرَةُ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ

(المعجم الكبير، الحديث ٦٧٢، ج ٢٢، ص ٢٦٢)

## انسان اور دیگر حیوانات میں فرق

**عرض:** پھر انسان اور دیگر حیوانات میں مابہ الامتیاز (یعنی جس کے ساتھ فرق معلوم ہو) کیا ہے؟

**ارشاد:** عقل ہے اور وہ ”تکالیف شرعیہ“ جو رکھی گئی ہیں اس پر اور وہ امانت ہے جس کو اٹھالیا انسان نے

بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ

زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھالی

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

نادان ہے۔

(پ ٢٢، الاحزاب: ٧٦)

## ہر شے سننے اور سمجھنے کی قوت رکھتی ہے

**عرض:** حضور والا وہ امانت کیا تھی؟

**ارشاد:** اس میں اختلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ عشق الہی ہے۔

{ پھر بیان سابق کی طرف توجہ فرمائی فرمایا { علماء فرماتے ہیں جو ان (یعنی جمادات و حیوانات) کے سمع و ادراک (یعنی سننے

اور سمجھنے کی قوت) پر ایمان نہ لائے اس کے ایمان میں نقص (یعنی خرابی) ہے۔ یہ سب ایمان لائے ہیں حضور پر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم) کوئی چیز ایسی نہیں یہاں تک کہ مصنوعاتِ انسانیہ (یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی اشیاء) جیسے (اپنی گھڑی اور ڈبیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) یہ گھڑی، یہ ڈبیہ کہ ان کو انسان نے بنایا ہے مگر روزِ ازل سب سے عہد لیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو اگر فہم و ادراک نہ تھا تو یہ عہد کیسا۔ قرآن عظیم میں ہے:

فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْتَبِطَوْعًا  
أَوْ كَرِهًا قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَصِيرُ ۝۱۱

فرمایا آؤ تم خوشی سے یا مجبوراً { کہ چاہتے نہ تھے مگر  
مجبور ہو کر چلے آئے ہوتو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی

(پ ۲۴، خم السجدة: ۱۱) سے آئے۔

## جسم نہیں روح سمجھتی ہے

جس طرح تمہارا بدن نہیں سمجھتا وہ روح سمجھتی ہے جو اس بدن سے متعلق ہے اسی طرح وہ اجسام بھی سننے سمجھنے والے

نہیں بلکہ وہ روحانیتیں جو ان سے متعلق ہیں۔

**عرض:** تو پھر یہ تقسیم موجوداتِ دنیا کی حیوانات، نباتات، جمادات کی طرف غلط ٹھہرے گی؟

**ارشاد:** ہاں یہ ظاہر بینوں کی تقسیم ہے اور ظاہر نظر میں یہ تقسیم صحیح بھی ہے مگر از امر دقیق (یعنی گہری نظر) میں نہیں۔

## پہاڑوں کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا

ابتدائے اسلام میں کفار دشمن سخت تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے۔ راہ میں ایک پہاڑ

پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا، پہاڑ سے آواز آئی: حضور! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ”مجھ پر نہ تشریف لائیں کہ مجھ پر کوئی جگہ

امن کی نہیں، مجھے خوف ہے کہ اگر کفار نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو مجھ پر پالیا اور ایذا دی تو اللہ (عزوجل) مجھ پر وہ سخت

عذاب نازل کرے گا کہ کبھی نہ نازل کیا ہوگا۔ سامنے دوسرا پہاڑ تھا اس نے آواز دی ”السیَّ يَارَسُوْلَ اللّٰه“، ”یا رسول اللہ،

حضور! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میری طرف تشریف لائیں۔“ سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس پر تشریف لے گئے (شرح الزرقانی، تسبیح

الطعام..... الخ، ج ۶، ص ۵۱۲) تو اگر علم و ادراک و نطق نہ تھا تو کیونکر ایسا ہوا۔ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی۔

## پہاڑوں کے آنسو

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﷺ  
جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

(پ ۱، البقرة: ۲۴)

وَالْعِبَادُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ پھاڑوں نے رونا شروع کیا یہ آنسو ہیں دریا جو بہہ گئے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کر دیا گیا

{ پھر فرمایا { رجوع و خشوع و خضوع عام ہے تمام حیوانات و نباتات و جمادات کو

يُجَالُ أَوْ يَمَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ  
ترجمہ کنز الایمان: اے پہاڑو! اس کے

لَهُ الْحَيِّدُ ﴿۱۱﴾ (پ ۲۲، سبأ: ۱۰)

ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اے

پرندو اور ہم نے اس کے لئے لوہا نرم کیا۔

داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے لوہے کا نرم ہو جانا اسی کے حکم سے تھا۔ محض ارادۃ اللہ (یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے۔ ت) سے موم

ہو جاتا تھا۔ (تفسیر قرطبی، السبأ تحت الایة ۱۰، ج ۷، ص ۹۵ ملخصاً)

## حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا

جیسے ٹھنڈا ہو جانا آگ کا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر۔ فرمایا:

يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ  
اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۹﴾ (پ ۱۷، انبیاء: ۶۹)

پر۔

”یسا نار“ عام فرمایا تھا جتنی آگیں تھیں دنیا کی سب ٹھنڈی ہو گئیں روئے زمین پر کہیں آگ کا نام و نشان نہ رہا اور

یہ آگ تو ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر ”سلاماً“ نہ فرماتا اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ کئی کوس

کے گرد میں وہ آگ تھی، کوئی اس کے قریب بھی نہ جاسکتا تھا۔ اب فکر ہوئی کہ ان کو ڈالیں گے کیونکر؟ شیطان ملعون آیا اور

گوپھن بنا بنا سکھایا کہ اس طرح کا بنا کر اس میں ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو بٹھا کر پھینک دو۔ جب آپ کو گوپھن میں بٹھا کر

اُتری کا بنا ہوا آلہ جس میں پتھر یا مٹی کے گولے رکھ کر مارتے ہیں

پھینکا آپ آگ کی محازات پر آئے، جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کی: ”يَا اِبْرَاهِيْمُ اَلَيْكَ حَاجَةٌ“ کوئی حاجت ہے ”اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا“ ہے تو مگر تم سے نہیں۔ عرض کی: تو جس سے ہے اسی سے کہیے۔ فرمایا: ”حَسْبِيَ مِنْ سُوَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي“ وہ خود جانتا ہے عرض کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر القرطبی، الانبیاء تحت الایۃ ۶۹، ج ۶، ص ۱۷۰، ۱۷۱)

قَدْ نَالِنَا رُكُوفِي بَرْدًا اَوْ سَلْبًا عَلَي  
اِبْرَاهِيْمَ ۞ (پ ۱۷، انبیاء: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے فرمایا اے آگ  
ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔

## مرنے کے بعد تمام حیوانات مٹی ہو جائیں گے!

**عرض:** یہ صحیح ہے کہ حیوانات مٹی ہو جائیں گے تو ان کی ارواح کہاں جائیں گی؟

**ارشاد:** مٹی ہو جائیں گی یہ تو ثابت ہے آگے کچھ نہ فرمایا، شرع نے بتایا کہ جو حیوانات موذی (یعنی نقصان دہ) ہیں وہ دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے (تفسیر کبیر النباء تحت الایۃ ۴۰، ج ۱۱، ص ۲۷) ان کو خود کوئی تکلیف نہ ہوگی جس طرح فرشتگان عذاب کو خود کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

## اصحاب کہف کا کتا اور بلعم باعور

اور اصحاب کہف کا کتا ”بلعم باعور“ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعم اس کتے کی شکل ہو کر جہنم میں جائے گا (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الدعوات، باب اسماء..... الخ، ج ۵، ص ۹۸) اور ناقۃ صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ناقۃ عصباء (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اونٹنی مبارک) جنت میں جائیں گے۔ (غمر العیون البصائر، الفن الثالث، باب فائدہ لیس من الحيوان من يدخل..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۹)

باقی حیوانات مٹی کر دیئے جائیں گے، ان کو مٹی ہوتا دیکھ کر کفار کہیں گے:

يَلْبِئْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا ۞

کاش میں بھی {انہیں کی مانند} مٹی

(پ ۳۰، النبا: ۴۰) ہو جاتا۔

(تفسیر کبیر النبا تحت الایۃ ۴۰، ج ۱۱، ص ۲۷)



## کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟

**عرض:** کیا حضور جنت میں جنات نہ جائیں گے؟

**ارشاد:** ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے جنت میں سیر کو آ یا کریں گے۔ (عمدة القاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الجن..... الخ، ج ۱۰، ص ۶۴۵) {پھر فرمایا} جنت تو جاگیر ہے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی، اُن کی اولاد میں تقسیم ہوگی۔

ت

## کیا عُصَّہ حرام ہے؟

عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ 'عُصَّہ حرام ہے'، عُصَّہ ایک غیر اختیاری امر ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قُصُور نہیں، ہاں عُصَّہ کا بے جا استعمال بُرا ہے۔ بعض صورتوں میں عُصَّہ ضروری بھی ہے مثلاً جہاد کے وقت اگر عُصَّہ نہیں آئے گا تو اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے

## احتیاطی تجدید ایمان کب کب کریں؟

مَدَنی مشورہ ہے روزانہ کم از کم ایک بار مٹکا سونے سے قبل (یا جب چاہیں) احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لیجئے اور اگر بنا سنا ہی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کر لیا کریں۔ ماں، باپ، بہن، بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے اس کے لئے مہر کی بھی ضرورت نہیں۔

## ماخذ و مراجع

- |                              |   |   |      |
|------------------------------|---|---|------|
| ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور | کلام باری تعالیٰ  | قرآن مجید                                     | (۱)  |
| ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور | الخطبہ امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۴۰ھ                      | کَنْزُ الْإِيمَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ  | (۲)  |
| ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور | مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی                         | خزائن العرفان                                 | (۳)  |
| دار احیاء التراث العربی      | ابوالفضل شہاب الدین آقوی متوفی ۱۲۷۰ھ                      | روح المعانی                                   | (۴)  |
| تذکرہ                        | علاء الدین علی بن محمد خازن متوفی ۷۷۵ھ                    | تفسیر خازن                                    | (۵)  |
| مکتبہ اعلام الاسلامی         | جاد اللہ محمود دستغری متوفی ۵۲۸ھ                          | تفسیر کشاف                                    | (۶)  |
| کوئٹہ                        | شیخ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ                               | روح البیان                                    | (۷)  |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ                     | تَفْسِيرُ الطَّبْرِيِّ                        | (۸)  |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | اسماعیل بن عمر ابن کثیر متوفی ۷۷۷ھ                        | تفسیر القرآن العظیم                           | (۹)  |
| دار احیاء التراث العربی      | امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی متوفی ۶۰۶ھ        | تفسیر کبیر                                    | (۱۰) |
| دار الفکر العلمیہ بیروت      | ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ۷۷۷ھ         | الجامع لاحکام القرآن                          | (۱۱) |
| دار الفکر بیروت              | امام جلال الدین السیوطی متوفی ۹۱۱ھ                        | تفسیر در منثور                                | (۱۲) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | شیخ ناصر الدین عبد اللہ متوفی ۷۹۱ھ                        | تفسیر بیضاوی                                  | (۱۳) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | محمد الدین محمد بن مصلح الدین متوفی ۹۵۱ھ                  | حاشیہ محی الدین شیخ زادہ                      | (۱۴) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | ابو یوسف حسین بن مسعود البغوی متوفی ۵۶۱ھ                  | تفسیر بغوی                                    | (۱۵) |
| کوئٹہ                        | شیخ محمد بن عبد الرحمن محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ             | تفسیر عزیزی                                   | (۱۶) |
| مدینۃ الاولیاء ملتان         | علامہ احمد بن علی الحسقلانی                               | نزہۃ النظر                                    | (۱۷) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ                     | صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ                         | (۱۸) |
| دار ابن تہم بھروت            | امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری متوفی ۲۶۱ھ              | صحیح مسلم                                     | (۱۹) |
| دار الفکر بیروت              | امام ابو یوسف محمد بن یسعی الترمذی متوفی ۲۸۹ھ             | سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ                         | (۲۰) |
| دار احیاء التراث العربی      | امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ                   | سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ                          | (۲۱) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی متوفی ۳۰۳ھ       | سنن النسائی                                   | (۲۲) |
| دار الفکر بیروت              | امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی متوفی ۲۷۳ھ        | سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ                          | (۲۳) |
| دار المعرفہ بیروت            | امام مالک بن انس متوفی ۷۷ھ                                | موطا امام مالک                                | (۲۴) |
| دار احیاء التراث العربی      | امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ                     | المُعْجَمُ الْكَبِيرُ                         | (۲۵) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ                     | المُعْجَمُ الْاَوْسَطُ                        | (۲۶) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | امام احمد بن حسین بن علی متوفی ۴۵۸ھ                       | شُعَبُ الْإِيمَانِ                            | (۲۷) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | ابو بکر عبد الرزاق بن تمام متوفی ۲۱۱ھ                     | المصنف للإمام عبد الرزاق                      | (۲۸) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | امام اسماعیل بن محمد الجلوبی الشافعی متوفی ۱۱۶۲ھ          | كشف الخفاء                                    | (۲۹) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | امام محمد بن عبد الرحمن الخطیب التبریزی متوفی ۵۰۹ھ        | مشکاة المصابیح                                | (۳۰) |
| دارالعلمیہ بیروت             | سعید بن منصور متوفی ۲۲۷ھ                                  | سنن سعید بن منصور                             | (۳۱) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | علامہ علاء الدین علی بن ابی اسحاق احمدی متوفی ۹۷۵ھ        | کَنْزُ الْعَمَالِ                             | (۳۲) |
| دار الفکر بیروت              | حافظ شیرازی بن شہر دار دہلی متوفی ۵۰۹ھ                    | فِرْدَوْسُ الْأَخْبَارِ                       | (۳۳) |
| دار الفکر بیروت              | امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ                              | المُسْنَدُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ | (۳۴) |
| دارالکتب العلمیہ بیروت       | شیخ الاسلام ابویعلیٰ الموصلی متوفی ۳۰۷ھ                   | مسند ابو یعلیٰ                                | (۳۵) |
| دار المعرفہ بیروت            | امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ شیبانی پوری متوفی ۳۰۵ھ | المستدرک علی الصَّحِيحَيْنِ                   | (۳۶) |
| دار الفکر بیروت              | حافظ نور الدین علی بن ابوبکر متوفی ۸۰۷ھ                   | مَجْمَعُ الزَّوَالِدِ                         | (۳۷) |

دارالکتب العلمیہ بیروت	امام ابوبکر احمد بن حسین متوفی ۳۵۸ھ	سنن الکبریٰ للبیہقی	(۳۸)
دارالفکر بیروت	الحافظ عبداللہ بن محمد بن شیبہ متوفی ۲۳۵ھ	المصنف لابن ابی شیبہ	(۳۹)
دارالکتب العلمیہ بیروت	امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی متوفی ۶۵۶ھ	الترغیب والترہیب	(۴۰)
دارالکتب العلمیہ بیروت	امام عبداللہ بن عبدالرحمن متوفی ۲۵۵ھ	سنن الذاری	(۴۱)
دارالکتب العلمیہ بیروت	محمد بن سعد ہاشمی البصری متوفی ۱۶۸ھ	الطبقات الکبریٰ	(۴۲)
مدینۃ الاولیاء و ملتان شریف	امام بدرالدین محمود بن احمد لعین متوفی ۸۵۵ھ	عُمدَةُ الْقَارِي	(۴۳)
دارالفکر بیروت	شہاب الدین احمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ	ارشاد الساری	(۴۳)
دارالکتب العلمیہ بیروت	امام احمد بن علی مستقلائی متوفی ۷۵۲ھ	فتح الباری	(۴۵)
دارالکتب العلمیہ بیروت	علامہ اعلیٰ قاری متوفی ۱۰۱۳ھ	مرقاۃ المفاتیح	(۴۶)
مرکز اہلسنت برکات رضا	امام بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ھ	عمدۃ القاری	(۴۷)
کوئٹہ	شیخ محقق عبدالرحمن محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ	اشعۃ اللمعات	(۴۸)
کوئٹہ	شیخ نظام و جماعہ ۶۹۵/۵۹۶ھ	فتاویٰ ہندیہ	(۴۹)
دارالمعرفہ بیروت	علاء الدین محمد بن علی صہبانی متوفی ۱۰۸۸ھ	در مختار	(۵۰)
دارالمعرفہ بیروت	سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ	رد المحتار	(۵۱)
کوئٹہ	زین الدین بن نجیم متوفی ۹۷۰ھ	بحر الرائق	(۵۲)
کوئٹہ	شیخ محمد امین عابدین شامی دمشق متوفی ۱۳۵۳ھ	منحۃ الخالق علی البحر الرائق	(۵۳)
کوئٹہ	کمال الدین محمد بن عبدالواحد متوفی ۸۶۱ھ	فتح القدیر	(۵۴)
کوئٹہ	علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم متوفی ۱۰۰۵ھ	النہر الفائق	(۵۵)
پشاور	علامہ حسن بن منصور قاضی خان متوفی ۵۹۲ھ	فتاویٰ قاضی خان	(۵۶)
باب المدینہ کراچی	علامہ محمد بن اسماعیل متوفی ۱۲۳۱ھ	حاشیہ الطلحطوی علی مراقی	(۵۷)
پشاور	سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ	العقود الدریۃ	(۵۸)
باب المدینہ کراچی	علامہ قاضی ملا نسرو متوفی ۸۸۵ھ	درر الحکام	(۵۹)
مرکز الاولیاء لاہور	شیخ ابراہیم النجفی متوفی ۹۵۶ھ	الجلیبی الکبیر	(۶۰)
رضافاؤنڈیشن لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۳۳۰ھ	فتاویٰ رَضَوِیَہ	(۶۱)
مکتبہ المدینہ کراچی	مفتی محمد امجد علی اعظمی متوفی ۳۶۷ھ	بہار شریعت	(۶۲)
پشاور	علامہ عبدالغنی تلمیسی متوفی ۱۱۳۳ھ	الْخَدَائِقَةُ النَّدِیۃ	(۶۳)
دارالکتب العلمیہ بیروت	حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ	الْأَصَابِیْہُ فِی تَمْیِیْزِ الصَّحَابَۃ	(۶۴)
دارالکتب العلمیہ بیروت	حافظ ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادی متوفی ۳۲۳ھ	تاریخ بغداد	(۶۵)
باب المدینہ کراچی	المولیٰ مصطفیٰ بن عبداللہ الحنفی متوفی ۱۰۶۸ھ	کشف الظنون	(۶۶)
عباس احمد التلیاز	الحافظ یوسف بن عبداللہ بن محمد متوفی ۴۶۳ھ	التمہید لما فی الموطا	(۶۷)
باب المدینہ کراچی	امام عبدالرحمن جلال الدین السیوطی متوفی ۹۱۱ھ	تاریخ الخلفاء	(۶۸)
مکتبہ رضویہ لاہور	مولانا ظفر الدین بہاری متوفی ۱۳۸۲ھ	حیات اعلیٰ حضرت	(۶۹)
دارالفکر بیروت	الحافظ شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ	تہذیب و التہذیب	(۷۰)
مرکز الاولیاء لاہور	شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی متوفی ۱۱۳۹ھ	تحصیل التعریف فی معرفۃ الفقہ	(۷۱)
المکتبہ المعاصر بیروت	الحافظ ابوبکر عبداللہ بن محمد متوفی ۲۸۱ھ	موسوعہ لامام ابن ابی الدنیا	(۷۲)
مرکز اہلسنت برکات رضا	القاضی ابو فضل عیاش مالکی متوفی ۵۴۴ھ	شرح الشفاء	(۷۳)
دارالکتب العلمیہ بیروت	امام احمد بن علی الشترانی متوفی ۹۷۳ھ	الیواقیت و الجواهر	(۷۴)
خدیجہ پبلیکیشنز	حضرت مولانا جلال الدین رومی	مثنوی شریف	(۷۵)
کوئٹہ	محمد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ۱۰۳۳ھ	مکتوبات امام ربانی	(۷۶)

دارالحدیث القاہرہ	امام ابن حجر <sup>عسقلانی</sup> متوفی ۹۷۳ھ	الزواجر	(۷۷)
دارالکتب العلمیہ بیروت	حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ متوفی ۴۳۰ھ	حلیۃ الاولیاء	(۷۸)
دارالکتب العلمیہ بیروت	علامہ سعد الدین تقی زانی متوفی ۷۹۳ھ	شرح المقاصد	(۷۹)
باب المدینہ کراچی	سعد الدین التقی زانی متوفی ۷۹۱ھ	شرح عقائد نسفیہ	(۸۰)
دارالکتب العلمیہ بیروت	شہاب الدین احمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ	مواہب اللدنیہ	(۸۱)
دارالکتب العلمیہ بیروت	امام عبدالرحمن جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	الخصائص الکبریٰ	(۸۲)
دارالکتب العلمیہ بیروت	علامہ شیخ محمد عبدالرحمن السخاوی متوفی ۹۰۲ھ	المقاصد الحسنہ	(۸۳)
دارالکتب العلمیہ بیروت	شیخ علی بن سلطان متوفی ۱۰۱۳ھ	الروض الازھر	(۸۴)
دارالکتب العلمیہ بیروت	امام ابوبکر احمد بن حسین متوفی ۴۵۸ھ	دلائل النبوة للبیہقی	(۸۵)
دارالکتب العلمیہ بیروت	علامہ محمد الزرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ	شرح الزرقانی	(۸۶)
مرکز اہلسنت برکات رضا	شاہ عبدالجبار محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ	مدارج النبوة	(۸۷)
دارالفکر بیروت	عبدالوہاب بن احمد بن علی متوفی ۹۷۳ھ	الطبقات الکبریٰ للشعرانی	(۸۸)
دارالکتب العلمیہ بیروت	عبدالاکرم بن عوازم القشیری متوفی ۳۶۵ھ	رسالة القشیریة	(۸۹)
دارالکتب العلمیہ بیروت	شہاب الدین احمد بن محمد متوفی ۱۰۶۹ھ	نسبم الرياض	(۹۰)
دارالکتب العلمیہ بیروت	شیخ زین الدین ابراہیم متوفی ۹۷۰ھ	الاشیاء والنظائر	(۹۱)
باب المدینہ کراچی	علامہ شیخ سید احمد بن محمد المصری متوفی ۱۰۹۸ھ	غمز العیون البصائر	(۹۲)
مدینہ پبلشنگ کمپنی	علامہ احمد بن مبارک متوفی ۱۱۵۵ھ	الایرینز	(۹۳)
مرکز اہلسنت برکات رضا	مولانا ابن مسعود سید شجاعت علی قادری	الخیرات الحسان	(۹۴)
مشتاق بک ڈپو	امام یوسف بن اسماعیل ہبانی متوفی ۱۳۵۰ھ	جامع کرامات اولیاء	(۹۵)
کوئٹہ	سید بن محمد مبارک کرمانی	سیر الاولیاء	(۹۶)
دارالکتب العلمیہ بیروت	علامہ سید احمد طحاوی	حاشیہ طحاوی علی الدر	(۹۷)
مرکز اہلسنت برکات رضا	ابوالحسن نور علی بن یوسف متوفی ۱۳۷ھ	بہجة الاسرار	(۹۸)
قادیوہ جامعہ نظامیہ رضویہ	امام شیخ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ	شرح الصدور	(۹۹)
مؤسسہ الریان بیروت	سید بلگرام میر عبدالواحد	سبع سنابل	(۱۰۰)
انتشارات تجنید	امام شیخ محمد بن عبدالرحمن السخاوی متوفی ۹۰۶ھ	القول البدیع	(۱۰۱)
دارالکتب العلمیہ بیروت	شیخ فرید الدین عطار متوفی ۶۰۶/۶۱۶ھ	تذکرۃ الاولیاء	(۱۰۲)
مکتبہ شمیم برادرز	علامہ عبداللہ بن اسد متوفی ۶۸ھ	رؤس الریاحین	(۱۰۳)
دارصادر بیروت	بابا فرید الدین	راحة القلوب	(۱۰۴)
دارالمنار للطباعة	امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ	احیاء العلوم	(۱۰۵)
	سید شریف جرجانی ۸۱۶ھ	التعريفات للجرجانی	(۱۰۶)

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
453	کذب الہی ممکن نہیں		<b>اعتقادات</b>
483	حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں؟	57	سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟
495	سلب ایمان کا خوف	64	کیا ہر ممکن چیز پیدا ہو چکی ہے؟
496	ایمان اور شہود میں فرق	64	جن و پری کا مسلمان ہونا
	<b>وَضُو</b>	77	کیا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب تھا؟
171	کیا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے؟	88	کفر کی دو قسمیں
187	وضو کرنے کا مسنون طریقہ	93	کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حبیب ﷺ کا علم برابر ہے؟
236	مسجد کے اندر وضو کرنا	109	وحدت الوجود کے معنی
290	وضو میں بے احتیاطی	110	دیدار الہی عَزَّوَجَلَّ کس طرح ہوگا؟
381	جھوٹ بول بیٹھا تو وضو کرنا مستحب ہے	134	نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کرنا کیسا؟
382	گردوغبار کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہہ نکلے تو؟	134	مذہب چھوڑنے کی شرط پر مباحثہ کرنا کیسا؟
443	وضو کیلئے مسجد سے گرم پانی لے جانا کیسا؟	137	غیر مسلم کو مسلمان کرنے کا طریقہ
443	بودار پسینہ آنے کی صورت میں وضو کا حکم	173	کیا ہر کافر ملعون ہے؟
	<b>اذان</b>	244	علم الہی
136	اذان میں روضہ انور کی طرف منہ کرنے کا حکم	248	مسئلہ جُزءٍ لَا یَتَجَزَّیٰ
258	اذان کہنے کے بعد مسجد سے باہر جانا کیسا؟	252	صراطِ مستقیم دو طرح کی ہوتی ہے
259	رافضیوں کی اذان	252	توحیدیں دو ہیں
503	مؤذن کا بلا اجرت اذان دینے کا اجر	291	99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو؟
526	وقتِ دُفن اذان کہنا کیسا؟	334	غیب کی تعریف کیا ہے؟
	<b>نہاج</b>	361	حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق
63	زکوع و سجود میں ٹھہرنے کی مقدار	378	محمض زبان سے کلمہ کفر بگنے والے کا حکم
63	زکوع و سجود میں تعدیل نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی	383	نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے
74	جو تاپہن کر نماز پڑھنا کیسا؟	383	دلی کی ولایت نبی کی ولایت کے کروڑوں حصے کو بھی نہیں پہنچتی
75	ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا؟	388	حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف فرما ہیں
75	ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ	432	عقائد کے بارے میں کیسا اعتقاد ہونا چاہیے؟
76	نمازوں کا اعادہ	440	فرشتوں کی بے شمار تعداد
76	نماز میں مصلیٰ ٹیڑھا ہونے کا حکم	440	تمام رسل، ملائکہ اور کتب پر ایمان
77	باریک کپڑوں میں عورت کی نماز کا حکم	441	مسلمان کو کافر کہنے کا حکم
82	نمازِ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟	452	کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
287	قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ	83	گرمیوں میں ظہر کا مستحب وقت کونسا ہے؟
291	نماز میں کی جانے والے غلطیوں کا بیان	83	دوشل سے پہلے نماز عصر پڑھنے کا حکم
322	نماز میں آنے والی چھینک	84	اختلافی مسائل کا حکم
337	سنت فجر میں تحیۃ الوضویٰ تحیۃ المسجد کی نیت کرنا	115	سنت قبلیہ کا قضا ہونا
343	مسافر امام کے پیچھے ایک رکعت ملی تو؟	117	نماز میں قرآن کا لفظ بدل جانے کا حکم
344	جماعتِ ثانیہ قائم ہونے کے وقت سنتیں پڑھنا کیسا	118	عمامے کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت
344	جماعتِ اولیٰ کی اہمیت	125	عصر کا مکروہ وقت کونسا ہے؟
346	وطنِ اصلیٰ یا اقامت	125	نماز میں قراءت کا ایک مسئلہ
347	مقیم کا قصر پڑھنا	126	قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ
351	اول وقت میں سنتِ فجر پڑھنا	133	نمازی کے سامنے سے گزرنے کا طریقہ
352	سنت پڑھے بغیر نماز ظہر کی امامت کروانا	136	نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا؟
358	فرضوں کی جماعت میں نفل پڑھنے والے کا کھڑا ہونا	138	ریا کے لئے نماز روزہ کا حکم
358	دو آدمیوں کا جماعت کروانا	146	سجدے میں قرب الہی
359	جماعت میں عورت کا شامل ہونا	146	سجدہ شکر مسنون ہے یا مستحب
359	عورتوں کے لئے نماز کی بہتر جگہ	146	سجدے کی چار قسمیں
360	مرد کہاں کھڑے ہوں؟	156	صفِ اول میں نماز پڑھنے کا ثواب
360	امام کوئی آیت بھول جائے تو!	156	نماز میں سب سے پہلے امام پر رحمت نازل ہوتی ہے
360	صفوں کے درمیان اونچی دیوار ہو تو؟	164	نماز میں بلغم آجائے تو کیا کرے؟
368	امام سری رکعتوں میں تعوذ پڑھے یا نہیں	174	تحیۃ الوضو کی فضیلت
378	قعدے میں بھول کر الحمد شریف پڑھ لی تو؟	175	رکوع کے بعد پانچے اوپر چڑھانے کا حکم
379	نماز کے سجدے میں سجدہ شکر کی نیت کرنا	175	رکوع کا طریقہ
379	سجدہ شکر کے متعلق امام اعظم کا فتویٰ	177	نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم
414	سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟	231	تنہائی میں بھی ریا کار نماز پڑھنا ممکن ہے
418	گرامونون سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت کا حکم	256	نماز کی حالت میں خدمت لینا
427	پوشیدہ گناہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا	257	امام مہدی کی نماز
428	اسکول بیچ لگا کر نماز پڑھنا	260	نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا چاہئے؟
428	کشتی پر نماز پڑھنا	278	مجذوب کی نماز
429	فضا میں نماز پڑھنے کا حکم	281	وَلَدًا لِّحَرِّ امٍ كُوَامَامٍ بِنَانَا كَيْسَا؟
441	کشتی پر نماز کا حکم	287	نماز فجر میں دُعاے قنوت پڑھنا

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
505	روزہ کے لئے افطار ضروری نہیں	448	نوکر کے ترک نماز پر کیا آقا سے مؤاخذہ ہوگا؟
506	افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے	480	مندر میں نماز پڑھنا کیسا؟
	<b>حج</b>	487	تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا
130	کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر حج فرض تھا؟	491	بے وضو نماز پڑھادینے کا حکم
176	عورت کا تہاجج کو جانا کیسا؟	499	کیا رکوع میں دونوں ٹخنوں کو ملانا چاہیے؟
182	والدین کی ممانعت کے ساتھ حج نفل جائز نہیں		<b>نمازِ جمعہ</b>
	<b>قربانی</b>	84	جمعہ مثل ظہر ہے
65	گائے کی قربانی	84	زوال کے وقت جمودا کرنا کیسا؟
94	صدقے کا جانور ذبح کئے بغیر کسی کو دینا کیسا؟	118	خطبے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا؟
124	قربانی کی کھال مدارس میں دینا کیسا؟	133	منبر چھوڑ کر خطبہ پڑھنا خلاف سنت ہے
320	ذبح میں ذکر سرکار علیہ وسلم کرنا	314	دونوں خطبوں کے درمیان سنتیں پڑھنا
	<b>مسجد</b>	350	خطبہ کے وقت عصا ہاتھ میں لینا
86	غیر معتکف کو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں	350	دیہات میں جمعہ پڑھنے کا حکم
86	کھانے پینے کے لئے مسجد میں اعتکاف کرنا کیسا؟	352	جمعہ کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب پڑھے؟
117	ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لے جانا کیسا؟	378	جمعہ پڑھنا کس کا حق ہے؟
117	مسجد کا چندہ کھا جانے والا جہنم کا مستحق ہے	395	خطبے میں خلفاء راشدین کا ذکر خیر
286	مرحوم شوہر کے روپے سے مسجد بنوانا کیسا؟	396	خطبے میں سیدنا غوث اعظم کا ذکر خیر
317	مختلف احکام مسجد	396	خطبے میں عالم دین کے لئے دُعا کرنا
348	مسجد کی زمین بیچنا جائز نہیں	499	خطبہ جمعہ عربی ہی میں پڑھیں
360	طوائف کا روپیہ مسجد میں لگانا		<b>نمازِ جنازہ</b>
391	متولی کی اجازت کے بغیر مسجد میں وعظ کہنا	132	قصاص میں قتل ہونے والے کی نمازِ جنازہ
448	مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر وعظ کہنا کیسا؟	132	خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی
487	بدبوداردوائی لگا کر مسجد میں جانا کیسا؟	132	بد مذہب کی نمازِ جنازہ پڑھنے والے کا حکم
	<b>قرآن</b>	344	نمازِ جنازہ میں تین صفیں بنانے کا طریقہ
124	دوران سفر قرآن پاک کہاں رکھے؟	348	نمازِ جنازہ میں جلدی کرنا
138	سورہ مُلک کی فضیلت		<b>روزہ</b>
148	فاتحہ کا ثواب	419	ایامِ بیض میں روزہ رکھنے کا ثواب
149	قرآن پاک کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟	505	روزہ کے لئے نیت ضروری ہے
149	احزاب و اعشار کا آغاز کب ہوا؟	505	ایامِ تشریق میں روزہ رکھنے کا حکم

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
346	وہابی سے نکاح پڑھوانے کا حکم	234	بیچ آیت کا جواز
346	ولیمہ کب کرے؟	337	قرآن پاک کہاں رکھے؟
347	نکاح کے بعد چھو ہارے لٹانا	354	سُورتوں کو اُلٹا پڑھنا
396	شعبان میں نکاح کرنا کیسا؟		اونچی جگہ پر قرآن پاک رکھا ہو تو کیا اس طرف پاؤں
416	دل میں طلاق دینے کا حکم	364	کر سکتے ہیں؟
416	شادی شدہ کافرہ کا اسلام لانے کے بعد نکاح	524	ترتیب قرأت کا بیان
424	نکاح کرتے وقت دل میں مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہونا	524	سورہ اخلاص کا تراویح میں تین بار پڑھنا
437	بعد اترتہ عورت پر عدت	525	سورہ اخلاص کا ثواب
437	شبہ نکاح کی عدت	525	سورہ کافرون کا ثواب
438	مرتد کا بعد اسلام سابقہ بیوی سے نکاح	525	سبع مثنائی سے کیا مراد ہے
438	حلالہ طلاق ہی کے ساتھ خاص ہے	525	قبرستان میں باوا قرآن عظیم پڑھنا کیسا؟
441	کلمہ کفر بولنے پر عورت کے نکاح کا مسئلہ		<b>نکاح و طلاق وغیرہ</b>
449	نابالغ لڑکی کا ولی کون؟	63	ناک میں چڑھنے والے دودھ سے رضاعت کا حکم
449	طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے	67	ناسمجھ بچے کے سامنے جماع کیوں ممنوع ہے؟
	<b>جانزی یا ناجانز؟</b>	95	محرم و صفر میں نکاح کرنا کیسا؟
58	غیر عالم کو وعظ کہنا حرام ہے	95	ربیبہ کا نکاح
62	دھوبی اور طوائف کے ہاں کھانا کھانا کیسا؟	95	دوران عدت نکاح کرنا کیسا؟
91	قرض دبا لینا کیسا؟	95	دوران عدت نکاح پڑھانے والے کا حکم
94	کیا نانائانی وغیرہ عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟	96	میکے میں رہنے والی عورت کا نان نفقہ
112	صلح کروانے کا معاوضہ لینا ناجائز ہے	96	دوران عدت نکاح کا حکم
113	رشوت کو اپنا حق قرار دینا کفر ہے	96	نکاح کی وکالت لیتے وقت گواہ قائم کرنا
148	مسجد میں کپڑے سینا کیسا؟	97	دہن سے نکاح کی وکالت لینے کا طریقہ
155	رب تعالیٰ کے لئے مَوْنِث کا صیغہ بولنے کا حکم	97	دُولہا کا سہرا
163	ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا؟	97	ولیمہ سنت ہے
173	اللہ ”میاں“ کہنا کیسا؟	98	نکاح سے پہلے ولیمہ کرنا کیسا؟
235	قُطْب (ستارے) کی طرف پاؤں کرنا کیسا؟	98	رضاعی چھٹیجی سے نکاح حرام ہے
236	لکھائی والا دسترخوان	98	رضاعت کا ایک مسئلہ
236	اگر برتن میں آیات لکھی ہوں تو؟	337	سہمہ سے نکاح
264	منگل کے دن سینے کے لئے کپڑے کاٹنا کیسا؟	345	خطبہ نکاح میں رُخ کدھر کرے؟



صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
347	وسمہ سے تیار کیا ہوا سیاہ خضاب	281	مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
347	سیاہ خضاب کب جائز ہے؟	286	رہچھ یا بندر کا تماشا دیکھنا حرام ہے
347	شادی کرنے کے لئے سیاہ خضاب لگانا	287	بزرگان دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا؟
348	قبرستان میں چیونٹیوں کو مٹھائی ڈالنا	292	مرثیہ خوانی میں شریک ہونا کیسا؟
350	خضور کی قسم کھانا جائز نہیں	293	ان مجالس میں رقت آنا کیسا؟
351	گلے میں تانبے یا پیتل کا خلال لٹکانا	295	بدگمانی حرام ہے
352	کبوتروں کو دانہ دینے کے لئے پیسے کا ٹنا	296	سیاہ خضاب
357	بیجانہ ضبط کرنا	309	داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟
360	قرض وصول کرنے کے اخراجات لینا	310	سود خوری کا عذاب
364	شراب بیچنے والے کو کوئی چیز فروخت کرنا	311	ادویات پی کر بال سیاہ ہو جائیں تو؟
365	طوائف کو مکان کرایہ پر دینا	325	بچا کر کوکو سنا کیسا؟
365	انگریزی دوائیوں کا حکم	325	عمامے پر زری کا کام کروانا کیسا؟
366	تیر سے ہلاک ہونے والے جانور کا گوشت کھانا	325	تانبے یا لوہے کی انگوٹھی کا حکم
368	طاعون سے بھاگنے کی ممانعت	326	ٹوپی یا کپڑے پر سونے چاندی کا کام کروانا کیسا؟
374	داڑھی چڑھانا کیسا ہے؟	327	”اللہ صاحب“ کہنا کیسا؟
376	سبز رنگ کا جو تا پہننا جائز ہے	327	تنگینے پر کلمہ پاک لکھوانا کیسا؟
381	دوا میں ایون شامل ہو تو!	328	مردوں کو مجمل کپڑا پہننا کیسا؟
382	شراب اگر نشہ نہ لائے تو جائز ہے؟	328	ریشم کا حکم
382	امام ضامن کا پیسہ بازو پر باندھنے کا حکم	328	تانبے پیتل کے تعویذات کا حکم
395	لکڑی کا جو تا پہننا کیسا ہے؟	328	چاندی اور سونے کی گھڑی
396	سید زادے کو سزا دینا کیسا؟	329	نایاک پانی سے اُگے ہوئے درخت کا پھل کھانے کا حکم
428	جیب میں لکھا ہوا کاغذ ہوتے ہوئے استنج خانے جانا کیسا؟	329	گائے کو چوری کا چار اٹھلانا
448	کھانا کھاتے وقت خاموشی اختیار کرنا کیسا؟	329	سونے چاندی کو کھانا مرد و عورت دونوں کے لئے جائز ہے
449	”تجھے خدا سمجھے“ کہنا کیسا؟	330	عرس میں نا جائز کام ہوتے ہوں تو!
459	قید خانہ اور پاگل خانہ کی بنی ہوئی اشیاء خریدنے کا حکم	342	چربی والی موم بتی مسجد میں جلانا
459	اوجھڑی کھانا کیسا؟	342	جرمنی موم بتی کا حکم
459	جھولا جھولنا کیسا؟	345	دولہا کے اُبٹن ملنا
460	ہندوؤں کے میلے ”رام لیلیا“ وغیرہ دیکھنے جانا کیسا؟	345	استاذ کالجوں سے کام لینا کیسا؟
460	گردے کھانے کا حکم	345	اُتر دکا میلہ دپڑھنا کیسا؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
285	حلالہ کے لئے ہمبستری شرط ہے	466	کشتی لڑنا کیسا؟
285	عورت اپنے مردہ شوہر کو چھو سکتی ہے	475	سودا قرض دیتے وقت قیمت زیادہ لینا کیسا؟
294	کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا	476	مداری کا تماشا
297	مرد کا بال بڑھانا	498	کا مدار جوتے پہننے کا حکم
300	روافض میں شادی کرنا ناجائز ہے	528	حضور ﷺ کے نام کی قسم کھانا کیسا؟
309	سونے کی انگوٹھی		<b>پاک یا ناپاک؟</b>
315	مزا میر کے ساتھ گانا سننے والا	414	مُرغی پانی میں چوچ ڈال دے تو؟
315	مزارات پر عورتوں کا جانا	415	ناپاک پانی اُبالنے سے پاک ہو جائے گا؟
345	ایام و بائیں بکرا ذبح کرنے کا حکم	415	کیا کتے کے بال ناپاک ہیں؟
349	ساس کو بشہوت ہاتھ لگانا	465	چچکاری لگانے سے متعلق ایک مسئلہ
351	اجنبیہ جوان عورت کے سلام کا جواب		<b>متفرق شرعی احکامات</b>
351	نامحرم کو سلام بھیجنا	59	دینی خدمت بھی مجاہدہ ہے
380	بعد توبہ زنا کے گناہ کی معافی کس کس سے مانگے؟	60	دنیاوی فکروں کا قلب جاری پر اثر
382	ایک اشکال اور اس کا جواب	81	نصوص میں بلا ضرورت تاویل و تخصیص باطل و نامسموع ہے
388	کافر کی توبہ یا س مقبول نہیں	107	تہمت کی جگہ سے بچنے
404	غم تازہ کرنا	113	صراحت دلالت پر فوقیت رکھتی ہے
409	کھیلوں کے بارے میں حکم	114	قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا؟
409	حقوق العباد کی معافی	114	مسلمان کا حال اچھائی پر محمول کرنا واجب ہے
429	چوری کا ایک مسئلہ	115	امام کی تقلید ضروری ہے
438	نوشیرواں کو عادل کہنا جائز نہیں	124	حیلہ شرعی کا طریقہ
449	کسی کو زانی کہنے کا حکم	132	خون ناحق کرنے والے پر تین حق ہیں
449	آج کل کے معروف غلط جملوں پر حکم	136	ملاقات سے واپسی پر مصافحہ کا حکم
450	حرام زادہ، حرام زادی، کہنا کیسا؟	136	معاذتہ کرنے کا طریقہ
450	توبہ کا طریقہ	159	امامت کبریٰ کا مستحق کون؟
461	چڑیہ کا بیان	213	علم جفر کی اجازت کا طریقہ
473	چاند دیکھنے کا سیدھا حساب	213	علم جفر کے ذریعے ملنے والے جواب کی حیثیت
488	بیج بلا بدل کا حکم	225	وقت حاجت، اظہار حقیقت تحدیثِ نعت ہے
491	صاحب نصاب نابالغ پر زکوٰۃ نہیں	231	وَجَدَ كَا شَرَعِي حَكْم
492	نابالغ کا خرید و فروخت کرنے کا حکم	285	طلاق مُعْتَظَلَّہ کے بعد بغیر حلالہ رجوع کرنا کیسا؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
123	تعظیم رسول ﷺ		<b>سیرت و حیات</b>
139	ایک ہی چیز کروڑوں مسلمانوں کو ایصالِ ثواب کر سکتا ہے	60	سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟
139	ایصالِ ثواب کی برکتیں	60	عثمان غنی ﷺ کی شہادت ۸۲ سال کی عمر میں ہوئی
157	سرکار ﷺ کھلاتے ہیں	60	قبولِ اسلام سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ﷺ کا مذہب
159	سرکار ﷺ ہمارے حاجت روا ہیں	60	صدیق اکبر ﷺ نے کبھی بُت کو سجدہ نہ کیا
164	محبتِ رسول ﷺ باعثِ نجات ہے	92	سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نام اقدس
173	اللہ ورسول کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟	130	حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی
174	جشنِ ولادت کا چراغاں	238	مُحَمَّدٌ سُوْرَتِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِیْ کَاذْکَرِ خَیْرٍ
176	اولیاء اللہ کا ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہونا ممکن ہے	250	ابن سینا کی توبہ کی روایت
226	ہمارے آقا ﷺ ہر فضل و کمال حاصل تھا	251	اہلِ فترت کا ایک مبلغ
236	مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ	257	کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟
237	ثواب میں فرق کیوں؟	341	کمبل اوڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟
251/283	شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ	342	نبی کریم ﷺ کا لباس مبارک
283	رضائے مصطفیٰ ﷺ	347	کیا امام حسین سیاہ خضاب لگاتے تھے؟
286	بھلائی سے محرومی پر افسوس کا انعام	376	کیا غوث پاک کا چہرہ مبارک سرکار کے رُخِ انور کے مشابہ تھا؟
292	غیب کی خبر	382	امام ضامن کس کا لقب ہے؟
319	چھینک آنے پر حمدِ الہی مسنون ہے	396	سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبولِ اسلام کا واقعہ
332	شانِ محبوبیت	417	در بار رسالت میں مرگی کا علاج
349	دُعا کی برکت	417	غوثِ اعظم نے مرگی کا علاج فرمایا
353	تُوْرِیْ کی تمنا میں انتقال کرنے والیاں	482	امام ابو یوسف کا مقام تشریح
357	کیا عورتوں کے لئے بھی مسواک سنت ہے؟	495	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوفِ خدا عزوجل
361	اولیائے کرام کی شان		<b>فضائل و ثواب</b>
365	کیا علاج کرنا سنت ہے؟	74	نام ”محمد“ کے فضائل
367	استن حنّانہ کی تدفین	86	مدینے کے پانی کی کیا بات ہے
377	حضرت امیر معاویہ کا اندازِ ادب		جب کسی کا دوسرے پر دین (یعنی قرض) ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین (یعنی قرض) ہے
377	جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی		حافظ کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟
379	توبہ کرنے والے سے اللہ عزوجل خوش ہوتا ہے	92	سرکارِ مدینہ ﷺ کی سخاوت
381	خلال کرنا سنت ہے	92	
384	سرکار ﷺ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے	122	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
519	ماہتاب نبوت کا ثور	391	صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے
520	اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضور اقدس بانٹتے ہیں	392	زندگی میں صدقہ کرنا موت کے بعد صدقہ کرنے سے افضل ہے
520	سرکار ﷺ کی شان	400	سیدنا ابو ذر غفاری کس نبی کے زیر قدم تھے
532	ہر چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رسالت جاتی ہے	400	کیا حضرت علیؓ، حضور ﷺ کی نظیر ہیں؟
	<b>حیات اعلیٰ حضرت</b> علیہ رحمۃ رب العزت	407	سب سے پچھلی امت
63	اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت	407	دامن رحمت کی وسعت
63	منصب اقامت کے وقت اعلیٰ حضرت کی عمر	407	امت کا حساب اور بخشش
	اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا نام	407	سرکار ﷺ کی صدقہ
73	”محمد“ رکھا	408	پہلی منزل
169	اعلیٰ حضرت اور ایک نجدی کی ملاقات	416	عالم کی زیارت کا ثواب
169	اعلیٰ حضرت اور ایک رافضی	418	جانوروں کو کھلانے پلانے کا ثواب
60	اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت ہفتہ ہے	419	نام پاک حضور اقدس ﷺ چومنے والے کی بخشش
63	اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ کب لکھا؟	431	معجزہ شش القمر کا ثبوت
141	اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی کہاں سے سیکھی	434	آب زم زم کے فوائد و برکات
153	اعلیٰ حضرت کو زیارت سرکار ﷺ	435	زم زم شریف کا مزہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے
	اعلیٰ حضرت پوسٹ کارڈ پر اسم جلال ”اللہ“	435	زم زم شریف غذا کی جگہ غذا اور دوا کی جگہ دوا
173	لکھنے سے اجتناب فرماتے تھے	435	زم زم شریف کی برکت
181	اعلیٰ حضرت کا پہلا سفر حج	436	مومن اور منافق کی جانچ
182	اعلیٰ حضرت کا دوسرا سفر حج	445	عرب کیساتھ محبت
205	دوسرے سفر حج کے وقت عمر	456	درجات فخر
183	والدہ کی اعلیٰ حضرت سے محبت	456	انبیاء کرام کے فضائل شریفہ پاک ہیں
185	سمت قبلہ نکالنے میں مہارت	457	قضائے حاجت کی جگہ سے مشک کی خوشبو آنا
186	جہاز میں بیانات	457	انبیاء سے علاقہ رکھنے والی ہر شئی طاہر ہے
188	محافظ کتب (لابرین) کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت	474	فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کس کیلئے تھا؟
189	مسئلہ علم غیب پر دو گھنٹے تک دلائل دیئے	492	ایصال کرنے سے ثواب بڑھتا ہے
190	”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ 2 دن میں تصنیف فرمائی	509	قلب مصطفیٰ کی عظمت
191	شیخ الخطباء کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت	510	اولیائے کرام کی شان
191	جلیل القدر محمدؐ کا اجازت حدیث لینا	510	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کشف
192	ملکہ امکرمہ میں ”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ کی پذیرائی	511	اولیائے کرام کی نظر میں ماضی و مستقبل دونوں ہوتے ہیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
220	اہل مدینہ کا اشتیاق	193	”الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ“ پر علمائے حرم کی تقاریظ
221	مدینے شریف میں معمولات	195	حسام الحرمین پر علمائے حرم کی تقریظیں
221	مدینے شریف سے رخصتی	197	علمائے حرم کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی دعوتیں
222	خادمین کی حوصلہ افزائی	197	اعلیٰ حضرت کی پسندیدہ چیز
221	جدہ کو سفر	197	علمائے حرم کی تشریف آوری
222	اعلیٰ حضرت کی باب المدینہ کراچی آمد	198	مولانا عبدالحق الہ آبادی سے ملاقات
223	احمد آباد میں تشریف آوری	199	مفتی حنفیہ سے ملاقات
223	بد مذہبوں کی زبان درازیوں پر اعلیٰ حضرت کا صبر	200	اعلیٰ حضرت کا عزم مشروب
241	سختی کے الزام کا جواب	201	علماء حرم کا عیادت کے لئے آنا
255	تین دینار باقی ہیں	201	سفر مدینہ کی تیاری
256	وہابی کا جھوٹ	202	حضرت مولانا شیخ صالح کا اجازتیں لینا
264	جبل پور کے سفر کی روداد	204	اعلیٰ حضرت کے تبرک کے طلب گار
312	جبل پور کا سفر	204	حضرت شیخ صالح کمال کی محبت
321	بیش قیمت مینڈھا قربان کرنا	204	والد محترم کی بشارت
410	اعلیٰ حضرت کا سن ولادت	206	روزہ نہ چھوڑنا
411	خدا ایک پرہو تو اک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارہ کروں میں	206	پڑھنے کی خواہش
411	جد امجد کی برکات	206	شادی کی پیش کش
412	جد امجد کی اعلیٰ حضرت سے محبت	207	نماز عصر کی حنفی مذہب کے مطابق ادائیگی
412	اعلیٰ حضرت نے کب بیعت کی	208	وحشی کبوتر بھی ادب کرتے
466	اعلیٰ حضرت کی حدت مزاج کا تذکرہ	210	سید عالی کی تلاش
473	قدمبوسی سے اعلیٰ حضرت کی ناراضی	210	علم جعفر میں اعلیٰ حضرت کی مہارت
480	اعلیٰ حضرت کا دعاؤں پر یقین کامل	211	اعلیٰ حضرت نے علم جعفر کیوں ترک کیا
489	اعلیٰ حضرت نے تنہا مخالفین کا مقابلہ کیا	212	اعلیٰ حضرت نے علم جعفر کہاں سے سیکھا
489	دلہل میں پھنسی بیل گاڑی کیسے نکالی	214	پیرخانے کا احترام
489	اعلیٰ حضرت کا ایک ولی کے پاس دعائے مغفرت کیلئے جانا	217	رایخ میں ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا
490	اعلیٰ حضرت کا ایک مجذوب کے پاس ملاقات کیلئے جانا	218	عربی لباس میں روضۂ اقدس پر حاضری
497	اللہ تعالیٰ کے لئے محبت	219	مدنی علماء کا اجازت و اسناد لینا
498	اعلیٰ حضرت کی باریک بینی	219	سادات کرام سے عقیدت
517	حرمت تصاویر کی وضاحت اور اعلیٰ حضرت کی کرامت	220	مدنی علماء کی تقریظیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
154	زامد کفن واپس دے دیا		<b>حکایات</b>
154	براپڑوسی	64	مسلمان پری کی حکایت
156	نصرانی طبیب مسلمان ہو گیا	65	مرید ہونا اس سے سیکھو
156	مؤمن کی فراست	72	بیل کے گوشت میں گندھک کی بو
158	مجھے شرم آتی ہے	73	تُو آگ میں ہے
158	ٹھنڈا پانی	91	زنا کی اجازت مانگنے والا شخص
159	دودھ کا پیالہ	108	ستا سودا
165	دریا کے پار اترنے والا	114	وہ بڑے کون تھے؟
168	سامنے سے کھانا اٹھوا دیا	118	بخار کے شکرانے میں نوافل ادا کرنے والے بزرگ
168	وہابی واعظ کا پردہ چاک ہو گیا	121	زمانہ کفر کے بال!
174	ایک ہزار شمعیں	123	نمازی کا قتل
176	ایک نمازی کی اصلاح	127	سونے کی بارش
179	خُصو ر غوث پاک کی شان	127	غربت و افلاس کی شکایت کرنے والے پر انفرادی کوشش
181	سمندری طوفان سے نجات مل گئی	130	کعبہ کی فریاد
182	والدہ سے اجازت کیسے لی؟	132	رحم کی حکایت
183	بریلی شریف سے بمبئی تک کا سفر	140	لنگڑے اور اندھے کی حکایت
184	بمبئی سے سوئے عرب روانگی	143	خدمت علم سے محروم ہو گئے
185	مزار شریف کی حاضری	143	شاگرد کی عاجزی
186	استغاثہ کی برکت	144	اہل بیت کا ادب
187	غیب سے مدد	144	اُستاز کے قدم دُھلانے والا شاگرد
187	المدد یا رسول اللہ ﷺ	145	علم کی عزت
192	لوہے ٹھنڈے ہو گئے	145	علمائے کرام کا احترام
193	تقاریر طالع کرنے کیلئے بد مذہبوں کی سازش	145	عیسائیہ کا بیٹا
194	ٹُرک فوجی افسر کے ہاتھوں وہابی کی ذلت و رسوائی	149	گانے والوں پر لعنت
195	خلیل اُپیٹھی کا راہ فرار اختیار کرنا	150	کا کی کے معنی
200	آب زم زم سے علاج	150	جلی ہوئی روٹی اور کیڑے والا چھوہارا
202	خطیب کی اصلاح	151	خونفردہ بادشاہ
206	وہ بزرگ کون تھے؟	153	صاحب مزار کی تاکید
209	بارش میں طواف کعبہ	154	نیافن

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
263	مسجد کی گھڑی	209	حجر اسود کے بوسے
269	ناؤک لمحات	210	غلاف کعبہ تھام کر دعا مانگی
270	گلاب کے پھول یا.....	211	موت کب اور کہاں ہوگی؟
270	عذاب قبر اٹھ گیا	215	گردے کا درد
277	مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا	215	درد جاتا رہا
279	حالت وجد میں بھی نماز قضا نہ ہوئی	216	سفر مدینہ کا آغاز
280	قد میں مبارک سونج جاتے	216	ملاحوں کا اولیائے کرام کو نداء کرنا
280	عقل جاتی رہی	216	شیخ کون؟
281	تیری رحمت کے طفیل	217	رائج میں ایک مقدمے کا فیصلہ
283	ابر کرم	217	سامان سفر کا پیچھے رہ جانا
284	دونوں کو جنت میں لے جاؤ	217	نماز فجر کی ادائیگی
291	اطمینان سے نماز پڑھ	218	عربی لباس میں روضہ اقدس پر حاضری
295	بعض گمان گناہ ہیں	218	سامان سفر مل گیا
295	یہ تمہارے دکھانے کو ہے	219	بارھویں شریف مدینے میں
298	کندھے پر کمان لٹکانے والی	224	دو زخیوں کا زیور
298	مردانہ جوتے پہننے والی	229	400 کفار کا تنہا مقابلہ کرنے والے
298	دراز گیسور کھنے کا راز	230	گھوڑے نے جہاد کی خبر دی
299	پیشانی کے بال محفوظ رکھے	232	تم سب ٹھیک راستے پر ہو
301	شکار کرنے چلے تھے شکار ہو بیٹھے	233	اور زیادہ بنا کر پڑھتا
302	بد مذہبی کی بو	235	کبھی پاؤں نہ پھیلائے
302	اجتماعی توبہ	236	لحاف پر وضو کر لیا
313	پہاڑوں کو کلمہ پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟	238	راویوں کا مذاق اڑانے والا
314	مٹی کے ڈھیلوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنانے کا انعام	239	جھوٹے شخص کی پیشینانی
321	رحمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	249	مقتول فلسفی
323	پاؤں سمیٹ لئے	249	ایک ناپاک علم
326	مدینہ طیبہ میں مقیم ایک ہندی کی توبہ	256	ایک بہروپے کی حکایت
329	مقروض کی دیوار کا سایہ	259	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے کا انجام
330	میں نے دس ہزار معاف کئے	261	دکان الٹ دوں گا
330	برائی میں الگ رہو، بھلائی میں شریک ہو جاؤ	262	حیرت انگیز مقدمہ قتل

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
467	قبر میں جنت و دوزخ کی ہوا کا اثر	355	دیدار الہی کا دعویٰ کرنے والا
475	ایک بازیگر کے مختلف کرتب	356	شیطانی لگام
477	بندر کے دل میں عظمت قرآن	356	شیطان کا تخت
478	بندر کا محفل میلاد سننا	363	فرشتوں کا ایصالِ ثواب کرنا
478	خدمت گزار شیر	375	بچا ہوا پانی پھینکنا
481	بچے کی ”تقریب بسم اللہ“ کب ہونی چاہئے؟	376	ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی
481	خواجہ بختیار کا کی تقریب بسم اللہ	380	معانی مانگنے کا عجیب واقعہ
481	درد سہ ہونے کے شکر میں رات بھر نوافل پڑھنا	384	بہند و کے پھوڑوں کا علاج
482	کا کی کہلانے کی وجہ	384	پانچ روپے، ایک گھنٹے میں، ایک ہی شخص سے
482	حضرت شیخ فرید الحق والدین ”گنج شکر“ کیسے ہوئے؟	400	حضرت سیدنا احمد زروق کا فرمان
482	حضرت محبوب الہی کا لقب ”زر بخش“ کیسے ہوا؟	401	حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضری
483	یوم الشک کا روزہ اور امام ابو یوسف کی حکایت	402	ایک حدیث کے معنی
484	انبیاء کرام زندہ ہیں	403	پورے مسلمان ہو جاؤ
484	ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے	404	عزیز کی موت پر صبر
485	حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ	404	اول صدے پر صبر
486	حضور اقدس ﷺ کی حضرت خضر سے ملاقات	421	خاندان سلاریہ سے بیعت
488	حضور اقدس ظاہر و باطن پر حکم فرمانے کے مختار ہیں	422	سمندر کے پاس ہوتے ہوئے نہر کی تمنا
488	چوری کرنے والے شخص پر قتل کا حکم	422	کیا مجدد الف ثانی نے خو کو غوث اعظم سے افضل کہا ہے؟
493	امام رازی اور شیطان کا مناظرہ	423	غوث اعظم وقت کے بادشاہ ہیں
502	قبر کھولنے کی عبرت ناک حکایت	420	صبر کہاں سے کرتا؟
502	قبر کھودنے والے شخص کا درد ناک انجام	408	اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا
524	شیطان مایوس ہو گیا	433	ان پڑھ شخص کا اپنے مذہب پر یقین
533	پہاڑوں کا حضور ﷺ سے گفتگو کرنا	436	حضرت ابو ذر غفاری کی حکایت
534	پہاڑوں کے آنسو	448	ولی کی برکت سے ہاتھی زندہ ہو گیا
534	حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کر دیا گیا	442	روح کی قوتیں
534	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	442	ایک اُلوکی روح کی کارستانی
	<b>موت ، قبر ، حشر</b>	442	ایک عجیب و غریب درخت
118	اپنی زندگی میں ہی قبر تیار کروانے کا حکم	442	عجیب و غریب حوض
140	عذاب روح پر ہوتا ہے یا جسم پر؟	467	حضرت داؤد طائی کا توکل و نفس کشی



صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
528	کعبہ معظمہ اور تمام مساجد جنت میں.....	140	قبر کھودنے پر مردے کی ہڈیاں ملیں تو.....
528	انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور جنت میں	160	قیامت کب آئے گی؟
535	مرنے کے بعد تمام حیوانات مٹی ہو جائیں گے؟	268	قبرستان میں جو تاپہن کر جانا کیسا؟
535	اصحاب کہف کا کتا اور بلعم باعور	270	مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو
536	کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے	358	مرنے کے بعد مصنوعی دانت نکالنا
	<b>بدمذہب و کفار</b>	369	کیا مردے سنتے ہیں؟
90	نرمی سے سمجھانے کے فوائد	379	مرنے کے لئے خوشی سے تیار رہئے
99	کیا کسی کو برا نہیں کہنا چاہئے؟ (ایک علمی مذاکرہ)	385	قرب قیامت کی علامات
120	وہابیہ کی علامتیں	386	قیامت کی تین قسمیں
119	خلفائے راشدین کے زمانہ میں بدمذہب موجود تھے؟	391	اپنی زندگی میں اپنے لئے ایصالِ ثواب کرنا کیسا؟
132	بدمذہب کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا حکم	392	قبرستان میں کس طرف سے جائے؟
134	تحریری بات چیت کے فوائد	392	قبرستان میں ننگے پاؤں جانا
146	گستاخ رسول کا انجام	392	زیارت کے واسطے قبروں کو پھلانگ کر جانا حرام ہے
147	جہنم میں کفار کو کیسا عذاب ہوگا؟	428	اُوچی قبریں
164	کافر سائل پر ترس کھانا	446	منکر نکیر کے سوال کس زبان میں ہوں گے؟
165	دشمنان رسول سے نفرت کیجئے	455	برزخ سے مراد قبر ہے یا زمانہ؟
167	کیا کفار سے نرمی کرنی چاہئے؟	456	قیامت اور حشر کا فرق
172	اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہئے؟	456	برزخ کے درجات
223	وہابیہ کی ذلت و رسوائی کی داستان	496	موت کا جھٹکا تلوار سے سخت ہے
244	فلاسفہ کا رد	501	قبر کھولنے کا حکم
271	ندویوں کو کیسا سمجھنا چاہئے؟	521	موت و حیات وجودی ہیں
275	بدمذہبوں کے عالم سے ملنا کیسا؟	521	موت و حیات کی شکل
276	اللہ عزوجل کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانئے	521	ہر ایک کو موت آئے گی
276	کافروں سے کیسی عداوت رکھنی چاہئے؟	523	قیامت قائم ہوگی
277	بدمذہبوں کے پاس بیٹھنا کیسا؟	523	موت کا مینڈھا
278	اگر ملازم بدمذہب ہو تو؟	526	موت کے وقت شیطان کا دخل
286	تعزیر داری میں تماشا دیکھنے کے لئے جانا کیسا؟	526	بروز قیامت زمین و آسمان بدل دیئے جائیں گے
322	بدمذہب کی چھینک کا جواب	527	جنت میں زمین چاندی کی کردی جائے گی
330	سجادہ نشین بدمذہب ہو تو؟	527	میدان محشر میں زمین مثل روٹی کے ہوگی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
153	مزارِ مرشد پر حاضری کے آداب	386	قیامت سے پہلے یہود و نصاریٰ کی باہمی عداوت
178	کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟	416	علیگرہی کو سپرد صاحب کہنا
178	غوث کا کشف	418	تھانوی کو سپرد کہنا کیسا؟
178	افراد کون ہیں؟	427	فاسق سے مصافحہ
205	عشقِ مرشد کا انعام	427	بدعتی سے مصافحہ
228	طلب اور بیعت میں فرق	424	گفٹار کے سامنے بد مذہبوں کا رد
228	بیعت کی 4 شرائط	468	اہل سنت کے نزدیک مذہبِ تفضیل باطل ہے
228	پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے چکا ہوں	433	بد مذہبوں کی کتب پڑھنا جائز نہیں؟
229	زمانہ رسالت میں تجدیدِ بیعت	433	بد مذہبوں کے رد میں پہلی تصنیف
234	تصویرِ شیخ	433	موجودہ زمانے میں رد کی ضرورت
234	بچوں کی بیعت	434	حضرت سعید بن جبیر کا بد مذہبوں سے اعراض
260	بیعت کے معنی	452	مناظرہ کی ایک ناجائز شرط
260	ایک مرید کی اپنے پیر سے عقیدت	454	کیا پاک سنی بد مذہب کی کتب دیکھ سکتا ہے؟
261	خود کچھ نہیں مگر اس کے شیخ کا شیخ کامل ہے	460	گفٹار کے جنازے کیسا تھ جانا کیسا؟
261	قیامت تک آنے والے مریدین		<b>خواب</b>
263	مرید ہوتے ہوئے دوسرے سے بیعت کرنا	139	خواب میں کسی کو بعد انتقال بیمار دیکھنا
279	سچے و جد کی پہچان	175	ایک خواب اور اس کی تعبیر
278	سچے مجذوب کی پہچان	238	امام بخاری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) کا مبارک خواب
278	مجذوب کی دُعا کا اثر	250	ایک ایمان افروز خواب
286	پیر بھائی کی شیخ سے زیادہ رسائی پر رنج کرنا	412	مقدمہ حیت گئے
297	جاہل کا مرید بننا	413	روزہ نہ چھوڑنا
353	خلاف شریعت بات کی تاویل	413	زمین کی خریداری
354	ثبوت ولایت کا طریقہ	413	باون برس مدینے میں
373	خلوت نشینی کا حکم	414	اصرار کر کے کھانا کھلایا
373	نسبت کی بہاریں	414	گیارہ درجے تک پہنچا دیا
373	ریاضت کی حقیقت	414	خواب میں مدد
383	عُرس کا دن خاص کرنے میں حکمت		<b>طریقت</b>
383	عرس میں ناجائز کام ہوں تو صاحبِ مزار کو تکلیف ہوتی ہے	64	پیر کے وصال کے بعد کسی اور سے بیعت ہونا کیسا؟
383	مزار شریف پر پائنتی کی طرف سے حاضر ہونا	64	تبدیلِ بیعت بلا وجہ شرعی ممنوع ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
371	آیت قرآنی پر ایک نحوی سوال		يَا كَذِبًا كَذِبًا مُّحْكَمًا كَيْدًا (ایک دروازہ پکڑیے اور
387	”وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ“ الٰخ کی تفسیر	400	مضبوطی سے پکڑیے۔)
390	سیدنا صدیق اکبر کی طرف منسوب ایک مناجات کا حکم	401	ارادت بیعت کی شرط اہم ہے
390	”فَهَؤُلَاءِ“ کے کما معنی ہیں؟	401	مجھے میرا پیر کافی ہے
394	”وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ“ کی تاویل	402	کا میل مرید
395	تاویل کا جواز	403	مُرشد کے سامنے خاموش رہنا افضل ہے
403	ایک روایت کے بارے میں سوال	443	کشف و کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ
425	وحی سے مراد	443	رجا الغیب کون
425	کیا غیر انبیاء پر بھی وحی آتی ہے؟	444	کیا مجاذیب کے سلسلے ہوتے ہیں
426	متواتر ہونے کے لئے کتنی تعداد درکار ہے؟	444	کرامت کسی نہیں ہوتی
427	ایک حدیث کی مراد	444	سلاسل اربعہ کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟
427	”إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَا يَتِيهَهَا“ سے مراد	445	ڈاکو کی توبہ
430	حدیث کے متواتر ہونے کی شرط	469	پیر کامل کی تلاش
430	ستون چنانہ اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ	471	اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتی ہے
431	آیت قرآنی سے فلاسفہ کا رد	474	تعظیم اطاعت میں ہے
431	ایک سھو کی نشاندھی	479	بارگاہ ولی میں دل سنبھال کر حاضر ہونا چاہیے
	ایک حدیث ”لَا يَقْبُضُ إِلَّا أَمِيرًا أَوْ مَأْمُورًا أَوْ	498	خلاف سنت بات دیکھ کر شیخ سے پھرنا کیسا؟
450	مُخْتَلًا“ کا مطلب	506	اولیاء اللہ کی پہچان
451	”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ سے کون لوگ مراد ہیں؟		<b>تفسیر و تشریح</b>
461	سورہ نساء کی ایک آیت کا مطلب	238	احادیث میں خلط کس نے کیا؟
462	”رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا“ کا مطلب	264	براق کے متعلق ایک بے اصل روایت
500	بعض قرآنی آیات کی تفسیر	273	جنت کی بھرتی کا معنی
501	ایک حدیث کے متعلق سوال	274	حدیث نجات کا مطلب
	<b>لغت و تعریف</b>	293	شب معراج میں نُعَلِّينَ پاک اتارنے کی روایت
67	سمجھنے کے دو معنی	332	خبر واحد پر اعتماد
130	عُرٌّ وراور عُرٌّ وراور میں فرق	333	ائمہ سے مراد کون ہیں
176	سرکار ﷺ کو خداوند عرب کہنا کیسا؟	333	ائمہ تفسیر کون ہیں؟
176	عجم اور عرب کے معنی		کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی اور اصحاب کہف
325	”بے حد بخار“ کے معنی	366	کا کتا جنت میں جائیں گے؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	<b>اشکالات و علمی سوالات</b>	377	جُوہر کی تعریف
57	باطنی علم کا ادنیٰ درجہ	405	کیا نفس اور رُوح میں فرق ہے؟
116	سائل کا کتب کے حوالے طلب کرنا کیسا؟	405	قلب کے کہتے ہیں؟
127	رُسلوں اور ملائکہ کو ایصالِ ثواب کرنا	406	وَسَط کا معنی
131	کیا عہدِ رسالت میں گواہی سے زنا کا ثبوت ہوا؟	415	خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟
137	گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق	421	کلب علی کے معنی
140	ہر ایک کے ساتھ کتنی روحمیں ہوتی ہیں؟	421	کیا کسی نے ”کلب“ نام رکھا؟
141	فتویٰ نویسی کیسے سیکھیں؟	425	”وحی“ سے کیا مراد ہے؟
144	کیا رُوح عالم امر سے ہے؟	452	محال بالذات کی وضاحت و تعریف
157	مجاہدے کا مطلب	458	حلال و طیب میں فرق
173	لفظ ”شہر“ کس کے ساتھ بولیں؟	459	طاہر و طیب کے معنی
215	دبا سے بھاگنے اور ضرورت کے لئے آنے جانے میں فرق	493	شریعت کی منطق کی تعریف
234	کیا تارکے ذریعے چاند کا ثبوت درست ہے؟	511	محکم و متشابہ میں فرق کا بیان
240	حق گوئی کی ایک پہچان	515	تتذیر مع تشبیہ بلا تشبیہ کا مطلب
244	کیا رُوح اور جسم ایک ہی چیز ہیں؟		<b>شاعری</b>
258	ایک غلط فہمی کا ازالہ اور مذہبِ حنفی کی کاملیت	87	سودا کے ایک شعر کی وضاحت اور اس کا شرعی حکم
281	امامت کے بارے میں ایک اشکال اور اُس کا جواب	177	اس شعر کا مطلب
325	تانبے کی انگوٹھی مکروہ کیوں؟		اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا
331	واقعہ پہلے کا ہے یا بعد کا؟	225	کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے
331	ایک اشکال اور اس کا جواب		نعتیہ شاعری
334	معانی کا الفاظ سے تعلق	227	نعت شریف لکھنے کی احتیاطیں
336	ایک علمی سوال	227	نعت گو شاعروں کی خواب میں زیارت
349	ثمن کا اعتبار ہوگا یا قیمت کا؟	242	شعر کا علم
349	اسقاط کا کفارہ	254	”اسکندر نامہ“ کے ایک شعر کا مطلب
350	سنت و مکروہ میں تعارض ہوتا؟	377	اس شعر کا مطلب
352	دستِ غیب و کیمیا کیا ہے؟		نقشہ شاہِ مدینہ صاف آتا ہے نظر
359	دو عورتوں کے بیچ میں سے نکلتا	469	جب تَصَوُّر میں جماتے ہیں سُرِ اِپا غوث کا
370	حضرت سیدتنا عائشہ کا تین باتوں میں اختلاف		اس شعر کی وضاحت
389	ہزار برس کا ایک دن		ارے یہ وہ ہیں عبدالقادر محبوب سبحانی
			کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
531	ہر خشک و تر تسبیح میں مشغول ہے	393	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ
531	شمالی ہوا سے بارش نہ ہونے کی وجہ	421	ایک علمی اشکال اور اس کا جواب
532	ہر شے سننے اور سمجھنے کی قوت رکھتی ہے	421	کیا آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟
532	انسان اور دیگر حیوانات میں فرق	428	اول الرسل کون؟
533	جسم نہیں روح سمجھتی ہے	431	کس کا کلام خطا سے محفوظ ہے؟
	<b>دلچسپ معلومات</b>	432	فلاسفہ کے نزدیک شق القمر محال کیوں؟
58	عالم کون؟	439	”نور“ ”تاز“ اور ”روح باصرہ“ کی رفتار
58	کیا علم صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟	439	فلک ثوابت کے فاصلہ کی وسعت
59	مجاہدے کے لئے کتنی مدت درکار ہے؟	439	زمین سے سدرۃ المنتہی کا فاصلہ
60	سفر کونسے دن کرنا چاہئے؟	447	زمان و مکان کا وجود خارج میں نہیں
66	علم نافع کسے کہتے ہیں؟	447	جزء اَلاتجْرِی اور خلا کے ممکن ہونے کا بیان
66	حسد کا علاج	447	جزء اَلاتجْرِی کا ثبوت
67	تاریخ کی ابتداء و انتہا کے 4 طریقے	451	”وَقَعَاثُ الرِّبَانِ“ کی ایک عبارت کا مطلب
67	کیا گائے کا گوشت صحت کے لئے نقصان دہ ہے؟	453	کلام لفظی و کلام نفسی کی بحث
70	تین بیماریوں کو ناپسند نہ سمجھئے	454	کلام باری میں لفظی و نفسی کا تفرقہ نہیں
72	طاعون کا سبب	455	عالم کی تعداد کے بارے میں بیان
72	طاعون زدہ شہید ہے	494	آسمان کہاں ہے؟
73	بچوں کے نام کیسے ہونے چاہئیں؟	461	اوجھڑی مکروہ کیوں؟
73	آگ سے جل کر مرنے والا شہید ہے	463	نفس کمزور ہوتا ہے تو روح اور قلب قوت پاتے ہیں
74	تعظیم و توہین کا دار و مدار عرف پر ہے	463	اسلام کبھی مغلوب نہ ہوگا
77	انسانی پیشانی قوسی شکل ہونے میں مصلحت	469	انبیاء شہید ہوئے یا رسل!
86	عمدہ پانی کی تین صفتیں	475	کیا جادو میں قلب حقیقت ہو جاتا ہے؟
128	اہرام مصر کس نے بنائے؟	477	کیا معجزہ میں ماہیت بدلتی ہے؟
	عقیدت و محبت کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ	507	دائرہ دنیا کہاں تک ہے؟
136	کرہی کیا جاسکتا ہے	507	مفاتیح و مقالید میں فرق
136	میاں کے تین معانی	507	مفاتیح اور مقالید سے نام اقدس کا استخراج
158	نفسانی اور شیطانی خواہش میں فرق	508	عرش و کرسی کی وسعت و حقیقت
159	بیماری بھی نعمت ہے	509	آسمان کی وسعت کا بیان
160	خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟	511	زمانہ کا وجود وہی ہے یا حقیقی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
128	رزق میں برکت کا وظیفہ	177	ہندوستان میں اسلام کب پھیلا؟
138	وسوسوں کا علاج	180	پانی کے مسام
159	دُعا قبول ہونے میں تاخیر کا ایک سبب	285	بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اسے کندھا نہیں دے سکتا؟
181	دعاؤں پر بھروسہ	318	جمائے کور کو رکنے
182	کشتی پر سوار ہوتے کی دعا	318	ڈکار کور و کنا چاہئے
241	حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا	319	چھینک اچھی چیز ہے
256	تنگ دستی دُور کرنے کا وظیفہ	322	اتفاقی چھینک اور زکام کی چھینک میں فرق
311	ایمان کی حفاظت کے اورداد	326	انگوٹھی کونسی انگلی میں پہنی جائے؟
312	بتوں کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا	326	اچھی باتوں کا فائدہ اور بری باتوں کا نقصان
322	کان، دانت اور پیٹ کے درد سے محفوظ رہنے کا نسخہ	362	بچے کی زبان پر شیطان بولنا
325	بخار کا روحانی علاج	362	بلعم بن باعور کا انجام
337	بچے پیدا ہو کر فوت ہو جاتے ہوں، تو اس کا روحانی علاج	363	کیا بیماری اُڑ کر لگ سکتی ہے
339	بڑا چراغ روشن کرنے کی ترکیب	436	زمزم شریف بھی تین سانسوں میں پیئیں
341	دماغی علاج کا وظیفہ	436	کونسا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں
341	قرآنی وظیفے سے طبیعت خراب ہونا	436	نابالغ عالم مکلف نہیں
342	پاجامہ سیننے والیوں کے لئے دعا	447	انجیل اور تورات کونسی زبان میں نازل ہوئی؟
375	بینائی تیز کرنے کا نسخہ	452	فتاویٰ عالمگیری کے مصنف کون ہیں؟
406	مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا	452	عالمگیری کہنے کی وجہ
417	بچوں کو مرگی کے مرض سے بچانے کا نسخہ	464	دنیا کی حیثیت
439	قرض کی ادائیگی کا وظیفہ	465	سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں
454	مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا	465	زندہ رہنے کے لئے 3 چیزیں درکار ہیں
473	زہریلے جانوروں سے بچنے کی دعا	465	دنیا محبوبانِ خدا سے دور رکھی جاتی ہے
475	پوروں پر ذکر الہی کا شمار	469	گناہ صغیرہ کو بلا کا جاننا گناہ کبیرہ ہے
481	لقوہ کا مؤثر عمل	471	استننا کے متعلق مسائل کے دھوکے
499	گلا پھولنے کا روحانی علاج	471	غفلت کی مختلف اقسام اور ان کے احکام
			<b>دعا ووظائف</b>
		68	مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دُعا کی برکتیں
		115	زیارت سرکار ﷺ کا وظیفہ
		128	پریشانی دُور کرنے کا وظیفہ

## مجلس المدینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ تقریباً 165 کتب و رسائل مع عنقریب آنے والی 16 کتب و رسائل

{ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت }

### اردو کتب:

- 1 کرنی نوٹ کے شرعی احکامات (کفّلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ فِي أَحْكَامِ قِرْطَاسِ الدَّرَاهِمِ) (کل صفحات: 199)
- 3..... فضائل دعا (أَحْسَنُ الْوَعَاءِ لِأَدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدْعَا لِأَحْسَنِ الْوَعَاءِ) (کل صفحات: 326)
- 4..... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحَقُوقُ لِطَرْحِ الْعُقُوقِ) (کل صفحات: 125)
- 5..... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (إِظْهَارُ الْحَقِّ الْحَلِيِّ) (کل صفحات: 100)
- 6..... ایمان کی پہچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 7..... ثبوت ہلال کے طریقے (طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالٍ) (کل صفحات: 63)
- 8..... ولایت کا آسان راستہ (تصویر شیخ) (الْيَاقُوتَةُ الْوَاسِطَةُ) (کل صفحات: 60)
- 9..... شریعت و طریقت (مَقَالُ الْعُرْفَاءِ بِإِعْزَازِ شَرْعٍ وَعُلَمَاءِ) (کل صفحات: 57)
- 10..... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَسَاحُ الْجِيدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (کل صفحات: 55)
- 11..... حقوق العباد کیسے معاف ہوں (اعجب الامداد) (کل صفحات: 47)
- 12..... معاشی ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 13..... راہِ خدائے بوجل میں خرچ کرنے کے فضائل (رَأْدُ الْفَحْطِ وَالْوَبَاءِ بِدَعْوَةِ الْجَبْرَانِ وَمُؤَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- 14..... اولاد کے حقوق (مشعلۃ الارشاد) (کل صفحات: 31)

### عربی کتب:

- 15، 16، 17، 18..... جَدُّ الْمُتَمَتَّارِ عَلَي رَدِّ الْمُخْتَارِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع) (کل صفحات: 650، 713، 672، 570)
- 19..... الرِّمَزَةُ الْقَمَرِيَّةُ (کل صفحات: 93) 20..... تَمْهِيدُ الْإِيمَانِ - (کل صفحات: 77) 21..... كِفْلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ (کل صفحات: 74)
- 22..... أَحْلَى الْإِعْلَامِ (کل صفحات: 70) 23..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60) 24..... الْإِحْزَانُ الْمَتِينَةُ (کل صفحات: 62)
- 25..... الْفَضْلُ الْمَوْهَبِيُّ (کل صفحات: 46)

### عنقریب آنے والی کتب

- 1..... جَدُّ الْمُتَمَتَّارِ عَلَي رَدِّ الْمُخْتَارِ (المجلد الخامس)
- 2..... اولاد کے حقوق کی تفصیل (مشعلۃ الارشاد)

### { شعبہ تراجم کتب }

- 1..... جہنم میں لے جانے والے اعمال.. جلد اول (الزواج عن اقتراف الكبائر) (کل صفحات: 853)
- 2..... جنت میں لے جانے والے اعمال (الْمَنْجَرُ الرَّابِعُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) (کل صفحات: 743)
- 3..... احیاء العلوم کا خلاصہ (لباب الاحیاء) (کل صفحات: 641) 4..... عُيُونُ الْحِكَايَاتِ (مترجم، حصہ اول) (کل صفحات: 412)

- 5..... آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ) (کل صفحات: 300) 6..... الدعوة الى الفكر (کل صفحات: 148)
- 7..... نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قُرَّةُ الْعُيُونِ وَمُفْرَحُ الْقَلْبِ الْمَحْزُونِ) (کل صفحات: 138)
- 8..... مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن فیصلے (الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (کل صفحات: 112)
- 9..... راہِ علم (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقَ التَّعَلُّمِ) (کل صفحات: 102)
- 10..... دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الزُّهُدُ وَقَصْرُ الْأَمَلِ) (کل صفحات: 85)
- 11..... حسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (کل صفحات: 74) 12..... بیٹے کو نصیحت (أَيْهَا الْوَلَدُ) (کل صفحات: 64)
- 13..... شاہراہ اولیاء (مِنْهَا حُجُّ الْعَارِفِينَ) (کل صفحات: 36)
- 14..... سایہ عرش کس کس کو ملے گا...؟ (تَمَهِيدُ الْقُرْشِ فِي الْخِصَالِ الْمُوجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ) (کل صفحات: 28)
- 15..... حکایتیں اور نصیحتیں (الروض الفائق) (کل صفحات: 649) 16..... آداب دین (الأدب فی الدین) (کل صفحات: 63)
- 17..... اللہ والوں کی باتیں (حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیاء) پہلی قسط: تذکرہ خلفائے راشدین (کل صفحات: 217)
- 18..... عیون الحکایات (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413) 19..... امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں (وصایا امام اعظم) (کل صفحات: 46)
- 20..... نیکی کی دعوت کے فضائل (الامر بالمعروف ونہی عن المنکر) (کل صفحات: 98)

### عنقرب آنے والی کتب

- 1..... راہِ نجات و مہلکات جلد اول (الحدیقة الندیة) 2..... حلیۃ الأولیاء (مترجم، حصہ دوم)

### { شعبہ درسی کتب }

- 1..... اتقان الفراسة شرح دیوان الحماسہ (کل صفحات: 325) 2..... نصاب الصرف (کل صفحات: 343)
- 3..... اصول الشاشی مع احسن الحواشی (کل صفحات: 299) 4..... نحو میرمع حاشیہ نحو منیر (کل صفحات: 203)
- 5..... دروس البلاغة مع شمس البراعة (کل صفحات: 241) 6..... گلدستہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 180)
- 7..... مراح الارواح مع حاشیۃ ضیاء الاصباح (کل صفحات: 241) 8..... نصاب التجوید (کل صفحات: 79)
- 9..... نزہة النظر شرح نجمة الفكر (کل صفحات: 175) 10..... صرف بہائی مع حاشیہ صرف بنائی (کل صفحات: 55)
- 11..... عنایة النحو فی شرح ہدایة النحو (کل صفحات: 280) 12..... تعریفات نحویہ (کل صفحات: 45)
- 13..... الفرح الكامل علی شرح مئة عامل (کل صفحات: 158) 14..... شرح مئة عامل (کل صفحات: 44)
- 15..... الاربعین النوویة فی الأحادیث النبویة (کل صفحات: 155) 16..... المحادثة العربیة (کل صفحات: 101)
- 17..... نصاب النحو (کل صفحات: 288) 18..... نصاب المنطق (کل صفحات: 168)
- 19..... مقدمة الشيخ مع التحفة المرضیة (کل صفحات: 119) 20..... تلخیص اصول الشاشی (کل صفحات: 144)

### عنقرب آنے والی کتب

- 1..... قصیدہ بردہ مع شرح خریوتی 2..... حسامی مع شرحہ النامی 3..... شرح، شرح العقائد مع جمع الفرائد



## { شعبہ تخریج }

- 1..... بہار شریعت، جلد اول (حصہ اول تا ششم، کل صفحات 1360) 2..... جنتی زیور (کل صفحات: 679)
- 3..... عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422) 4..... بہار شریعت (سولہواں حصہ، کل صفحات 312)
- 5..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم (کل صفحات: 274) 6..... علم القرآن (کل صفحات: 244)
- 7..... جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207) 8..... اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
- 9..... تحقیقات (کل صفحات: 142) 10..... اربعین حنفیہ (کل صفحات: 112)
- 11..... آئینہ قیامت (کل صفحات: 108) 12..... اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)
- 13..... کتاب العقائد (کل صفحات: 64) 14..... اُمہات المؤمنین (کل صفحات: 59)
- 15..... اچھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56) 16..... حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
- 17 تا 23..... فتاویٰ اہل سنت (سات حصے) 24..... بہشت کی کنجیاں (کل صفحات: 249)
- 25..... سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (کل صفحات: 875) 26..... بہار شریعت حصہ ۷ (کل صفحات: 133)
- 27..... بہار شریعت حصہ ۸ (کل صفحات: 206) 28..... کرامات صحابہ عظیم الرضوان (کل صفحات: 346)
- 29..... سوانح کر بلا (کل صفحات: 192) 30..... بہار شریعت حصہ ۹ (کل صفحات: 218)
- 31..... بہار شریعت حصہ ۱۰ (کل صفحات: 169) 32..... بہار شریعت حصہ ۱۱ (کل صفحات: 280)

## عنقریب آنے والی کتب

- 1..... بہار شریعت حصہ ۱۲، ۱۳ 2..... منتخب حدیثیں
- 3..... معمولات الابرار 4..... جواہر الحدیث

## { شعبہ اصلاحی کتب }

- 1..... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408) 2..... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325) 3..... رہنمائے جدول برائے مدنی قافلہ (کل صفحات: 255)
- 4..... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200) 5..... نصاب مدنی قافلہ (کل صفحات: 196) 6..... تربیت اولاد (کل صفحات: 187)
- 7..... فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164) 8..... خوفِ خدا عزوجل (کل صفحات: 160) 9..... جنت کی دو چابیاں (کل صفحات: 152)
- 10..... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124) 11..... فیضانِ جہل احادیث (کل صفحات: 120) 12..... غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106)
- 13..... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96) 14..... فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (کل صفحات: 87) 15..... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
- 16..... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: تقریباً 63) 17..... آیات قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62) 18..... بدگمانی (کل صفحات: 57)
- 19..... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43) 20..... نماز میں لقمہ کے مسائل (کل صفحات: 39) 21..... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)
- 22..... ٹی وی اور مودی (کل صفحات: 32) 23..... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32) 24..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
- 25..... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150) 26..... ریابکاری (کل صفحات: 170) 27..... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
- 28..... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)

## { شعبہ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ }

- 1..... آداب مرشد کمال (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
- 2..... توہدِ جنات اور امیر اہلسنت (کل صفحات: 262)
- 3..... دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220)
- 4..... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
- 5..... فیضانِ امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)
- 6..... تعارفِ امیر اہلسنت (کل صفحات: 100)
- 7..... گوہِ گامِ سلغ (کل صفحات: 55)
- 8..... تذکرہ امیر اہلسنت قسط (1) (کل صفحات: 49)
- 9..... تذکرہ امیر اہلسنت قسط (2) (کل صفحات: 48)
- 10..... قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)
- 11..... نائلِ درزی (کل صفحات: 36)
- 12..... میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33)
- 13..... کرچین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
- 14..... ہیر و پچی کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 15..... ساس بہو میں صلح کا راز (کل صفحات: 32)
- 16..... مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
- 17..... بدنصیبِ دوہا (کل صفحات: 32)
- 18..... عطاری جن کا غسلِ میت (کل صفحات: 24)
- 19..... حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
- 20..... دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
- 21..... قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 22..... تذکرہ امیر اہلسنت قسط سوم (سنت نکاح) (کل صفحات: 86)
- 23..... مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)
- 24..... فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 25..... معذور بچی مبلغ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- 26..... جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
- 27..... 25 کرچین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
- 28..... صلوة و سلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)
- 29..... کرچین کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 32)
- 30..... بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)
- 31..... سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغامِ عطار کے نام (کل صفحات: 49)
- 32..... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
- 33..... نو مسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32)
- 34..... خونخوارک دانستوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
- 35..... شرابی کی توبہ (کل صفحات: 32)

## عنقریب آنے والے رسائل

- 1..... اعتکاف کی بہاریں (قسط 1)
- 2..... V.C.D کی مدنی بہاریں قسط 3 (رکشہ ڈرائیور کیسے مسلمان ہوا؟)

## { شعبہ مدنی مذاکرہ }

- 1..... وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
- 2..... مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
- 3..... پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)
- 4..... بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

## عنقریب آنے والے رسائل

- 1..... اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب
- 2..... دعوتِ اسلامی اصلاحِ امت کی تحریک

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِشِيرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِشِيرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## سنت کی بہاریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر فیہر سیاسی تحریک و دعوتِ اسلامی کے مہیے مہیے مَدَنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر جمعرات کو فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پُرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مَدَنی التجا ہے، عاشقانِ رسول کے مَدَنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکرمدینہ کے ذریعے مَدَنی انعامات کا رسالہ پُر کر کے اپنے یہاں ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بننا چہیے، اِن شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے پانچو سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنے گا، ہر اسلامی بھائی اپنا ذہن بنائے کہ ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِن شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اپنی اصلاح کے لیے مَدَنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مَدَنی قافلوں میں سفر کرتا ہے۔ اِن شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ

## مکتبۃ المدینہ کی شاخیں

راولپنڈی: فضل داؤد چاند، کھلی چوک، باقیال روڈ۔۔۔ فون: 051-5553765  
پشاور: ایفان، مین گھوڑا چوک، نمبر 1، ماٹور سٹریٹ، صدر۔۔۔  
ٹانہ پور: انار مانی چوک، امیر ٹانہ۔۔۔ فون: 068-5571686  
نواب شاہ: پیکر بازار، اسلام کرش چوک۔۔۔ فون: 0244-362145  
کشمیر: ایفان، مین، جواہر روڈ۔۔۔ فون: 5619195  
گوجرانولہ: ایفان، مین، شہر چوک، روڈ۔۔۔ فون: 055-4225653

کراچی: شہید شہکار بازار۔۔۔ فون: 021-2203311  
لاہور: 42، پارک سٹریٹ، گلش روڈ۔۔۔ فون: 042-7311679  
سرور آباد (فضل آباد): 22، چور بازار۔۔۔ فون: 041-2632625  
کشمیر: چوک، مہدی آباد، سرچ۔۔۔ فون: 058274-37212  
مہاراجپور: ایفان، مین، لکھی بازار۔۔۔ فون: 022-2620122  
پٹنہ: انور پٹنہ، والی مسجد، اللہ روڈ، بوہڑ گٹ۔۔۔ فون: 061-4511192  
انکاروہ: کالی روڈ، انکال، فری سہارا، تحصیل کولہل پال۔۔۔ فون: 044-2550767

مکتبۃ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پُرانی سبزی منڈی باب المدینہ (کراچی)

فون: 4125858، فیکس: 4921389-93/4126999

Email: maktaba@dawateislami.net \ www.dawateislami.net